

# تاريخ الخلفاء

تأليف

جلال الدين عبد الرحمن

السيوطي

المتوفى سنة ٩١١ هـ



ترجمه

علامه محمد منشا تايش القصورى الحنفى  
مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور



## فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	فصل نمبر ۶		نشان منزل :- محمد منشا تابش قصوری
۳۵	دست قدرت		دیباچہ
	فصل نمبر ۷		فصل نمبر ۱
۳۵	نبی کریم ﷺ کی چادر مبارک	۲۱	رسول اللہ کے خلیفہ نہ بنانے کا راز
	فصل نمبر ۸	۲۲	حضرت علیؑ کا اعلان
۳۶	مختلف فوائد	۲۲	لوگوں کی بہتری اور حضرت علیؑ
۳۷	کچھ لوگوں کا امیر	۲۳	یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے
۳۹	دُزہ تراویح باجماعت اور ہجری		فصل نمبر ۲
۴۲	حالات حضرت صدیق اکبرؑ	۲۴	خلافت صرف قریش کے لئے
	فصل نمبر ۹		فصل نمبر ۳
۴۴	اسم و لقب صدیق اکبرؑ	۲۵	دور خلافت اور بادشاہت
۴۶	تصدیق بلا توقف	۲۶	دین کی ابتداء
	فصل نمبر ۱۰	۲۷	اجماع سے مراد
۴۷	مولد صدیق اکبرؑ	۲۸	بارہ خلیفوں سے مراد
	فصل نمبر ۱۱		فصل نمبر ۴
۴۸	حضرت ابو بکر صدیق اور زمانہ جاہلیت	۲۹	احادیث مندرہ بخلافت بنی امیہ
	فصل نمبر ۱۲		فصل نمبر ۵
۴۹	حلیہ حضرت ابو بکر صدیقؑ	۳۰	احادیث مبشرہ بخلافت بنی عباس
	فصل نمبر ۱۳	۳۱	خوشخبری کی بات
۵۰	آپ کا اسلام لانا	۳۲	خبر غیب
		۳۲	ایک جھنڈا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	فصل نمبر ۲۲		فصل نمبر ۱۴
	احادیث بہ فضیلت صدیق اکبر اور	۵۳	حضور و ہم قسیمی نبوی ﷺ
۷۴	عمر فاروق رضی اللہ عنہما	۵۴	میں تجھے نہ چھوڑتا
۷۵	تبسم نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام		فصل نمبر ۱۵
۷۶	فتویٰ عہد نبوی میں	۵۵	شجاعت صدیق اکبر
۷۷	حجۃ الوداع سے بعد کی باتیں	۵۶	اظہار اسلام اور خطیب اول
	فصل نمبر ۲۳		فصل نمبر ۱۶
۷۸	فقط فضیلت صدیق اکبر ﷺ	۵۷	حضرت صدیق اکبر کا انفاق مال
۷۹	شہادت صدیق اکبر ﷺ	۵۹	آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عاجزی
۸۰	دوست کا معاملہ		فصل نمبر ۱۷
۸۱	جنت کی خوشخبری	۶۰	علم صدیق اکبر ﷺ
۸۲	صدق اکبر و حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہما	۶۲	ماہر علم تعبیر
۸۳	معراج اور صدیق اکبر ﷺ	۶۳	ایک جیسا جواب
۸۴	صدق صدیق اکبر ﷺ		فصل نمبر ۱۸
۸۵	تین سو ساٹھ نیک خصلتیں	۶۴	جمع قرآن
	فصل نمبر ۲۴		فصل نمبر ۱۹
	فضیلت ابو بکر صدیق ﷺ اور	۶۵	افضل الصحابہ
۸۶	کلام صحابہ و سلف صالحین	۶۶	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
۸۷	ملاقات باری تعالیٰ	۶۸	مدح صدیق اکبر ﷺ
	فصل نمبر ۲۵		فصل نمبر ۲۰
۸۸	حکم امامت	۶۹	راحم و سخت اور امین و باحیاء
	فصل نمبر ۲۶		فصل نمبر ۲۱
	احادیث و آیات باشارہ خلافت	۶۹	مدح و شان و تصدیق صدیق اکبر ﷺ
۸۹	حضرت صدیق اکبر ﷺ	۷۰	صرف خدا کی رضا
۹۰	دروازے بند کر دیئے جائیں	۷۱	مرا صدق

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۱۳	اولیات صدیق اکبر ﷺ	۹۱	اللہ عزوجل اور مومنین
۱۱۴	آدھی بکری اور ایک پوٹھاک	۹۲	رقیق القلب
۱۱۵	غلام اونٹ اور چادر	۹۳	پیغام نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
	فصل نمبر ۳۰	۹۴	خدائی فیصلہ
۱۱۶	بحرین کا حال	۹۵	رشید کا اطمینان
	فصل نمبر ۳۱	۹۶	آیت دلیل خلافت
۱۱۷	آپ کا حلم اور تواضع	۹۷	انطباق آیت
	فصل نمبر ۳۲		فصل نمبر ۲۷
	فصل نمبر ۳۳	۹۸	بیعت ابو بکر صدیق ﷺ
۱۱۸	وفات کا سبب	۱۰۰	اقدام رسول ﷺ
۱۱۹	انوکھا طیبیب	۱۰۱	خطبائے انصار اور مہاجرین
۱۲۰	وصیت نامہ	۱۰۲	امیر اعظم
۱۲۱	تین دانہ		ثانی اثین - چہرہ رسول کا بوسہ اور
۱۲۲	بھلائی کی وصیت	۱۰۳	وزیر و امر
۱۲۳	تمام حقوق	۱۰۴	محفوظ اور معصوم
۱۲۴	آپ کا جنازہ	۱۰۵	راہ راست و طلب بخشش
۱۲۵	پہلوئے رسول ﷺ		فصل نمبر ۲۸
	فصل نمبر ۳۴	۱۰۶	واقعات خلافت صدیق اکبر ﷺ
۱۲۶	آپ سے مروی احادیث	۱۰۷	اختلاف میراث و مدفن انبیاء
	فصل نمبر ۳۵	۱۰۸	تکست روم و خطبہ صدیق اکبر ﷺ
۱۳۶	تفسیر قرآن میں آپ سے مروی	۱۰۹	حق بات
	فصل نمبر ۳۶	۱۱۰	سیلہ کذاب سے جنگ
۱۳۷	اقوال و فیصلے اور خطبات و دعائیں	۱۱۱	اہلہ و عراق کی فتح
۱۳۸	اللہ سے شرم - ذوق عبادت	۱۱۲	ذکر جمع قرآن
۱۴۰	دس باتیں		فصل نمبر ۲۹

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۶۷	لقب فاروق فصل نمبر ۲	۱۴۱	دو گویہ عورتیں (گویہ گانے والی)
۱۶۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت فصل نمبر ۳	۱۴۲	زبور کی تلاش
۱۶۹	احادیث بفضیلت حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۴۳	فرمان صدیق اکبر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۰	شیطان راستہ چھوڑ دے	۱۴۴	بنان کا سرا اور جاہلیت کی رسم
۱۷۱	شیاطین جن و انس	۱۴۵	کہانت سے بات
۱۷۲	شیطان کا ڈرنا فصل نمبر ۴	۱۴۶	خطبہ
۱۷۳	اقوال صحابہ و سلف صالحین	۱۴۸	حمد و ثنا کے بعد
۱۷۴	بیدار مغز، سراپائے بھلائی اور ہوشیار	۱۵۰	اللہ کے اہل ذمہ
۱۷۵	لوہے کا سینگ فصل نمبر ۵	۱۵۱	آپ کی دعا
۱۷۶	اسلام کے ماں باپ فصل نمبر ۶	۱۵۲	فصل نمبر ۷
۱۷۷	موافقات حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۳	اللہ سے ڈرنا
۱۸۱	روزوں کا قصہ	۱۵۴	پہلو کا بال
۱۸۲	اذن دخول بیت	۱۵۵	فصل نمبر ۳۸
۱۸۳	سرگرداں لوگ فصل نمبر ۷	۱۵۶	حضرت صدیق اکبر <small>رضی اللہ عنہ</small> ایک معجز
۱۸۴	کرامات حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۷	رسول اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا خواب
۱۸۵	یا ساریۃ الجبل	۱۵۹	فصل نمبر ۳۹
۱۸۶	دریا کو خط فصل نمبر ۸	۱۵۶	بڑا کون ہے؟
۱۸۷	سیرت و خصلت	۱۵۷	فصل نمبر ۴۰
		۱۵۷	نقش خاتم
		۱۵۹	حضرت عمر بن خطاب <small>رضی اللہ عنہ</small>
		۱۶۰	فصل نمبر ۴
		۱۶۱	دعائے غلبۃ السلام
		۱۶۲	قسمت جاگ اٹھی
		۱۶۳	حق کی ہیبت
		۱۶۵	عظمت اسلام

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۱۰	تدوین دفتر	۱۸۸	گھی اور گوشت
۲۱۱	یا خلیفہ یا خلیفہ	۱۸۹	مچھلی کی خواہش
۲۱۲	اللہ نبی اور بندہ	۱۹۰	اللہ سے ڈر
۲۱۳	جبل تبارک - وصیت تدفین		فصل نمبر ۹
	فصل نمبر ۱۳	۱۹۱	حلیہ حضرت عمر <small>ؓ</small>
۲۱۴	حساب سے خلاصی		فصل نمبر ۱۰
	فصل نمبر ۱۴	۱۹۲	آپ کی خلافت
۲۱۵	اعلام امت	۱۹۳	بارش کی دعا
۲۱۷	حضرت عثمان بن عفان <small>ؓ</small>	۱۹۴	شہادت نعمت عظمیٰ
۲۱۸	حسن اسلوب بیان	۱۹۵	ابولولو کا حملہ
۲۱۹	حلیہ	۱۹۶	لولو کی خودکشی
۲۲۰	عقد ام کلثوم رضی اللہ عنہا	۱۹۷	وصیت اور بیعت حضرت عثمان <small>ؓ</small>
	فصل نمبر ۱	۱۹۹	ابوعبیدہ اور معاذ رضی اللہ عنہما
۲۲۱	احادیث فضیلت ماتقدم کے سوا		فصل نمبر ۱۱
۲۲۲	دست اقدس	۲۰۰	اولیات حضرت عمر <small>ؓ</small>
	فصل نمبر ۲		فصل نمبر ۱۲
۲۲۳	خلافت حضرت عثمان غنی <small>ؓ</small>	۲۰۱	لقب امیر المؤمنین
۲۲۴	خلافت کے لائق	۲۰۲	ترک کتاب
۲۲۵	سنۃ الرعاف (تکبیر کا سال)	۲۰۳	پہلی بات
۲۲۶	پہلا الزام - قبرص پر حملہ	۲۰۴	دغی سزا - خلیفہ یا بادشاہ
۲۲۷	توسیع مسجد نبوی	۲۰۵	سیاہ داغ
۲۲۸	معاملہ مصر اور سازش مروان	۲۰۶	قیصر روم کا خط
۲۳۱	خط کی تحقیق	۲۰۷	حقوق زوجیت بھی
۲۳۲	شہادت حضرت عثمان غنی <small>ؓ</small>	۲۰۸	شوہر کے بغیر
۲۳۳	قاتل حمار	۲۰۹	میں انسان نہ ہوتا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۵۱	ہشام بن عبد الملک	۳۲۶	عدل سے پر
۳۵۲	حق ادا کر دیا ہے	۳۲۷	حضرت خضر
۳۵۳	ناراض کیوں ہیں؟	۳۲۸	رو پڑے
۳۵۶	ولید بن یزید بن عبد الملک	۳۲۹	خدا تعالیٰ کے ہاں
۳۵۷	اللہ کا خلیفہ	۳۳۰	خوش عیش و تنگ عیش
۳۵۸	قصیدہ یادہ	۳۳۱	دیوارِ عدل کھینچو
۳۵۹	یزید الناقص ابو خالد بن ولید	۳۳۲	کون نیک بخت؟
۳۶۰	گانے سے دور رہنا	۳۳۳	کرتے ہی نہیں
۳۶۱	ابراہیم بن ولید بن عبد الملک	۳۳۴	انگور کی خواہش
۳۶۲	مروان الحمار	۳۳۵	دنیاوی طمع
۳۶۳	قبر سے سولی پر	۳۳۶	شاہی باورچی خانہ
۳۶۴	عباسیوں کی سلطنت خلیفہء سفاح	۳۳۷	ادھر ہدیہ ادھر رشوت
۳۶۵	متولی امر خلافت	۳۳۸	اصلاح کر لو
۳۶۶	مغربِ اقصیٰ	۳۳۹	جاننے والا
۳۶۷	جتنا حق ہے	۳۴۰	فکر قرآن میں
۳۶۸	منصور بن ابو جعفر عبداللہ	۳۴۱	بھلائی پر
۳۶۹	ظلم و ستم	۳۴۲	راہِ فلاح
۳۷۰	زبانی تعلیم و تعلم	۳۴۳	کلماتِ خطبہ
۳۷۱	یکین لازم نہیں	۳۴۴	عدل اور حق
۳۷۲	پہاڑوں میں پناہ	۳۴۵	کتب سابقہ - ذکر رسول کریم ﷺ
۳۷۳	سبب جمع مال	۳۴۶	مراؤ فقہ اکبر
۳۷۴	دعا سننے والا	۳۴۷	یہ آیت
۳۷۵	شکر بجالانا	۳۴۸	مرض اور وفات
۳۷۶	عدل اور فضل	۳۴۹	دنیا کا بہتر
۳۷۷	بادشاہ سے اختلاف	۳۵۰	یزید بن عبد الملک بن مروان



صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۰۵	کانپتے ہوئے	۳۷۸	ابودلامہ شاعر
۲۰۷	فدیہ دے کر	۳۷۹	غناء اور بلاغت
۲۰۸	رعایا کے سر پر	۳۸۰	۸۰ کے بدلے ۱۰۰
۲۰۹	ہارون الرشید کے دلچسپ واقعات	۳۸۱	قریب ہے تمہارا رب
۲۱۰	جیل بتائیے	۳۸۲	موقع نہ پاسکا
۲۱۱	علماء جیسا فہم	۳۸۳	قسم کے معنی
۲۱۲	ان جیسے نقاد	۳۸۴	سبب و نسب
۲۱۳	سفر طالب علمی	۳۸۵	مہدی ابو عبد اللہ محمد بن منصور
۲۱۵	اپنی تعریف سے	۳۸۶	تقسیم کر دیا
۲۱۶	کاش تم سے قبل	۳۸۷	مساجد میں مقصور
۲۱۷	سفر آخرت	۳۸۸	دروازے کی چوک
۲۱۸	حدیث کی روایت	۳۹۰	تو یہ کرتا ہوں
۲۱۹	امین محمد ابو عبد اللہ	۳۹۱	طریقہ طلب علم
۲۲۰	کچھ مچھلیاں	۳۹۲	پردہ ہی بہتر
۲۲۱	ترقی اور تنزلی	۳۹۳	احقوں پر فضیلت
۲۲۲	اب چاندنی عجیب	۳۹۴	روایات مہدی
۲۲۳	چادر اور مصلیٰ	۳۹۵	بادی ابو محمد موسیٰ بن مہدی
۲۲۵	ضائع کر دیا	۳۹۶	بانس کی جڑ
۲۲۶	پانچ کشتیاں	۳۹۷	سختاوت و سیاست
۲۲۸	ہاشمی خلیفہ	۳۹۹	یہ ثواب و رحمت
۲۲۹	امین کی وفات	۴۰۰	ابو جعفر ہارون الرشید
۲۳۰	اشعار تعریف	۴۰۱	پیدائش ہارون الرشید
۲۳۱	طشت از بام	۴۰۲	عجیب جان کر
۲۳۲	قیامت کے دن	۴۰۳	امت کی بابت
۲۳۳	مامون عبد اللہ ابو العباس	۴۰۴	زبیدہ نیک عورت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۶۵	تاج المملکت	۵۴۱	الثالث کا کر
۵۶۶	ہر ماہ مبارک	۵۴۲	امامت فرض
۵۶۷	سات خلعتیں	۵۴۳	خرچ کرنے والا
۵۶۸	اس قدر آندھی	۵۴۴	باغ اور محل
۵۶۹	القادر باللہ	۵۴۵	الراضی باللہ
۵۷۰	تصنیف خلیفہ	۵۴۶	مورث اعلیٰ
۵۷۱	نوبادشاہ	۵۴۷	محضر پر دستخط - دن کو اندھیرا
۵۷۲	جھنڈو پر نام	۵۴۸	حج پر ٹیکس
۵۷۳	گرون ماروی	۵۴۹	کیا دعا کروں؟
۵۷۴	صلیب قرامی اور سیاہ عمامے	۵۵۰	المستغنی باللہ
۵۷۵	عورتوں پر پابندی	۵۵۰	ابن رائق
۵۷۶	القائم بامر اللہ	۵۵۱	بجاؤ کی خاطر
۵۷۷	اذان میں زیادتی	۵۵۲	تعظیم کے بعد
۵۷۸	دعا کے الفاظ	۵۵۳	المستغنی باللہ
۵۷۹	روٹی پچاس دینار میں	۵۵۴	کشتی گیر اور تیراکی
۵۸۰	جعفری بک	۵۵۵	المطیع باللہ
۵۸۱	پانی آ گیا	۵۵۶	چاندی کا حلقہ
۵۸۲	طویل المیعاد صلح	۵۵۷	مکان گر گئے
۵۸۳	المقتدی بامر اللہ	۵۵۸	جزیرہ اقریطش
۵۸۴	زیادتی ختم	۵۵۹	معز الدولہ
۵۸۵	امیر المسلمین	۵۶۰	تعمیر تعمیر از ہر
۵۸۶	المستظہر باللہ	۵۶۱	ٹھنھاروں سے آگ
۵۸۷	سبعہ سیارے	۵۶۲	قاضی القضاة
۵۸۹	آخر ناچاتی	۵۶۳	جب دوست مر جائیں
۵۹۰	چمڑہ میں بھس	۵۶۴	ناگوار گزرا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۱۹	مشہد موسیٰ کاظم - ایک کان والا بچہ	۵۹۱	فرنگیوں کا ظلم - سیاہ اور زرد آندھی
۶۱۹	نجوی مارے گئے	۵۹۳	المستتر شد باللہ
۶۲۰	اکیانوے برس سے	۵۹۴	لشکر کی بے وفائی
۶۲۱	بیت المقدس فتح ہوگا	۵۹۵	واقعہ قتل مستتر شد
۶۲۲	تخط اور تختیاں	۵۹۶	بھاگائیں
۶۲۳	دو سلسلے	۵۹۹	الراشد باللہ
۶۲۴	ملیہ دارالحدیث	۶۰۰	المقتدی لامر اللہ
۶۲۵	الظاہر باللہ	۶۰۱	ایک دانہ بھی
۶۲۶	خشک درخت	۶۰۲	ادلہ بدلہ
۶۲۷	المستنصر باللہ	۶۰۳	خون کی بارش
۶۲۸	تاتاریوں کا خاتمہ	۶۰۴	صاحب رائے و سیاست
۶۲۹	حوادث عہد مستنصر	۶۰۵	حدیث کا عاشق
۶۳۰	اکابر کی وفات	۶۰۶	المستنجد باللہ
۶۳۱	المستنصر باللہ	۶۰۷	دو ماہ محاصرہ
۶۳۲	کٹھ پتلی - ام غلیل شجر الدر	۶۰۸	المستقی بامر اللہ
۶۳۳	آگ کے دریا	۶۰۹	زوال عبید اللہ
۶۳۴	مختصر حال تاتاریاں	۶۱۰	عجیب و غریب اشیاء
۶۳۵	نرمی اور دھمکی	۶۱۲	دھاری دار گدھا
۶۳۶	سونے چاندی کی کانیں	۶۱۳	آگ کے ستون
۶۳۷	تمام دنیا پر	۶۱۳	الناصر لدین اللہ
۶۳۸	ظالم سفاح اور جاہل	۶۱۴	پختہ تدبیریں
۶۳۹	جو چھپے وہی بچے	۶۱۵	میں دن برف باری
۶۴۱	ہلاکو کے مظالم اور خطوط	۶۱۶	گھوڑا چھن گیا پوشیدہ قتل بتا دیا
۶۴۲	کوئی شجاع بادشاہ	۶۱۷	میزبان کی بے ادبی
۶۴۵	وعدہ خلافتی	۶۱۸	عہد ناصر کے حوادث

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۷۸	المعتصد بالله ابو الفتح	۶۳۶	المستنصر بالله احمد
۶۷۹	عجیب نمونہ - چکنا گوشت	۶۳۷	مستنصر کا عہد خلافت
۶۸۰	المستغنی بالله ابو البرج	۶۳۸	الحاکم بامر اللہ
۶۸۲	القائم بامر اللہ ابو البقاء	۶۳۹	بادشاہ حاشیہ بردار
۶۸۳	المستعجب بالله ابو المحاسن (خلیفہ عصر)	۶۵۰	فتح نوبہ - شلامش بادشاہ - تاتاریوں پر فتح
۶۸۳	التوکل علی اللہ ابو العز	۶۵۱	قلا دون کی موت
۶۸۴	دوادار کی سرکردگی	۶۵۲	قبول اسلام تاتاری بادشاہ
۶۸۵	اڑھائی سو سال عمر	۶۵۳	المستغنی بالله
۶۸۶	معتد علیہ تواریخ	۶۵۴	سفید پٹریاں
۶۸۶	قصیدہ	۶۵۵	آجنوس کا دروازہ
۶۹۲	اندلس، سلطنت امویہ کا مختصر حال	۶۵۶	دوستی سے عداوت
	فصل	۶۵۷	الواثق بالله
۶۹۴	سلطنت خلیفہ عبیدہ کا مختصر حال	۶۵۸	بخدا یہ سچ ہے کہ
	فصل	۶۵۹	الحاکم بامر اللہ ابو عباس
۶۹۵	مختصر حال سلطنت بنی طباطبالی علیہ حسنیہ	۶۶۰	حاکم کا بیعت نامہ
	فصل	۶۶۱	قاعدہ ہے
۶۹۵	مختصر حال سلطنت طبرستان	۶۶۲	المعتصد بالله ابو الفتح
		۶۶۸	التوکل علی اللہ ابو عبد اللہ
		۶۶۹	قرأت بخاری شریف
		۶۷۰	راستے کی سازش
		۶۷۱	برقوق کی ندامت
		۶۷۲	الواثق بالله عمر - المستعصم بالله ذکر یا
		۶۷۲	المستعین بالله ابو الفضل
		۶۷۳	قصیدہ کے اشعار
		۶۷۷	یہ جائز نہیں

## محمد نشاناتا بش قصوری

### نشان منزل

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الامام ابو الفضل جلال الدین عبدالرحمان بن کمال الدین ابوبکر السیوطی رحمہما اللہ تعالیٰ ان جلیل القدر علمائے امت میں شمار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے علوم و فنون اور قلم و قسطاس سے اسلام و سنت کی مثبت خدمات سرانجام دیں علم و عمل کا حظ وافر انہیں اپنے ابا و اجداد سے وارثاً ملا۔ ان کے جد اعلیٰ ہمام الدین خضری اہل حقیقت و معرفت اور نامور شیخ طریقت تھے۔ ان کا خاندان دینی عزت و عظمت کے ساتھ ساتھ دینی و جاہت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھا۔ چنانچہ ان میں بعض تو حکمرانی کی نعمت سے سرفراز ہوئے اور بعض نے تجارت میں نام کمایا۔

حضرت امام جلال الدین عبدالرحمان سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ ۸۴۹ ہجری میں متولد ہوئے۔ یتیمی میں پروان چڑھے۔ آٹھ سال کی مختصر عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت اخذ و حافظہ کی بیکران دولت سے نوازا تھا چنانچہ دس سال کی عمر میں عمدہ منہاج الفقہ والاصول اور الفیہ ابن مالک ازبر کر لیا تھا۔ علم نحو و فقہ اپنے وقت کے اکابر علماء سے پڑھا۔ علم الفرائض حضرت شیخ شہاب الدین علیہ الرحمۃ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی جو اس وقت ایک سو سال سے زائد عمر رکھتے تھے انہیں فرضی زمان کے لقب سے شہرت ملی۔

علم الحدیث و علم الادب العربی حضرت علامہ تقی الدین شبلی حنفی علیہ الرحمۃ سے پڑھے۔ بعدہ چودہ سال تک مسلسل علامۃ العصر استاذ الاساتذہ شیخ محی الدین کافجی علیہ الرحمۃ کی خدمت

میں رہ کر تفسیر، اصول، ادب، معانی، بیان وغیرہ علوم کا اچھی طرح احاطہ کیا۔ علامہ سیف الدین حنفی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں بھی کچھ عرصہ استفادہ کرتے رہے۔ کشاف، توضیح، تلخیص المفتاح کے اسباق ان سے پڑھے یہاں تک کہ ۸۷۶ھ میں کتب عربیہ کی تدریس کی اجازت عطا ہوئی۔ جب کہ اس زمانے میں آپ تصنیف و تالیف کی طرف خوب راغب ہو چکے تھے آپ کی سب سے پہلی تصنیف ”تعوذ و تسمیہ“ کی تفسیر ہے۔ آپ نے سیرو افسی الارض کے ارشاد ربانی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شام، یمن، ہند، مراکش (مغرب) اور دیگر ممالک کی سیاحت بھی فرمائی۔ آپ اپنے خودنوشت حالات زندگی میں رقم فرماتے ہیں کہ جب میں حج و عمرہ کی سعادت کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوا تو آپ زمزم کو کئی اہم امور و معاملات کی نیت سے نوش کیا۔ ان میں سے یہ بھی نیت تھی کہ علم فقہ میں حضرت شیخ سراج الدین بلقینی اور علم حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہما اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ کو پالوں۔

حضرت امام جلال الدین عبدالرحمان سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ جملہ علوم و فنون اسلامیہ میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔ خصوصاً تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان و بدیع تو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حاسدین نے ان کے علوم مرتبہ کے پیش نظر اپنی کم نظری اور بد باطنی کا مظاہرہ کرنے میں بڑی بے حیائی اور بے باکی سے کام لیا ہے۔

حضرت امام سیوطی علیہ الرحمۃ سچے عاشق رسول تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں بہتر مرتبہ بیداری کے عالم میں جمال جہاں آراء حبیب کبریا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، سید عالم نبی مکرم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب اور حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان و ایقان اور رضتی ہونے پر سات بقولے بعض دس کتابیں تصنیف فرمائیں جو اپنی مثال آپ ہیں اور مقررین کی ان تصانیف کے ذریعہ خوب خوب خبر لی۔ آپ نے تو پچاس سے زائد علوم پر گرفت رکھ کر کتابیں لکھیں جن کی تعداد ایک ہزار تک بیان کی جاتی ہے (واللہ تعالیٰ وحیبہ الاعلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلم) آپ نے اپنی تمام زندگی علم و قلم سے وابستہ رکھی اور امت محمدیہ علیہ التحیۃ والثناء کو تصانیف کی صورت میں بے شمار اور لازوال خزانے عطا فرمائے جو تا قیام قیامت تقسیم

ہوتے رہیں گے اور ہر زمانہ ان سے مستفید ہوتا رہے گا۔ جن میں ایک درنا یاب ”تاریخ الخلفاء“ آپ کے پیش نظر ہے جو اپنی نوعیت کی مستند اور جامع تاریخ ہے جسے تالیف سے لے کر آج تک ہر طرح قبولیت کا شرف نصیب رہا۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی زبانوں میں اس کے کئی کئی تراجم ہوتے رہے تاہنوز یہ سلسلہ قائم ہے۔ پاک و ہند میں اس مبارک کتاب کے بہت سے ترجمے ہوئے جو اپنی افادیت کی بنا پر بڑی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد بھی اس تاریخ کو مترجمین نے اپنے قلم کی زینت بنایا جو قارئین اور عشاقان مطالعہ کی نگاہ سے قطعاً پوشیدہ نہیں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی علمی دلچسپی کے باعث علم پرور ناشرین کی توجہ دینی لٹریچر کی طرف خاصی حد تک ترقی پذیر ہے اور یہ ایک نیک شگون ہے۔ ان قابل قدر دینی اشاعتی اداروں میں ”شبیر برادرز“ کا نام بھی صف اول میں شمار ہونے لگا ہے جس کے بانی و مالک محترم جناب ملک شبیر حسین صاحب ہیں۔ جو اپنی گونا گوں اشاعتی خوبیوں کے باعث ملک بھر میں اچھی شہرت اور عمدہ نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ صاف گو، تحمل مزاج، حلیم الطبع، خوش خو، خوش اخلاق، ایثار پسند، معاملات میں صاف ستھرے سچے اور کھرے انتھک، محنتی اور مخلص انسان، جن کی دینی محبت اور مسلمکی عقیدت نے اہل سنت و جماعت کے کاز کی نہایت عمدہ اعلیٰ اور ارزاں قیمت پر سینکڑوں کتابیں شائع کر کے خوب خوب خدمت سرانجام دی اور بدستور ہمت مردانہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں مزید کامیابیاں مرحمت فرمائے تاکہ مسلک حق کی ہمیشہ ہمیشہ سر پرستی فرماتے رہیں آمین ثم آمین۔

کچھ ترجمہ و مترجم کے بارے میں:

پیش نظر ترجمہ مولانا محمد بشر چشتی سیالوی زید مجدہ کی شب و روز محنت کا ثمرہ ہے جو جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان کے ہونہارا اور قابل علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کے جملہ مدرسین حضرات کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں تدریس کے ساتھ ساتھ تحریر سے بھی شغف ہے یہی وجہ ہے کہ تعلیم و تربیت میں اساتذہ کرام طلبائے جامعہ کو قلم کی اہمیت سے بڑی شد و مد سے نہ صرف آگاہ کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ انہیں قلم پکڑنے کا شعور دیتے ہیں۔ راقم السطور کا بھی یہی معمول

ہے کہ آغاز سے ہی اپنے تلامذہ کو مضامین لکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ چنانچہ مولانا مبشر چشتی سیالوی زید علمہ و عملہ کا رجحان قدرے زیادہ دیکھا تو انہیں کتاب کی تدوین ترتیب اور ترجمہ کی طرف رہنمائی کی الحمد للہ علی منہ و کرہمہ تعالیٰ عزیز موصوف نے ترجمہ کی ”بسم اللہ“ استاذ العلماء علامہ عطاء محمد صاحب بندیا لوی چشتی گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف لطیف ”صرف عطائی فارسی“ سے کی جو فارسی اشعار پر مشتمل تھی۔ جس کا ترجمہ اردو اشعار میں کیا تو اساتذہ کرام نے خوب خوب حوصلہ افزائی فرمائی مگر حضرت استاذ العلماء علیہ الرحمۃ نے حکم فرمایا اس کا ترجمہ نثر میں آنا چاہیے تو پھر اشعار کی بجائے نثری ترجمہ سے صرف عطائی پہلی بار نہایت جاذب نظر گردو پیش کے ساتھ منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ ”شجرہ طیہ سے لطائف عشرہ“ جو فارسی زبان میں تھا اسے اردو کا لباس پہنایا۔ نیز حضرت استاذ العلماء علامہ عطاء محمد بندیا لوی چشتی گولڑوی علیہ الرحمۃ نے ۱۹۳۸ء میں ”سفر نامہ بغداد“ مرتب فرمایا تھا۔ جب مرحوم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید غلام محی الدین چشتی گولڑوی المعروف حضرت بابو جی رحمہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں ان کے ایک صد مریدین کے ساتھ بغداد شریف کی زیارت و حاضری کے لئے تشریف لے گئے تو اس مبارک سفر کی تمام روداد کی کتابی صورت میں حضرت مولانا عطاء محمد صاحب بندیا لوی علیہ الرحمۃ نے قلمبند کی۔ مگر نصف صدی گزر جانے کے باوجود کسی طرح شائع نہ ہو سکی۔ جب اشاعت کا وقت آیا تو مولانا محمد مبشر سیالوی کو از سر نو مرتب کرنے کا حکم ہوا عزیز نے اسے بڑی مہارت سے جدید انداز میں مرتب کیا جسے علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری مدظلہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور نے طباعت سے راستہ فرما کر نصف صدی کی پوشیدہ سوغات کو بڑی خوبصورتی سے نمایاں کیا۔

مولانا محمد مبشر سیالوی ابن مولانا علامہ محمد اصغر قادری سروری سلطانی رحمہ اللہ تعالیٰ کیم جون ۱۹۸۰ء کو موضع نارنگ دھوتھراں تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاؤ الدین میں پیدا ہوئے۔ عموماً تمام خاندان علمی وراثت کا امین چلا آ رہا ہے۔ موصوف کے دادا داد جان حضرت میاں سلطان احمد بڑے صاحب فراست انسان تھے۔ مولانا محمد مبشر سیالوی زید مجتہد ابھی پانچ سال کے ہوئے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو حضرت مولانا علامہ محمد شفیق الرحمن سیالوی مدظلہ



نے جو ان کے ماموں جان ہیں۔ تمام افراد خانہ کی کفالت اپنے ذمہ لی اور اس رتبہ پر تعلیم و تربیت اور پرورش کی کہ کسی کو تصور تک نہ ہونے دیا کہ یہ یتیمی کی وادی سے نزر رہا ہے۔ بہر حال مولانا محمد مبشر سیالوی نے اپنے ماموں جان مدظلہ کی اعلیٰ تربیت کے باعث حصول علم کی طرف بڑی مستعدی سے قدم بڑھایا۔ یہاں تک کہ ایک قابل عالم اور صاحب قلم کی حیثیت سے متعارف ہو رہے ہیں پیش نظر ترجمہ ”تاریخ الخلفاء“ ان کی محنت شاقہ کا ثمرہ ہے۔ قارئین کرام از خود اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنا آسان، سہل اور شاندار ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی عزیز موصوف کو علم و عمل اور ادب کی نعمت سے حظ وافر عطا فرمائے اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ قلم و قراطس کے جواہرات سے ان کے دامن کو ہمیشہ ہمیشہ پر رکھے۔ آمین ثم آمین۔

بجاء طہ و ینس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ و بارک و سلم

دعا گو

محمد منشا تابش قصوری

مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ (پاکستان)

یکم محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

ہفتہ ۱۶ مارچ ۲۰۰۲ء

# زینتُ الحافل

ترجمہ

# زینتُ المجالس



— تصنیف 8 —  
امام عبد الرحمن بن عبد السلام  
الصفوری الثاقبی رحمہ اللہ تمثال (۱۹۰۰ء)

— ترجمہ 8 —  
علامہ محمد منشا آیش القصوری الحنفی  
مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور



ناشر: شہیرہ برادرزہ اردو بازار لاہور پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی حَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ  
 الْمُصْطَفٰی وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَخُلَفَآءِهِ الْمُجْتَبٰی رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی  
 عَنْهُمْ اَبَدًا اَبَدًا . اَمَّا بَعْدُ !

یہ ایک نہایت عمدہ تاریخ ہے جسے میں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کر اس زمانے کے تمام خلفاء و امراء کا ترتیب وار تذکرہ رقم کیا ہے جن پر امت مسلمہ متفق ہے اور اس تاریخ میں زمانے کی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جو پہلے اس کا پہلے ذکر اور جو اس کے بعد اس کا بعد میں بیان ہوا۔ نیز ان تمام عجیب تر واقعات و حوادث کو بھی ضبط تحریر میں لایا گیا ہے جو ان ادوار میں ظہور پذیر ہوتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے نامور علمائے دین اور ائمہ مجتہدین کے احوال بھی قلمبند کئے گئے ہیں جو ان کے زمانوں میں ہوئے۔

### سبب تصنیف کتاب مستطاب:

اس مبارک کتاب کی تصنیف کا باعث متعدد وجوہ ہیں جن میں سے ایک یہ کہ اکابر و اعظم امت کے حالات و سوانح کا احاطہ کیا جائے۔ تاکہ اہل علم پسند فرمائیں، کیونکہ بکثرت لوگوں نے تاریخ پر کتابیں مرتب کیں جو رطب و یابس سے خالی نہیں ان میں زیادہ تر غلط سلسلہ واقعات پر مبنی ہیں جب کہ انہوں نے مکمل طور پر بیان کرنے کی بھی کوشش نہیں کی (تاکہ اہل علم و قلم از خود صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں) نیز ان کا انداز تحریر کہیں مجمل ہے تو کہیں بلاوجہ طوالت اختیار کر گیا ہے جو طبائع علمیہ کے ملال کا سبب ہے۔

ایسی وجوہ کے پیش نظر میں نے ارادہ کیا کہ ہر طبقے کے الگ الگ حالات پر مشتمل تاریخ مرتب کی جائے تاکہ قارئین کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید ہو۔

چنانچہ میں ”کتاب الانبیاء“ علیہم السلام اور کتاب الصحاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احوال و آثار پر لکھی کتاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو حضرت شیخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ”کتاب الاصابہ“ کا خلاصہ ہے ایسے ہی مفسرین کے حالات پر مشتمل ایک کتاب تصنیف کی نیز حفاظ حدیث پر بھی کتاب لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی جو امام ذہبی کی تالیف طبقات کی تلخیص ہے یوں ہی ایک ضخیم ترین تصنیف ائمہ نجات و لغات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک عدیم المثال تاریخی کتاب ہے اور احوال اولیاء کرام پر بھی ایک عظیم تصنیف لکھنے کا موقعہ ملا علم الفرائض، علم البیان کے ساتھ ساتھ علم الانشاء و الادب کی آبیاری کرنے والوں کے حالات پر بھی قلم اٹھایا ایسے ہی اہل خطہ کے حالات کو قلمبند کیا۔ جس میں مروجہ خطوط عبرانی، زنجی، کوئی کے تعارف پر مشتمل ہے۔ نیز ان شعرائے عرب کی تاریخ لکھی جن کے اشعار سند کی حیثیت رکھتے ہیں یہ جملہ تصانیف ایسی ہیں جن میں اعیان امت کے حالات آ جاتے ہیں۔

فقہاء کے حالات پر انہی تصانیف سے کام لیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ کسی حد تک کافی و وافی ہیں اور جسٹس حضرات کے احوال معلوم کرنے کے لئے بھی ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اب سوائے خلفائے و امراء کے علاوہ کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جن پر کچھ نہ کچھ نہ لکھا گیا ہو۔ البتہ یہی ایک جماعت ایسی رہ گئی تھی جن پر راہ و قلم چلانا باقی تھا اور لوگوں میں خلفاء اور شاہان اسلام کے حالات جاننے میں دلچسپی نیز شوق بھی خوب پایا جاتا ہے۔ اس لئے میں نے یہ کتاب ان کے احوال و آثار پر مشتمل تصنیف کر دی ہے مگر اس میں ایسے کسی شخص کا ذکر نہیں جس نے فتنہ پر ازی سے خلافت کا دعویٰ کیا اور آخر کار ناکام ہوا کیونکہ ان کی امامت و خلافت کئی وجود سے درست نہیں تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ قریش میں سے نہیں تھے انہیں جہلاء نے فاطمی کہنا شروع کر دیا تھا حالانکہ ان کا دادا جموی تھا جیسے کہ قاضی عبدالجبار بصری نے رقم کیا ہے کہ ان کا دادا جو خلفائے مصر کا مورث اعلیٰ تھا اس کا نام سعید تھا اور وہ ایک یہودی کا بچہ تھا اور اس کا پیشہ آہن گری تھا وہ تیر و غیرہ بنایا کرتا تھا۔

قاضی ابوبکر باقلانی قداح کا بیان ہے کہ عبید اللہ مسمیٰ بالمحمدی جموسی تھا۔ عبید اللہ جب مغرب (مراکش) میں آیا تو اس نے علوی ہونے کا دعویٰ اگل دیا۔ نیز علمائے نساب میں سے

کسی نے بھی اسے علوی تسلیم نہیں کیا۔ البتہ جبلاء نے فاطمین سے شمار کیا ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم خلفائے مصر کے مورث اعلیٰ مہدی عبید اللہ کے نسب کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ عزیز باللہ بن مغر شروع حکومت میں جمعہ کے روز منبر پر چڑھا تو ایک کاغذ پر یہ اشعار لکھے ہوئے دیکھے۔ شعر:

اناسمعنا نسباً منکرا	یتلی علی المنبر فی الجامع
ان کنت فیما تدعی صادقاً	فاذکر ابا بعد الاب السابع
وان ترد تحقیق ماقلنته	فانصب لنا نفسک کالطالع
والادع الانساب مسطورة	وادخل بنا فی النسب الواسع
فان انساب بنی ہاشم	لیقصر عنه طمع الطامع

☆ ہم نے ایک غیر معلوم نسب کے متعلق سنا جو مساجد کے منبروں پر پڑھا جاتا ہے۔

☆ (اے وقت کے سربراہ) اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو ساتویں پشت کے بعد اپنے باپ کا نام بتاؤ۔

☆ اور اگر تم میری بات کی تصدیق کے طالب ہو تو خلیفہ طالع کی مثل اپنا نسب نامہ بیان کرو۔

☆ بصورت دیگر یہی بہتر ہے کہ ان انساب کو لکھائی تک محدود رکھو اور ہمارے ساتھ نسب واسع میں شامل ہو جاؤ۔

☆ اس لئے کہ بنی ہاشم کا نسب ایسا ہے جس سے طالع کی طمع جواب دے جاتی ہے۔

☆ اسی عزیز نے اندلس کے خلیفہ اموی کی طرف خط ارسال کیا جس میں اس کی جو تجویز تھی۔ بلکہ وہ دشنام نامہ ہی تھا جس کے جواب میں اموی نے رقم کیا۔

☆ حمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ تمہیں ہمارا نسب معلوم ہے۔ اسی بنا پر تو نے ہمیں جو دشنام کا نشانہ بنایا۔ اگر ہمیں بھی تمہارے نسب کی خبر ہوتی تو تجھے جواب دیا جاتا۔

☆ یہ جواب عزیز پر نہایت گراں گزرا اور خاموشی اختیار کر لی اموی کے جواب کا مطلب تھا کہ اس کے نسب میں طعن کیا جاتا ہے۔ نیز اس کے قبیلے کا بھی کوئی واضح نشان نہیں ملتا۔

ذہبی کا بیان ہے کہ محققین اس بات پر متفق ہیں کہ عبید اللہ مہدی علوی نہیں تھا۔ اس کا المغرنے تو یوں جواب دیا ہے جب ابن طباطبائی نے اس سے نسب دریافت کیا تو اس نے آدمی تلوار میاں سے باہر دکھا کر کہاں کہ میرا نسب یہ ہے اور اپنے مصاحبین، امراء و وزراء پر زرد جو اہر اور دینار شمار کرتے ہوئے کہا اور میرا حسب یہ ہے۔

ان کی امامت صحیح نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان میں سے بکثرت زندیق اور خارج عن الاسلام تھے۔ بلکہ بعض تو انبیاء علیہم السلام کو سب و شتم کا نشانہ بناتے رہتے تھے اور بعض نے شراب کو مباح کر رکھا تھا اور کئی ان میں ایسے تھے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے سجدہ کراتے اور جنہیں اچھا سمجھا جاتا وہ رافضی، خبیث، لعین و لئیم ہوتا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دینے کا حکم نافذ کرتا لہذا ایسے سربراہوں کی نہ بیعت درست اور نہ ہی ان کی امامت جائز۔

قاضی ابوبکر باقلانی تحریر کرتے ہیں کہ مہدی عبید اللہ باطنی بڑا خبیث تھا وہ دین اسلام کو مٹانے میں بڑا حریص تھا۔ اس نے لوگوں کو بے دین بنانے کے لئے بڑے بڑے علماء کرام اور ائمہ دین کو شہید کر دیا تھا۔ نیز اس کی اولاد نے بھی اس کی غلط روش کو اپنایا۔ شراب اور زنا کو مباح جانا اور روافض کے مذہب کو ترقی دی۔

ذہبی رقمطراز ہیں کہ قائم بن مہدی اپنے باپ سے بھی زیادہ خبیث، شریر، زندیق، بے دین، ملعون تھا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کو بر ملا گالی دینا اس کا معمول تھا۔ ذہبی کا بیان ہے کہ عبیدیوں کا خاندان اسلام کے لئے تاتاریوں سے بھی زیادہ بدتر اور نقصان دہ تھا۔

ابوالحسن قلبی کا بیان ہے کہ عبید اللہ اور اس کی اولاد نے چار ہزار علماء کرام، مشائخ عظام کو محض اس بنا پر شہید کر ڈالا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی و گستاخی کے مرتکب ہونے کی بجائے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو ترجیح دی۔ کاش کہ عبید اللہ صرف رافضی ہوتا مگر وہ تو رافضی ہونے کے ساتھ ساتھ زندیق اور بے دین تھا۔

حضرت علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں ابو محمد قیروانی کیزانی مالکی رحمہ

اللہ تعالیٰ کو خلفائے مصر نے اپنے عقائد و نظریات قبول کرنے کی دعوت دی اور یہاں تک مجبور کیا کہ یا تو ہمارا ساتھ دیں یا مرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو انہوں نے جواباً فرمایا میں عظمت صحابہ کرام کے تحفظ کے لئے اپنی جان کا نذرانہ دینے پر تیار ہوں۔ بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حفاظت و صیافت میں جانیں بھی دینی پڑیں تو قطعاً دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس امر میں کسی کو معذور نہیں سمجھا جائے گا پہلے پہلے عبید اللہ کے عقائد و نظریات لوگوں پر واضح نہیں تھے تو اس کی بیعت کرتے رہے۔ مگر جب اس کی بد عقیدگی ظاہر ہونے لگی تو لوگوں نے اس سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ کیونکہ ان پر ہجرت واجب ہو چکی تھی اور وہاں ان کا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا جہاں لوگوں کو احکام شریعت چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں تو وہاں سے ہجرت اختیار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس سے بیعت کر کے ٹھہرنا مناسب سمجھا محض اس بات پر کہ کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو بچایا جائے جو وہاں سے کہیں اور جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس اسکیم کے باعث خفیہ طور پر مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا جائے یوسف عینی بیان کرتے ہیں کہ علمائے قیروان اس بات پر متفق تھے کہ عبیدیوں کا حال مرتدین اور زندیقین سے قطعاً کم نہیں تھا۔ اس لئے کہ وہ اعلانیہ دین اسلام اور شریعت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے دشمن بن چکے تھے۔

ابن خلکان رقمطراز ہیں کہ عبیدی علم غیب کے مدعی تھے اور اس سلسلہ میں ان کی بکثرت حکایات ہیں حتیٰ کہ ایک عزیزی عبیدی جو منبر پر چڑھا تو اس نے ایک کاغذ پر یہ اشعار دیکھے

بِاطْلَمِ وَالْحُجُورِ قَدْ رَضِينَا

وَلَيْسَ بِالْكَفْرِ وَالْحِمَاةِ

إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ عِلْمَ غَيْبِ

بَيْنَ لَنَا كَاتِبِ الْبَطَاةِ

ظلم و جور پر ہم راضی ہیں مگر کفر و حماقت سے نہیں اگر تجھے علم غیب ہے تو اس تحریر کے

کاتب کو بتائیے؟

ایسے ہی ایک بار ایک خاتون نے اپنا قصہ لکھا اور اس کی طرف روانہ کیا جس میں تحریر تھا۔  
تجھے اس ذات کی قسم جس نے یہود کو میثاکے وجود اور نصاریٰ کو ابنِ نسطور سے عزت عطا کی اور  
مسلمانوں کو تیرے (خبیث) وجود سے ذلیل کیا میرے اس مقدمہ میں غور و فکر کر! میسا یہودی  
حاکم شام تھا جب کہ نسطو نے مصر پر حکمرانی کی۔

ان کی امامت صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان سے جب بیعت کی گئی اس وقت تک  
عباسی خلیفہ جس سے پہلے بیعت کر چکے تھے وہ چین حیات تھا۔ اس بنا پر کہ سابق البیعت خلیفہ  
موجود ہے لہذا ان کی بیعت غیر صحیح تھی کیونکہ بیک وقت دو اماموں کی بیعت درست نہیں ہوتی  
اور صحیح بیعت اسی کی ہے جس سے پہلے کی گئی ہو اور ایک یہ بھی وجہ ہے جیسے کہ حدیث شریف میں  
آیا ہے جب خلافت بنی عباس میں پہنچے گی تو ان سے باہر نہیں نکلے گی جب تک حضرت عیسیٰ  
علیہ السلام یا امام مہدی آ کر نہ سنبھالیں۔ لہذا معلوم ہوا بنی عباس کے ہوتے ہوئے دعویٰ  
خلافت کرنے والا باغی ہے۔ یہ وہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر میں نے عبیدیوں اور خارجیوں سے اپنی  
اس تصنیف کو محفوظ رکھا۔ البتہ اسی خلیفہ کا ذکر کیا جس کی امامت و بیعت پر اتفاق ہوا۔

واضح ہونا چاہیے کہ آغاز کتاب میں چند ایسی فصلوں کو رقم کیا ہے جو نہایت اہم فوائد پر  
مشتمل ہیں اس کتاب میں ہم نے جو واقعات غریبہ اور حوادث عجیبہ مرتب کئے ہیں۔ وہ حافظ  
ذہبی کی تاریخ سے مستفاد ہیں لہذا ان کی صحت و ثقہ کا معاملہ انہیں پر ہی ہے۔

واللہ الہادی والمتسعان.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## فصل نمبر 1

### رسول اللہ ﷺ کے کسی کو خلیفہ نہ بنانے کا راز

بزار رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی "مسند" میں عبد اللہ بن وضاح کوئی (رحمہما اللہ تعالیٰ) سے اور یحییٰ بن یمانی (رحمہ اللہ تعالیٰ) سے، ابو یقظان سے، وہ ابو وائل سے اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ہم پر کسی کو خلیفہ کیوں مقرر فرماتے؟ تو آپ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) نے فرمایا کہ اگر میں تم پر کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں اور تم میرے مقرر کردہ خلیفہ کی نافرمانی کرو تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے "مستدرک" میں روایت کیا ہے۔ مگر اس کے راویوں سے ابو یقظان (رحمہ اللہ تعالیٰ) ضعیف راوی ہیں۔

### دلیل جواز

بخاری شریف اور مسلم شریف میں مذکور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قاتل نے نیزہ مارا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے بہتر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا اور اگر میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ دوں (یعنی تم پر کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں) تو مجھ سے بہتر شخص یعنی رسول اللہ ﷺ نے بھی تمہیں ویسا ہی چھوڑ دیا تھا۔

فائدہ: روایت مذکورہ میں خلیفہ مقرر کرنے اور نہ مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں۔ یعنی اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو اس پر میرے لیے دلیل اور مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ نے خلیفہ مقرر فرمایا اور آپ مجھ سے بہتر ہیں اور اگر میں خلیفہ مقرر نہیں کرتا ہوں تو اس پر میرے لیے دلیل جواز افضل الانبیاء رسول اکرم ﷺ ہیں کہ آپ نے نام لے کر کے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور آپ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام مجھ سے بہتر ہیں۔

## حضرت علیؑ کا اعلان

امام احمد اور بیہقی (رحمہما اللہ تعالیٰ) نے ”دلائل النبوة“ میں عمرو بن سفیان (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے بسند حسن روایت کی ہے کہ جب حضرت علیؑ ”جنگ جمل“ میں فتح یاب ہوئے تو آپ نے فرمایا ”اے لوگو! آنحضرت ﷺ نے اس امارت کے معاملہ میں ہم سے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ ہم نے اپنی رائے سے ہی حضرت ابوبکر صدیقؓ کو خلیفہ بنایا اور انہوں نے دین کی اقامت و استقامت فرمائی، حتیٰ کہ آپ فوت ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کو خلیفہ بنانا مناسب سمجھا۔ پس انہوں نے بھی دین کی اقامت و استقامت فرمائی اور دین کو ان کے زمانے میں مخالفین سے آرام ملا۔ پھر ان کے بعد لوگوں نے دنیا طلبی کی تو خداوند تعالیٰ کے امور مقدرہ پیش آئے۔“

لوگوں کی بہتری حضرت علیؑ کی نظر میں

حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”مستدرک“ میں اور بیہقی (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے ”دلائل“ میں ابوداؤد (رحمہ اللہ تعالیٰ) سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ سے کہا گیا ”آپ ہم پر کسی کو خلیفہ کیوں مقرر نہیں فرماتے؟“ تو آپ نے فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تو میں کیسے مقرر کروں؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بہتری چاہی تو انہیں اپنے میں سے کسی بہتر کے خلیفہ بنانے میں مجتمع کر دے گا۔ جیسے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے بہتر کے خلیفہ بنانے پر لوگوں کو مجتمع کیا۔

## جھوٹی اور بے اصل روایتیں

امام ذہبی (علیہ الرحمۃ) فرماتے ہیں کہ رافضیوں کے نزدیک اس بارے میں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کے لیے ”ام خلافت“ کی وصیت فرمائی تھی۔ بہت سی جھوٹی اور بے اصل روایتیں مشہور ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ سے یہ بات ناممکن تھی کہ حضرت علیؑ کے لیے ”وصیت خلافت“ ہوتے ہوئے وہ خود امیر بن جاتے بلکہ وہ تو یہ پسند کرتے کہ اگر ”ام خلافت“ میں رسول اللہ ﷺ سے حضرت علیؑ کے لیے کوئی وصیت ہوتی تو وہ حضرت علیؑ کے مطیع و منقاد و منقاد کا معنی سونا چاندی پر کھنے کی کسوٹی اور فرمانبردار) ہو جاتے۔

۱۔ ساتھی پیارا بیکدل

۲۔ ہم کے ضمہ سے سونا چاندی پر کھنے کی کسوٹی اور فرمانبردار بھی اس کا معنی ہے۔ (صاحبزادہ محمد مشریالوی)

(لیکن آنحضرت ﷺ سے حضرت علیؑ کے بارے میں کوئی وصیت نہیں پائی گئی۔)

### دین کیلئے منتخب ہی دنیاوی معاملات میں مقدم

حضرت ابن سعد (رضی اللہ عنہ) حضرت حسنؑ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے وصال فرمایا تو حضرت علیؑ فرمانے لگے کہ ہم نے اپنے امر میں غور کیا تو دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو نماز میں آگے کیا تھا۔ یعنی امام بنایا تھا تو ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کیلئے اسی شخص کو مقدم کیا جسے آنحضرت ﷺ نے ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ پس ہم نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو مقدم کیا۔

یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے

حضرت امام بخاری (رضی اللہ عنہ) اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابن جہان (رضی اللہ عنہ) حضرت سفینہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے حق میں فرمایا تھا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد امام بخاری (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید نہیں ہوتی کیونکہ حضرت عمرؓ حضرت علیؑ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔

حدیث کا اسناد صحیح ہے

حدیث مذکور کو ابن حبان (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہم سے ابو یعلیٰ نے ان سے یحییٰ جہانی نے ان سے حشر نے ان سے سعید بن جہان نے اور ان سے سفینہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے مسجد بنائی تو اس کی بنیاد (بنیاد) میں پہلے اپنے دست مبارک سے ایک پتھر رکھا اور پھر حضرت ابو بکرؓ کو فرمایا کہ میرے پتھر کے ساتھ ایک پتھر رکھو۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ کو فرمایا کہ حضرت ابو بکرؓ کے پتھر کے ساتھ ایک پتھر رکھو پھر حضرت عثمانؓ کو فرمایا کہ حضرت عمرؓ کے پتھر کے ساتھ پتھر رکھو۔ پھر فرمایا یہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔

حضرت ابوزرارہؓ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا اسناد ٹھیک ہے۔ چنانچہ حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”مستدرک“ میں اسے روایت کیا ہے اور بیہقی وغیرہما (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے اسے صحیح

بتلایا ہے۔

## اشارہ خلافت

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول میں کہ آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بتایا۔ کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ ان کی مراد یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ نے کسی کی خلافت پر صراحۃً نص نہیں فرمایا اور یہ حدیث تو ایک اشارہ ہے جو آپ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی وفات سے پہلے واقع ہوا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمہیں میرا اور خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ حاکم (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے اسے عرابض بن ساریہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے پیروی کرو۔ یعنی حضرت ابوبکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی۔ اور ان جیسی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن سے اشارہ خلافت نکلتا ہے۔

## فصل نمبر 2

## خلافت صرف قریش کے لیے

حضرت ابوداؤد طیالسی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی ”مسند“ میں لکھتے ہیں کہ سکین بن عبدالعزیز (رضی اللہ عنہ) سیار بن سلامہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں اور سیار بن سلامہ (رضی اللہ عنہ) حضرت ابوبندہ (رضی اللہ عنہ) سے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”امام قریش سے ہونے چاہئیں کیونکہ جب وہ حاکم ہوتے ہیں تو عدل و انصاف کرتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں اور جب ان سے لوگ رحم طلب کرتے ہیں تو وہ رحم کرتے ہیں۔“ اس حدیث کو امام احمد اور ابویعلیٰ (رحمہما اللہ تعالیٰ) نے اپنی ”مسندوں“ اور طبرانی (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے نقل کیا ہے۔

## حکومت قریش کیلئے، قضاء انصار کیلئے

حضرت امام ترمذی (رحمہ اللہ تعالیٰ) لکھتے ہیں کہ احمد بن منیع زید بن حباب سے اور وہ معاویہ بن صالح سے اور وہ ابومریم انصاری سے اور وہ ابوہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”حکومت قریش کے لیے ہے اور قضاء انصار کے لیے۔“ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔

### دعوت الی الصلوٰۃ

امام احمد (رحمہ اللہ تعالیٰ) اپنی ”مسند“ میں لکھتے ہیں کہ حاکم بن نافع، اسمعیل بن عیاش سے اور وہ ضمضم بن زرعہ سے اور وہ شریح سے اور وہ کثیر بن مرہ بن عتبہ بن عبد اللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”خلافت قریش میں اور قضاء انصار میں اور ”دعوت الی الصلوٰۃ“ یعنی ”اذان“ اہل حبشہ میں رہے گی۔“ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔

### صالحین کے امیر

حضرت بزار (رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ہانی فیض بن نضض سے وہ مسعر سے وہ سلمہ بن کہیل سے وہ ابوصادق سے وہ ربیعہ بن ماجد سے اور وہ علی بن ابی طالب (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”امراء قریش سے ہوں گے۔ جو نیک ہوں گے وہ نیکیوں کے امیر ہوں گے اور جو بدکار ہوں گے وہ بدکاروں کے امیر ہوں گے۔“

### فصل نمبر 3

## دور خلافت اور بادشاہت

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ”خلافت“ تیس برس تک ہوگی۔ اس کے بعد ملک ہوگا۔ اس حدیث کو اصحاب صحاح ستہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے۔

علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد تیس سال میں خلفائے اربعہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ

ہی خلیفہ ہوئے۔

## دین کی ابتداء

حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تمہارے دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی اور پھر بادشاہی اور جبر کا زمانہ آئے گا۔“

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”امر خلافت ہمیشہ غالب رہے گا اور اس کے مستحقین اپنے مخالفین پر فتیاب ہوں گے جب تک کہ اس میں بارہ خلیفے نہ گزر جائیں۔ جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔“ اس حدیث کو بخاری اور مسلم وغیرہما نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث کئی طریقوں سے مروی ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں روایت کیا ہے کہ ”یہ امر (یعنی خلافت) ہمیشہ صالح رہے گا۔“ یہ امر ہمیشہ نافذ رہے گا۔“ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ سے روایت کیا ہے۔ ”لوگوں کا یہ امر ہمیشہ اچھی طرح گزرتا رہے گا جب تک ان پر بارہ خلیفے ہوں گے۔“ ”یہ امر (یعنی دین) ختم نہیں ہوگا“ حتیٰ کہ ان سے بارہ خلیفے نہ گزر جائیں۔ ”اسلام ہمیشہ عزیز اور مرتفع رہے گا“ حتیٰ کہ بارہ خلیفے گزر جائیں۔“ بزار رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں روایت کیا ہے ”میری امت کا امر ہمیشہ قائم رہے گا“ حتیٰ کہ بارہ خلیفے گزریں گے۔ جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ زیادہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے گھر تشریف لائے تو آپ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام کے پاس قریش نے جمع ہو کر عرض کیا کہ ان بارہ خلیفوں کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر قتل اور فتنے نمودار ہوں گے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی روایت کیا ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا“ حتیٰ کہ تم پر بارہ خلیفے ہوں گے۔ جن پر تمام امت کا اجماع ہوگا۔ احمد اور بزار جہما اللہ تعالیٰ سعد حسن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس امت میں کس قدر خلیفے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی بابت آنحضرت ﷺ سے سوال کیا تھا تو آپ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ”بارہ بنی اسرائیل کے سرداروں کی موافق۔“

خلفاء سے مراد

قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ شاید یہ مذکورہ احادیث اور ان کے ہم مضمون

احادیث میں بارہ خلفاء سے یہ مراد ہے کہ وہ غلبہ خلافت اور قوت و استقامت اسلام کے زمانہ میں گزریں گے اور ان پر لوگوں کا اجماع ہوا کرے گا۔ چنانچہ یہ امور مجمع علیہ خلیفہ کے زمانے میں پائے گئے ہیں حتیٰ کہ بنی امیہ کا مضطرب ہو گیا اور ولید بن یزید کے زمانے میں فتنہ برپا ہوا اور وہ فتنہ برپا رہا حتیٰ کہ سلطنت عباسیہ قائم ہوئی جنہوں نے بنو امیہ کا استیصال کیا۔

### اجماع سے مراد

شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس حدیث کے بارے میں بہت ٹھیک ہے اور نہایت عمدہ ہے کیونکہ حدیث صحیح کے بعض طریقے ان کی تائید کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ان سب پر لوگوں کا اجماع ہوگا۔ اس کی توضیح (تفصیل و وضاحت) یوں ہے کہ اجتماع سے مراد لوگوں کا بیعت کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہو جانا ہے اور یہ امر واقع بھی ہوا ہے۔ چنانچہ پہلے حضرت صدیق اکبر ؓ پر لوگوں کا اجماع ہوا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق ؓ پر پھر حضرت عثمان ؓ پر اور بعد ازاں حضرت علی ؓ پر۔ یہاں تک کہ ”تضییع صفین“ واقع ہوا اور امیر معاویہ ؓ نے بھی اس دن سے اپنے آپ کو خلیفہ بنایا۔ پھر حضرت حسن ؓ سے صلح ہو جانے پر لوگوں نے امیر معاویہ ؓ پر اجماع کیا پھر ان کے بعد یزید امیر بن بیضا اور ”کر بلا“ کا سانحہ پیش آیا۔ پھر جب یزید فوت ہوا تو اختلاف واقع ہوا حتیٰ کہ ابن زبیر ؓ کی شہادت کے بعد عبدالملک بن مروان لوگوں کا امیر بنا اور اس کے بعد اس کے چاروں بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور ہشام سکران ہوئے۔ سلیمان اور یزید کے درمیان عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ حائل ہوا۔ پس خلفائے راشدین کو چھوڑ کر یہ سات خلیفہ ہوئے اور بارہواں ولید بن یزید بن عبدالملک تھا جس پر اس کے چچا ہشام کے فوت ہونے کے بعد لوگوں کا اتفاق ہوا اور تقریباً چار سال حکمران رہا۔ پھر لوگ اس سے برگشتہ ہو گئے اور اسے قتل کر ڈالا اور فتنہ و فساد برپا ہو گیا اور حالات متغیر ہو گئے اور اس کے بعد لوگوں کا کسی خلیفہ پر اجماع نہیں ہوا کیونکہ یزید بن ولید جو اپنے چچا ولید بن یزید کے برخلاف اٹھ کھڑا ہوا، دیر تک حکمران نہیں رہا بلکہ اپنے باپ کے چچا زاد بیٹے ”مروان“ کے برخلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، زیادہ دیر حکمران نہ رہا بلکہ اپنے باپ کے چچا زاد بھائی مروان بن محمد مروان کے

۱۔ جز سے کھڑا ڈالنا ختم کر دینا۔ ع بر تختن سے پھر جانا حکم نہ ماننا (صاحبزادہ محمد مہرشیالوی)

مرنے سے پہلے ہی لوگوں نے اس سے کینہ لیا۔ جب یزید مر گیا تو اس کا بھائی ”ابراہیم“ خلیفہ ہوا۔ مگر مروان نے اسے قتل کر دیا۔ پھر مروان سے بنی عباس نے کینہ لیا اور اسے قتل کیا اور بنی عباس کا پہلا خلیفہ سفاحؓ ہوا۔ لیکن اس کی بھی مدت خلافت لمبی نہیں ہوئی اور اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی ”منصور“ خلیفہ ہوا اور دیر تک خلیفہ رہا۔ لیکن مروانوں کے ”اندلس“ پر غالب ہونے کی وجہ سے ”مغرب اقصیٰ“ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس پر ایک مدت تک قابض رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا۔ اور پھر فتنے برپا ہو گئے اور خلافت کا صرف نام ہی رہ گیا۔ حالانکہ عبدالملک بن مروان کے عہد میں خلیفہ کے نام تمام جگہوں میں خطبہ پڑھا جاتا تھا اور ملک میں خلیفہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی جگہ امیر یا حاکم نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ حال ہوا کہ پانچویں صدی ہجری میں اندلس میں پانچ شخص مدعی خلافت تھے اور مصر کا حکم عبیدی اور بغداد کا عباسی ان کے علاوہ تھا۔ ان کے علاوہ کچھ اور شخص بھی علویہ اور خوارج سے مدعی خلافت تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنا بریں آنحضرت ﷺ کے قول سے کہ پھر فتنہ و فساد ہوگا۔ یہ مراد ہوگی کہ قتل ناحق اور فتنے نہایت برپا ہوں گے اور بڑھتے رہیں گے اور ترقی پکڑیں گے چنانچہ ایسا ہوا۔

### بارہ خلیفوں سے مراد

بعض کہتے ہیں کہ بارہ خلیفوں کے وجود سے مراد یہ ہے کہ وہ شروع اسلام سے لیکر قیامت تک ہوں گے اور عمل بالحق کریں گے۔ اگر چہ وہ یکے بعد دیگرے نہ ہوں۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے مسد نے اپنی ”مسند کبیر“ میں ابی الخلد سے روایت کیا ہے کہ ”یہ امت ہلاک نہ ہوگی، حتیٰ کہ اس سے بارہ خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب دین حق اور ہدایت پر عمل کریں گے اور ان سے دو شخص اہل بیت محمد ﷺ سے ہوں گے۔“ اس حدیث مبارکہ کی رو سے آنحضرت ﷺ کے قول کہ پھر فتنہ و فساد ہوگا وہ فتنے مراد ہیں جو قرب قیامت اور خروج دجال اور اس کے مابعد کی خبر دیں گے۔

میں کہتا ہوں کہ ان بارہ خلیفوں سے خلفائے اربعہ اور حسنؓ، امیر معاویہؓ، ابن

۱۔ بغضِ عداوت یعنی دشمنی (صاحبزادہ محمد بشر سیالوی)

۲۔ بہت خون بہانے والا (صاحبزادہ محمد بشر سیالوی)



زبیرؓ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ آٹھ توپائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ اگر مہندی عباسی جو عباسیوں میں نمبر 4 عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایسے نبیؐ جو بڑا عادل تھا ملائے جائیں تو دس ہو جاتے ہیں۔ اب دو باقی رہے۔ ایک ان سے امام مہدی ہوں گے جو اہل بیت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ہوں گے۔

### فصل نمبر 4

## احادیث منذرہ بخلاف بنی امیہ

حضرت یوسف بن سعدؓ سے روایت ہے کہ حضرت حسنؓ کے امیر معاویہؓ کی بیعت کرنے کے بعد ایک شخص نے آپ کو کہا کہ آپ نے تو مسلمانوں کا منہ کالا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا تجھ پر رحم کرے۔ مجھے سر زلش نہ کر کیونکہ آنحضرتؐ نے خواب میں بنی امیہ کو نمبر پر دیکھا تو آپ کو یونا گوار گزارا۔ اس پر آپ کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی

1- اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْنُوْرَ (پارہ نمبر 30 سورۃ الکُوْنُوْر آیت نمبر 1)

ترجمہ: اے محبوب! بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔

2- اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا اَدْرَاٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

خَيْرٌ ۝ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ (پارہ نمبر 30 سورۃ القدر آیات نمبر 1، 2، 3)

ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔

شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

(ترجمہ آیات از ترجمہ قرآن کنز الایمان) اور (انامہ سورہ اور آیات نمبر۔ صاحبزادہ محمد شریالی)

(ان آیات میں اشارہ ہے) کہ اے محمدؐ بنو امیہ ایک ہزار ماہ خلیفہ ہوں گے۔

قاسم کہتے ہیں ہم نے حساب کیا تو بنو امیہ کی خلافت برابر ایک ہزار ماہ بعد ہوئی۔ ترمذی

کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور صرف قاسم نے ہی اسے روایت کیا ہے۔ مگر وہ ثقہ شخص

ہے۔ لیکن شیخ ان کا مجہول ہے۔ اس حدیث کو حاکم نے اپنی ”مستدرک“ میں اور ابن جریر نے

اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔

حافظ ابو جحاح کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور ایسا ہی ابن کثیر نے کہا ہے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عبدالمہمیں بن عباس بن سہل نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ ”آنحضرت ﷺ نے بنی حکم بن ابی العاص کو خواب میں دیکھا۔ وہ آپ کے منبر پر ایسے کودتے ہیں جیسے کہ بندر کودتے ہیں۔ پس آپ کو یہ بات بری معلوم ہوئی اور اس کے بعد آپ وفات تک کبھی پوری طرح نہیں بنے اور خداوند تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرٰنٰنِكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل حصہ آیت نمبر 60)

ترجمہ: اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا۔ مگر لوگوں کی آزمائش کو۔

(ترجمہ: آیت از کنز الایمان)

آیت سے قبل حدیث کے اسناد ضعیف ہیں۔ مگر حدیث عبداللہ بن عمر اور یعلیٰ بن مرہ اور حسین بن علی وغیرہم سے اس کے شواہد ہیں اور یہ حدیث ”کتاب التفسیر“ اور ”مسند“ میں کئی طریقوں سے روایت کی گئی ہے اور کتاب ”اسباب النزول“ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔

فصل نمبر 5

## احادیث مبشرہ بخلاف بنی عباس

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عباسؓ کو فرمایا کہ نبوت و مملکت تم میں ہی رہے۔ مگر اس حدیث کے راویوں میں سے عامری ضعیف ہیں۔ ابو نعیم نے ”دلائل النبوة“ میں اور ابن عدی نے ”کامل“ میں اور ابن عساکر نے اس حدیث کو ابن فدیك سے اور طریقوں سے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت عباسؓ کو فرمایا کہ کل صبح آپ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئیے تو میں دعا کروں گا جو آپ کے اور آپ کے بیٹے کے حق میں مفید ہوگی۔ حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ صبح کو میں اور میرا بیٹا کپڑے بدل کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّلْعَبَّاسِ وَلِوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تَعَادِرْ ذَنْبًا اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ فِيْ وَوَلَدِهِ۔

ترجمہ: اے اللہ! عباس اور اس کی اولاد کی ظاہری اور باطنی بخشش فرما۔ کوئی گناہ (اس کو) دھوکہ نہ دے سکے۔ اے اللہ! (میرے چچا) عباس اور ان کی اولاد کی حفاظت فرما۔  
(ترجمہ: صاحبزادہ محمد بشر سیالوی متعلم اسلامک یونیورسٹی نظامیہ لوہاری لاہور)  
ترمذی نے اپنی جامع میں اتنا ہی لکھا ہے۔ لیکن زرین عبدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں یہ زیادہ کیا ہے۔ واجعل الخلافة باقية في عقبه.

ترجمہ: اور (اے اللہ) میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولاد میں خلافت باقی رکھنا۔ (ترجمہ: صاحبزادہ محمد بشر سیالوی)

ان احادیث کے مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث اس باب میں جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے سب سے بہتر ہے۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے خواب میں بنی مروان کو دیکھا۔ یکے بعد دیگرے میرے منبر پر چڑھتے ہیں۔ پس یہ بات مجھے بری معلوم ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا۔ بنی عباس میرے منبر پر یکے بعد دیگرے چڑھتے ہیں تو اس سے میں خوش ہوا۔

### خوشخبری کی بات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوالفضل! (حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے) کیا میں تمہیں ایک بات کی خوشخبری نہ سناؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر (یعنی خلافت) اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شروع کیا ہے اور تیری اولاد پر اسے ختم کرے گا۔ (اسناد اس حدیث کے ضعیف ہیں) یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ مگر اس کی اسناد اس سے بھی زیادہ ضعیف ہیں اور اسے ابن عساکر نے محمد بن یونس کرمی سے (یہ شخص وضاع ہے۔ یعنی جعلی حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا) اس نے ابراہیم سے، اس نے خلف بن خلیفہ سے، اس نے ابو ہاشم سے اور اس نے محمد بن حنفیہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امر مجھ سے شروع کیا ہے اور تیری اولاد پر اسے ختم کرے گا۔

اور خطیب نے اس حدیث کو اپنی تاریخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بایں الفاظ روایت کیا ہے کہ تم سے ہی یہ امر شروع ہوگا اور تم پر ہی ختم ہوگا۔ اس حدیث کو خطیب نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بادشاہ ہوں گے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کو عزت دے گا۔ (اس حدیث کے راویوں سے عمر بن راشد ضعیف راوی ہیں۔)

### خبر غیب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا (حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کی کنیت) فرماتی ہیں۔ میں ایک دن آنحضرت ﷺ کے پاس سے گزری تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پیٹ میں ایک لڑکا ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ جب لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے خدمت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں لے گئی تو آپ نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنے آپ دہن کی اسے تھنٹی دی اور اس کا نام عبد اللہ رکھا اور پھر فرمایا کہ جا خلفاء کے باپ کو لے جا۔ ام فضل کہتی ہیں۔ میں نے آ کر اس بات کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ انہوں نے اس بات کا رسول اللہ ﷺ سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح ہے وہ خلفاء کا باپ ہی ہے۔ سفاح اور مہدی اس کی اولاد سے ہوں گے، حتیٰ کہ اس کی اولاد سے ہی وہ شخص ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائے گا۔ (یعنی ان کا امام بنے گا۔)

### ایک جھنڈا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے کہ عنقریب ہی بنی عباس کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ اور وہ ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ جب تک وہ حق پر قائم رہیں گے۔

اور حضرت ابن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ جب آپ کی اولاد شہروں میں رہنے لگے گی اور سیاہ لباس پہن لے گی اور اہل خراسان ان کے مددگار بن جائیں گے تو امر خلافت ان میں ہی رہے گا۔ حتیٰ کہ وہ اسے مسیح علیہ

السلام کو سوئپ دیں گے۔ (احمد بن ابرہیم اس حدیث کا راوی کچھ نہیں اور اس کا شیخ مجہول اور نامعلوم۔ اور حدیث نہایت ضعیف ہے، حتیٰ کہ ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے) لیکن اس کا شاہد اور مردودہ حدیث ہے جسے طبرانی نے ”کبیر“ میں احمد بن داؤد کی سے اس نے محمد بن اسماعیل بن عون نیلی سے اس نے حارث بن معاویہ سے اس نے اپنے باپ سے اس نے اپنے باپ ابوامہ سے اور اس نے ام سلمہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ خلافت میرے چچا کے بیٹوں میں اور میرے باپ کے ہم جدوں میں رہے گی، حتیٰ کہ وہ اسے حضرت مسیح علیہ السلام کو سوئپ دیں گے۔ (اس حدیث کو دیلمی نے ایک اور طریقہ سے بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت کیا ہے۔)

کتاب الضعفاء میں عبدالعزیز نے اپنے باپ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی اولاد ایک دن میں اتنے ملک پر قابض ہوگی جس پر بنو امیہ ایک ماہ میں ہوتے تھے اور ایک ماہ میں وہ ایسے کام کرے گی جسے بنو امیہ دو ماہ میں کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے اور اس کے موضوع ہونے کی علت بکار کو ٹھہرایا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں کیونکہ بکار کبھی وضع حدیث اور جھوٹ بولنے میں متہم نہیں ہوئے بلکہ ابن عدی نے ان کے بارے میں کہا ہے۔ یہ منجملہ ان ضعیف لوگوں کے ہیں۔ جن کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں اور پھر کہا ہے۔ یہ بات قابل اعتراض نہیں۔ مصنف کہتے ہیں۔ بخدا حدیث کے معنی صحت سے دور نہیں ہیں کیونکہ دولت بنو عباس کا زمانہ عروج، جبکہ ان کے احکام مشرق سے مغرب تک سوائے مغرب اقصیٰ کے جاری تھے۔ سن 130 ہجری کے تھوڑا عرصہ بعد سے لیکر 290 ہجری سے کچھ عرصہ بعد تک ہے، حتیٰ کہ مقتدر (بادشاہ) کے تخت پر بیٹھنے سے نظام سلطنت میں خلل آ گیا اور ملک مغرب بتمامہ (یعنی مکمل طور پر) تصرف سے نکل گیا۔ اس کے بعد اور کئی فساد اور خلل اس کی سلطنت میں واقع ہوئے۔ پس ان کی دولت کا زمانہ عروج ایک سو ساٹھ برس سے کچھ اوپر بنتا ہے اور یہ بنو امیہ کے زمانہ عروج سے جو 92 برس تھا، دو گنا

۱۔ فائدہ: موضوع: وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں جھوٹ بولنے کا

ظن موجود ہے۔ (صاحبزادہ محمد بشر سیالوی اسلامک یونیورسٹی نظامیہ رضویہ لاہور)

۲۔ جس پر کوئی ظن لگا یا گیا ہو۔ (صاحبزادہ محمد بشر سیالوی)

ہے۔ ان 92 سالوں سے بھی 9 برس تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی ہے اور ان کی اصلی حکومت تو 83 سال اور چند مہینے رہی ہے۔ جن کے ہزار مہینے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے۔ چنانچہ زبیر بن بکار نے موقوفات میں جو بیان فرمایا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہارے ایک دن کے بدلے ہم دو دن حکومت کریں گے اور تمہارے ایک برس کے بدلے ہم دو برس حکومت کریں گے۔

زبیر رضی اللہ عنہ نے موقوفات میں ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت بیان کی کہ انہوں نے فرمایا ”سیاہ جھنڈے ہمارے (یعنی اہل بیت) کے لیے ہیں اور انہیں ہلاک کرنے والا شخص مغرب سے آئے گا۔“

ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! عباس اور ان کی اولاد کی مدد فرما۔ یہ آپ نے تین دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا چچا جان آپ کو معلوم نہیں کہ مہدی آپ کی اولاد سے ہوں گے جو توفیق دیا گیا وہ خدا سے اور خدا اس سے رازی ہوگا۔ (اس حدیث کے راویوں میں کریمی وضاع علیہ)

ابن سعد نے ”طبقات“ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر ابن عبدالطلب کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کو بہت محبت تھی اس لیے انہیں مخاطب کر کے فرمایا۔ اے میرے بھائی کے بیٹے میں نے ایک رائے سوچی ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ وہ کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا: جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں جاؤ تو عرض کرو۔ حکومت آپ کے بعد کسے ملے گی؟ پس اگر ہمارے لیے ہو تو بخدا ہم اسے کسی کے حوالہ نہیں کریں گے جب تک کہ زمین میں ہم سے کوئی شخص زندہ رہے گا اور اگر ہمارے سوا کسی اور کے لیے ہے تو ہم اسے کبھی بھی طلب نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ چچا جان! یہ امر (یعنی حکومت) آپ ہی کے لیے ہے۔ کوئی اس امر میں آپ سے جھگڑ نہیں سکتا۔

## فصل نمبر 6

## دستِ قدرت

دیلی نے مسند الفردوس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خلافت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اپنا دستِ قدرت ان کی پیشانی پر پھیرتا ہے۔ اس کے راویوں میں میسرہ متروک الحدیث ہے۔ لیکن اس حدیث کو دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تین طریقوں سے روایت کیا ہے اور حاکم نے ”متدرک“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسے روایت کیا ہے۔

فائدہ: مرفوع! حدیث وہ ہے جس کی سند آقا علیہ السلام پر ختم ہو۔ (صاحبزادہ محمد میسرہ سیالوی)

## فصل نمبر 7

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک

سلفی نے ”طوریات“ میں بسندہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ بن علا سے روایت کی ہے۔ کعب بن زہیر نے اپنا قصیدہ بانٹ سعاد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھ کر سنایا تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک جو اس وقت اوڑھے ہوئے تھے انہیں عنایت فرمادی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے کعب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو آپ کے پاس ہے دس ہزار درہم میں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب کعب رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیس ہزار درہم بھیج کر ان کی اولاد سے یہ چادر خرید لی۔ یہی چادر خلفائے عباسیہ کے پاس تھی۔ (سلفی کے علاوہ) اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔

ذہبی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ چادر جو خلفائے بنی عباس کے پاس تھی اس کی بابت یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے غزوہٴ جبوک کے قصہ میں نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایلیہ کو اس کا خط لکھ کر دیا تھا اور بطور نشان اپنی چادر مبارک بھی ان کو عطا فرمائی تھی اور اسی چادر کو ابوالعباس سفاح نے تین سو دینار سے خرید لیا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جس چادر کو حضرت

معاویہ رضی اللہ عنہ نے خرید اٹھا وہ دولت بنی امیہ کے وقت ضائع ہوگئی ہوگی۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”زہد“ میں عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کپڑوں میں جنہیں آپ کسی وفد یعنی ایلچیوں کے آنے پر زیب تن فرما کر نکلتے تھے ایک حضر موت کی بنی ہوئی چادر بھی تھی جس کا طول چار گز اور چوڑائی دو گز ایک بالشت تھی۔ یہی چادر خلفاء کو پہنچی تھی اور چونکہ وہ بہت کہنہ (پرانی) ہوگئی تھی اس لیے اسے کپڑوں میں لپیٹے رکھتے تھے اور اسے عید النضیٰ اور عید الفطر کے دن اسے پہنتے تھے۔ یہ چادر خلفاء میں نسل در نسل چلی آئی تھی۔ اسے وہ مجلسوں میں بیٹھنے کے وقت یا سوار ہونے کے وقت اپنے کندھوں پر ڈالتے تھے۔ مقتدر بادشاہ جب قتل ہوا تو یہ اس کے کندھوں پر تھی اور خون سے لتھڑ گئی تھی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ تاریخوں کے فتنہ میں یہ چادر گم ہوگئی۔

انا للہ و انا الیہ راجعون

فصل نمبر 8

## مختلف فوائد کا ذکر

ابن جوزی لکھتے ہیں کہ صولی نے ذکر کیا ہے کہ نوگ کہا کرتے تھے کہ ہر چھٹا خلیفہ معزول کیا جاتا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو واقعی یہ بات درست تھی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ (معزول ہوئے) پھر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ پھر معاویہ بن یزید پھر مروان رضی اللہ عنہ پھر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہ (یہ بھی معزول ہوئے) پھر ولید سلیمان رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یزید ہشام ولید (یہ بھی معزول ہوا)۔ اس کے بعد سلطنت بنی امیہ کو زوال آ گیا اور سفاخ خلیفہ ہوا۔ پھر منصور مہدی ہادی رشید امین (یہ بھی معزول ہوا) پھر مامون رضی اللہ عنہ معتصم رضی اللہ عنہ واثق رضی اللہ عنہ متوکل رضی اللہ عنہ منصر رضی اللہ عنہ مستعین رضی اللہ عنہ (یہ بھی معزول ہوا) پھر معتز رضی اللہ عنہ مہندی رضی اللہ عنہ معتد رضی اللہ عنہ معتضد رضی اللہ عنہ ملتقی رضی اللہ عنہ مقتدر رضی اللہ عنہ (یہ بھی معزول ہوا بلکہ دود فہ معزول ہوا پھر قتل کر دیا گیا) پھر قاہر رضی اللہ عنہ راضی رضی اللہ عنہ متقی رضی اللہ عنہ مستغنی رضی اللہ عنہ مطیع رضی اللہ عنہ طالع رضی اللہ عنہ (معزول ہوا) پھر قادر رضی اللہ عنہ قائم رضی اللہ عنہ مقتدی رضی اللہ عنہ مستظہر رضی اللہ عنہ مسترشد رضی اللہ عنہ راشد رضی اللہ عنہ (معزول ہوا) ابن جوزی کا کلام یہاں ختم ہوا۔



ذہبی کہتے ہیں کہ ابن جوزی کا کلام کئی وجوہ سے منقوض ہے۔ اول تو یہ کہ اس نے عبد الملک کے بعد ابن زبیر کو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ درست نہیں کیونکہ ابن زبیر پانچویں نمبر میں اور عبد الملک ان کے بعد ہیں یا دونوں ہی پانچویں نمبر پر آتے ہیں یا ان سے ایک خلیفہ ہے اور دوسرا خارج از خلافت ہے کیونکہ ابن زبیر عبد الملک سے سابق البیعت ہے اور عبد الملک کی خلافت ابن زبیر کے قتل کے بعد صحیح ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس نے یزید ناقص اور اس کے بھائی ابراہیم کو جو معزول ہوا تھا اور مروان کو بھی ذکر نہیں کیا اور اس حساب سے امین نواں خلیفہ ہوتا ہے۔

### کچھ لوگوں کا امیر

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مروان شمار سے ساقط ہے کیونکہ وہ باغی تھا اور ایسے ہی معاویہ بن یزید تھا کیونکہ ابن زبیر کی بیعت یزید کی موت کے بعد کی گئی۔ اور معاویہ نے شام میں ان کی مخالفت کی اس لیے یہ دونوں (یعنی مروان اور معاویہ بن یزید) باغی تھے اور ابراہیم جو یزید ناقص کے بعد ہوا ہے اس کی خلافت تام نہیں ہوئی کیونکہ بعض نے اس کی بیعت کر لی تھی اور بعض نے نہیں کی تھی اور کچھ لوگ اسے امیر کہتے تھے اور خلیفہ نہیں کہتے تھے اور وہ چالیس یا ستر دن سے زیادہ تخت پر بھی نہیں رہا۔ پس مروان ہمارا اس لحاظ سے چھٹا ہوا کیونکہ معاویہ کے بعد یہ بارہواں خلیفہ ہے اور امین چھٹا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خلع ہر چھٹے پر موقوف نہیں ہے کیونکہ معز معزول ہوا اور ایسے ہی قاہر، متقی اور مستحکم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے مقصود کے منافی نہیں ہے کیونکہ مقصود یہ ہے کہ ہر چھٹے کا معزول ہونا ضرور ہے اور یہ اس کے منافی نہیں کہ چھٹے کے علاوہ کوئی اور بھی معزول ہو۔

ابن جوزی کے کلام پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ راشد کے بعد متقی خلیفہ ہوا اور پھر مستحکم، مستفیض، ناصر، طاہر، مختصر اور یہ چھٹا ہے اور معزول نہیں ہوا۔ پھر مستعصم خلیفہ ہوا اور یہ وہی ہے جسے تاتاریوں نے قتل کیا اور یہ خلفاء سے آخری تھا۔ اس کے بعد تین سال اور چھ ماہ تک خلافت منقطع رہی۔ پھر اس کے بعد مستنصر کو خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن وہ دار الخلافت میں نہیں رہا بلکہ اس کی بیعت مصر میں کی گئی اور بعد ازاں وہ عراق کی طرف چلا گیا۔ پس تاتاریوں نے

اسے قتل کیا۔ اس کے بعد ایک سال تک خلافت پھر معطل رہی۔ پھر خلافت مصر میں قائم ہوئی اور ان سے پہلا ”حاکم“ ہوا۔ پھر مستکفی، پھر واثق، پھر حاکم، پھر معتضد، پھر متوکل، پس یہ معزول ہوا اور معتصم خلیفہ ہوا۔ مگر وہ بھی پندرہ دن کے بعد معزول ہو گیا اور متوکل کو خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن متوکل پھر معزول ہوا اور واثق سے بیعت کی گئی۔ اس کے بعد معتصم سے اور واثق معزول کر دیا گیا اور متوکل کو از سر نو پھر خلیفہ مقرر کیا گیا جو مرتے دم تک خلیفہ رہا۔ اس کے بعد مستعین ہوا، پھر معتضد، پھر مستکفی، پھر القاسم اور یہ معتصم اول اور معتصم ثانی سے چھٹا ہے۔ پس یہ معزول ہو گیا۔ پھر مستنجد خلیفہ العصر مقرر ہوا جو خلفائے بنی عباس سے اکیانو اں خلیفہ ہے۔

### فوائد

1- بنی عباس کو فاتحہ واسطہ اور خاتمہ کہتے ہیں۔ ان سے منصور فاتحہ ہے اور یامون واسطہ ہے اور معتضد خاتمہ ہے۔

2- سفاح، مہدی اور امین کے سوا تمام خلفائے بنی عباس کینیز کوں کی اولاد سے تھے۔

3- صولی کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب ؑ اور آپ کے بیٹے حسن ؑ اور خلیفہ امین کے سوا کوئی ہاشمی خلیفہ ہاشمیہ کے لطن کا تخت پر نہیں بیٹھا۔

4- ذہبی کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اور علی ؑ کے سوا کسی خلیفہ کا نام علی نہ تھا۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلفاء کے اکثر نام مفرد ہیں اور مرکب کم ہیں اور محکمز بہت سے ہیں۔ جیسے عبد اللہ، احمد، محمد۔ خلفاء کے تمام القاب عراقیوں کے آخری خلیفہ مستعصم تک مفرد ہیں۔ اس کے بعد خلفائے مصر یہ میں القاب مکرر ہونے لگے۔ پس مستنصر، مستکفی، واثق، حاکم، معتضد، متوکل، مستعصم، مستعین، قاسم اور مستنجد سب کے سب ایک دفعہ مقرر ہوئے۔ مگر مستکفی اور معتضد سہ کرر (یعنی تین دفعہ مکرر) ہوئے۔

5- چنانچہ خلفائے عباسیہ سے تین تین کے یہ لقب ہوئے ہیں۔ خلفائے بنی عباس میں سے کوئی شخص سوائے قاسم، حاکم، طاہر اور مستنصر کے خلفائے بنی عبید کے القاب سے ملقب نہیں ہوا۔ باقی رہا مہدی اور منصور، معویہ دونوں لقب بنی عبید کے وجود سے پہلے بنی عباس نے اختیار کیے تھے۔

6- بعض کہتے ہیں کہ جس خلیفہ یا بادشاہ کا لقب قاہر ہوا، اس نے کبھی رشتگاری نہیں پائی۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح مستغنی اور مستعین کہ بنی عباس سے دو خلیفے ان سے ملقب ہوئے ہیں اور وہ دونوں ہی معزول ہوئے۔ معتضد اپنے ملقب بہ کے لیے تمام القاب سے عمدہ اور بابرکت لقب رہا ہے۔

7- ذہبی کہتے ہیں کوئی شخص اپنے بھتیجے کے بعد تخت خلافت پر نہیں بیٹھا، سوائے مقتدی کے جو راشد اپنے بھتیجے کے بعد خلیفہ ہوا اور مستنصر جو معتصم کے بعد خلیفہ ہوا اور نہ ہی ایک باپ کے تین بیٹے یکے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے ہیں۔ سوائے رشید کے تین بیٹوں امین، مامون اور معتصم کے۔ تین بیٹوں مستنصر، معتز اور معتد کے اور معتد کے تین بیٹوں راضی، مقتدی اور مطیع کے۔

8- ذہبی کہتے ہیں کہ عبد الملک کے چار بیٹے تخت خلافت پر بیٹھے ہیں اور اس کی نظیر بادشاہوں میں ملتی ہے۔ لیکن خلفاء میں نہیں ملتی۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلفاء میں اس کی نظیر موجود ہے چنانچہ متوکل محمد کے چار بلکہ پانچ بیٹے مستعین، معتضد، مستغنی، قاسم، مستجد خلیفہ العصر تخت خلافت پر بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور ابو بکر طائع بن مطیع کے سوا کہ جس کے باپ کو فالج ہو گیا تھا اور اسے لاچار تخت پر بیٹھنا پڑا تھا اور کوئی شخص اپنے باپ کی زندگی میں خلیفہ نہیں ہوا۔

دُزہ تراویح باجماعت اور ہجری

علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ؓ ہی اپنے والد کی زندگی میں خلیفہ ہوئے ہیں اور آپ ہی سب سے پہلے خلیفہ ہوئے اور آپ نے ہی بیت المال مقرر کیا۔ قرآن مجید کا نام مصحف پہلے آپ ہی نے رکھا۔ حضرت عمر ؓ سب سے پہلے امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئے اور آپ نے ہی پہلے دُزہ بنوایا اور تاریخ ہجری بھی آپ نے ہی پہلے مقرر کی اور تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بھی آپ نے ہی حکم دیا اور دیوان بھی آپ نے ہی مقرر فرمایا۔ چراگا ہیں سب سے پہلے حضرت عثمان ؓ نے مقرر کیں اور جاگیریں دینی بھی پہلے آپ نے ہی مقرر کیں اور جمعہ کی پہلی اذان بھی آپ نے ہی زیادہ کی اور مؤذنوں کی تنخواہ بھی آپ نے ہی مقرر فرمائی اور سب سے پہلے آپ ہی خطبہ پڑھنے میں نام ذکر کیا گیا۔ کوتوال سب سے پہلے آپ ہی نے مقرر فرمایا۔

سب سے پہلے جس نے اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کیا۔ وہ امیر معاویہ ؓ ہیں۔ خواجہ

سراؤں کو خدمت کے لیے بھی آپ ہی نے سب سے پہلے مقرر کیا۔ سب سے پہلے جس کی طرف مقتولین کے سر لائے گئے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں اور سب سے پہلے جس نے اپنا نام سکہ پر ضرب کرایا وہ عبدالملک بن مروان ہے اور سب سے پہلے ولید بن عبدالملک نے اپنا نام لیکر پکارنے سے منع کیا۔ سب سے پہلے القاب بنی عباس نے مقرر کیے۔ ابن فضل لکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ بنی عباس کی طرح بنی امیہ کے بھی القاب تھے۔

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ بعض مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لقب الناصر لدین اللہ تھا اور یزید کا لقب مستنصر تھا اور معاویہ بن یزید کا لقب الراجح الی الحق تھا اور مروان کا لقب المومن باللہ تھا اور عبدالملک کا لقب الموفق لامر اللہ تھا اور اس کے بیٹے ولید کا لقب المنتقم باللہ تھا اور عمر بن عبدالعزیز کا لقب المعصوم باللہ تھا اور یزید بن عبدالملک کا لقب القادر بصنع اللہ اور یزید ناقص کا لقب الشاکر لانعم اللہ تھا۔

سب سے پہلے سفاح کی دولت میں نا اتفاقی ہوئی۔ سب سے پہلے منصور نے نجومیوں کو مقرب کیا اور احکام نجوم پر عمل کیا اور اس نے ہی سب سے پہلے غلاموں کو حاکم بنایا اور انہیں اہل عرب پر مقدم کیا۔ سب سے پہلے مہدی نے مخالفین اسلام کے جواب میں کتابیں تصنیف کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ہادی کے آگے سپاہی تواریں اور نیزے لیکر چلے۔ دونوں ہاتھوں میں چوگان لیکر سب سے پہلے رشید ہی کھیلا ہے۔ سب سے پہلے امین کو ہی اس کے لقب سے پکارا گیا اور اسے لکھا گیا۔ سب سے پہلے معصم نے دیوان میں ترکوں کو داخل کیا۔ سب سے پہلے متوکل نے ذمیوں کو اپنی بیت بدلنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے متوکل کے ہی قتل پر ترکوں نے قدرت پائی اور اس سے حدیث نبوی کی تصدیق ہوئی جسے طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترکوں کو چھوڑ دو بیشتر اس کے کہ وہ تمہیں ترک کریں، کیونکہ یہ میری امت کے ایک بادشاہ کو ان سے جدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل بنو قسطوراء یعنی ترکوں کو بادشاہ نہ بنائے۔ سب سے پہلے مستعین نے چوڑی آستین اور چھوٹی ٹوپیاں پہنی ہیں اور معتز نے سب سے پہلے گھوڑوں کو سونے چاندی کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ سب سے پہلے معتد کو نظر بند کیا گیا اور اس پر جبر کیا گیا۔ سب سے لڑکپن

میں خلیفہ ہوا، مقتدر تھا اور سب سے آخری خلیفہ جو تدبیر لشکر اور اموال کے ساتھ یگانہ ہوا، راضی تھا اور یہی سب سے آخری خلیفہ ہے جس نے شعرمدون کیے اور ہمیشہ لوگوں کو نماز پڑھائی اور خطبہ پڑھا اور اپنے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھا اور یہی سب سے آخری خلیفہ ہے جس کے خرچ و اخراجات، عطا و انعامات، نوکری، جزئیے، خزانے، باورچی خانے، مجالس اور دربان وغیرہ امور خلافت اولیہ کے طریقہ پر جاری تھے اور یہی سب سے آخری خلیفہ ہے جس نے خلفائے قدامہ کے لباس میں سفر کیا۔ سب سے پہلے القاب کا مکرر ہونا مستنصر سے شروع ہوا جو مستعصم کے بعد خلیفہ ہوا ہے۔

عسکری لکھتے ہیں کہ پہلا شخص جو اپنی والدہ کی زندگی میں خلیفہ ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بعد ہادی، پھر رشید، متوکل، منصر، مستعین، معتز، معتضد اور پھر مطیع اپنی والدہ کی زندگی میں تخت خلافت پر بیٹھا اور اپنے باپ کی حیات میں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور طالع کے کوئی خلیفہ نہیں ہوا۔

صولی کہتے ہیں کہ سوائے سلیمان بن عبد الملک اور ولید کی والدہ! ”ولادہ“ اور یزید ناقص اور ابراہیم ابنان ولید کی والدہ! شاہین اور ہادی اور رشید کی والدہ ”خیزران“ کے اور کسی عورت نے دو خلیفہ نہیں جنے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عباس اور حمزہ کی والدہ اور داؤد اور سلیمان کی والدہ ان کے علاوہ ہیں۔

فائدہ: عبیدیوں میں سے 14 خلیفے ہوئے ہیں۔ جن میں مہدی، قائم، منصور، تین مغرب میں اور معتز، عزیز، حاکم، ظاہر، مستنصر، مستعلی، آمر، حافظ، طاہر، فاتر اور عاصد یہ گیارہ مصر میں گزرے ہیں۔ ان کی سلطنت کی ابتداء سن 290 ہجری سے بعد ہوئی اور 567 ہجری میں ختم ہوئی۔

ذہبی کہتے ہیں کہ ان کی سلطنت گویا مجوسیوں اور یہودیوں کی سلطنت تھی۔ نہ علویوں کی اور یہ باطنی تھے نہ فاطمی اور یہ چودہ مختلف یعنی پیچھے رہنے والے تھے مستخلف یعنی خلیفہ نہیں تھے۔ فائدہ: امویوں سے جو مغرب میں خلیفہ ہوئے وہ اسلام، اتباع، سنت، عدل، فضل، علم اور جہاد میں عبیدیوں سے بدرجہا بہتر تھے اور وہ بہت تھے حتیٰ کہ اندلس میں ایک ہی وقت میں چھ (6) خلیفے ان سے گزرے ہیں۔

فائدہ: متقدمین میں سے بہت سے لوگوں نے خلفاء کی تاریخیں لکھی ہیں۔ منجملہ ان کے

لفظ یہ نحوی نے دو جلدوں میں خلفاء کی تاریخ لکھی ہے جو عہد قاہر تک ہے۔ صولی نے اور اق نامی ایک تاریخ لکھی ہے جس میں صرف خلفائے عباسیہ کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے (مصنف) اور ابن جوزی نے خلفائے بنی عباس کی تاریخ لکھی ہے جو عہد ناصر تک ہے۔ میں نے اسے بھی دیکھا ہے۔ ابو الفضل احمد بن ابوطاہر مردزی نے جو شعرا نے نغول<sup>۱</sup> سے تھا۔ 205 ہجری میں فوت ہوا۔ اس نے بھی خلفاء کی تاریخ لکھی ہے۔ امیر ابوموسیٰ ہارون بن محمد عباسی نے بھی ایک خلفاء کی تاریخ تصنیف کی ہے۔

فائدہ: خطیب اپنی تاریخ بسندہ محمد بن عباد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور مامون کے سوا خلفاء میں کوئی حافظ نہیں گزرا۔ مصنف کہتے ہیں۔ یہ حصر ممنوع ہے کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے۔ چنانچہ علماء کی ایک جماعت نے اس کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ نووی نے ”تہذیب“ میں اس کا ذکر کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حافظ تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔

فائدہ: ابن ساعی لکھتے ہیں۔ میں خلیفہ ظاہر کی بیعت کے وقت موجود تھا۔ خلیفہ ایک قبہ دار چتر<sup>۲</sup> کے نیچے سفید کپڑے اور بے آستین چغہ پہنے ہوئے بیٹھا تھا اور اس کے کندھوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی اور وزیر اس کے سامنے ایک منبر پر کھڑا تھا اور داروغہ خاص اس سے ایک زینہ نیچے کھڑا تھا۔ اور وہ لوگوں سے ان الفاظ سے بیعت لیتا تھا۔ ”میں اپنے سردار اور مالک ابونصر محمد ظاہر بامر اللہ کی، جس کی اطاعت تمام جہان پر واجب ہے، کتاب اللہ سنت نبوی اور اجتہاد امیر المؤمنین پر بیعت کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے سوا اور کوئی خلیفہ نہیں ہے۔“

## حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات

حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ آپ کا اسم مبارک عبد اللہ تھا۔ ابوقحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی التیمی کے بیٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرہ میں جا ملتا ہے۔ نووی

۱ فضیلت رکھنے والے شعراء۔ ۲ چھانا، چھتر فارسی میں۔

”تہذیب“ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبد اللہ بیان کیا ہے، یہی صحیح اور مشہور ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ مگر درست اور صحیح بات جس پر تمام علماء کا اجماع ہے یہ ہے کہ عتیق آپ کا نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا اور یہ لقب آپ کا عتیق من النار یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد ہونے کی وجہ سے ہوا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عتاقہ یعنی بوجہ حسن و جمال کے یہ لقب ہوا۔ (مصعب بن زبیر اور لیث بن سعد اور ایک جماعت کی یہی رائے ہے۔)

اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لقب اس وجہ سے ہوا کہ آپ کے نسب میں کوئی بات قابل عیب نہیں ہے۔

مصعب بن زبیر وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ کے لقب بہ صدیق ہونے پر تمام امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اجماع ہے کیونکہ آپ نے فی الفور بغیر توقف کے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی اور اس پر ہمیشہ قائم رہے اور کسی حال میں بھی آپ کو اس پر توقف یا خدشہ نہیں ہوا۔ حالت اسلام میں آپ کے موافق رفیق تھے جن سے ایک قصہ معراج ہے جس کے معاملہ میں آپ نے ثابت قدمی دکھائی اور کفار کو جواب دیا۔

آپ نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی اور پھر غار میں اور تمام رستے میں آپ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر اور حدیبیہ کے دن آپ کا کلام فرمانا جبکہ فتح مکہ کی دیر کے سبب تمام لوگوں پر امر مشتبہ ہو رہا تھا پھر رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد پر کہ ”ایک بندے کو خدا تعالیٰ نے دنیا و آخرت کیلئے تیار کیا ہے۔“ آپ کا رو پڑنا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی وفات کے دن آپ کا ثابت قدم رہنا اور ایک فصیح و بلیغ خطبے سے لوگوں کو تسلی دینا پھر مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر بیعت لینے کے لیے تیار ہو جانا پھر اسامہ بن زید کو لشکر دیکر شام کی طرف بھیجنے کا اہتمام کرنا اور اس ارادے پر ثابت رہنا پھر مرتدین کی لڑائی کیلئے تیار ہو جانا اور اس بارے میں صحابہ سے مناظرہ کر کے دلائل کے ساتھ ان پر غالب آنا اور خدا کا آپ کے دل کی طرح ان کے دلوں کو بھی حق کے لیے کھول دینا یعنی اہل ردّۃ کے ساتھ جنگ کے لیے ان کا بھی تیار ہو جانا پھر آپ کا فتح شام کے لیے لشکر روانہ کرنا اور ان کو مدد بھیجتے رہنا پھر آپ ان

تمام امور کو ایک ایسی بات سے ختم کرنا جو آپ کے شاکل و مناقب سے نہایت اعلیٰ ہے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں پر خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ غرضیکہ آپ کے مناقب و فضائل احساس سے باہر ہیں۔ (نووی کا کلام ختم ہوا۔)

مصنف نے یہاں فرمایا: میرا ارادہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات کو ذرا تفصیل سے بیان کروں اور اس میں بہت سی باتوں کو جو مجھے معلوم ہوئیں، لکھوں اور علیحدہ علیحدہ ہر ایک بیان کے لیے کئی ایک فصلیں مقرر کروں۔

## فصل نمبر 9

### اسم و لقب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کا نام عبد اللہ بن عثمان ہے۔ مگر ابن سعد نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آپ کا لقب تھا۔ پھر اس لقب سے ملقب ہونے کے وقت اور سبب میں اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ عتاقہ بوجہ یعنی حسن و جمال کے سبب آپ کا یہ لقب ہوا۔ (لیث بن سعد، احمد بن حنبل اور ابن معین وغیر ہم اسی بات کے قائل ہیں۔)

ابو نعیم فضل بن دکین کہتے ہیں۔ آپ کے قدم فی الخیر یعنی بھلائی میں دیرینہ ہونے کی وجہ سے یہ لقب ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ عتاقہ نسب یعنی نسب کے پاکیزہ ہونے کی وجہ سے یہ لقب ہوا۔ کیونکہ آپ کی نسب میں کوئی معیوب بات نہ تھی۔ بعض کہتے ہیں۔ آپ کا پہلا نام عتیق تھا۔ بعد میں عبد اللہ رکھا گیا۔

طبرانی نے قاسم بن محمد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسم کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، عبد اللہ تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ لوگ تو عتیق بتلاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ ابو قحافہ کے تین بیٹے تھے۔ ایک کا نام عتیق تھا۔ دوسرے کا معق، تیسرے کا معتیق۔

ابن مندہ اور ابن عساکر موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو طلحہ سے



پوچھا۔ حضرت صدیق اکبر ؓ کا نام عتیق کیوں رکھا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر ؓ پیدا ہوئے تو آپ کو والدہ آپ کو خانہ کعبہ میں لیکر گئیں۔ پھر دعا کی **اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَتِيقٌ مِنْ الْمَوْتِ فَهَبْ لِي تَرْجُمَةً** یعنی اے اللہ بے شک یہ بچہ موت سے آزاد ہے۔ اسے مجھے عنایت فرما۔

طبرانی ابن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق حسن صورت کی وجہ سے رکھا گیا۔

ابن عساکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ کا نام گھر والوں نے تو عبد اللہ رکھا تھا۔ لیکن آپ عتیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ (آپ کا نام تو گھر والوں نے عبد اللہ رکھا تھا) مگر آنحضرت ﷺ نے آپ کا نام عتیق رکھا۔

ابویعلیٰ نے اپنی مسند اور ابن سعد اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی اور رسول اللہ ﷺ مع اپنے صحابہ (رضوان اللہ علیہم) کے صحن میں تشریف رکھتے تھے۔ میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ تشریف لائے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص عتیق من النار (یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد) کو دیکھنا پسند کرتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ؓ کو دیکھ لے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام عبد اللہ رکھا تھا۔ مگر عتیق مشہور ہوئے۔

ترمذی اور حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں شریف میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا۔ **يَا أَبَا بَكْرٍ أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ** ترجمہ: اے ابو بکر تو دوزخ کی آگ سے خدا تعالیٰ کا آزاد کیا ہوا ہے۔ پس اسی روز سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔

بزار اور طبرانی نے بسند جید عبد اللہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا اصلی نام عبد اللہ تھا۔ رسول خدا ﷺ نے ایک روز فرمایا۔ **أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ** اس دن سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔

باقی رہا لقب صدیق۔ سو کہا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہی آپ اس لقب سے

ملقب ہو گئے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ ہی کہتے تھے۔ چنانچہ ابن مسدی نے اس کا ذکر کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ہر بات کی تصدیق میں آپ پیش دستی فرماتے تھے۔ اس لیے یہ لقب ہوا۔

ابن اسحاق نے حسن بصری اور قتادہ سے روایت کی ہے کہ اس لقب سے آپ کی شب معراج کی صبح سے شہرت ہوئی۔

### تصدیق بلا توقف

حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اب بھی تو اپنے دوست (یعنی آنحضرت ﷺ) کے ساتھ رغبت رکھے گا جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کو بیت المقدس پہنچایا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے؟ مشرکین نے جواب دیا۔ ہاں! تو آپ نے کہا پھر آپ نے سچ کہا ہے کیونکہ میں اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کہیں کہ میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اس میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ اسی لیے آپ کا نام صدیق ہوا۔ (اس روایت کی اسناد جدید ہیں) اسی حدیث کو ابن عساکر نے حضرت انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور طبرانی نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے۔

سعید بن منصور نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ ابو معشر نے ابوہب مولیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ شب معراج میں واپس آتے وقت مقام ’ذی طوی‘ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا۔ اے جبرائیل! لوگ میری تصدیق نہ کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی۔ آپ کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے بھی اوسط میں بروایت ابوہب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے۔

حاکم نے مستدرک میں نزال بن اسبرہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ اے امیر المؤمنین ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کا نام صدیق، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے کہلوا یا ہے۔ وہ نماز میں آنحضرت ﷺ کے خلیفہ تھے اور آنحضرت ﷺ نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تھا۔ پس ہم نے انہیں اپنی دنیا

کے لیے پسند کیا۔ (اس حدیث کے اسناد جمید ہیں۔)

دارقطنی اور حاکم نے ابویحییٰ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ تین دفعہ میں نے حضرت علیؑ کو منبر پر یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیقؓ کا نام اپنے نبی کی زبان پر صدیق رکھا ہے۔

طبرانی بسند جمید اور صحیح حکیم بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیقؓ کا نام صدیق آسمان سے نازل کیا ہے۔ حدیث احد میں ہے کہ اے احد! ظہر جا اور ساکن ہو جا کہ تجھ پر اس وقت نبی صدیق اور شہید ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی والدہ ماجدہ آپ کے والد بزرگوار کے چچا کی بیٹی تھیں۔ نام ان کا سلمی بنت صخر بن عامر بن کعب اور کنیت ام الخیر ہے۔ (اسے ابن عساکر نے زہری سے روایت کیا ہے۔)

## فصل نمبر 10

### مولد (جائے پیدائش) صدیق اکبرؓ

آپ آنحضرتؐ کے تولد (پیدا ہونا) سے دو سال چند ماہ کے بعد پیدا ہوئے۔ کیونکہ آپ جب فوت ہوئے ہیں تو آپ کی عمر تیسٹھ برس تھی۔ ابن کثیر کہتے ہیں۔ خلیفہ بن خیاط نے جو یزید بن اُم سے روایت کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت صدیق اکبرؓ سے دریافت کیا کہ میں بڑا ہوں یا تم؟ تو حضرت صدیق اکبرؓ نے عرض کیا (یعنی مرتبہ) میں تو آپ ہی ہیں۔ لیکن میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں۔ سو یہ حدیث مرسل ہے اور نہایت ہی غریب ہے اور مشہور اس کے خلاف ہے۔ صرف ابن عباس سے یہ روایت آئی ہے۔ آپ نے مکہ میں ہی نشوونما پائی اور سوائے ضرورت تجارت کے آپ کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلے۔ آپ اپنی قوم میں بڑے مالدار اور صاحب مروّت تھے۔ چنانچہ ابن دغنه نے ایک بار کہا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور حدیث نبوی کی تصدیق کرتے ہیں اور گمشدہ کی تلاش کرتے ہیں اور حوادث زمانہ راہگوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان کی خاطر داری کرتے ہیں۔

نووی کہتے ہیں کہ آپ جاہلیت میں رؤسائے قریش اور ان کے اہل مشاورت اور معزز فرزند تھے اور ان کے معاملات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو آپ نے اسے اس کے (یعنی اسلام کے) علاوہ پر اسلام کو ترجیح دی اور اس میں آپ بہت شاندار طریقے سے داخل ہوئے۔

زبیر بن بکار اور ابن عساگر نے معروف بن خربوذ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے ان گیارہ شخصوں میں سے تھے جنہیں جاہلیت اور اسلام میں شرف حاصل رہا۔ چنانچہ خون بہا اور جرمانہ کا کام آپ کے سپرد تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کا کوئی ایک خاص بادشاہ نہ تھا۔ جس کی طرف تمام امور میں فیصلہ کیلئے جایا جاتا بلکہ ہر قبیلہ میں ولایت عامہ تھی جسے قبیلہ کا سردار سرانجام دیتا تھا۔ چنانچہ بنو ہاشم کے ذمہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مال رفاہہ لگانا انتظام تھا۔ یعنی ان کے سوا کوئی شخص حاجیوں کو کھلا پلانے نہیں سکتا تھا اور بنی عبدالدار کے متعلق حجابت علم برداری اور مجلس شوریٰ کا انتظام تھا۔ یعنی کوئی شخص مجلس شوریٰ میں ان کے اذن کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا اور جب قریش لڑائی کا جھنڈا باندھنا چاہتے تو بنو عبدالدار ہی اسے باندھتے اور جب قریش کسی امر کے نقض و ابرار کے لیے جمع ہوتے تو دار الندوہ میں ہی ان کا اجتماع ہوتا اور وہ امر وہیں سے نافذ ہوتا اور یہ دار الندوہ بنی عبدالدار کا تھا۔

## فصل نمبر 11

### حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور زمانہ جاہلیت

ابن عساگر بسند صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں کبھی شعر نہیں کہا اور آپ نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما نے زمانہ جاہلیت میں ہی شراب پینی چھوڑ دی تھی۔

اور ایک روایت میں ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بسند جید بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں ہی شراب اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ ابن عساگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی شعر نہیں کہا۔

اور ابو عالیہ رباجی سے ابن عساکر روایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مجمع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جاہلیت میں کبھی شراب پی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ (یعنی شراب پینے سے میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں) صحابہ کرام نے پھر پوچھا۔ آپ کیوں نہیں پیتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا۔ میں اپنی آبرو کو بچاتا تھا اور اپنی مروّت کی حفاظت کرتا تھا کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ اپنی آبرو اور مروّت کو ضائع کر دیتا ہے۔

راوی نے بیان کیا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے دودفعہ فرمایا کہ ابو بکر سچا ہے ابو بکر سچا ہے (یہ حدیث مرسل ہے اور مسند اور متن کے لحاظ سے غریب ہے۔)

فائدہ: مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر میں کوئی راوی گرا ہوا ہو اور غریب وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند کا کوئی راوی سلسلہ سند کے کسی شیخ سے روایت میں منفرد ہو۔

(صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

## فصل نمبر 12

### حلیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

ابن سعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلیہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ گورے رنگ والے شخص تھے، جسم کے دبلے پتلے زخساروں پر گوشت نہایت کم تھا۔ قد خمیدہ لٹھا۔ یعنی آپ حیا و وقار کے سبب سرنگوں رہتے تھے۔ تہ بند آپ کا نہیں ٹھہرتا تھا۔ نیچے کو کھسک جایا کرتا تھا۔ چہرے پر پسینہ رہتا یا چہرے پر گوشت کم تھا۔ آنکھیں اندر کودھنسی ہوں۔ پیشانی پلندھی۔ انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں۔ یہ آپ کا حلیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہدی اور وسہ سے خضاب کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ کے اصحاب میں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کسی کے بال

سیاہ و سفید ملے جلے نہیں تھے اور آپ نے انہیں حنا اور سرمہ سے خضاب کیا ہوا تھا۔

## فصل نمبر 13

### آپ کا اسلام لانا

ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے بوقت قضیہ خلافت فرمایا۔ کیا میں خلافت کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں۔

کیا میں سب سے پہلے اسلام نہیں لایا۔ کیا میں اس اور اس صفت والا نہیں ہوں؟

ابن عساکر نے طریق حارث سے حضرت علی ؓ سے روایت کی ہے کہ آپ نے

فرمایا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ؓ مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔

حیثمہ نے بسند صحیح زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر

ؓ نے ہی آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔

اور ابن سعد نے ابواروی دوسی صحابی سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت

صدیق اکبر ؓ مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔

طبرانی نے کبیر میں اور عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں شععی سے روایت کی ہے۔ وہ

کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ؓ سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ آپ نے کہا

حضرت ابوبکر صدیق ؓ۔ کیا تو نے حسان بن ثابت کا قول نہیں سنا؟

إِذَا تَذَكَّرْتُ شَجُوعًا مِنْ أَحْيَى نَفْقَةٍ فَادُّكِرَ أَحَاكُ أَبَابِكْرٍ بِمَا فَعَلَا

ترجمہ: جب تو کسی معتمد اور نیکو کار بھائی کے اندوہ و غم کا ذکر اس کے افعال حسنہ کی وجہ

سے کرے تو پھر حضرت صدیق اکبر ؓ کا ذکر خیر ضرور کرے۔

حَسْرُ الْبَرِيَّةِ أَتَقَاهَا وَأَعْتَدُهَا إِلَّا النَّبِيَّ وَأَوْفَاهَا بِمَا سَمَلَا

آپ سوائے آنحضرت ﷺ کے تمام مخلوق سے بہتر نیکو کار اور منصف تھے اور از روئے

نفع رسائی اور اصلاح امت میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔

وَالشَّيْئَانِي الثَّانِي الْمَحْمُودُ مَشْهُدُهُ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَقَ الرُّسُلَا

آپ (غار ثور میں) آنحضرت ﷺ کے رفیق اور خدا اور رسول ﷺ کی رضا و ہونڈ نے

والے عمدہ حضوری والے تھے اور لوگوں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی تصدیق کی۔

ابونعیم فرات بن سائب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے میمون سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک حضرت علیؑ افضل ہیں یا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ فرات کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا پنے لگے حتیٰ کہ آپ کا عصا ہاتھ سے گر گیا۔ پھر فرمانے لگے کہ مجھے خیال نہ تھا کہ میں اس زمانہ تک زندہ رہوں گا جس میں ان دونوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ اب دونوں کی خوبی خدا ہی جانتا ہے۔ وہ دونوں اسلام کا سر تھے۔ راوی کہتا ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ پہلے اسلام لائے تھے یا حضرت علیؑ؟ تو آپ نے کہا بخدا حضرت ابو بکرؓ تو آنحضرت ﷺ پر بھیری راہب کے زمانے سے اسلام لائے تھے جبکہ آنحضرت ﷺ اس راہب کے پاس سے گزرے تھے۔ ہاں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیش دستی اسلام کے بارے میں اختلاف ہے اور یہ سب باتیں حضرت علیؑ کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں۔

صحابہ اور تابعین وغیرہ کی ایک جماعت کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں بلکہ بعض نے تو اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئی ہیں اور ان اقوال میں تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور حضرت علیؑ لڑکوں میں سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ہیں۔ یہ تطبیق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

ابن ابی شیبہ اور ابن عساکر سالم بن جعد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد حنیفہ سے پوچھا۔ کیا حضرت ابو بکر صدیقؓ سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں تو میں نے کہا کہ پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ کیوں بلند مرتبہ اور سابق الایمان ہوئے ہیں؟ حتیٰ کہ ان کے سوائے کسی کو (سابق الایمان) نہیں کہا جاتا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ مشرف باسلام ہونے سے لے کر وفات تک سب سے اسلام میں

افضل رہے ہیں۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم سے پہلے مشرف باسلام ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے نہیں بلکہ ان کے پہلے پانچ سے زیادہ آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ ہاں وہ ہم سب سے اسلام میں افضل تھے۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ ظاہر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اہل بیت ایمان لائے۔ یعنی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ اور آپ کا غلام زید اور ان کی زوجہ ام ایمن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ورقہ رضی اللہ عنہ۔

ابن عساکر عیسیٰ بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن کعبہ (زاد ہا اللہ شرفاً) کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور زید بن عمر بن نفیل بھی وہیں بیٹھا تھا کہ اتنے میں امیہ ابن ابی صلت اس کے پاس سے گزرا اور کہا کہ اے بھلائی کی خواہاں! تم نے کس حال میں صبح کی ہے؟ وہ کہنے لگے اچھی حالت میں کی ہے۔ اس نے کہا تو نے کچھ معلوم کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو امیہ نے کہا

كُلُّ دِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا قَضَى اللَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ بُوْرُ

ترجمہ: یعنی ہر ایک دین و مذہب قیامت کے دن فاسد ہو جائیں گے۔ سوائے اس مذہب کے جس کا فیصلہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا۔

آگاہ ہوگا کہ نبی جس کا انتظار ہے ہم۔ سو گایا تم سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے قبل میں نے سنا تھا کہ نبی کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ مبعوث ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میں ورقہ بن نوفل کی طرف گیا۔ (یہ شخص اکثر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا تھا اور اس کے سینے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی) اور اسے ٹھہرا کر امیہ بن ابی صلت کی بات کی اطلاع دی تو اس نے کہا۔ ہاں اے بھائی! میں اہل کتب و اہل علوم سے ہوں۔ آگاہ ہو جا۔ یہ نبی جس کا انتظار ہے کا ندان وسط عرب سے ہے اور مجھے اس نسب کا علم ہے۔ تیری قوم خاندان وسط عرب سے ہے۔ پھر میں نے کہا اے چچا! وہ نبی کیا کہے گا؟ وہ کہنے لگا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو اسے کہا جائے گا وہ فقط وہی کہے گا اور نہ وہ کسی پر ظلم کرے گا۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی۔



عبداللہ بن حصین تمیمی سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اس نے اس سے ترزد اور انکار ظاہر کیا۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب میں نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر ترزد و انکار کے اسے قبول کیا۔

بیہتی کہتے ہیں کہ آپ سے ترزد و تلبث اس واسطے صادر نہیں ہوا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے دلائل دعوت سے پہلے سن چکے تھے اور جس وقت آقا علیہ السلام نے دعوت دی تو وہ اس سے پہلے غور و فکر کر چکے تھے۔ پس فی الفور ایمان لے آئے۔

پھر بیہتی ابن میسرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کبھی باہر تشریف لے جاتے تو غیب سے آواز آتی۔ (یا محمد ﷺ) پس آپ واپس تشریف لے آتے۔ اس بات کو پوشیدہ طور سے آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا جو اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے دوست تھے۔

ابونعیم اور ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جس کسی سے اسلام لانے کو کہا اس نے انکار کیا، بحشیں کیں، سوائے ابن ابی قحافہ (یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کے۔ میں نے جو کچھ انہیں کہا انہوں نے قبول کیا اور اس پر وہ مستقل رہے۔

بخاری ابی داؤد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے لوگو! تم میرے دوست کو چھوڑتے ہو حالانکہ میں نے تم سب کو کہا ہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مگر تم نے مجھے جھوٹا جانا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی۔

## فصل نمبر 14

### حضورِ نبویؐ و ہم نشینیِ نبویؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

علماء لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے لے کر آنحضرت ﷺ کی وفات تک آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ نہ سفر میں نہ حضر میں۔ ان اوقات کے علاوہ جن میں آنحضرت ﷺ نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ جیسے حج اور غزوہ وغیرہ۔ آپ تمام جنگوں میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ خدا اور رسول ﷺ کی محبت میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے

آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہجرت کی۔ غار میں آپ ہی آنحضرت ﷺ کے رفیق تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثَانِي الثَّنِيْنَ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. (پ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40) ترجمہ: صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اپنے دوست سے فرماتے تھے نہ غم کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ (اسماء سورہ آیات نمبر صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی) (ترجمہ از کنز الایمان)

کئی مقامات پر آپ نے آنحضرت ﷺ کی مدد کی۔ جنگوں میں آپ کے بہت سے کار نمایاں ہیں۔ جنگ احد و حنین میں آپ ثابت قدم رہے جبکہ تمام لوگ بھاگ گئے تھے۔ جیسا کہ آپ کی شجاعت کے بیان میں عنقریب ہی آئے گا۔

### فرشتوں کا خوشخبری دینا

ابن عساکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی اور کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ عریش لہیں بیٹھے ہیں۔

جبرائیل و میکائیل کا مدد کرنا

ابو یعلیٰ حاکم اور احمد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر کے دن مجھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم سے ایک کی مدد جبرائیل کرتا ہے اور دوسرے کی میکائیل۔

میں تجھے نہ چھوڑتا

ابن عساکر ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بدر کے دن مشرکین کے ساتھ تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو اپنے والد سے کہا کہ جنگ بدر کے دن آپ کئی دفعہ میری زد میں آئے۔ لیکن میں آپ سے ہٹ گیا تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو میری زد میں آجاتا تو تجھے نشانہ بنائے بغیر میں نہ چھوڑتا۔

## فصل نمبر 15

## شجاعت صدیق اکبر ﷺ

بزار اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے (ایک دن لوگوں سے) فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ تمام لوگوں سے زیادہ شجاع کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ (اس پر) آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف اس شخص سے لڑتا ہوں جو (شجاعت اور بہادری میں) میرا ہم پلدا اور برابر ہو۔ (اور یہ کوئی شجاعت نہیں) تم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ شجاع کا نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا شخص معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شجاع ترین شخص حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ کیونکہ یوم بدر میں ہم نے رسول اللہ ﷺ کے لیے ایک سائبان سا بنا دیا تھا۔ پھر ہم نے پوچھا رسول اللہ ﷺ کے پاس کون رہے گا؟ تاکہ مشرکین سے کوئی شر کے ارادہ سے آپ ﷺ کی طرف نہ آسکے۔ تو بخدا ہم سے کسی کی ہمت نہ بڑی۔ مگر وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ہی تھے جو تلوار سونت کر حضور اکرم ﷺ کے سر مبارک کی جانب کھڑے ہو گئے اور مشرکین میں سے جو شخص بھی آنحضرت ﷺ کی طرف آتا آپ اس پر حملہ کر دیتے۔ پس حضرت ابو بکر صدیقؓ سب لوگوں سے زیادہ شجاع ہیں۔ پھر حضرت علیؑ نے فرمایا میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے آنحضرت ﷺ کو پکڑ لیا اور کوئی ان سے آپ کو گھینٹا، کوئی دھکے دیتا اور وہ کہتے جاتے کہ تو ہی ہے جس نے ایک خدا بنا دیا ہے۔ بخدا ہم سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ آگے بڑھے۔ کسی کو مارتے، کسی کو گھینٹتے اور کسی کو دمکا دیتے اور کہتے جاتے، تمہیں خدا کی مار۔ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو؟ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر حضرت علیؑ نے اپنی چادر اوپر اٹھائی اور رو پڑے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں تمہیں قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ مومن آل فرعون اچھا ہے یا ابو بکر صدیقؓ۔ لوگ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ بخدا ابو بکر صدیقؓ کی ایک ساعت مومن آل فرعون جیسوں کی ہزار ساعت سے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ شخص (یعنی مومن آل فرعون) اپنے ایمان کو چھپاتا ہے اور اس شخص (یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ) نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔

## عقبہ کا عمل بد

بخاری روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں۔ میں نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ پر سب سے زیادہ سختی کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن میں چادر ڈالی اور نہایت سختی سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ آگئے اور عقبہ کو آنحضرت ﷺ سے دور کیا اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو؟ جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہارے پاس پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہے۔

یثم بن کلیب اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فرمایا کہ جنگ احد کے دن تمام لوگ آنحضرت ﷺ سے واپس چلے گئے تھے اور سب سے پہلے میں آپ کے پاس پھر کر آیا تھا۔ (اس حدیث کا تمہ آگے بیان ہوگا۔)

## اظہار اسلام اور خطیب اول

ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جب آنحضرت ﷺ کے اصحاب 38 ہو گئے تو صدیق اکبر ﷺ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کی۔ اب آپ اسلام کو ظاہر فرمادیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ابھی تھوڑے ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے اصرار جاری رکھا حتیٰ کہ آنحضرت ﷺ نے اظہار اسلام فرمادیا اور سب مسلمان مسجد میں ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلے میں گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی۔ پس آپ سب سے پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس پر مشرکوں نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سمیت تمام مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسجد کے ارد گرد انہیں بڑی سختی سے زد و کوب کیا۔ (اس حدیث کا تمہ حضرت عمر ﷺ کے حالات میں بیان ہوگا۔)

ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے مشرف باسلام ہوتے ہی اپنا اسلام ظاہر کر دیا تھا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف بلانا شروع کر دیا تھا۔

## حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انفاقِ مال

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے بڑھ کر سخی تھے۔ خدا تعالیٰ آپ کے حق میں فرماتا ہے۔ **وَسَبُّنَهَا أَتَقَىٰ الْإِنْسِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ** (بارہ 30 سورۃ البیل آیت نمبر 17، 18) ترجمہ: اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا جو اپنا مال دینا ہے کہ ستر ہو۔ (ترجمہ از کنز الایمان - صاحبزادہ محمد مہر سیالوی)

ابن جوزی کہتے ہیں۔ علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جیسا مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے نفع دیا ہے، ایسا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں اوز میرا مال آپ ہی کے لیے ہے۔ ابو یعلیٰ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسا ہی روایت کیا ہے۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور ابوسعید خدری سے مروی ہے اور خطیب نے سعید بن مسیب سے اس حدیث کو مرسل روایت کیا ہے اور ان سب حدیثوں میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں ایسے ہی تصرف فرماتے تھے جیسے کہ اپنے مال میں اور ابن عساکر نے کئی طریقوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس روز مشرف بہ اسلام ہوئے، اس وقت چالیس ہزار دینار آپ کے پاس تھے۔ (ایک روایت چالیس ہزار درہم ہے) جو سب کے سب آپ نے آنحضرت ﷺ پر خرچ کر دیئے۔ ابوسعید بن اعرابی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے، اس وقت آپ کے گھر میں چالیس ہزار درہم نقد موجود تھے اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جانے لگے تو پانچ ہزار دینار سے بھی کم مال آپ کے پاس رہ گیا تھا اور یہ سب مال آپ نے مسلمانوں کی مدد اور غلام آزاد کرنے

میں خرچ کیا۔

ابن عساکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سات ایسے غلاموں کو آزاد کرایا ہے جو سب کے سب خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب دیئے جاتے تھے۔

ابن شاہین نے السنن میں اور لغوی نے اپنی تفسیر میں اور ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی وہیں عبا پہنے ہوئے بیٹھے تھے اور اس میں کانٹے لگا کر سینہ ڈھا تک رکھا تھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عبا میں کانٹوں کا ٹانکا لگائے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل (علیہ السلام) انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر فح سے پہلے پہلے خرچ کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس محتاجی میں تو مجھ پر راضی ہے یا غصے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے رب پر غصے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ (یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند بہت ضعیف ہے۔)

ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت کی ہے۔ مگر ان دونوں کی سند بھی ضعیف ہے اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے اور خطیب نے ایک کمزوری سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ٹاٹ کا چغہ پہنے ہوئے جس میں کانٹے لگائے ہوئے تھے آئے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل! یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا خدائے تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زمین میں اپنے عبا میں کانٹے لگائے ہیں ایسے ہی آسمان میں تمام فرشتے بھی کانٹے لگائیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ہی منکر ہے اور اگر اس اور اس سے پہلی حدیث کو لوگ متداول نہ کرتے تو ان کا ترک اولیٰ تھا۔

فائدہ: منکر وہ حدیث ہوتی ہے جس کی روایت میں زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف راوی کی

مخالفت کرے۔ (صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

ابوداؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ مال صدقہ کرنے کے لیے فرمایا اور ان دنوں میں میرے پاس بہت سا مال موجود تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا نصف مال خدمت نبوی میں لا حاضر کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تو نے اپنے اہل کے لیے کتنا مال باقی چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اتنا ہی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا تمام مال لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اے ابوبکر! تو نے اپنے اہل کے لیے کتنا مال باقی چھوڑا ہے؟ آپ نے عرض کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ (ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔)

### مقصود میں فرق

ابونعیم نے حلیہ میں حسن بصری سے روایت کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لائے اور اس کی مالیت کو پوشیدہ رکھا اور عرض کیا۔ یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور میرا مقصود اللہ ہی ہے۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی صدقہ لائے اور اس کی مالیت کو ظاہر فرمادیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور میرا مقصود اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے صدقوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے قولوں میں ہے۔ (اسناد اس حدیث کی جید ہے۔ لیکن یہ حدیث مرسل ہے۔)

ترمذی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ہم پر احسان کیا ہے ہم نے اس کا عوض اور بدلہ دیدیا ہے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو احسان ہم پر ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا اور جیسا نفع مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔

### آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عاجزی

بزار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ”تو نے اس بوڑھے کو گھر میں ہی کیوں

نہ رہنے دیا۔ میں خود اس کے پاس آ جاتا۔“ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے زیادہ لائق اور سزاوار ہیں۔ آپ نے فرمایا ”میں ان کے بیٹے کے احسانات کا لحاظ کرتا ہوں۔“

ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مجھ پر کسی کے احسان نہیں کہ انہوں نے جان و مال سے میری غنچواری کی اور اپنی دختر کا مجھ سے نکاح کر دیا۔“

### فصل نمبر 17

## علم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

آپ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر عالم اور ذکی تھے۔ نووی تہذیب میں لکھتے ہیں (میں نے یہ عبارت ان کی دستی لکھی ہوئی کتاب سے نقل کی ہے) کہ ہمارے علماء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زیادتی علم پر ان کے اس قول سے جو صحیحین میں مذکور ہے دلائل لائے ہیں کہ ”بخدا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ بخدا اگر انہوں نے مجھ سے اونٹ کے باندھنے کی رسی جسے وہ رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے روک لی تو اس (حقیر سی چیز) کے روکنے پر بھی میں ان سے لڑوں گا۔“

شیخ ابواسحاق وغیرہ نے اپنی کتب میں آپ کے علم الصحابہ ہونے پر اس طرح دلیل بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا تمام صحابہ اس مسئلے کے حکم کو سمجھنے سے عاجز آ گئے تھے۔ پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے مباحثہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ کا قول ہی درست ہے اور سب نے اس پر اتفاق کیا۔

### ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما صاحب فتویٰ

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں فتویٰ کون دیا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا! ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا میں اور کسی کو نہیں جانتا کہ فتویٰ دیتا ہو۔

### اشارہ

بخاری اور مسلم نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن خطبہ



پڑھا اور فرمایا ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ کی دنیا اور آخرت سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں مختار کیا ہے اور اس بندے نے عاقبت اختیار کی ہے۔“ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر ؓ اور پڑے اور عرض کیا کہ ہم اپنے والدین آپ پر قربان کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے رونے سے سخت حیرت ہوئی کہ آنحضرت ﷺ ایک بندہ کو خبر دیتے ہیں اور آپ رورہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آنحضرت ﷺ ہی مختار کیے گئے تھے اور صدیق اکبر ؓ نے اس اشارہ کو سمجھ لیا تھا۔ پس آپ ہم سب سے زیادہ عالم تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے! کہ ”حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی ہم نشینی اور مال سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنے پروردگار کے سوائے دوست بناتا تو ابو بکر صدیق ؓ کو دوست بناتا۔ لیکن اسلام کی دوستی اور موڈت ہی بہتر ہے۔“ ابو بکر صدیق ؓ کے دروازے کے سوا سب کے دروازے مسجد کی طرف بند کر دیئے جائیں۔ (نووی کا کلام ختم ہوا) ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے قرآن مجید کو زیادہ سمجھتے تھے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں انہیں امام بنایا تھا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ امامت وہ شخص کرائے جسے قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ہو۔“

ترمذی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جن لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ موجود ہوں وہاں کوئی دوسرا ان کے سوا امامت نہ کرائے۔“

آپ کو سنت کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ چنانچہ اکثر مرتبہ آپ کی طرف صحابہ نے رجوع کیا اور آپ نقل سنت میں ان پر غالب آئے۔ آپ کو احادیث اچھی طرح ضبط تھیں اور عند الحاح جتہ فوراً ان کے پیش نظر ہو جاتی تھیں۔ مگر دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال نہ تھا۔ آپ کو احادیث ضبط کیے نہ ہوتیں، حالانکہ اول بعثت سے وفات تک آپ آنحضرت ﷺ کے ساتھ سایہ کی طرح رہے۔ نیز آپ نہایت ہی ذکی اور ذہین تھے اور احادیث جو آپ سے بہت کم مروی ہیں اس کا باعث یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد آپ جلدی ہی وفات پا گئے تھے۔ اگر آپ کچھ زیادہ عرصہ زندہ رہتے تو بی شمار احادیث آپ سے مروی ہوتیں اور ناقلمین آپ سے ہر ایک حدیث کو نقل کرتے اور یہ وجہ بھی ہے کہ آپ کے ہمعصر صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ سے

پوچھنے کی چنداں ضرورت بھی نہ پڑتی کیونکہ آخروہ بھی تو خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اس لیے وہ آپ سے صرف وہی حدیث نقل کرتے تھے جو انہوں نے نہ سنی ہوتی۔

ابوالقاسم بغوی میمون بن مہران سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی جھگڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیش ہوتا تو اس کا حکم قرآن مجید میں تلاش کرتے۔ اگر مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اگر نہ ملتا تو رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں آپ کو کوئی حدیث یاد ہوتی تو اس کے موافق فیصلہ کرتے اور اگر کوئی حدیث بھی معلوم نہ ہوتی تو اٹھ کر مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ میرے سامنے ایسا معاملہ پیش ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس معاملہ میں کوئی فیصلہ کیا ہو؟ تو بعض اوقات کئی لوگ کہتے کہ آنحضرت ﷺ نے اس معاملہ میں اس طرح فیصلہ کیا تھا۔ اس پر آپ فرماتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے ایسے شخص بھی پیدا کیے ہیں جو اپنے نبی کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث نہ ملتی تو آپ جلیل القدر اور معززین صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے اور جس بات پر ان کا اتفاق ہوتا اسی کے موافق فیصلہ فرماتے۔

### اتباع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ اگر قرآن و حدیث سے کسی مسئلہ کا حل نہ ملتا تو دیکھتے کہ اس معاملہ میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی اجتہاد کیا ہے یا نہیں؟ اگر معلوم ہوتا تو اس کے موافق فیصلہ کرتے اور اگر نہ ملتا تو صحابہ کی کثرت رائے پر فیصلہ فرماتے۔

### نسب دان

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اہل عرب اور خصوصاً قریش کی نسب سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ ابن اسحاق یعقوب بن عتبہ سے اور وہ انصار کے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ جبیر بن مطعم جو قریش اور عرب کا سب سے بڑا نسب تھا کہا کرتا تھا کہ ”میں نے علم نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے جو تمام لوگوں سے بڑھ کر نسب دان تھے۔“

### ماہر علم تعبیر

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علم تعبیر میں بھی اعلیٰ دسترس رکھتے تھے چنانچہ آپ آنحضرت

ﷺ کے عہد مبارک میں بھی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ محمد بن سیرین (جو اس فن کے ماننے ہوئے اور متفق علیہ شخص ہیں) کہا کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد اس امت کے سب سے بڑے مہجر حضرت صدیق اکبر ﷺ تھے۔ (ابن سعد نے اسے روایت کیا ہے)

دلیلی مسند الفردوس میں اور ابن عساکر سرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ خوابوں کی تعبیر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے سامنے بیان کیا کروں۔ (تا کہ انہیں تعبیر میں ملکہ کامل اور مہارت تامہ پیدا ہو۔ مترجم)

### خطیب اور فصیح

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ سب سے بڑھ کر فصیح اور خطیب تھے۔ چنانچہ زبیر بن بکار کہتے ہیں۔ میں نے بعض اہل علم لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اصحاب سے حضرت صدیق اکبر ﷺ اور حضرت علی ﷺ سب سے بڑے خطیب اور فصیح تھے۔ معاملہ ستیفہ کے بیان میں ہم عنقریب ہی حضرت عمر ﷺ کا قول نقل کریں گے۔ آپ کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا تھا اور سب سے زیادہ آپ کو خدا کی معرفت تھی۔ چنانچہ ہم ان دونوں باتوں اور آپ کے بعض خطبوں کو ایک مستقل فصل میں بیان کریں گے۔

### ایک جیسا جواب

حدیث حدیبیہ سے بھی آپ کا علم الصحابہ ہونا ثابت ہوتا ہے جبکہ حضرت عمر ﷺ نے اس صلح کی بابت آنحضرت ﷺ سے پوچھا اور عرض کیا۔ ہم کو اپنے دین میں ذلت کیوں دی جاتی ہے۔ تو آنحضرت ﷺ نے آپ کو اس کا جواب عنایت فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی بات دریافت کی تو آپ نے بالکل وہی جواب دیا جو آنحضرت ﷺ نے دیا تھا۔ (بخاری وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے۔)

آپ تمام صحابہؓ سے عاقل اور مصیب الرائے تھے۔ چنانچہ امام رازی نے اپنے فوائد میں اور ابن عساکر نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ”حضرت جبرائیلؑ میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے مشورہ کیا کیجئے۔“

## شانِ صدیق اکبر ﷺ

طبرانی اور ابو نعیم وغیرہ نے معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ جب معاذ کو حضور ﷺ یمن کی طرف بھیجنے لگے تو اپنے صحابہؓ سے جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل تھے مشورہ کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی تو رسول اللہ ﷺ نے معاذ ﷺ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کی جو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ فرماتے ہیں وہی میری رائے ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس بات کو ناگوار سمجھتا ہے کہ ابو بکر صدیق ﷺ خطا کریں“ اور اسامہ نے اپنی مسند میں اس طرح روایت کیا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس بات کو مکروہ سمجھتا ہے کہ ابو بکر صدیق ﷺ زمین میں خطا کریں۔“

طبرانی اوسط میں اہل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ خطا کریں۔ (راوی اس حدیث کے سب ثقہ ہیں۔)

## فصل نمبر 18

## جمع قرآن

نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ ان صحابہؓ سے ہیں جنہیں پورا قرآن مجید حفظ تھا۔ اس بات کو اور بہت سے علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور حضرت انس ﷺ سے جو حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں چار شخصوں نے قرآن مجید جمع کیا تھا۔ سوان سے مراد انصار کے چار شخص ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس بات کو اپنی کتاب ”اتقان“ میں واضح کر دیا ہے۔

اور ابن داؤد نے جو شععی سے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیق ﷺ وفات پا گئے اور ابھی تک پورا قرآن شریف جمع نہیں ہوا تھا۔ تو یہ مدفوع ہے یا اس کی یہ تاویل ہے کہ مراد جمع سے وہ ترتیب ہے جس پر حضرت عثمان غنی ﷺ نے اسے ترتیب دیا۔

## فصل نمبر 19

## افضل الصحابہ صدیق اکبر ﷺ

اہلسنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں۔ پھر حضرت عمر ﷺ، پھر حضرت عثمان ﷺ، اور پھر حضرت علی ﷺ اور اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ پھر باقی اہل بدر اور پھر باقی اہل احد پھر باقی اہل بیت الرضوان اور پھر باقی صحابہ رضی اللہ عنہم۔ ابو منصور بغدادی نے بھی اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔

بخاری روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں ”ہم عہد رسول اللہ ﷺ میں صحابہ میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں۔ پھر حضرت عمر ﷺ، پھر حضرت عثمان ﷺ، اور طبرانی نے ”کبیر“ میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے کہ ”نبی ﷺ کو اس بات کی خبر ہوئی تھی اور آپ اسے برانہ مناتے تھے۔“

## یاخیر الناس

ابن عسا کر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو فضیلت دیا کرتے تھے۔

ابن عسا کر ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے جب بہت سے صحابی جمع ہو کر بیٹھتے تو کہتے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں۔ پھر حضرت عمر ﷺ، اور پھر حضرت عثمان ﷺ۔ اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے۔ ترمذی جابر بن عبد اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو کہا۔ یاخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی اے رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے افضل) اس پر ابو بکر صدیق ﷺ نے فرمایا آپ یہ کہتے ہیں اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ عمر ﷺ سے بہتر آدمی پر کبھی آفتاب طلوع نہیں ہوا۔

## مثال عجز

بخاری محمد بن علی بن طالب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا

”رسول اللہ ﷺ کے بعد کون شخص افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق ﷺ۔ میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر ﷺ۔ پھر میں نے اس خوف سے کہا کہ مبادا آپ اس کے بعد حضرت عثمان ﷺ کا نام لیں۔ کہا کہ پھر آپ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں سے ایک معمولی شخص ہوں۔

احمد وغیرہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا آنحضرت ﷺ کے بعد اس امت سے سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں اور پھر حضرت عمر ﷺ ہیں۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی ﷺ سے درج تو اتر کر پہنچی ہے۔ خدا را فضیوں پر لعنت کرے۔ وہ کیسے جاہل ہیں۔

ترمذی اور حاکم حضرت عمر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ ہمارے سردار ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے رسول اللہ ﷺ کے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق ﷺ نے ایسا ایسا کہا ہے۔

ابن عساکر عبد الرحمن بن ابویعلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ ایک دفعہ منبر پر چڑھے اور فرمایا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ نبی ﷺ کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہیں۔ جو اس کے خلاف کہے گا وہ کذاب ہے اور اسے کذاب کی سزا ملے گی۔

**فرمان حضرت علی ﷺ**

اور یہ بھی ابن عساکر نے ابن ابویعلیٰ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ﷺ ما پر فضیلت دے گا میں اسے کذاب کی حد لگاؤں گا۔

**رسول اللہ ﷺ نے فرمایا**

عبد الرحمن بن حمید نے اپنی مسند میں اور ابو نعیم وغیرہ نے ابودرداء سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”انبیاء کے بعد آفتاب کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق ﷺ سے افضل ہو۔“

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی مسلمان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا جو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے افضل ہو۔

حضرت جابر سے بھی اسی مضمون کی حدیث مروی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تم سے کسی پر آفتاب نے طلوع نہیں کیا۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہو۔ اس حدیث کو طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور کئی طریقوں سے اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ جو اس حدیث کے صحیح ہونے یا حسن ہونے کا اقتضاء کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے تو اس کے صحیح ہونے کا ہی حکم لگایا ہے۔

فائدہ: حدیث صحیح اور حسن کی دو دو قسمیں ہیں:

### 1- صحیح لذاتہ 2- صحیح لغیرہ

1- صحیح لذاتہ: وہ حدیث ہے جس کے کل راوی عادل اور تام الضبط ہوں اور وہ حدیث غیر شاذ اور غیر معطل ہو۔

2- صحیح لغیرہ: جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذاتہ کی تمام صفات ہوں اور ضبط کی کمی تعدد طرق روایت سے پوری ہو جائے۔

1- حسن لذاتہ: جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذاتہ کی تمام صفات ہوں اور یہ کمی تعدد طرق سے پوری نہ ہو۔

2- حسن لغیرہ: جو حدیث صحیح لذاتہ کی ایک سے زیادہ صفات سے قاصر ہو۔ لیکن یہ کمی تعدد طرق روایت سے پوری ہو جائے۔ (صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

طبرانی سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اوسط میں سعد بن زرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت سے سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

### اعزاز

بخاری اور مسلم عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ کو کون سا شخص سب سے پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا ما کشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں نے عرض کیا کہ مردوں سے کون؟ آپ نے فرمایا اس کا باپ (یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) میں نے عرض کیا اس کے بعد کون آپ کو محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر

بن خطاب رضی اللہ عنہ یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ لیکن ان میں ثم عمر کا لفظ نہیں ہے۔

### زیادہ محبوب شخص

ترمذی نسائی اور حاکم نے عبداللہ بن شفیق سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ”کون سے صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے؟ آپ نے فرمایا ”حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ“ میں نے عرض کیا۔ ان کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا ”ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ“

ترمذی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا ”یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے سوا جنت کے تمام اولین و آخرین ادھیڑوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہما ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔

طبرانی اوسط میں عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر صحابیوں سے کسی کو فضیلت دی تو اس نے مہاجرین اور انصار کو عیب لگایا۔

مدح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

ابن سعید زہری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہا کو کہا ”تو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدح میں بھی کوئی شعر کہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا! سناؤ (راوی حدیث کہتا ہے) میں پاس بیٹھا سن رہا تھا۔ انہوں نے یہ شعر پڑھے: شعر

وَلَسَىٰ أَتَيْنَ فِي الْغَارِ الْمَنِيْفِ وَقَدْ طَافَ الْعُدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَا  
ترجمہ: آپ غار بزرگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ہم نشین و رفیق رہے ہیں جبکہ دشمن پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اس غار کے ارد گرد پھر رہے تھے۔

وَكَانَ حَسْبَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنْ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلَا  
ترجمہ: سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور محبوب ہیں اور پیغمبروں کے علاوہ) تمام جہان سے کوئی شخص آپ کا ہم مرتبہ نہیں۔



یہ شعر سن کر رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اے حسان! تو نے سچ کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہیں۔

فصل نمبر 20

## راحم و سخت اور امین و باحیاء

امام ترمذی اور احمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں سب سے سخت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور سب سے باحیاء عثمان رضی اللہ عنہ ہے اور جلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے اور علم فرائض میں سب سے بہتر جاننے والا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے اور سب سے زیادہ قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے اور ہر ایک امت میں ایک امین ہوتا ہے اور امین اس امت کا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو یعلیٰ نے اسی حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ لفظ زائد ہے کہ سب سے بڑھ کر قاضی علی بن طالب رضی اللہ عنہ ہے اور اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں شذا دین اوس سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ لفظ زائد ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ زاہد اور صادق ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے اور ابو دردہ، میری امت میں سب سے عابد اور پرہیزگار ہے اور میری امت میں سب سے حلیم اور سخی معاویہ رضی اللہ عنہ ہے (جلال الدین سیوطی مصنف کتاب کہتے ہیں) کہ علامہ کالجی سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ تفصیلات پہلی تفصیل کے منافی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔

فصل نمبر 21

## مدح و شان و تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

بعض علماء کی تدریج سے میں نے ایک کتاب دیکھی ہے۔ جن میں ان لوگوں کے نام ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی۔ لیکن وہ کتاب حشو و زوائد سے خالی نہیں اور نہ ہی اس میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہی ہے۔ میں نے بھی اس مضمون میں ایک

کتاب لکھی ہے جو حشوز و زائد سے پاک اور تمام ان لوگوں کے اسماء کو حاوی ہے۔ جن کے بارہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اب حضرت صدیق اکبر ؓ کے متعلق جو اس میں درج ہے اس سے بطور خلاصہ میں یہاں درج کرتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے تَانِسِيْ اَتْنِيْسِيْنَ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ۔

(پارہ 10، سورہ توبہ آیت 40)

ترجمہ: صرف دو جان سے جب دردوں غار میں تھے جب اپنے پیار سے فرماتے تھے۔ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ (آرام، سکون، اطمینان) اتارا۔ (ترجمہ کنز الایمان آیت نمبر ۱۰۱۰۱ سورہ صاجزادہ محمد مبشر سیالوی)

مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس آیت میں لفظ صاحب سے مراد حضرت صدیق اکبر ؓ ہیں۔ چنانچہ ہم عنقریب اس میں ایک حدیث بھی نقل کریں گے۔

آزادی حضرت بلال ؓ

ابن ابی حاتم ابن عباس ؓ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ علیہ سے مراد علی ابی بکر ہے کیونکہ آنحضرت ؐ پر تو ہمیشہ تسلی رہی ہے۔

ابن ابی حاتم ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے حضرت بلال ؓ کو امیہ بن خلف اور ابی بن خلف سے ایک چادر اور دس اوقیہ سے خرید کر اللہ (یعنی اللہ کیلئے) آزاد کر دیا تھا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ وَاللَّيْلُ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارُ اِذَا تَجَلَّى۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكُوْرَ وَالْاُنْثَى۔ اِنْ سَعَبَكُمْ لَشَتَّى۔

(پارہ 30، سورہ الليل آیت نمبر 1، 2، 3، 4)

ترجمہ: اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی قسم جب چمکے اور اس کی قسم جس نے زومادہ بنائے۔ بیشک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ (ترجمہ از کنز الایمان، صاجزادہ محمد مبشر سیالوی)

(یعنی سعی (کوشش) ابو بکر صدیق ؓ امیہ اور ابی خلف آپس میں مختلف ہیں۔)

صرف خدا کی رضا

ابن جریر عامر بن عبد اللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا مکہ میں معمول تھا کہ بوڑھوں اور عورتوں کو اسلام لانے پر خرید کر آزاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ

کے والد ماجد نے ایک دفعہ فرمایا! اے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تم انسانوں کے ضعیف طبقہ کو آزاد کرتے ہو۔ اگر قوی مردوں کو خرید کر آزاد کیا کرو تو وہ تمہاری مدد کریں اور تمہیں فائدہ پہنچائیں اور تمہارے دشمنوں کو تم سے دفع کریں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اے میرے ابا جان! میں اس سے صرف خداوند قدوس کی رضامندی چاہتا ہوں۔

عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے بعض عزیزوں نے کہا کہ آیت فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى آخِرَتِكَ (پارہ 30، سورۃ اللیل آیت 5) ترجمہ: تو وہ جس نے دیا اور پرہیز گاری کی۔ (ترجمہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہی نازل ہوئی ہے۔

### تکلیف اور آزادی

ابن ابی حاتم اور طبرانی عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سات ایسے شخص آزاد کیے ہیں جنہیں خدا کی اطاعت اور قبول اسلام پر عذاب دیا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتَّقَى آخِرُ سُوْرَةٍ تَكْ۔ جو اشارۃً مع ترجمہ پہلے ذکر ہو چکی ہیں۔

### نزول کفارہ قسم

بزار عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ آیت وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ آخِرُ سُوْرَةٍ تَكْ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔

(حوالہ آیت: پارہ 30، سورۃ اللیل آیت 11)

ترجمہ آیت: اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ اور بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ جب تک کفارہ قسم نازل نہیں ہوا تب تک آپ نے کبھی اپنی قسم نہیں توڑی۔

### مراد صدق بہ

بزار اور ابن عساکر اسید بن صفوان (صحابی) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ

نے آیت وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(پارہ 24، سورۃ زمر آیت 33)

ترجمہ: اور وہ جو یہ سچ لیکر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ یہی ڈر والے ہیں۔ (ترجمہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)  
کی تفسیر میں فرمایا۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ سَعْدًا وَأَخْضَرَ الْجَبَلِ ۗ هُمْ فِيهِ يَصَّدَّقُونَ  
سے مراد حضرت صدیق اکبر ؓ ہیں۔

ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت علی ؓ سے لفظ حق ہی مروی ہے اور شاید یہ حضرت علی ؓ کی قرأت ہو۔

حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آیت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (پارہ 4، سورہ آل عمران آیت 159)

ترجمہ: اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

ابن حاکم ابن شوذب سے روایت کرتے ہیں کہ آیت وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (پارہ 27، سورہ رحمن آیت 46)

(ترجمہ: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔

حضرت صدیق اکبر ؓ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اور کئی طریقوں سے بھی مروی ہے جنہیں میں نے اسباب النزول میں ذکر کیا ہے۔

طبرانی اوسط میں ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ (پارہ 28، سورہ تحریم آیت 4)

ترجمہ: اور نیک ایمان والے (ترجمہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

اللہ تعالیٰ کا یہ قول حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور حضرت عمر ؓ کے حق میں نازل ہوا۔

عبداللہ بن ابی حمید اپنی تفسیر میں مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (پارہ 22، سورہ احزاب آیت 56)

ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے نبی پر۔

(ترجمہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! خداوند تعالیٰ نے جو

خیر آپ پر نازل فرمائی ہے اس میں ہم کو شریک کیا ہے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ (پارہ 22، سورہ احزاب آیت 43)

ترجمہ: وہ ہی ہے کہ رو دو بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے۔ (ترجمہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد بشر سیالوی)

ابن عساکر علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ آیت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ اخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ (پارہ 14، سورہ حجر آیت 17)  
ترجمہ: اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کہنے تھے سب کھینچ لیے۔ آپس میں بھائی ہیں تجھوں پر رو برو بیٹھے۔ (ترجمہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد بشر سیالوی)  
حضرت ابوبکر کسوفت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وَرَضْنَا الْاِنْسَانَ بَوَالِدِيْهِ اِحْسَانًا حَمَلْتَهُ اُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعْتَهُ كَرْهًا. وَحَمَلُهُ وَفَضَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشَدَّ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تَبْتُ الْيَكِّ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِيْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَغَدَّ الصَّدَقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوعَدُوْنَ  
(پارہ 26، سورہ احقاف آیت 15، 16)

ترجمہ: اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے اور اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنا اس کو اور اسے اٹھائے پھر نا اور اس کا دودھ چھڑانا میں مہینوں میں یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور چالیس برس کا ہوا۔ عرض کیا میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے اور میرے لیے میری اولاد صلاح رکھے۔ میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے۔ جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا۔

(ترجمہ از کنز الایمان اسامے سورہ آیت نمبر ایضاً، صاحبزادہ محمد بشر سیالوی)

حضرت صدیق اکبر ؓ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

ابن عساکر ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں سوائے حضرت صدیق اکبر ؓ کے تمام مسلمانوں کو عتاب کیا ہے اور انہیں عتاب سے علیحدہ کر لیا ہے۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی۔ **الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اٰثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ**۔ (پارہ 10 سورہ توبہ آیت 40)

ترجمہ: اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔

(ترجمہ از کنز الایمان - صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

## فصل نمبر 22

### احادیث بفضیلت صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما

بخاری اور مسلم ابو ہریرہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”چرواہا اپنی بکریوں میں ہی موجود تھا کہ بھیڑیے نے حملہ کر کے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ چرواہے نے بھیڑیے کا پیچھا کیا تو بھیڑیے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ جس دن میرے سوا کوئی چرواہا نہ ہوگا اس دن ان بکریوں کا کفیل کون ہوگا؟“ اور ایک شخص بیل پر بوجھ لادے ہوئے اسے ہانکے لیے جا رہا تھا کہ بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں تو صرف کھیتی باڑی کے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے کہ بیل بھی باتیں کرنے لگا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری اس بات کی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تصدیق کریں گے حالانکہ اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نہیں تھے۔ مگر آپ نے ان کے کمال ایمان پر بھروسہ کر کے ان کی تصدیق کی شہادت دی۔

ترمذی ابو سعید خدری سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر نبی کے دو وزیر آسمان والوں سے اور دو زمین والوں سے ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہما السلام ہیں اور زمینی وزیر حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔“

اصحاب سنن وغیر ہم نے سعید بن زید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ”حضرت ابو بکر جنت میں ہوں گے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پھر آپ نے باقی عشرہ مبشرہ کا نام آیا۔

### ستاروں کی طرح

ترمذی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”عالی درجے والوں کو نچلے درجے والے لوگ اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ان سے ہیں (یعنی عالی درجے والوں سے) (اس حدیث کو طبرانی نے جابر بن سمرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔)

### تبسم نبوی علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام

ترمذی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گھر سے تشریف لاتے اور آپ کے صحابہ مہاجرین و انصاریٹھے ہوتے اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ہوتے تو کوئی شخص بھی آپ کے رعب سے آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتا۔ مگر حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی طرف دیکھتے اور آپ ان کی طرف دیکھتے اور دونوں صاحب آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر تبسم فرماتے اور آپ انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے۔

ترمذی حاکم بن عمران سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن گھر میں تشریف لائے اور مسجد میں ایسی حالت میں داخل ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی دائیں جانب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے اور آپ نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا۔ قیامت کے روز بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ (اس حدیث کو طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔)

ترمذی اور حاکم ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی (یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا) پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔

## ایک اور اعزاز

ترمذی اور حاکم عبداللہ بن حنظلہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ کر فرمایا ”یہ دونوں مسلمانوں میں ایسے ہیں جیسے اعضاء میں کان اور آنکھیں ہوتی ہیں (طبرانی نے اسی حدیث کو ابن عمر اور ابن عمرو سے روایت کیا ہے۔)

## حمد کے لائق

بزار اور حاکم ابوعروہی دوس سے روایات کرتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ وہ خدا ہی حمد کے لائق ہے جس نے تم دونوں کے ساتھ میری مدد کی۔ یہی حدیث براء ابن عازب سے بھی مروی ہے جسے طبرانی نے اپنی اوسط میں روایت کیا ہے۔

ابویعلیٰ عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو میں نے کہا اے جبرائیل مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بتاؤ۔ انہوں نے کہا اگر میں اتنی مدت جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سنا تا رہوں تو بھی وہ ختم نہ ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسنات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک جز ہیں۔

## فتویٰ عہد نبوی میں

احمد عبدالرحمن بن غنم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا: ”کہ اگر تم کسی مشورہ میں متفق ہو جاؤ تو مجھے تم سے اختلاف نہ ہوگا۔ (اسی حدیث کو طبرانی نے براء ابن عازب سے روایت کیا ہے) ابن سعد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کون فتویٰ دیا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم عہد نبوی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔



## خاص آدمی

طبرانی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! ہر ایک نبی کے لیے امت میں سے خاص آدمی ہوتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے میرے خاص آدمی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔

### دارالہجرت اور اوصاف یاران

ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”خدا تعالیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا مجھ سے عقد کیا اور مجھے دارالہجرت یعنی مدینہ تک پہنچایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی خدا تعالیٰ رحم کرے جو سچ بات ہی کہتا ہے۔ اگر چٹخ ہی ہو اور اس راست گوئی نے اسے ایسا کر چھوڑا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں رہا ہے۔ خدا تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی رحم کرے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی رحم کرے۔ اے اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیساتھ حق کو پھیر جس طرف کہ وہ پھریں۔

### حجتہ الوداع سے بعد کی باتیں

طبرانی اہل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ حجتہ الوداع سے تشریف لائے تو منبر پر چڑھ کر پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا اے لوگو! حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی۔ ان کے حق میں اے لوگو! اس بات کو یاد رکھو۔ میں ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور مہاجرین اولین سے راضی ہوں۔ پس ان کے حق میں اس بات کو یاد رکھنا۔

عبد اللہ بن احمد زوائد الزہد میں ابن خادم سے راوی ہیں کہ ایک شخص علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رسول اللہ ﷺ کے ہاں کیسا قدر و مرتبہ تھا۔ آپ نے فرمایا جیسے ان کا مرتبہ آپ کے ہاں اس وقت ہے (یعنی جیسے بعد میں یہ دونوں صاحب آنحضرت ﷺ سے جدا نہیں، ایسے ہی زندگی میں بھی کبھی جدا نہیں

ہوئے۔ مترجم)

ابن سعد بسطام بن مسلم سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ میرے بعد تم پر کوئی شخص حکم نہیں کریگا۔

ابن عساکر انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر کی نشانی ہے اور ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت و معرفت سنت ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت میں اسی بات کی امید رکھتا ہوں کہ جس کی ان کے قول لا الہ الا اللہ کہنے سے امید ہے۔ (یعنی جیسے لا الہ الا اللہ کہنے سے وہ جنت میں جائیں گے ایسے ہی ان کی محبت میں بھی موجب جنت ہوگی۔ یا یہ کہ جیسے انہیں لا الہ الا اللہ میں انکار نہ ہوگا۔ ایسے ان کی محبت میں بھی انکار نہ ہوگا۔ مترجم)

فصل نمبر 23

## فقط فضیلت صدیق اکبر ﷺ

بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو شخص راہ خدا میں کوئی سی دو چیزیں دے گا تو اسے جنت کے دروازوں میں پکارا جائے گا۔ اے عبد اللہ! یہ دروازہ اچھا ہے۔ کوئی کہے گا یہ دروازہ اچھا ہے۔ پس اگر وہ شخص اہل الصلوٰۃ سے ہوگا تو اسے باب الصلوٰۃ سے بلایا جائے گا اور اگر وہ اہل جہاد سے ہوگا تو اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور اگر اہل صدقہ ہوگا تو اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اور جو اہل صیام سے ہوگا اسے باب الصیام سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو اس شخص کی بات ہوئی جو بوجہ ضرورت ان سے ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان سب سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ مجھے امید ہے اے ابو بکر! تم انہی لوگوں سے ہی ہو گے۔

۱۔ اس سے مراد ہے کہ صدقہ میں طاق چیز دینی مسنون نہیں بلکہ محبت دینی جائیں۔ (مترجم)

## جنت میں سب سے پہلے

ابن داؤد اور حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے ابوبکر! میری امت میں سے تم سب سے اول جنت میں داخل ہو گے۔

## اخوتِ اسلام

بخاری اور مسلم ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”مجھ پر اپنی ہم نشینی اور مال کے ساتھ تمام لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے احسان کیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر کو دوست بناتا۔ لیکن اخوتِ اسلام سب سے اچھی ہے۔ یہی حدیث ابن عباس، ابن زبیر، ابن مسعود، جندب، ابن عبد اللہ، براء، کعب بن مالک، جابر بن عبد اللہ، انس، ابی واقد اللیثی، ابومعلیٰ، حضرت عائشہ، ابو ہریرہ، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے اور احادیث متواترہ میں میں نے ان کے طریقے نقل کیے ہیں۔

فائدہ: جو حدیث ہر دور میں اتنے کثیر طرق سے مروی ہو کہ ان روایات کا توافق علی

الکذب عاده محال ہو۔ (صاحبزادہ محمد بشر سیالوی)

## شہادتِ تصدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ

بخاری ابن درداء سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ رنجش تھی جس میں میں ان کی طرف بڑھا۔ مگر پھر میں پشیمان ہوا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اب میں آپ کی خدمت شریف میں حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خدا تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ بھی (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معاف نہ کرنے سے) پشیمان ہوئے اور ان کے گھر گئے۔ مگر انہیں وہاں نہ پا کر آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھ کر آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے (کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر آنحضرت ﷺ ناراض ہوں) اور اپنے گھنٹوں کے بل بیٹھ کر دودنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں نے ہی اس پر ظلم کیا ہے اور زیادتی میری طرف سے

ہوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے لئے مبعوث ہوا اور تم سب نے میری تکذیب کی۔ مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری تصدیق کی اور اپنے مال و نفع سے میری مدد کی۔ اب تم میرے دوست کو چھوڑتے ہو؟ (اس لفظ کو آپ نے دو دفعہ فرمایا) راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی کسی نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔

دوست کا معاملہ

ابن عدی نے اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور اس میں اس طرح مذکور ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میرے دوست کے معاملہ میں مجھے تکلیف نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور دین حق عطا کر کے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تھا۔ تو تم نے میری تکذیب کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری تصدیق کی۔ اگر اللہ انہیں صاحب کے لقب سے ملقب نہ کرتا تو میں اسے اپنا دوست بناتا۔ لیکن اخوت اسلام ہی سب سے بہتر ہے۔

نورچمک رہا ہے

ابن عساکر مقدم سے راوی ہیں کہ عقیل بن ابی طالب اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما میں ایک دفعہ گالی گلوچ کی نوبت پہنچی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے سباب یا ناساب تھے۔ لیکن انہوں نے عقیل رضی اللہ عنہ کی قرابت نبوی کا خیال کر کے انہیں کچھ نہ کہا اور آنحضرت ﷺ سے اس بات کی شکایت کی۔ اس پر آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا۔ اے لوگو! تم میرے دوست کو میرے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنا حال اور اس کا حال دیکھو۔ بخدا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے سوا تم سب کے گھر کے دروازوں پر اندھیرا ہے۔ اس کے دروازے پر نور چمک رہا ہے۔ بخدا تم نے میری تکذیب کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری تصدیق کی اور تم نے اپنے مالوں کو روک رکھا لیکن اس نے اپنا مال میرے لیے خرچ کیا اور تم نے مجھے بے مدد چھوڑ دیا۔ مگر اس نے میری مدد کی اور میری تابعداری کی۔

تکبر سے کپڑا لگانا

بخاری وابن عمر سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ”جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا نیچے لگائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے کپڑے کی ایک طرف نیچے لٹکی رہتی ہے۔ لیکن میں عہد کرتا ہوں

(کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا) رسول اکرم ﷺ نے فرمایا! تم تو یہ فعل از روئے تکبر کے نہیں کرتے ہو۔

## داخل جنت کے اوصاف

مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے (ایک دن صحابہ سے) فرمایا۔ تم سے آج کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ میں۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے آج جنازہ کے ساتھ کون گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا! میں۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا! میں نے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا! جس شخص میں یہ اوصاف ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

## جنت کی خوشخبری

یہی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن بن ابوبکر سے بھی مروی ہے اور حدیث انس رضی اللہ عنہ کے آخر میں یہ لفظ زائد ہیں۔ ”کہ تیرے لیے جنت واجب ہوئی۔“ اور حدیث عبدالرحمن جسے بزار نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ تم میں سے آج بحالت روزہ کس نے صبح کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ ﷺ رات مجھے روزہ کا خیال نہیں آیا اس لیے میں نے تو بحالت افطار ہی صبح کی ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ مجھے تو گزشتہ رات روزہ یاد آ گیا تھا اس لیے میں تو آج روزہ دار ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا! تم میں سے آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ ابھی تو ہم یہاں سے کہیں گئے ہی نہیں۔ مریض کی عیادت کیسے کرتے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بھائی عبدالرحمن بن عوف کی طبیعت ناساز ہے۔ اس لیے مسجد کی طرف آتے وقت میں انہیں کے گھر سے ہوتا آیا ہوں تاکہ دیکھتا چلوں کہ کیا حال ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا! تم میں سے آج کسی نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ ابھی تو ہم نماز پڑھ کر کہیں باہر گئے نہیں۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مسجد میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ مجھے ایک سائل ملا اور ادھر

عبدالرحمن کے ہاتھ میں، میں نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا دیکھا اور اس سے لیکر وہ اس فقیر کو دے دیا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ پھر آپ نے کچھ ایسے الفاظ فرمائے جن سے حضرت عمرؓ بھی خوش ہو گئے۔ مگر انہیں خیال آیا کہ جب کبھی میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں ابو بکرؓ مجھ سے سبقت ہی لے جاتے ہیں۔

### نیکیوں میں دوڑ

ابو بعلیٰ ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا! خدا سے سوال کروہ تجھے عطا کرے گا۔ پھر فرمایا جو قرآن نہایت عمدگی سے پڑھنا چاہے وہ ابن ام عبد کی طرح پڑھے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا تو ابو بکرؓ میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی۔ پھر حضرت عمرؓ آئے اور ابو بکرؓ کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا۔ آپ ہمیشہ نیک کام میں سب سے بڑھ ہی جاتے ہیں۔

### صدیق اکبر اور حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہما

احمد بن حسن ربیعہ سلمی رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے اور صدیق اکبرؓ کے درمیان کچھ ٹکڑا سا ہو گیا۔ اس پر ابو بکرؓ نے مجھے کچھ ایسی بات کہی جسے میں نے مکروہ سمجھا۔ لیکن پھر صدیق اکبرؓ اس کے کہنے سے پشیمان ہوئے اور کہا اے ربیعہ! تم بھی مجھے وہی الفاظ کہہ لو تا کہ بدلہ اتر جائے۔ میں نے کہا میں تو نہ کہوں گا۔ آپ نے کہا کہ کہہ لو ورنہ میں رسول اللہؐ کے سامنے تم پر دعویٰ کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں تو ہرگز نہ کہوں گا۔ اس پر ابو بکرؓ چلے گئے۔ پھر میرے قبیلہ کے لوگ میرے پاس آئے اور کہا خدا تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم کرے۔ وہ تم پر کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ابھی تم کو ایسا کلمہ کہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم جانتے کہ یہ ابو بکرؓ کون شخص ہیں۔ یہی آیت ثانی اثنین کے مورد اور مسلمانوں کے بزرگ ہیں۔ اپنے آپ کو ان کی نگاہ سے بچائے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھ لیں کہ تم ان کے خلاف میری مدد کر رہے ہو اور اس بات سے خفا ہو کر آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جائیں اور ان کے غضب سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خفا ہوں اور ان

دونوں کے غضب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور ربیعہ (یعنی میں) ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد میں اکیلا ہی صدیق اکبر ﷺ کے پیچھے پیچھے چل دیا، حتیٰ کہ آپ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور جیسے واقعہ گزرا تھا بعینہم ویسے ہی بیان کیا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا اے ربیعہ اور صدیق ﷺ! کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! ایسا ایسا واقعہ ہے جس میں انہوں نے مجھے ایک کلمہ کہا جسے میں نے برا سمجھا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تو بھی مجھے یہی کلمہ کہہ لے کہ بدلہ اتر جائے۔ میں نے اس سے انکار کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! ہاں۔ یہ کلمہ تو نہ کہو۔ ہاں یہ کہہ دو کہ اے ابوبکر تمہیں خدا معاف کرے۔ میں نے کہہ دیا کہ اے ابوبکر! تمہیں اللہ معاف کرے۔

### صدق اکبر ﷺ حوض کوثر پر

ترمذی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوبکر ﷺ کو فرمایا تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے جیسے کہ غار میں میرے ساتھ رہے ہو۔

### مونس رسول اللہ ﷺ

عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر ﷺ کو فرمایا۔ ”تم غار میں میرے ساتھی اور مونس رہے ہو۔ (اس حدیث کے اسناد حسن ہیں۔) جنتی پرندہ

نبیہتی حضرت حذیفہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”جنت میں بختی اونٹ کی شکل کا ایک پرندہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام وہ موٹا تازہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں! بعض اہل جنت اسے کھائیں اور تم بھی ان لوگوں سے ہو جو اسے کھائیں گے۔

### معراج اور صدیق اکبر ﷺ

ابویعلیٰ ابو ہریرہ ﷺ سے راوی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب معراج میں میں آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تو جس آسمان سے میں گزرتا تھا وہاں میں

اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھتا تھا اور اس کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوتا تھا۔ (اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے) لیکن یہی حدیث ضعیف اسناد کے ساتھ حضرت ابن عباس ابن عمر انس ابو سعید اور ابو درداء رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کی گئی ہے اور بعض ضعیف اسناد کو بعض سے تقویت ہو جاتی ہے۔

فائدہ: ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح لذاتہ کی ایک سے زیادہ صفات سے قاصر ہو اور تعدد طرق سے وہ کمی پوری نہ ہو۔ (صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

### اطمینان والی جان

ابن حاتم اور ابو نعیم سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے پاس یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ**

(پارہ 30 سورة الفجر آیت 27)

ترجمہ: اے اطمینان والی جان (ترجمہ از کنز الایمان - صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام! یہ کیسے اچھے لفظ ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کے وقت تمہیں بھی فرشتہ انہی الفاظ سے مخاطب کرے گا۔

### صدق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

ابن ابی حاتم عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ جب آیت **وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. أَوْ خَرِّجُوهُ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَا فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيئًا.**

(پارہ 5 سورة النساء آیت نمبر 66)

ترجمہ: اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا اپنے گھر یا چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے اور اگر وہ کرتے جس بات کی نہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جتنا۔ (ترجمہ کنز الایمان - صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام! اگر آپ مجھے



حکم فرمادیں تو میں اپنے آپ کو قتل کر ڈالوں۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔  
اپنا اپنا رفیق

ابوالقاسم بغوی داؤد بن عمر سے اور وہ عبد الجبار بن درد سے اور وہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک ﷺ مع اپنے اصحاب کے ایک تالاب پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا! ہر ایک شخص تیر کر اپنے رفیق کی طرف جائے۔ راوی کہتا ہے کہ ہر ایک شخص تیرنے لگا اور آنحضرت ﷺ اور ابو بکر صدیق ﷺ باقی رہ گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تیر کر حضرت صدیق اکبر ﷺ کی طرف آئے اور ان سے معافتہ کیا اور فرمایا! اگر میں کسی کو زندگی میں دوست بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو دوست بناتا۔ لیکن ابو بکر ﷺ میرا ساتھی ہے۔ اس حدیث کا راوی تابعی و کعب ہے جو عبد الجبار بن درد سے روایت کرتا ہے (اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔) اور عبد الجبار ثقہ شخص ہے اور اس کا استاذ ابن ابی ملیکہ امام مگر یہ حدیث مرسل ہے اور نہایت ہی غریب ہے۔

### تین سو ساٹھ نیک خصلتیں

مصنف کہتے ہیں کہ اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں اور ابن شاہین نے السنہ میں ایک اور طریقے سے ابن عباس سے موصولاً روایت کیا ہے۔ ابن ابی الدنیا سے مکارم الاخلاق میں اور ابن عساکر نے صدقہ بن میمون قرشی کے طریقہ سے سلیمان بن یسار سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نیک خصلتیں تین سو ساٹھ ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان سے ایک خصلت اس میں ڈال دیتا ہے جس کے باعث وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر ﷺ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا مجھ میں ان خصلتوں سے کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سب کا مجموعہ۔

### صدق اکبر ﷺ کو مبارک

(ابن عساکر ایک اور طریقہ سے صدقہ قریشی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا نیک خصلتیں تین سو ساٹھ ہیں۔ حضرت ابو بکر ﷺ نے عرض کیا۔ کیا مجھ میں بھی ان میں سے کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو کہ وہ سب کی سب

نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سابق الایمان اور سب سے بڑھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کا بال بن جاؤں۔ (اس کو مسد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے) نیز فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایسی جگہ ملے جہاں سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا رہوں۔ (ابن ابی الدنیا اور ابن عساکر نے اسے روایت کیا ہے) نیز فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بدن کی خوشبو مشک سے بھی خوشبودار تھی۔ (اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔)

### ملاقات باری تعالیٰ

ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفنا یا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ مجھے کوئی شخص جو اپنے نامہ اعمال لیکر خدا تعالیٰ کو ملا ہے اس مکفون سے زیادہ عزیز نہیں۔

### نیکیوں میں سابق

ابن عساکر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب کبھی میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کی وہی مجھ سے سابق رہے ہیں۔

### سب سے افضل

طبرانی اوسط میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا! اس خدا تعالیٰ کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے جس نیکی میں سبقت لی یعنی چاہی ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سابق رہے ہیں۔ نیز اوسط میں جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ میری محبت اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا بغض کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔

## تین شخص

طبرانی کبیر میں روایت کرتے ہیں۔ ابو عمرو نے فرمایا۔ تین شخص قریش سے نہایت خوبصورت، خوش خلق اور بہادر ہیں۔ اگر وہ تجھے بات سنا سکیں تو جھوٹ نہیں بولتے اور تو انہیں بات سناے تو تیری تکذیب نہیں کرتے اور وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ، ابو عبیدہ بن جراح اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم ہیں۔

## رحم دل و نرم طبیعت

ابن سعد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ بوجہ رحم دل اور نرم طبیعت ہونے کے ادا (نرم دل) کہلاتے تھے۔

ابن عساکر ربیع بن انس سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے صحیفوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مثال بارش کی سی ہے جہاں واقع ہو، نفع دیتی ہے۔

ابن عساکر ربیع بن انس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء کے صحابہ میں نظر کی ہے۔ مگر ایسا نبی کوئی نہیں ملا جس کا کوئی صحابی حضرت صدیق اکبرؓ جیسا ہو۔ نیز زہری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ میں کسی وقت بھی شک نہیں کیا۔ نیز زہری بن بکار سے روایت کی ہے کہ میں نے بعض اہل علم سے سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ سے خطیب حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہی ہوئے ہیں۔

اور ابی حصین سے مروی ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابو بکرؓ سے کوئی افضل نہیں پیدا ہوا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے یوم رذہ کے دن وہ کام کیا جو انبیاء کیا کرتے ہیں۔

## فصل نمبر 25

## حکم امامت

دینوری نے ”مجالسہ“ میں اور ابن عساکر نے شععی سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چار ایسی خصلتوں سے خاص کیا ہے جن کے ساتھ اور کسی آدمی کو بھی خاص نہیں کیا۔ ایک تو ان کا نام صدیق رکھا اور ان کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہیں رکھا۔ دوسرا یہ کہ آپ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ غار میں رہے۔ تیسرے یہ کہ ہجرت میں بھی آپ کے رفیق تھے۔ چوتھے یہ کہ تمام صحابہ کی موجودگی میں انہیں امامت کا حکم دیا گیا۔

ابن ابی داؤد کتاب المصاحف میں ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے۔ مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں نظر نہیں آتے تھے۔

حاکم ابن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بمنزلہ وزیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام آپ سے تمام امور میں مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ غار یوم بدر کے عرش اور قبر میں ساتھ ہی رہے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آپ پر مقدم نہیں کیا کرتے تھے۔

فصل نمبر 26

## احادیث و آیات باشارہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

ترمذی اور حاکم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! جو لوگ میرے بعد ہوں گے ان کی پیروی کرنا۔ یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی۔ اسی حدیث کو طبرانی نے ابودرداء سے اور حاکم نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔

### بارہ خلیفے

ابوالقاسم بغوی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا۔ میرے بعد بارہ خلیفے ہوں گے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے بعد تھوڑی دیر ہی دنیا میں رہیں گے۔ اس حدیث کے اول حصہ کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے اور کئی طریقوں سے روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ شروع کتاب میں اس کی بحث گزر چکی ہے۔

## ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

صحیحین کی حدیث کہ ”آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی وفات سے چند ایام قبل خطبہ ارشاد فرمایا! اور فرمایا کہ ایک بندہ کو اللہ نے مختار کیا ہے۔“ اس کے اخیر میں فرمایا کہ (مسجد کی طرف کے) تمام دروازے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے بند کر دیئے جائیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ مسجد کی طرف کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔“ علماء کہتے ہیں کہ اس میں آپ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ اس دروازے سے نکل کر مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔

### دروازے بند کر دیئے جائیں

یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور اس کے لفظ یہ ہیں کہ ”سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے مسجد کی طرف آمد و رفت کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں۔“ (اسے ابن عدی نے روایت کیا ہے۔) یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے جسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہی حدیث زوائد المسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان سے بھی مروی ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جسے بزار نے روایت کیا ہے۔

### اگر مجھے نہ پاؤ

بخاری جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں (کچھ عرض کرنے کی غرض سے) حاضر ہوئی تو آپ نے اسے فرمایا! پھر آنا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر پھر میں آئیے وقت آؤں کہ آپ کو نہ پاؤں (گویا آپ کی وفات کا اشارہ کرتی تھی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا (یہ حدیث خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مترجم)

### سوال جواب

حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے کہ بنی مصطلق نے مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بھیج کر یہ معلوم کروایا کہ آپ کے بعد ہم صدقات

کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا! ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔

### خليفة

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا! پھر آنا۔ اس نے عرض کیا کہ میں پھر آؤں اور آپ نہ ملیں (یعنی وفات پا گئے ہوں) تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آنا کیونکہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔

### الشد عزوجل اور مومنین

مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں کہ مرض الموت میں مجھے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ تاکہ میں انہیں ایک وصیت لکھ دوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی اور خواہش کرنے والا خواہش نہ کر بیٹھے اور کہے کہ میں اولی ہوں اور اللہ اور مومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا انکار کرتے ہیں۔ (یعنی نہیں چاہتے کہ کوئی اور خلیفہ بنے) احمد نے اس حدیث کو کئی طرق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مرض الموت میں مجھے فرمایا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ تاکہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیلئے وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد لوگ اس میں اختلاف نہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رہنے دو۔ خدا ایسا نہ کرے کہ مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں اختلاف کریں۔

### خليفة ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا ”اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تو کسے خلیفہ بناتے۔“ آپ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ پوچھا گیا کہ پھر کسے؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ عرض کیا گیا۔ پھر کسے آپ نے فرمایا! ابو عبیدہ بن جراح کو۔

## رفیق القلب (نرم دل)

بخاری اور مسلم ابوموسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب سخت بیمار ہو گئے تو فرمایا۔ حضرت ابوبکر ﷺ کو کہو۔ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ بڑے رفیق القلب شخص ہیں۔ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ﷺ کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہلی بات کو دہرایا۔ آپ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! ابوبکر ﷺ کو کہہ دیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور تم عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی سی عورتیں ہو۔ پھر یہ پیغام ابوبکر صدیق ﷺ کو پہنچا تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی حیات میں ہی لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابن مسعود ابن عباس ابن عمر عبداللہ زعمہ ابن سعید علی بن ابی طالب اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی گئی ہے۔

قائم مقام شخص

بعض طرق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بار بار اس بات کا اعادہ کیا اور کثرت اعادہ کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں یہ بات نہ تھی کہ آپ کے بعد جو شخص آپ کے قائم مقام ہوگا لوگ اسے دوست رکھیں گے بلکہ مجھے تو خیال تھا کہ جو شخص آپ کے قائم مقام ہوگا لوگ اس سے ضرور بدفالی لیں گے۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ ابوبکر ﷺ سے اس معاملہ میں اعراض کر لیں۔ اور ابن زعمہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور ابوبکر صدیق ﷺ اس وقت موجود نہ تھے۔ اس پر عمر فاروق ﷺ امام بنے تو رسول پاک ﷺ اس وقت موجود نہ تھے۔ اس پر حضرت عمر فاروق ﷺ امام بنے تو رسول پاک ﷺ نے فرمایا۔ نہیں! نہیں! اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابوبکر ﷺ کے سوا ہر ایک شخص سے انکار کرتے ہیں۔ لوگوں کو ابوبکر ﷺ نماز پڑھائیں۔ ابن عمر ﷺ کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے تکبیر تحریمہ کہی تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی تکبیر تحریمہ کا آواز سن کر غضبناک ہو کر سر اٹھایا اور فرمایا کہاں ہیں حضرت ابوبکر ﷺ۔

## افضل الصحابہ رضی اللہ عنہم

علماء لکھتے ہیں۔ یہ حدیث نہایت واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علی الاطلاق سب صحابہ سے افضل تھے اور خلافت کے ان سب سے زیادہ لائق تھے۔ امام اشعری کہتے ہیں کہ یہ بات تو بالبداهت معلوم ہوگئی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام مہاجرین اور انصار کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کیلئے فرمایا اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ لوگوں کو نماز وہ پڑھائے جو قرآن پاک کو ان سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پاک کے سب سے زیادہ عالم تھے اور خود صحابہ نے اسی بات سے استدلال کیا تھا کہ آپ خلافت کے سب سے زیادہ لائق ہیں۔ من جملہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ ہم ان کا قول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بیان میں نقل کریں گے اور من جملہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور میں اس وقت حاضر تھا غائب نہ تھا اور نہ میں مریض تھا تو جس شخص کو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی امام ہونے کے قابل مانے جانے لگے تھے۔

## پیغام نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

احمد اور ابوداؤد وغیرہما سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی عمرو ابن عوف میں کچھ تنازع سا ہو پڑا تھا۔ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو آپ ظہر کے بعد ان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرما گئے کہ اگر میں نماز کے وقت تک نہ آؤں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب عصر کا وقت آیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دیکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیغام دیدیا جس پر آپ نے نماز پڑھائی۔



## خدائی نیکلمہ

ابوبکر شافعی نے ”غیلانیات“ میں اور ابن عساکر نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو حضرت ابوبکر ﷺ کو مقدم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا! میں ہی تو انہیں مقدم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں مقدم کرتا ہے۔

## تقدیم ابوبکر صدیق ﷺ

دارقطنی افراد میں اور خطیب اور ابن عساکر حضرت علی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ میں نے تجھے مقدم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا۔ مگر اس نے حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کی تقدیم کے سوا کسی اور کی تقدیم سے انکار کیا۔

## سینے میں نشان

ابن سعد حسن ﷺ سے راوی ہیں کہ ابوبکر ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام! میں ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کے عذرات میں پامال دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا! تم لوگوں کے راستے میں آؤ گے۔ پھر عرض کیا کہ میں اپنے سینے میں نشان سے دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو برس ہیں۔

## کتب سابقہ

ابن عساکر ابوبکر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر ﷺ کے پاس آیا اور اس وقت کچھ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے کھا رہے تھے۔ پس آپ نے ایک شخص سے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا دریافت کیا کہ تم جو انبیاء سابقین کی کتب پڑھتے ہو ان میں کیا لکھا ہے؟ اس نے عرض کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلیفہ صدیق اکبر ﷺ ہوں گے۔

## اللہ سے خائف (ڈرنے والا)

ابن عساکر محمد بن زبیر سے روایت کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے حسن بصری کے پاس بھیجا تا کہ ان سے کچھ باتیں دریافت کروں۔ پس میں نے کہا کہ لوگوں کا جس بات میں اختلاف ہے اس میں میری تفسیح کیجئے۔ کیا رسول پاک ﷺ نے ابوبکر ﷺ کو خلیفہ بنایا تھا؟

اس بات کے سننے سے حسن بصری سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا خدا کرے تیرا باپ ندر ہے۔ کیا یہ بات بھی معرض شک میں ہے۔ اس خدا کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ بیشک آنحضرت ﷺ نے انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے اور سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار تھے اور وہ خدا تعالیٰ سے اس قدر خائف تھے کہ اگر رسول پاک علیہ السلام نہ فرماتے تو خلیفہ بننے پر مرنے کو ترجیح دیتے۔

### رشید کا اطمینان

ابن عدی ابوبکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان (یعنی ابوبکر بن عیاش) سے رشید نے کہا اے ابوبکر! لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسے خلیفہ بنا لیا؟ میں نے کہا اے امیر المومنین خدا تعالیٰ بھی خاموش رہا اور اس کے رسول ﷺ بھی خاموش رہے اور مومن بھی خاموش رہے۔ رشید نے کہا بخدا تو نے تو اس بات سے مجھے اور شبہ میں ڈال دیا ہے۔ اس پر ابوبکر بن عیاش نے کہا اے امیر المومنین آقا علیہ السلام آٹھ روز بیمار رہے ہیں۔ ان ایام میں جب بلال رضی اللہ عنہ آ کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام! لوگوں کو نماز کون پڑھائے؟ تو آپ فرماتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ اس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو آٹھ روز تک نماز پڑھاتے رہے اور ان دنوں آنحضرت ﷺ پر وحی برابر نازل ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ ﷺ خدا تعالیٰ کے خاموش رہنے کے باعث خاموش رہے۔ رشید کو یہ جواب نہایت اچھا معلوم ہوا اور اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ تجھے برکت دے۔

### قوم سے مراد

علماء کی ایک جماعت نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت قرآن مجید سے مستنبط کی ہے۔ چنانچہ یہی حسن بصری سے آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** (پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 54) ترجمہ: اے ایمان والو! تم سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔

(ترجمہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ قوم سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں

کیونکہ جبکہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نے ہی ان سے جنگ کی اور انہیں اسلام کی طرف واپس لائے۔

### آیت دلیل خلافت

ابن ابی حاتم جو بصرہ سے آیت قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلِي قَوْمِ  
أُولِي النَّاسِ شِدِيدٌ (پ 26 سورہ فتح آیت 16)

ترجمہ: اور پیچھے رہ گئے ہوئے گنواروں سے فرماؤ۔ عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے۔ (ترجمہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد بنو حنیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ یہ آیت خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے کیونکہ انہوں نے ہی ان کے قال کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔

### اجماع

شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العباس بن شریح کو کہتے سنا ہے۔ قرآن شریف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اہل علم کا اجماع ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو اہل ردہ سے جنگ کیلئے بلانے کے علاوہ اور کوئی جنگ نہ ہوئی۔ جس میں لوگوں کو بلایا گیا ہو تو یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وجوب اور ان کی اطاعت کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اس جنگ سے منہ پھیرنے والے اور نہ جانے والے کو سخت عذاب دیا جائے گا۔

### پوری فتح

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل فارس اور اہل روم قوم سے مراد لیے ہیں (تو ان کی تفسیر پر بھی یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ہی دلالت کرتی ہے) کیونکہ اہل فارس و اہل روم کی طرف لشکر انہوں نے ہی روانہ کیا تھا اور پوری فتح ان کی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ سے ہوئی اور وہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فرعون تھے۔

## انطباق آیت

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. (آیت ۵۵)۔ (پ ۱۸ سورہ نور آیت ۵۵)

ترجمہ: اللہ نے وعدہ دیا، ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ (ترجمہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی صدیق اکبر ﷺ کی خلافت پر منطبق ہے۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں عبد الرحمن بن عبد الحمید مہدی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. (آیت ۵۵)۔

### عمدہ استنباط

خطیب ابوبکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر ﷺ کا رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (پ ۲۸ سورہ حشر آیت ۸)

ترجمہ: ان فقیر ہجرت کر نیوالوں کیلئے جو اپنے گھر اور مالوں سے نکالے گئے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے اور وہی سچے ہیں۔

(ترجمہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

پس جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صادق کے لقب سے موسوم کیا ہے وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں اور انہوں نے ہی صدیق اکبر ﷺ کو کہا تھا۔ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ استنباط نہایت لطیف اور عمدہ ہے۔

نبیہی زعفرانی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہتے سنا۔ فرماتے تھے لوگوں نے صدیق اکبر ﷺ کی خلافت پر اجماع کیا ہے کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد لوگ مضطر ہوئے کہ کسی کو خلیفہ بنائیں اور انہیں آسمان کے نیچے صدیق اکبر ﷺ سے بہتر آدمی نہ ملا تو ان کو اپنی گردنوں کا مالک یعنی حاکم اور والی بنالیا۔

## صحابہ رضی اللہ عنہم کو شک نہیں

اسد السنۃ نے صدیق اکبر ﷺ کے فضائل میں معویہ بن قرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو اس بات میں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ہیں اور وہ انہیں خلیفہ رسول ﷺ کے لقب سے ہی پکارا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ کبھی خطا اور گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔

## مسلمانوں کا خیال

حاکم ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جس بات کو مسلمان اچھا خیال کریں وہ خدا تعالیٰ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے اور جس بات کو مسلمان برا خیال کریں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہوتی ہے اور (حضرت صدیق اکبر ﷺ کی خلافت بھی ایسی ہی ہے) کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں خلیفہ بنانا اچھا سمجھا تھا۔

## دشمن اسلام

حاکم اور ذہبی مرۃ الطیب سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسفیان بن حرب (ایک دن) حضرت علی ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ امر خلافت قریش کے بے یار و مددگار اور ذلیل ترین شخص (یعنی ابو بکر ﷺ) میں کیوں گیا ہے؟ اگر تم چاہتے تو میں اس پر گھوڑے اور پیادے لایا کرتا۔ حضرت علی ﷺ نے کہا کہ تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہی رہے۔ ابوسفیان! یہ باتیں حضرت ابو بکر ﷺ کو ضرر نہیں پہنچا سکتیں۔ (بخاری) ہم نے تو حضرت ابو بکر ﷺ کو خلافت کے لائق پایا ہے۔

## فصل نمبر 27

### بیعت ابو بکر صدیق ﷺ

بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب ﷺ نے حج سے واپس آتے وقت لوگوں کو خطبہ سنایا، ارشاد: نے خطبہ میں فرمایا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تم سے فلاں شخص کہتا ہے کہ اگر عمر

ﷺ فوت ہوگا تو میں فلاں شخص سے بیعت کروں گا۔ وہ شخص اس بات پہ نہ بولے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی بیعت بے سوچے سمجھے اور اچانک ہوئی تھی۔ اگرچہ حقیقت میں یہ بات اسی طرح ہے لیکن (اس سے) اللہ نے لوگوں کو فتنہ خلافت سے بچالیا اور آج تم میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں کہ اس کی طرف ابو بکر ﷺ کی طرح گردنیں بلند ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات پائی تو ابو بکر ﷺ ہم سب سے افضل تھے۔ حضرت علی ﷺ اور زبیر اور ان کے ساتھی بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھ رہے تھے اور تمام انصار الگ ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ رہے تھے اور مہاجرین صدیق اکبر ﷺ کے پاس جمع ہوئے تو میں نے کہا اے ابو بکر! آپ ہمارے ساتھ انصار تک چلئے۔ پس ہم ان کا قصد کرتے ہوئے اٹھے۔ راستے میں ہمیں دو نیک شخص ملے۔ انہوں نے ہم سے لوگوں کا حال بیان کر کے کہا کہ اے معشر! مہاجرین تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہم اپنے بھائیوں انصار کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں لازم ہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ اور اپنا کام پورا کرو۔ میں نے کہا۔ بخدا ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ غرضیکہ ہم چلے اور ان کے پاس ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے۔ دیکھا کہ انصار سب وہیں جمع تھے۔ ایک شخص ان کے درمیان چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے سعد بن عبادہ۔ میں نے کہا ان کا گلیا حال ہے؟ کہنے لگے درد میں مبتلا ہے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو ان سے ایک خطیب کھڑا ہوا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا۔ ابا بعد ہم اللہ کے مددگار اسلام کا لشکر ہیں۔ اے مہاجرین تم ہم میں سے ایک گروہ ہو۔ اب تم خفیہ طور سے یہ ارادہ کرتے ہو کہ ہمارے اصل سے قطع کر دو اور امر خلافت سے ہمیں روک دو۔ جب یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر کچھ کہوں۔ اسی اثنا میں ایک گفتگو اپنے دل میں سوچی تھی جو مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ ابو بکر صدیق ﷺ کے سامنے اسے بیان کروں اور اس بات کے لیے میں کچھ پوشیدہ تیاری کر رہا تھا اور ابو بکر ﷺ چونکہ مجھ سے زیادہ حکیم اور صاحب وقار تھے۔ انہوں نے میری یہ تیاری دیکھ کر کہا ”اسی ہیئت پر بیٹھے رہو۔“ میں نے انہیں ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا (اور بیٹھ رہا) کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔“ بخدا وہ جب اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے فی البدیہہ بیان میں کوئی لکڑی

بات نہ چھوڑی جو مجھے پسند تھی (یعنی وہ سب باتیں بیان کر دیں) بلکہ انہیں نہایت اچھی طرح سے ادا کیا۔ حتیٰ کہ آپ خاموش ہوئے۔ چنانچہ آپ نے حمد و ثناء کے بعد کہا۔ اما بعد! خلافت کا کار خیر جس کا تم نے ذکر کیا ہے، بیشک تم اس کے اہل اور لائق ہو۔ مگر اہل عرب اس بات کو قریش کے لیے ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ نسب اور گھر کے لحاظ سے اوسط العرب ہیں۔ میں تمہارے لیے ان دو شخصوں سے ایک کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا (عمرؓ) اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا۔ (حضرت عمرؓ کہتے ہیں) کہ اس کلمہ کے سوا جو بات آپ نے کہی وہ مجھے بری نہ لگی۔ (یعنی آپ کا یہ کہنا کہ عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم سے کسی کو امیر بنا لو۔ مجھے اچھا نہ معلوم ہوا) اور بخدا مجھے اس بات سے کہ میں اس قوم پر امیر بنوں جس میں ابو بکرؓ موجود ہوں۔ اس بات سے زیادہ پسند تھا کہ میری گردن ماردی جاتی اور یہ بے ادبی مجھ سے سرزد نہ ہوتی۔ اس پر انصار میں سے ایک کہنے والے نے کہا اے گردوہ قریش میری رائے اور تدبیر سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک امیر ہم سے ہو اور ایک تم سے۔ اس پر ہر طرف سے شور و غوغا اٹھا حتیٰ کہ میں ڈرا کہ کہیں فساد نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں نے ابو بکرؓ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے آپ سے بیعت کی اور تمام مہاجرین سے بیعت کی۔ پھر تمام انصار نے بھی بیعت کی۔ بخدا ہم جس امر کے لیے حاضر ہوئے تھے اس میں ہم نے ابو بکرؓ کی بیعت سے زیادہ موافق کوئی بات نہ دیکھی۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم چلے گئے اور کسی کی بیعت نہ ہوئی تو ہمارے بعد وہ کسی کی بیعت نہ کر لیں تو اس صورت میں ہمیں یا تو ایسے شخص کی بیعت کرنی پڑے گی جسے ہم پسند نہیں کرتے اور یا ہم ان سے اختلاف کریں گے تو اس میں فساد ہوگا۔“

### اقدام رسول ﷺ

نسائی، ابویعلیٰ اور حاکم ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات پائی تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم سے ہو اور ایک امیر تم سے ہو۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ ان کے پاس آئے اور کہا اے گردوہ انصار! تم نہیں جانتے کہ رسول پاک ﷺ نے ابو بکرؓ کو فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے امام بنو۔ اور تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ابو بکرؓ پر مقدم ہو؟ انصار نے کہا عوذ باللہ ہم ابو بکرؓ سے کس طرح مقدم ہو سکتے ہیں۔

## خطبائے انصار اور مہاجرین

ابن سعد حاکم اور بیہقی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک ﷺ نے وفات پائی تو لوگ سعد بن عبادہ کے گھر میں جمع ہوئے اور ان میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ پس خطبائے انصار کھڑے ہوئے اور ان سے ایک نے کہا اے گروہ مہاجرین! رسول اللہ ﷺ جب تم سے کسی کو عامل مقرر فرماتے تھے تو ہم سے ایک کو اس کے ساتھ ملاتے تھے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس امر خلافت کے دو شخص متولی ہوں۔ ایک ہم میں سے اور ایک تم میں سے۔ (اس بات کا کہنا تھا) کہ تمام انصار نے یکے بعد دیگرے اس بات کی تائید کی۔ اس پر زید بن ثابت نے کھڑے ہو کر کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول کریم ﷺ مہاجرین سے تھے اور آپ کا خلیفہ بھی مہاجرین سے ہونا چاہئے۔ ہم تو رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مددگار تھے اور اب آپ کے خلیفہ کے بھی مددگار رہیں گے۔ پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ یہ تمہارا صاحب ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی بیعت کی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف دیکھا تو ان میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نہ پایا۔ پس ان کو بلوا کر کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی ہو کر چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی جماعت کو پراگندہ کرو۔ انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول ﷺ مجھے سرزنش نہ کیجئے۔ پھر انہوں نے آپ سے بیعت کر لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو انہیں بلوا کر کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہو کر یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی جماعت کو پراگندہ کرو۔ انہوں نے کہا۔ اے خلیفہ رسول ﷺ مجھے سرزنش نہ کیجئے۔ پھر انہوں نے بیعت کر لی۔

اطاعت کب تک؟

ابن اسحاق سیرت میں بسندہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب ثقیفہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو اگلے روز آپ منبر پر بیٹھے تو اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حمد و ثناء کے بعد کہا کہ اللہ نے تمہیں امر خلافت میں بہترین شخص پر مجتمع کر دیا ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صاحب اور غار میں ثانی اثین تھے۔ تمہیں چاہئے کہ



اٹھ کر ان کی بیعت کرو۔ تو بیعت بنی تھیفہ کے بعد اس دن آپ سے بیعت عامہ کی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد کہا اے لوگو! میں تم پر امیر اور حاکم بنایا گیا ہوں اور میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر کوئی برائی مجھ سے سرزد ہو تو مجھے سیدھا کرو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ تم میں سے ضعیف میرے نزدیک قوی ہے، حتیٰ کہ میں ان کا حق انہیں واپس دلاؤں گا اور تم میں سے قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہے، حتیٰ کہ انشاء اللہ میں اس سے حق لوں گا۔ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کرتے ہیں خدا انہیں ذلت کے گڑھے میں پھینکتا ہے اور جب کبھی کسی قوم میں فحش باتیں رواج پاتی ہیں تو وہ سب کے سب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کرتا رہوں تب تک تم میری اطاعت کرتے رہو اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تمہیں میری اطاعت لازم نہیں۔ خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔

امرا عظم

موسیٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب مغازی میں اور حاکم نے مستدرک میں عبدالرحمن بن عوف سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا۔ بخدا مجھے کبھی بھی امارت کی حرص نہیں تھی اور نہ مجھے اس میں رغبت تھی اور اور نہ کبھی ظاہر پوشیدہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال ہی کیا ہے۔ میں تو صرف فتنے سے ڈرا ہوں (اور اسے اختیار کیا ہے) نہ ہی مجھے اس امارت میں کوئی راحت ہے۔ میں ایسے امر عظیم پر مامور ہوا ہوں جسے انجام دینے کی مجھ میں طاقت اور قوت نہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی تائید ہی شامل حال چاہئے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو ناراضگی تو اس امر کی ہے کہ ہم مشورہ میں شریک نہیں ہوئے ورنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہم خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں اور وہ صاحب غار ہیں اور ہم ان کی بزرگی اور مرتبہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔

## ثانی اشئین

ابن سعد ابراہیم تمیمی سے راوی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات پائی تو عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ سے بیعت کروں کیونکہ بفرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سے تم اسلام لائے ہو۔ اس بات کے سوا میں نے تم سے کوئی کم عقلی کی بات نہیں دیکھی۔ کیا تم میری بیعت کرتے ہو؟ حالانکہ تم میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ثانی اشئین موجود ہیں۔

چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ

ابن سعد محمد (بن ابی بکر) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا۔ ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ سے بیعت کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھ سے اقویٰ ہو اور یہ کہہ کر آپ سے بیعت کر لی۔ احمد حمید بن عبدالرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کے کسی مقام میں تھے۔ خبر وفات سن کر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھول کر بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ زندگی اور وفات دونوں حالتوں میں کیسے پاکیزہ ہیں۔ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔

## وزیر اور امیر

راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں اکٹھے چلے اور انصار کے پاس آئے۔ پس پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلام شروع کیا اور انصار کی شان میں جو کچھ قرآن میں نازل ہوا تھا اور جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سب کچھ ذکر کیا۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اگر لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے میں۔ تو میں انصار کے راستے پر ہی چلوں گا (پھر کہا) اے سعد! تم جانتے ہو کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا اور اس وقت تم بھی بیٹھے سن رہے تھے کہ اس امر یعنی خلافت کے قریش ہی والی ہیں۔ نیک لوگ ان کی نیکیوں کے تابع ہوں گے اور برے ان کے بروں کے تابع ہوں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہم وزیر ہیں اور آپ امیر۔

## زیادہ حقدار

ابن عساکر ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی گئی تو آپ نے لوگوں کو کچھ منقبض خاطر پا کر فرمایا۔ اے لوگو! تمہارا کیا حال ہے؟ (کہ منقبض سے نظر آتے ہو۔) کیا میں اس امر کا تم سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں۔ کیا میں سب سے پہلے اسلام نہیں لایا۔ کیا میں ایسا اور ایسا نہیں ہوں اور اپنے فضائل ذکر کیے۔

## فساد کا خوف

احمد رافع طائی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت کا تمام قصہ اور جو کچھ انصار نے کہا تھا وہ بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی سنایا اور فرمایا کہ پھر انہوں نے مجھ سے بیعت کر لی اور میں نے اسے قبول کر لیا اور میں نے یہ بات اس خوف سے کی کہ شاید فتنہ و فساد برپا ہو جائے اور بعد ازاں لوگ مرتد ہو جائیں۔

امیر کیوں بنے؟

ابن سعد اور ابن عابد اپنی کتاب مغازی میں رافع طائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ تو مجھے صرف دو شخصوں پر امیر بننے سے بھی منع کیا کرتے تھے اب آپ کو کس بات نے لوگوں کا امیر بننے پر مجبور کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں دیکھا۔ اور میں ڈرا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔

محفوظ اور معصوم

احمد قیس بن ابی حازم سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک ماہ بعد کا ذکر ہے کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ نے اپنا تمام حال بیان فرمایا اور پھر لوگوں میں آواز دی گئی کہ (الصلوٰۃ جامعۃ) یعنی اس نماز میں سب حاضر ہوں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا۔ اے لوگو! میں چاہتا ہوں اس امر خلافت کا کوئی اور کفیل ہو جائے اور اگر تم مجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے کا مواخذہ کرو تو مجھے اس کی طاقت نہیں کیونکہ آپ تو وساوسِ شیطان سے محفوظ اور معصوم تھے اور آپ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی (اور میں ایسا ہوں نہیں۔)

## راہِ راست

ابن سعد حسن بصری سے راوی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی گئی تو آپ نے بطور خطیب کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے اس امر خلافت کا والی بنایا گیا ہے۔ حالانکہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ بخدا میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اسے سنبھال لے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تم مجھے اس بات کی تکلیف دو کہ میں تم سے ایسے برتاؤ کروں جیسے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا کرتے تھے (تو یہ مجال ہے) کیونکہ رسول پاک ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے وحی من السماء سے معزز فرمایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی تم جیسا آدمی ہوں اور تم میں سے کسی سے بھی افضل نہیں ہوں۔ پس تم مجھے نگاہ رکھو اور جب دیکھو کہ میں سیدھا چلتا ہوں تو میری تابعداری کرو اور جب دیکھو کہ میں حق سے بھٹک گیا ہوں تو مجھے سیدھا کرو اور راہِ راست پر لاؤ۔ آگاہ رہو کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے جو بھٹکانے کے لیے میرے سامنے آتا ہے۔ جب تم مجھے غضبناک دیکھو تو مجھ سے اجتناب کرو۔ میرا اثر تمہارے ظاہر اور باطن پر نہ پڑے۔

## طلبِ بخشش

ابن سعد اور خطیب عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پہلے خدا تعالیٰ کی حمد ثنا کی اور پھر فرمایا اما بعد میں تمہارے امر کا والی بنایا گیا ہوں۔ حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ لیکن قرآن نازل ہو چکا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ایک سیدھا رستہ بتا دیا ہے اور پھر ہمیں وہ سکھلا بھی دیا ہے۔ پس اے لوگو! تم جان لو کہ نہایت زیرک اور دانا شخص پرہیزگار ہے اور نہایت عاجز شخص فاجر اور گنہگار ہے اور تم میں سے نہایت قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہے، حتیٰ کہ حق کے بدلے میں اسے گرفت کروں گا اور تم میں سے ضعیف شخص میرے نزدیک قوی ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اس کا حق دلاؤں گا۔ اے لوگو! میں تم سے ہوں، مبتدع نہیں۔ جب میں کوئی اچھی بات کروں تو میری مدد کرو اور اگر میں کچی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ میں اپنا یہ قول کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے اور اپنے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔“ امام مالک کہتے ہیں کہ سوائے اس شرط کے کوئی شخص کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا۔

## جانشین

حاکم مستدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات پائی تو تمام شہر کانپ اٹھا۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو سنا اور کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ تو ایک امر عظیم واقع ہوا۔ آپ کے بعد کون جانشین ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کے بیٹے (ابو بکر رضی اللہ عنہ) آپ نے کہا۔ کیا بنو عبد مناف اور بنو مغیرہ اس بات سے راضی ہو گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا کہ جسے وہ بلند کریں اسے کوئی پست نہیں کر سکتا اور جسے وہ پست کریں اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔

واقفی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابن عمر اور سعید بن مسیب وغیرہم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے روز یعنی 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ (پیر) سن 11 ہجری کو لوگوں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔

## منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنا

طبرانی اوسط میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تا وفات کبھی منبر پر اس جگہ نہیں بیٹھے جس جگہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا وفات منبر کی اس جگہ پر بیٹھے جس جگہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بیٹھے۔

## فصل نمبر 28

## واقعات خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

اسماعیلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو عرب کے کئی ایک قبائل مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تالیف قلوب اور نرمی سے کام لیجئے کیونکہ وہ بمنزلہ وحشی کے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو خیال کرتا تھا کہ تم میری مدد کرو گے مگر تم نے تو مجھے بے مدد چھوڑ دیا۔ جاہلیت میں تو اس

قدرت تھے اور اسلام میں اس قدر مست ہو گئے ہو۔ آخر میں ان کی تالیف قلوب کس طریقہ سے کروں۔ کیا میں انہیں جھوٹے اور گھڑے ہوئے شعر سناؤں یا سحر مفتری سے انہیں رام بناؤں۔ افسوس! افسوس! آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام وفات پا گئے اور وحی منقطع ہو گئی۔ بخدا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر چہ وہ مجھے ایک اونٹ کی رسی ہی کیوں نہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات میں میں نے آپ کو اپنے آپ سے زیادہ پختہ ارادے والا پایا اور آپ نے لوگوں کو اس طرح ادب سکھایا کہ جب میں خلیفہ ہوا تو مجھے ان کی اصلاح کے لیے بہت کم تکلیف اٹھانے کی ضرورت پڑی۔

### اختلاف میراث

ابوالقاسم بغوی اور ابو بکر شافعی اپنے قواعد میں اور ابن عساکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم علیہ التحیۃ والثناء نے وفات پائی تو نفاق نے ہر طرف سے سر بلند کیا اور بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور انصار بھی (مہاجرین سے) الگ ہو گئے۔ اس وقت مصیبت جو میرے باپ پر نازل ہوئی تھی اگر لند اور مضبوط پہاڑوں پر ہوتی تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ جس کسی بات میں اختلاف ہوا میرے والد ہی اس میں سب سے فائدہ میں ہی رہے۔ چنانچہ پہلے صحابہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن کیے جائیں اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے کہ فرماتے تھے ”نبی و ہیں دفن ہوتا ہے جہاں وفات پائے۔“ اس کے بعد پھر آپ کی میراث میں اختلاف ہوا تو اس کی بابت بھی کسی کو علم نہ تھا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے فرماتے تھے ”ہم انبیاء کے گردہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔“

### انبیاء کا مدفن

بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ پہلا اختلاف ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں واقع ہوا۔ بعض تو کہنے لگے کہ ہم آپ کو مکہ میں دفن کریں گے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے اور بعض کہنے لگے کہ ہم آپ کو مسجد میں دفن کریں گے اور بعض نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کریں گے اور بعض نے کہا بیت المقدس میں دفن کریں گے جو تمام انبیاء کا مدفن ہے۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اختلاف

کرتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر ؓ نے انہیں یہ حدیث سنائی۔

### شرفِ روایت

ابن زنجویہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی حدیث ہے جس روایت کا شرف نہا جرین و انصار سے حضرت صدیق اکبر ؓ ہی کو ملا ہے اور اس بارے میں سب نے آپ ہی کی طرف رجوع کیا ہے۔

### شکستِ روم

بیہقی اور ابن عساکر ابو ہریرہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اس خدائے برحق کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر حضرت ابو بکر ؓ خلیفہ نہ بنتے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہ کرتا۔ پھر اسی بات کو حضرت ابو ہریرہ ؓ نے دو تین دفعہ دہرایا۔ اس پر انہیں کہا گیا اے ابو ہریرہ! یہ بات کیسے ہوئی؟ آپ نے کہا کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسامہ بن زید کو سات سو سوار دیکر شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ جب وہ ذی شہب میں پہنچے تو آنحضرت ؐ نے وفات پائی اور مدینہ کے ارد گرد تمام قبائل عرب مرتد ہو گئے۔ اس پر تمام اصحاب حضرت صدیق اکبر ؓ کے پاس جمع ہوئے اور کہا لشکر کو واپس بلا لیجئے۔ مدینہ کے گرد و نواح کے لوگ مرتد ہو جائیں اور لشکر روم کو روانہ کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا۔ اس خدائے تعالیٰ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر کتے ازواج نبی ؐ کے پاؤں تک بھی آجائیں تو میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جسے پیغمبر خدا ﷺ نے خورد و اند کیا ہے اور نہ میں اس جھنڈے کی گرہ کھول سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اسامہ کو آگے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ پس جب یہ لشکر کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہتے تھے تو وہ لوگ آپس میں کہتے کہ اگر ان لوگوں کے پاس قوت و بل نہ ہوتا تو ایسے نازک وقت میں یہ لشکر ان کے پاس سے علیحدہ نہ ہوتا۔ روم سے جنگ ہونے تک انہیں کچھ نہ کہو۔ جب مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی اور صحیح و سالم واپس آئے تو وہ لوگ اسلام پر ثابت رہے۔

### خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

عروہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مرض الموت میں فرمایا کہ

بیش اسامہ کو روانہ کرو۔ جب یہ لشکر مقام جرف میں پہنچا تو اسامہ کی بیوی فاطمہ بنت قیس نے ایک آدمی کو بھیج کر کہا بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ زیادہ بیمار ہو گئے ہیں اس لیے جلدی نہ کرو۔ یہ سن کر وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ حتیٰ کہ آنحضرت ﷺ نے وفات پائی۔ یہ سن کر اسامہ ابو بکر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جس وقت حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے روانہ کیا تھا اس وقت کچھ اور حالت تھی اور اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں عرب مرتد نہ ہو جائیں کیونکہ اگر یہ مرتد ہو گئے تو سب سے پہلے ان سے ہی جنگ کی جائے گی اور اگر یہ لوگ اسلام پر ثابت رہے تو میں روانہ ہو جاؤں گا کیونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے بہادر اور جوانمرد آدمی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا۔ بخدا اگر کوئی جانور مجھے اچک لے تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے حکم سے قبل کوئی اور بات شروع کروں۔ یہ کہہ کر آپ نے اسامہ کو روانہ کیا۔

### حق بات

ذہبی کہتے ہیں کہ جب گردنواح میں آنحضرت ﷺ کی وفات مشہور ہو گئی تو عرب کے بہت سے قبائل اسلام سے بھگتے اور زکوٰۃ دینے سے منکر ہوئے۔ اس پر حضرت ابو بکر ﷺ ان سے جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ مگر حضرت عمر ﷺ وغیرہ صحابہ نے کہا۔ ان سے جنگ کرنے میں آپ ذرا توقف فرمائیے۔ ابو بکر ﷺ نے کہا بخدا اگر وہ مجھے اونٹ کے باندھنے کی رسی یا بڑے حالتِ حوجا حضرت ﷺ کو دیا کرتے تھے نہ دیں گے تو بھی میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر ﷺ نے کہا آپ ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہیں اور جب کسی نے اس کلمہ کو پڑھ لیا تو اس نے مجھ سے اپنا مال اور خون بچالیا۔ مگر بوجہ ادائے حق کے جس کا حساب خدا تعالیٰ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر ﷺ نے کہا بخدا میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جس نے صلوٰۃ و زکوٰۃ میں فرق کیا۔ کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور خود رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی تو فرمایا ہے کہ ادائے حق کیلئے لڑائی جائز ہے۔ حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر ﷺ کے سینہ کو حق کے لیے



کھول دیا ہے تو میں نے معلوم کر لیا کہ حق بات یہی ہے۔

### امیر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

عروہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مہاجرین اور انصار کو لیکر نکلے۔ جب نجد کے مقابل موضع نقع میں پہنچے تو تمام عرب اپنے اہل و عیال کو لے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اس بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا کہ آپ مدینہ کو واپس چلے اور کسی شخص کو لشکر کا امیر بنا دیجئے۔ آخر صحابہ کے بار بار کہنے سے آپ واپس آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور انہیں کہہ دیا کہ جب وہ لوگ اسلام لے آئیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تم سے جس کی مرضی ہو واپس چلا آئے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کو واپس آئے۔

### شیرازہ اسلام

دارقطنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باگ کو پکڑ کر کہا۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہو؟ میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ احد میں کہی تھی۔ اپنی تلوار میان میں کیجئے اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر ہمیں دردمند نہ کیجئے۔ بخدا اگر (خدا نخواستہ) آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو شیرازہ اسلام تمہی درست نہ ہوگا۔

### مسلمہ کذاب سے جنگ

حظلمہ بن لیسٰی سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد کو جنگ کے لیے بھیجا اور کہہ دیا کہ پانچ باتوں سے جو ایک بھی چھوڑ دے اس سے اسی طرح جنگ کرنا جیسے اس شخص سے جنگ کی جاتی ہے۔ جو ان پانچوں کو ترک کر دے یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد اور معبود برحق کو نہ ماننے والے۔ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہ ماننے والے سے اور نماز نہ پڑھنے والے سے اور روزہ رمضان نہ رکھنے والے سے۔ خالد رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر جمادی الاخریٰ میں روانہ ہوئے اور بنی اسد اور عطفان سے جنگ کی۔ جن سے جو قتل ہونے تھے قتل ہوئے اور جو قید ہونے تھے وہ قید ہوئے اور باقی اسلام لے آئے۔ اس جنگ میں صحابہ سے عکاشہ بن مھسن اور

ثابت بن اقرم شہید ہوئے اور اسی سال رمضان شریف میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیعت رسول اللہ ﷺ نے 24 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جاری ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ (اس بات کو زبیر بن بکارت نے نقل کیا ہے) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایک ماہ قبل ام ایمن رضی اللہ عنہا نے وفات پائی اور شوال میں عبد اللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ اس سال کے اخیر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کو میلہ کذاب کے جنگ کے لیے یمامہ پہنچے اور نہایت خونریز جنگ ہوئی اور کئی دن تک محاصرہ رہا۔ آخر میلہ کذاب ملعون قتل ہوا۔ اسے وحشی نے جو قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ تھا، قتل کیا تھا۔ اس جنگ میں بہت سے صحابہ قتل ہوئے جن میں سے مشہور یہ ہیں۔ ابو حذیفہ بن عتبہ سالم مولا ابو حذیفہ شجاع بن وہب زید بن خطاب عبد اللہ بن سہل مالک بن عمر و طفیل بن عمرو الدوسی یزید بن قیس عامر بن بکیر عبد اللہ بن معزمہ سائب بن عثمان بن مظعون عباد بن بشیر معن بن عدی ثابت بن قیس بن شماس ابو دجانہ سماک بن حرب۔ ان کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے جو ستر کے عدد کو پورا کرتے ہیں۔ میلہ جس دن قتل ہوا ہے اس کی عمر ڈیڑھ سو برس کی تھی۔ اس کی پیدائش آنحضرت ﷺ کے والد عبد اللہ سے بھی پہلے کی تھی۔ 12 ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے علاء بن حضرمی کو بحرین کی طرف روانہ کیا جہاں کے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ پس مقام جوانی میں ان سے جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔

### ابلہ و عراق کی فتح

عکرمہ بن ابی جہل کو عمان کی طرف روانہ کیا جہاں کے لوگ مرتد ہو گئے تھے اور زیاد بن لبید انصاری کو بھی ایک مرتد فرقہ کی سرکوبی کیلئے روانہ کیا۔ اسی سال ابو العاص بن ربیع نے جو آنحضرت ﷺ کی دختر زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند تھے اور صعوب بن جشمہ لیشی اور ابو مرثد غنوی فوت ہوئے اور اسی سال میں اہل ردہ کی سرکوبی سے فراغت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو بصرہ کی طرف روانہ کیا جنہوں نے پہلے ابلہ کو فتح کیا اور بعد ازاں عراق کے بہت سے شہروں کو صلح اور جنگ سے فتح کیا۔

۱۔ مرتد ہونے والے یعنی اسلام سے پھر جانے والے۔ (صاحبزادہ محمد بشر سیالوی نظامیہ لاہور)

اسی سال حضرت صدیق اکبر ؓ نے حج کیا اور واپس آ کر عمرو بن عاص کے ماتحت ایک لشکر شام کو روانہ کیا۔

### مشرکوں کو شکست

اجنادین کا واقعہ جمادی اولیٰ 60ھ میں پیش آیا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس فتح کی خوشخبری صدیق اکبر ؓ کو حالت نزع ؑ میں پہنچی۔ اس جنگ میں عکرمہ بن ابی جہل اور ہشام بن عاصی ؓ شہید ہوئے۔ اسی سال میں جنگ مرج الصفر ہوئی جس میں مشرکوں کو شکست ہوئی۔ اسی جنگ میں فضل بن عباس وغیرہ شہید ہوئے۔

### ذکر جمع قرآن

امام بخاری زید بن ثابت ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر ؓ کے پاس اہل یمامہ سے جنگ کی خبر پہنچی اس وقت حضرت عمر ؓ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو بکر ؓ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت عمر ؓ میرے پاس آئے اور کہا! جنگ یمامہ میں بڑی شدت سے لڑائی ہوئی ہے اور بہت لوگ قتل ہوئے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی اور جگہ بھی اس سختی سے لڑائی ہوئی اور بہت سے حافظ قرآن شہید ہوئے تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا۔ ہاں اگر اسے جمع کر لیا جائے تو خیر! اس لیے میری رائے ہے کہ قرآن مجید جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عمر ؓ سے کہا میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جسے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہیں کیا۔ حضرت عمر ؓ نے کہا بخدا یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر حضرت عمر ؓ بار بار مجھے یہ بات کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کیلئے میرا سینہ کھول دیا اور میری بھی وہی رائے ہوئی جو حضرت عمر ؓ کی تھی۔

### جمع قرآن کیسے ہوا؟

زید ؓ کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر ؓ حضرت صدیق اکبر ؓ کے پاس خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے فرمایا! اے زید تو عقلمند شخص ہے۔ ہم تمہیں کسی بات سے متہم بھی نہیں پاتے۔ تم رسول اللہ ﷺ کی وحی لکھا کرتے تھے۔ اب تم ہی کوشش

سے قرآن مجید جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کسی پہاڑ کے اٹھانے کا حکم کرتے تو وہ مجھے آپ کے اس حکم سے نقل نہ ہوتا۔ جیسا کہ جمع قرآن کا حکم مجھے نقل لگا۔ پھر میں نے کہا! آپ دونوں وہ بات کیسے کرتے ہو جسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ بخدا! یہ تو اچھی بات ہے۔ مگر میں بار بار آپ سے وہی بات عرض کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرح اس امر کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ پس میں قرآن مجید کو کپڑے اور کاغذ کے ٹکڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کے شانوں کی ہڈیوں اور کھجور کے ترو خشک پتوں اور آدمیوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ سورہ توبہ سے دو آیتیں لَفَقَدْ جَاءَكُمْ سے آخر تک مجھے خزیمہ بن ثابت کے سوائے کسی کے پاس نہ ملیں۔ پس یہی صحیفہ جس میں میں نے قرآن جمع کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی وفات تک رہا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہا بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔

### زیادتی اجر

ابو یعلیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بارے میں سب سے زیادہ اجر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملے گا کیونکہ آپ نے ہی سب سے پہلے قرآن شریف کو دتین نہیں جمع کیا تھا۔

### فصل نمبر 29

## اولیات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ سب سے پہلے آپ نے ہی قرآن جمع کیا۔ قرآن مجید کا نام مصحف سب سے پہلے آپ نے ہی رکھا۔ چنانچہ اس کا ذکر آچکا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ آپ کا لقب ہی رکھا گیا۔

احمد بن ابو بکر ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ یا خلیفۃ اللہ! آپ نے فرمایا میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں اسی نام کو پسند کرتا ہوں۔

اپنے والد کی زندگی میں سب سے پہلے آپ ہی خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ ہی سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کے لیے رعیت نے کچھ روزیہ طے مقرر کیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر ﷺ خلیفہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جانتے ہیں کہ میرا کسب میرے عیال کے اخراجات کا تحمل ہو سکتا تھا۔ اب میں مسلمانوں کے امر میں مشغول ہوا ہوں تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل و عیال بیت المال سے گزارہ کریں گے اور ابو بکر (رضی اللہ عنہ) اس مال کے عوض انہیں کما کر دے گا۔

### آدھی بکری اور ایک پوشاک

ابن سعد عطاء بن سائب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر ﷺ سے بیعت کی گئی تو صبح کو آپ چادریں کندھے پر ڈال کر فروخت کرنے کیلئے بازار کی طرف نکلے۔ حضرت عمر ﷺ ملے اور کہا۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا! بازار میں تو حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ اب تو آپ مسلمانوں کے امیر ہو گئے ہیں اور اب بھی کسب کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر ﷺ نے کہا تو میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر ﷺ نے کہا۔ میرے ساتھ چلئے۔ ابو عبیدہ آپ کے لیے کچھ روزیہ مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر ﷺ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو ساتھ لیکر ابو عبیدہ ﷺ کے پاس آئے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے مہاجرین سے ایک توسط شخص کی سی خوراک مقرر کر دیتا ہوں اور جاڑے اور گرمی کی پوشاک جب وہ کہنہ ہو جائیں تو آپ انہیں واپس کر دیا کریں اور دوسری لے لیا کریں۔ پھر ابو عبیدہ ﷺ نے آپ کے لیے آدھی بکری اور ایک پوشاک مقرر کی۔

ابن سعد میمون سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر ﷺ خلیفہ ہوئے تو دو ہزار ان کی تنخواہ مقرر ہوئی۔ مگر آپ نے فرمایا کہ اس سے کچھ زیادہ کرو کیونکہ میں عیال دار ہوں اور اب تم نے مجھے تجارت سے بھی روک دیا ہے۔ اس پر پانچ سو اور زیادہ کیے گئے۔

### مسلمانوں کے متولی

طبرانی اپنی مسند میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب

حضرت ابو بکر ؓ قریب المرگ ہوئے تو فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا اس شیردار اونٹنی کو دیکھ جس کا دودھ ہم پیتے تھے اور اس پیالہ کو جس میں ہم کپڑے رنگا کرتے تھے اور اس چادر کو بھی جسے ہم پہنا کرتے تھے۔ ہم ان چیزوں سے جبکہ ہم مسلمانوں کے متولی تھے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ جب میں مر جاؤں تو یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ نے وفات پائی تو میں نے یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیں۔ حضرت عمر ؓ نے انہیں دیکھ کر فرمایا۔ اے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ آپ نے اپنے بعد آنے والے شخص کو تکلیف میں ڈال دیا ہے۔

### غلام اونٹ اور چادر

ابن ابی الدنیا حضرت ابو بکر ؓ بن حفص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ نے وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت کی۔ ”اے میری بیٹی! ہم مسلمانوں کے امر کے والی رہے ہیں اور کسی درہم اور دینار کو بے فائدہ خرچ نہیں کیا بلکہ ہم دلایا کھا کر گزارہ کرتے رہے ہیں اور سخت اور موٹے کپڑے پہنتے رہے ہیں اور اب ہمارے پاس مسلمانوں کے مال سے سوائے اس حبشی غلام اور آپ کش اونٹ اور اس کہنہ چادر کے کوئی اور چیز نہیں رہی۔ جب میں مر جاؤں تو یہ چیزیں حضرت عمر ؓ کے پاس بھیج دینا۔

### قیام بیت المال

سب سے اول بیت المال آپ نے ہی مقرر کیا۔ چنانچہ سعد بن ابی وقیفہ وغیرہ سے روایت کی گئی ہے کہ صدیق اکبر ؓ نے موضع نخ میں بیت المال بنایا ہوا تھا۔ مگر اس کی پاسبانی کوئی نہیں کیا کرتا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ اس پر کوئی نگہبان مقرر کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا۔ نگہبان کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں قفل لگا ہوا ہے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ جو مال اس میں ہوتا لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے، حتیٰ کہ وہ خالی ہو جاتا۔ پھر مدینہ میں آ رہے تو بیت المال کو بھی وہیں تحویل کر لیا۔ پس جو مال آپ کے پاس آتا تھا اسے غرباء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور تقسیم کرنے میں ہر ایک شخص کو برابر دیا کرتے تھے اور اسی مال سے آپ اونٹ، گھوڑے اور اوزار خرید کر لوگوں کو مفت تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے

بدو یوں سے چادریں مول لے کر مدینہ کی بیواؤں میں مفت تقسیم کیں۔ جب حضرت صدیق اکبر ؓ نے وفات پائی اور دفن کر دیئے گئے تو حضرت عمر ؓ نے عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان وغیرہ کو بلا کر بیت المال کا جائزہ لیا تو حضرت صدیق اکبر ؓ نے اس میں کوئی چیز نہ درہم اور نہ دینار باقی جمع کے طور پر نہ رکھا تھا۔

مصنف کہتے ہیں کہ اسی حدیث سے عسکری کا قول ”سب سے پہلے بیت المال حضرت عمر ؓ نے مقرر کیا تھا اور آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبر ؓ کے وقت کوئی بیت المال مقرر نہ تھا۔“ مردود ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب ”اوائل“ میں عسکری کے اس قول کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عسکری نے بھی اس بات پر آگاہ ہو کر اپنی کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے عبیدہ بن جراح حضرت صدیق اکبر ؓ کے وقت بیت المال کے متولی مقرر ہوئے تھے۔

حاکم لکھتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ؓ ہی ملقب ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کا لقب تیسق تھا۔

فصل نمبر 30

## بحرین کا مال

بخاری اور مسلم حضرت جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بحرین کا مال میرے پاس آئے تو میں اسے اس طرح خرچ کروں۔ جب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد بحرین کا مال آیا تو حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا کہ اگر کسی نے رسول اکرم ﷺ سے قرض لینا ہو یا آپ نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہو تو ہمارے پاس آئے۔ حضرت جابر ؓ فرماتے ہیں۔ یہ سن کر میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا لے لو تو دیکھا وہ پانچ سو ہیں۔ پھر آپ نے مجھے ایک ہزار پانچ سو دیئے۔

## فصل نمبر 31

## آپ کا حلم اور تواضع

ابن عساکر اسیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت سے قبل تین برس ہم میں رہے ہیں اور خلافت کے بعد ایک برس تک۔ قبیلہ کی لڑکیاں آپ کے پاس اپنی بکریاں لے آیا کرتی تھیں تو آپ انہیں ان کا دودھ دودھ دیا کرتے تھے۔

لوگوں سے کوئی

احمد میمون بن مہران سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا السلام علیک یا خلیفۃ الرسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تم پر سلام ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں سے کوئی شخص خلیفہ ہے۔

عاجزی و انکساری

ابن عساکر ابوصالح غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاعدہ تھا کہ ہر روز رات کے وقت ایک بڑی بوڑھی اور نابینا عورت کی جو اطراف مدینہ میں نہیں رہتی تھیں، خبر گیری کیا کرتے تھے اور اس کا کام کاج کرایا کرتے تھے اور اسے پانی وغیرہ لادیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ آتے تو دیکھتے کہ پہلے ہی ایک شخص اس کا کام کاج کر چکا ہوتا۔ آپ کئی دفعہ جلدی آئے۔ مگر اس سے پیش دستی نہ لے جاسکے۔ آخر ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کی تاک میں رہے کہ دیکھیں کون شخص ہیں؟ دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی ہیں جو اس کے پاس تشریف لایا کرتے ہیں اور ان ایام میں آپ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا بخدا یہ آپ ہی ہیں۔

آپ سچے ہیں

ابو نعیم وغیرہ عبدالرحمن اصفہانی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منبر نبوی پر تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور کہا میرے باپ کی جگہ سے اتر جائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بیٹا تم نے سچ کہا ہے۔ یہ تمہارے باپ ہی کی



جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت حسن ؓ کو سینے سے لگا کر خوب روئے۔ حضرت علی ؓ نے کہا: بخدا یہ بات اس لڑکے نے میرے کہنے سے نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا: آپ سچے ہیں میں آپ پر تو اس کا اتہام نہیں لگاتا۔

### فصل نمبر 32

ابن سعد ابن عمر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت صدیق اکبر ؓ کو اسلام کے پہلے حج میں عامل مقرر کیا اور اس کے دوسرے برس رسول اکرم ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حج کیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی اور حضرت صدیق اکبر ؓ خلیفہ ہوئے تو آپ نے پہلے سال حضرت عمر ؓ کو حج کے لیے بھیجا اور دوسرے برس خود حج کیا۔ جب حضرت صدیق اکبر ؓ نے وفات پائی تو حضرت عمر ؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو حج کے لیے روانہ کیا اور اس کے بعد وفات تک خود حج کو جاتے رہے۔ آپ کے بعد جب عثمان ؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حج پر عبد الرحمن بن عوف کو مقرر کیا۔

### فصل نمبر 33

## وفات کا سبب

سیف اور حاکم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ کی وفات کا سبب رسول اکرم ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فوت ہونے کا غم ہوا۔ اس صدمے سے آپ کا جسم نحیف و کمزور ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ نے وفات پائی۔

ابن سعد اور حاکم نے بسند صحیح ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر ؓ اور ابن کلدہ حریرہ کھارہے تھے جو حضرت صدیق اکبر ؓ کے پاس ہدیۃ کسی نے بھیجا تھا۔ اس دوران حارث نے حضرت ابو بکر ؓ سے کہا۔ اے خلیفہ رسول اللہ ﷺ! کھانے سے ہاتھ اٹھا لیجئے کیونکہ اس میں زہر ہے جس کا اثر ایک سال کے بعد ہوگا اور میں اور آپ ایک دن وفات پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر ؓ نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مگر بعد میں دونوں بیمار اور نحیف ہوتے گئے، حتیٰ کہ ایک سال کے ختم ہونے کے بعد ایک ہی دن دونوں نے وفات پائی۔

حاکم روایت کرتے ہیں کہ شععی نے کہا ہم اس دنیا فانی سے کیا توقع رکھیں جبکہ رسول اللہ ﷺ کو بھی زہر دیا گیا اور حضرت صدیق اکبر ﷺ کو بھی۔

### وفات 13ھ

واقدی اور حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی بیماری اس طرح شروع ہوئی کہ آپ نے بروز دوشنبہ (پیر) جمادی الاخریٰ کی سات تاریخ کو غسل کیا اور اس دن سخت سردی تھی۔ اس سے آپ کو بخار ہوا اور چند روزہ دن تک رہا۔ ان دنوں میں آپ نماز نہیں پڑھا سکے اور آخر بروز سہ شنبہ (منگل) بانہیں جمادی الاخریٰ کو 13 ہجری میں تریسٹھ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔

### انوکھا طبیب

ابن سعد اور ابن ابی الدنیا ابوالنصر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کی بیماری میں صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اے خلیفہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام! ہم آپ کے لیے کوئی طبیب بلا لائیں جو آپ کی نبض دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ طبیب نے میری نبض دیکھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا ہے اِنِّیْ فَعَالٌ لِّمَا اُرِیْدُ (میں جو کچھ چاہتا ہوں کرتا ہوں)۔

### سب سے بہتر

واقدی نے کئی طریقوں سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ﷺ بیمار ہوئے تو عبدالرحمن بن عوف کو بلوا کر کہا کہ حضرت عمر ﷺ کی بابت خبر دیجئے کہ کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے وہ بات پوچھتے ہیں جسے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر ﷺ نے کہا اگرچہ میں جانتا ہوں۔ آخر تم بھی کچھ کہو۔ عبدالرحمن نے کہا کہ آپ کی جوان کے بارے میں رائے ہے وہ اس سے بھی افضل ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان بن عفان ﷺ کو بلوا کر فرمایا کہ حضرت عمر ﷺ کے حالات کی خبر مجھے دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ان کی بابت ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی ﷺ کو بلوایا تو انہوں نے بھی حضرت عثمان ﷺ کا سا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا۔ اے اللہ! میں حضرت عمر ﷺ کی بابت یہی جانتا ہوں کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم

میں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ سعید بن زید اور اسید بن خضیر وغیرہ مہاجرین و انصار کو بھی مشورت میں داخل کیا۔ پس اسید نے کہا اے اللہ آپ کے بعد انہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھلائی سکھانا کہ رضا کے موقع پر راضی ہوں گے اور غصے کے موقع پر غصے ہوں گے۔ خلافت کا بارگراں اٹھانے میں ان سے قوی تر کوئی شخص نہیں نکلے گا۔ بعد ازاں چند صحابہ رضی اللہ عنہم آئے اور ان سے ایک نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کو خدا تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی بابت پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ حالانکہ آپ ان کی سخت گیری سے اچھی طرح واقف ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مجھے خدا تعالیٰ سے خوف دلاتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میں نے تیری مخلوق میں سب سے بہتر کو ان پر خلیفہ بنایا ہے۔ میری طرف سے یہ بات تمام لوگوں کو پہنچا دینا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا۔ دیکھو:

## وصیت نامہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ وہ وصیت ہے جس کو ابو بکر بن قاف نے دنیائے فانی سے جاتے اور آخرت میں داخل ہوتے وقت جس میں کہ کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر یقین کر لیتا ہے اور کاذب بھی تصدیق کر لیتا ہے۔ لکھو ایسا ہے۔ میں نے اپنے بعد تم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ تم ان کی بات کو سننا اور ان کی تابعداری کرنا۔ میں نے خدا تعالیٰ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے دین اور اپنے اور تمہارے حق میں کوتاہی نہیں کی۔ اگر انہوں نے عدل کیا تو میرا گمان اور میرا علم ان کے بارے میں یہی ہے اور اگر بدل گئے تو ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا۔ اپنی طرف سے تو میں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن میں غیب نہیں جانتا اور جو لوگ ظلم کریں گے وہ عنقریب ہی جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر بدلتے ہیں۔

(وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ)

اس کے بعد آپ نے اس وصیت نامہ پر مہر لگانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس مختوم تحریر کو لے کر باہر آئے تو لوگوں نے بے رغبت تمام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور ان کے

خلیفہ ہونے پر خوش ہوئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر ؓ نے حضرت عمر ؓ کو تنہائی میں بلا کر چند ایک وصیتیں کیں۔ بعد ازاں حضرت عمر ؓ آپ کے پاس سے چلے آئے تو حضرت صدیق اکبر ؓ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا اے اللہ! میں نے حضرت عمر ؓ کے خلیفہ بنانے سے صرف لوگوں کی بہتری ہی چاہی ہے اور فتنہ سے ڈر کر میں نے وہ کام کیا جسے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے اپنی رائے کے مطابق لوگوں پر ان سب سے بہتر قوی تر اور سب سے زیادہ نیکی پر حریص شخص کو خلیفہ بنایا ہے۔ اے اللہ! اب تیرا امر یعنی موت میرے پاس حاضر ہوا ہے۔ پس میرے بعد تو ان کی حفاظت کر۔ وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ! اس کی اصلاح کر اور اسے غم میں نہ ڈال اور اسے اپنے خلفائے راشدین سے بنا اور رعیت کو اس کا تابع بنا دے۔

### تین دانا

ابن سعد اور حاکم ابن مسعود ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ تین شخص سب سے دانا تھے۔ ایک تو حضرت صدیق اکبر ؓ کہ انہوں نے حضرت عمر ؓ کو خلیفہ بنایا اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کہ جنہوں نے اپنے باپ سے عرض کیا تھا کہ انہیں اجرت دو اور تیسرے عزیز مصر کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہونہار دیکھ کر اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اسے اچھی طرح سے رکھنا۔

### ہم راضی ہیں

ابن عساکر یسار بن حمزہ سے راوی ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر ؓ بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے گھر کے در پیچے سے باہر دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو! میں نے ایک وصیت کی ہے۔ کیا تم اس سے راضی ہو گے سب نے جواب دیا اے خلیفہ رسول ﷺ! ہم سب راضی ہیں۔ مگر حضرت علی ؓ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر وہ وصیت حضرت عمر ؓ کے بارے میں ہے تو پھر ہم راضی ہیں ورنہ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر ؓ نے کہا کہ وہ حضرت عمر ؓ ہی تو ہیں۔

### وہی دن اور رات

احمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر ؓ کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا آج کو سادن ہے لوگوں نے کہا دو شنبہ۔ آپ نے

فرمایا اگر میں آج رات کو مر جاؤں تو کل تک میری تجہیز و تکفین کا انتظار نہ کرنا کیونکہ سب دنوں اور راتوں سے مجھے وہی دن اور رات زیادہ محبوب ہے جو رسول اللہ ﷺ سے مجھے ملا دے اور قریب کر دے۔

### بھلائی کی وصیت

مالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے بحالت صحت اپنے مال سے مجھے ایک کھجور کا درخت دیا تھا جس سے 20 دینار کھجوریں اترتا کرتی تھیں۔ جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو فرمایا۔ اے میری بیٹی! مجھے تیرا امیر ہونا تمام لوگوں کے امیر ہونے سے زیادہ پسند ہے اور تمہاری محتاجی تمام لوگوں کی محتاجی سے بہت بری معلوم ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں ایک کھجور کا درخت مہیا کیا تھا جس سے 20 دینار کھجوریں اترتا کرتی تھیں۔ اگر تو نے اس سے کچھ کھجوریں لی ہیں تو وہ تمہاری ملک ہوئیں اور اب وہ درخت وارثوں کا مال ہے اور وہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔ پس قرآن کے موافق اسے تقسیم کر لیتا۔ میں نے کہا ابا جان! اگر ترک تقسیم ہوگا تو میری بہن تو! سماء ہی ہے اور دوسری کا جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ابھی تمہاری والدہ کے پیٹ میں ہی ہے اور مجھے خیال ہے کہ وہ لڑکی ہی ہوگی۔ اس حدیث کو ابن سعد نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں مذکور ہے کہ جو تمہاری والدہ کے پیٹ میں ہے وہ لڑکی ہوگی کیونکہ میرے دل میں یہی القاء ہوا ہے کہ وہ لڑکی ہوگی۔ پس آپ نے ان سے بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ چنانچہ آپ کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئیں۔

### مال میں وصیت

ابن سعد عروہ سے راوی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اپنے مال کا خمس (پانچواں حصہ) راہ خدا میں خرچ کرنے کی وصیت کی اور فرمایا کہ میں اپنے مال سے اسی قدر لیتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال سے لیا ہے۔ یہی حدیث ایک اور طریقہ سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ خمس مال کی وصیت کرنی میرے نزدیک رابع کی وصیت سے افضل ہے اور رابع کی وصیت ثلث سے افضل ہے اور جس نے ثلث مال کی وصیت کی اس نے کچھ بھی

باقی نہیں چھوڑا۔

غیر قرابت دار

سعد بن منصور اپنی سنن میں ذہاب سے راوی میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا خمس مال صرف ان لوگوں کو دیا تھا جو ان کے بالکل قرابت دار ہیں تھے۔

تمام حقوق

عبداللہ بن احمد زوائد الزہد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔ بخدا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی درہم یا دینار ایسا نہیں چھوڑا جس پر خدا کا نام ہو۔ یعنی خدا تعالیٰ کے ہر ایک حق کو ادا کر دیا۔

ابن سعد وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زیادہ بیمار ہوئے تو میں نے تمثیلاً یہ شعر پڑھا۔

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي التَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَصَاقَ بِهَا الصَّدْرُ  
ترجمہ: یعنی تیری زندگی کی قسم ہے کثرت مال آدمی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی جبکہ سانس جلدی جلدی آنے لگتا ہے اور اس کے باعث سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔

یہ شعر سن کر آپ نے اپنے منہ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا۔ یہ بات نہیں ہے بلکہ یوں کہو وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہ دنوں کپڑے دیکھو ان کو دھو کر ان میں ہی مجھے کفنانا کیونکہ زندہ شخص بہ نسبت مردے کی نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔

ابو یعلیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حالت نزع میں آئی تو میں نے یہ شعر پڑھا:

مَنْ لَا يَزَالُ دَمُهُ مُقَنَّعًا فَإِنَّهُ فِي مَرَّةٍ مَدْفُونٌ

ترجمہ: جس شخص کے آنسو ہمیشہ پوشیدہ ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی ضرور بہہ پڑتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وفات پائی تھی۔ میں نے عرض کیا، دو شنبہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری موت کے درمیان بھی یہ رات ہی ہے۔ پس آپ سہ شنبہ کی

رات کوفت ہوئے اور صبح سے پہلے ہی دن کیے گئے۔

عبداللہ بن احمد زوائد الزہد میں بکر بن عبداللہ فرنی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر ؓ قریب المرگ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے سر ہانے بیٹھ کر یہ شعر پڑھا:

كُلُّ ذِي إِسْلٍ مَوْرُدُهُمَا وَكُلُّ ذِي سَلْبٍ مَسْلُوبٍ

ترجمہ: ہر صاحب شتر یعنی سوار کیلئے منزل اور ہر پہننے والے کے لیے لباس ہے۔

حضرت صدیق اکبر ؓ نے ان دونوں مصرعوں کو سمجھ کر فرمایا۔ اے جان پدرا! یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. الخ

احمد رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بطور تمثیل حضرت صدیق اکبر ؓ کے قریب المرگ ہونے کے وقت پڑھا۔

وَأَيْضٌ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَمَانِي عِصْمَةٌ لِّلْأَمَلِ

ترجمہ: بہت سے ایسے روشن رویں ہیں کہ ان کے چہرے کے طفیل بادل سے پانی مانگا جاتا ہے اور وہ تیبوں کے فریاد درس اور بیوگان کے بچاؤ ہیں۔

آپ نے یہ شعر سن کر فرمایا کہ ایسے تو رسول اللہ ﷺ تھے۔

عبداللہ بن احمد زوائد الزہد میں عبادہ بن قیس سے راوی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر ؓ قریب المرگ ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا۔ میرے ان دونوں کپڑوں کو دھو لے۔ ان میں ہی مجھے دفنایا جائے کیونکہ یہ تیرا باپ آدمی ہی رہے گا۔ خواہ اسے اچھے لباس میں دفنایا جائے یا برے میں۔

ابن ابی الدنیا ابوالملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ؓ نے وصیت کی کہ میری بیوی اسماء رضی اللہ عنہا بیت عمیس مجھے نہلائے اور عبدالرحمن میرا لڑکا اس کی مدد کرے۔

آپ کا جنازہ

ابن سعد سعید بن مسیب سے راوی ہیں کہ حضرت عمر ؓ نے آپ پر نماز جنازہ پڑھی اور چار بار تکبیر کہی۔ جنازہ آپ کا قبر اور منبر نبوی کے درمیان رکھا گیا۔

## پہلوئے رسول ﷺ

عردہ اور قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت کی کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پہلو میں دفنانا۔ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کی قبر اس طرح کھودی گئی کہ آپ کا سر مبارک رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کاندھے کے برابر رکھا گیا اور آپ کی لحد کو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، طلحہ، حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا اور یہ بات بطریق عدیدہ مروی ہے۔ آپ رات میں ہی دفن کر دیئے گئے۔

## شہر کانپ اٹھا

ابن سنیب سے مروی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو تمام شہر کانپ اٹھا۔ ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے یہ اضطراب دیکھ کر کہا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے وفات پا گئے۔ آپ نے فرمایا۔ اف کیسی بڑی مصیبت ہوئی۔ ان کے بعد کون خلیفہ ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا یعنی آپ کا دوست۔

ابو مجاہد سے مروی ہے کہ ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی میراث سے حصہ شرعی نہیں لیا۔ اپنے پوتے کو ہی دیدیا۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد چھ مہینے اور چند یوم تک ہی زندہ رہے اور محرم 14ھ میں 97 سال کی عمر میں وفات پائی۔

## انفرادیت

علماء لکھتے ہیں۔ کوئی شخص سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے والد کی زندگی میں خلیفہ نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے سوا کسی خلیفہ کا باپ اس کے مال کا وارث ہوا ہے۔

حاکم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو سال سات ماہ خلافت کی۔ ابن عساکر بسندہ اصحیح سے روایت کرتے ہیں کہ خفاف بن ندبہ سلمی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مرثیہ میں یہ شعر پڑھے۔

لَيْسَ لِحَيِّ فَأَعْلَمَنُهُ بَقَا كُلُّ دُنْيَا أَمْرُهَا لِفَنَّا  
ترجمہ: یہ بات یقینی طور سے جان لے کہ کسی زندہ کو بقا نہیں اور دنیا کا ہر امر فنا کے لیے



ہی ہے۔

وَالْمَلِكُ فِي الْأَقْوَامِ مُسْتَوْدَعٌ عَارِيَةً فَالشَّرْطُ فِيهِ الْأَدَاءُ  
ترجمہ: اور ملک لوگوں میں عاریۃً ودیعت رکھا گیا ہے اور شرط یہ کی گئی ہے کہ یہ اس  
کے مالک کو دے دیا جائے گا۔

وَالْمَرْءُ يَسْعَىٰ وَلَهُ رَاصِدٌ تَنْسُدُّهُ الْعَيْنُ وَتَسَارِ الصِّدَا  
ترجمہ: ہر شخص اپنے کام میں کوشش کرتا ہے حالانکہ اس کے کام میں ایک مانع قوی  
ہے جو اس کا منتظر ہے۔ آنکھیں اس شخص پر روتی ہیں اور پرندہ صد اس کے بدلہ کے لیے  
بلاتا ہے۔

بِهِرْمٌ أَوْ يُقْتَلُ أَوْ يُفْهَرُ يَشْكُوهُ سُقْمٌ لَيْسَ فِيهِ شِفَاءٌ  
ترجمہ: بوڑھا ہو جاتا ہے یا قتل کیا جاتا ہے یا اس پر کوئی غالب آ جاتا ہے اور وہ ایسی  
بیماری سے شکایت کرتا ہے جس میں شفا نہیں ہو سکتی۔

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ هُوَ الْعَيْثُ إِذَا لَمْ تَزْرَعْ الْجَوَزَاءُ بَقْلًا بِمَاءِ  
ترجمہ: حضرت صدیق اکبر ؓ برسنے والا بادل ہیں جبکہ برج جوزا بارش سے کسی  
سبزی کو نہ اگائے۔ (یعنی قحط پڑ جائے)

تَاللَّهِ لَا يُذْرِكُ أَيَّامَهُ دَوْمُ مَزْرٍ مَاشٍ وَلَا دُورِذَا  
ترجمہ: بخدا آپ کا زمانہ کوئی ازار باندھ کر چلنے والا اور نہ کوئی چادر اوڑھنے والا  
حاصل کر سکتا ہے۔

مَنْ يَسْعُ كَسَىٰ يُذْرِكُ أَيَّامَهُ مُنْجِتَهُدَا شُدَّ بَارِضٌ فَضَا  
ترجمہ: جو شخص اس کوشش میں ہے کہ آپ کے زمانہ کو حاصل کرے۔ یعنی آپ جیسے  
اعمال نیک کرے تو میدان زمین میں تنہا پھینکا جائے گا۔

فصل نمبر 34

## آپ سے مروی احادیث

نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ سے ایک سو بیالیس حدیثیں

مروی ہیں اور قلت روایت کا باعث یہ ہے کہ آپ اس زمانہ سے پیشتر ہی وفات پا گئے تھے جبکہ احادیث کا چرچا ہوا اور تابعین نے ان کے سننے حاصل کرنے اور یاد کرنے کی طرف توجہ کی۔

مصنف کہتے ہیں کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حدیث بیعت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انصاری کی شان میں جو کچھ قرآن مجید میں نازل ہوا تھا اور جو کچھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا، سب کچھ ذکر کر دیا تھا اور کوئی چیز بھی ترک نہیں کی تھی۔ اور یہ بات آپ کے اعلم بالقرآن کی وسعت اور سنت نبوی کی غایت درجہ کی حفاظت پر دلالت ہے۔ آپ سے مندرجہ ذیل لوگوں نے روایت کی ہے:

حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ابن عوف، ابن مسعود، حذیفہ، ابن عمر، ابن زبیر، ابن عمرو، ابن عباس، حضرت انس، زید بن ثابت، براء، ابن عازب، حضرت ابو ہریرہ، عقبہ بن حارث، آپ کے بیٹے عبدالرحمن، زید بن ارقم، عبداللہ بن مغفل، عقبہ بن عامر، جہنی، عمران، ابن حصین، ابو ہریرہ، اسلمی، ابوسعید خدری، ابوموسیٰ اشعری، ابوالطفیل اللیثی، جابر بن عبداللہ، حضرت بلال، آپ کی دختر نیک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کی دختر اور تابعین سے مندرجہ ذیل اشخاص نے آپ سے بیعت کی ہے۔ حضرت عمرو کا آزاد غلام اسلم، واسط بجلي وغیرہم، اب مصنف نہایت مختصر طریقے سے آپ سے مروی احادیث لکھتے ہیں اور ہر حدیث کے آخر میں اس کا نام بھی لکھیں گے جس نے اسے روایت کیا ہے اور احادیث درج ذیل ہیں:

- (1) حدیث ہجرت: اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
- (2) حدیث: البحر یعنی الطهور ماءہ الحل میتہ (اس کا پانی پاک کنندہ ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے) اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔
- (3) حدیث مسواک یعنی مطہرة للضم مرصاة للرب منہ کو پاک کرتی ہے اور پروردگار کو راضی کرتی ہے۔ احمد نے اسے روایت کیا ہے۔
- (4) رسول اللہ ﷺ نے بکری کے شانہ کا گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا۔ اسے بزار اور ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

(5) حلال طعام کھانے کے بعد تم سے کوئی شخص وضو نہ کرے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔

(6) رسول اللہ ﷺ نے نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابویعلیٰ اور بزار نے

روایت کیا ہے۔

(7) آخری نماز جو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میرے پیچھے پڑھی، وہ ایک ہی کپڑے میں پڑھی تھی۔ اس کے راوی ابو یعلیٰ ہیں)

(8) جو شخص قرآن مجید کو اسی لب و لہجہ میں پڑھنا چاہے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کے طریقے پر پڑھے۔ اس کے راوی احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔

(9) میں نے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھائیے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا پڑھا کر اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ السُّنُوْبُ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدَکَ وَاَرْحَمِنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

ترجمہ: اے اللہ! بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ پس تو مجھے بخش دے۔ بخش تیرے ہی پاس ہے اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو بخشش باز رحم فرمانے والا ہے۔ (بخاری و مسلم)

(10) جو شخص صبح کی نماز پڑھے تو وہ خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ پس تم اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ توڑو اور جو شخص اسے قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل اوندھا کر کے آگ میں ڈالے گا۔ (ابن ماجہ)

(11) کوئی نبی وفات نہیں پاتا، جب تک کہ وہ اپنی امت سے کسی شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ (بزار)

(12) اگر کوئی شخص گناہ کرے اور بعد ازاں اچھی طرح وضو کرے، پھر دو کعتیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(احمد، اصحاب سنن اربوہ اور ابن حبان)

(13) ہر ایک نبی اسی جگہ وفات پاتا ہے جو جگہ اس کے دفن کے لائق ہوتی ہے۔ (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔)

(14) یہود و نصاریٰ پر خدا لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔

(ابو یعلیٰ)

(15) پس مانندگان کے رونے سے میت پر دوزخ کا آب گرم چھڑکا جاتا ہے۔ (اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے)

(16) آگ سے بچو۔ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ میں دینے سے ہو کیونکہ وہ کبھی کو سیدھا کرتی ہے اور بری طرح مرنے سے بچاتی ہے اور بھوکے اور سیر کو یکساں فائدہ پہنچاتی ہے۔ (ابو یعلیٰ)

(17) فرائض صدقات کی حدیث جو بہت لمبی ہے۔ (بخاری وغیرہ)

(18) ابن ابی ملیکہ آپ سے راوی ہیں کہ جب کبھی بحالت سواری حضرت صدیق اکبر ؓ سے اونٹنی کی مہار گر پڑتی تو آپ اونٹنی کو بٹھا کر اسے پکڑ لیتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہم سے کیوں نہیں فرمایا کرتے کہ ہم ہی آپ کو مہاراٹھا دیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ میرے رسول کریم ؐ نے مجھے حکم دیا ہوا ہے کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کیا کرو۔ (اسے احمد نے روایت کیا۔)

(19) رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ کیا جائے اور قربانی کی جائے۔ (ترمذی ابن ماجہ)

(20) حضرت صدیق اکبر ؓ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اگر میں رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ (دارقطنی)

(21) رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے براء کو اہل مکہ کی طرف یہ پیغام دیکر روانہ فرمایا کہ اس کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ حج کرے۔ (احمد)

(22) میرے منبر اور میرے گھر میں جو قطعہ زمین ہے وہ جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر جنت کے دروازوں سے ایک دروازے پر ہے۔ (ابو یعلیٰ)

(23) رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ابو الہیثم کے مکان پر تشریف لے جانے کا قصہ (بطولہا) ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

(24) سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے اور جو جو کے بدلے برابر برابر کرو۔ زائد لینے والا اور زائد دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے۔ (اسے ابو یعلیٰ اور

بزار نے روایت کیا ہے۔)

- (25) جس نے مومن کو نقصان پہنچایا اس سے فریب کیا۔ وہ ملعون ہے۔ (ترمذی)
- (26) جنت میں بخیل، خائن اور بد اطوار نہ داخل کیا جائیگا اور سب سے پہلے جنت میں وہ غلام داخل ہوگا جو اپنے مالک اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔
- (27) ولاء اسی کے لیے ہے جو آزاد ہے۔ (اسے ضیا مقدسی نے مختار میں روایت کیا ہے۔)
- (28) ہمارا کوئی شخص وارث نہیں ہوتا۔ جو ہم چھوڑ میں وہ صدقہ ہے۔ (بخاری)
- (29) جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کوئی کھانا عنایت کرے اور پھر اس کی روح کو قبض کر لے تو وہ کھانا اس شخص کو عطا ہوتا ہے جو اس نبی کے قائم مقام ہو۔ (ابوداؤد نے اسے روایت کیا۔)
- (30) کفر خواہ قبیل ہی ہو، نسب کو زائل کر دیتا ہے۔ (بزار)
- (31) تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ حضرت صدیق اکبر ؓ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفقہ ہے۔ (بیہقی)
- (32) جس شخص کے راہ خدا میں دونوں قدم غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر آگ حرام کرے گا۔ (بزار)
- (33) مجھے حکم کیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں (بخاری و مسلم وغیرہ)
- (34) ہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہما اللہ کا بندہ اپنے قبیلے کا بھائی بند اور اللہ تعالیٰ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کھینچا ہے۔ (احمد)
- (35) حضرت عمر ؓ سے بہتر شخص پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔)
- (36) جس کسی کے ہاتھ میں مسلمانوں کے کام سپرد کیے گئے اور اس نے ان پر ایسے شخص کو مقرر کیا جو ان کے حقوق نگاہ رکھتا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فریضی اور نفی کام قبول نہیں کرے گا اور اسے دوزخ میں داخل کرے گا اور جس شخص نے کسی کو اللہ تعالیٰ کی حمایت دی اور اس نے اللہ کی حمایت سے کچھ بغیر حق کے توڑ دیا تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ (احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔)
- (37) ماغر اور اس کے رجم کا قصہ۔ (احمد)
- (38) جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا اگرچہ وہ دن میں ستر بار توڑے۔ (ترمذی)

(39) آنحضرت ﷺ نے لڑائی کے بارے میں مشورہ کیا۔ (طبرانی)

(40) جب آیت مَنْ يُعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (پ 5 سورة النساء آیت 123) ترجمہ:

جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا نازل ہوئی۔ (ترمذی ابن حبان وغیرہ)

(41) تم آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ

(پ 7 سورة المائدة آیت 105)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اپنی خبر رکھو پڑھتے ہو (احمد آئمہ اربعہ ابن حبان)

(42) ان دو شخصوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا خدا ہو۔ (بخاری و مسلم)

(43) حَدِيثُ اللَّهِ طَعْنَا وَطَاعُونَا۔ (ابویعلیٰ)

(44) حَدِيثُ شَيْبَتِي هُوَ (سورة هود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔) (دارقطنی فی العلل)

(45) شرک میری امت میں کیڑی کی رفتار سے بھی زیادہ خفی ہوگا۔ (ابویعلیٰ وغیرہ)

(46) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے دعا سکھا دیجئے جسے میں صبح و شام پڑھا کرو۔

(یثم بن کلیب نے اسے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔)

(47) تمہیں لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھنا لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو لہ گاہ

کو گناہوں سے ہلاک کر دیا ہے اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک

کر دیا ہے۔ جب میں نے ان سے اس بات کی یعنی (لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھنے

کی) کثرت دیکھی تو میں نے ان کو خواہشات نفسانی سے ہلاک کرنا شروع کیا۔ اب وہ

خیال کرتے ہیں کہ ہم راہ یاب اور ہدایت پر ہیں۔ (حالانکہ ایسا نہیں) (ابویعلیٰ)

(48) جب آیت لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

(پ 26 سورة الحجرات آیت نمبر 2)

ترجمہ: اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ نازل ہوئی تو

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں تو اب آپ سے بوڑھے فرقت کی طرح باتیں کیا

کروں گا۔ (بزار)

(49) ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان کی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے (اسے احمد نے

روایت کیا ہے۔)

- (50) جس شخص نے عمداً مجھ پر جھوٹ باندھا (یعنی وضعی حدیث بنا کر میری طرف نسبت کی) یا میرے کسی حکم کو رد کیا تو اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔ (ابویعلیٰ)
- (51) اس امر سے نجات نہیں تا آخر حدیث۔ (احمد وغیرہ)
- (52) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں جا کر آواز دیدو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ جب میں باہر نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ملے۔ (یہ حدیث اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت نہایت غریب ہے۔)
- (53) میری امت کے دو گروہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک مرجیہ اور دوسرا قدریہ۔ (دارقطنی)
- (54) اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ (احمد نسائی، ابن ماجہ۔ یہ حدیث آپ سے کئی طریقوں سے مروی ہے۔)
- (55) جب رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے اللّٰهُمَّ حُزْنِي وَ اِخْتِرْنِي یعنی اے اللہ! میرے لیے اس کام کو جمع کر دے اور پسند کر دے۔ (ترمذی)
- (56) دعائے ادائے قرض اللّٰهُمَّ فَارِجِ الْهَمَّ. (بزار اور حاکم)
- (57) جو جسم حرام کھا کر پلا ہوا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو جسم حرام کھا کر پلا ہوا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (ابویعلیٰ)
- (58) جسم کا ہر عضو تیزی زبان کی شکایت کرتا ہے۔ (ابویعلیٰ)
- (59) نصف شعبان کی رات کو خدا تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور اس میں کافر اور اس شخص کے سوا جس کے دل میں کینہ ہو سب لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ (دارقطنی)
- (60) دجال زمین مشرق سے نکلے گا جس کو خراسان کہتے ہیں اور اس کے تابع وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے کوئی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے (ترمذی اور ابن ماجہ)
- (61) میری امت کے ستر ہزار شخص بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ (احمد)
- (62) حدیث شفاعت (بطولہ) (احمد)

(63) اگر لوگ ایک راستے میں چلیں اور انصار دوسرے راستے میں تو میں انصار کے راستے ہی سے چلوں گا۔ (احمد)

(64) قریش ہی امر خلافت کے والی ہیں۔ ان کے نیک نیکوں کے تابع ہوں گے اور برے بروں کے تابع ہوں گے۔ (احمد)

(65) آنحضرت ﷺ نے وفات کے وقت انصار کو وصیت کی کہ اپنے محسنوں کی طرف متوجہ ہونا اور بروں سے چشم پوشی کرنا۔ (بزار و طبرانی)

(66) مجھے ایک ایسی جگہ معلوم ہے جسے عمان کہتے ہیں اور سمندر کے کنارے پر واقع ہے وہاں عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ اگر میرا قاصدان کے پاس پہنچے تو وہ اسے تیر و پتھر نہیں ماریں گے۔ (احمد ابو یعلیٰ)

(67) ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ کھیل رہے تھے۔ آپ نے انہیں کندھے پر اٹھالیا اور فرمایا۔ بخدا یہ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشابہہ نہیں بلکہ یہ تو آنحضرت ﷺ سے بہت مشابہہ ہیں۔ (بخاری) ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث حکم مرفوع میں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ مشابہہ تھے۔

(68) آنحضرت ﷺ ام ایمن رضی اللہ عنہما کے ہاں جایا کرتے تھے۔ (مسلم)

(69) پانچویں دفعہ چور قتل کر دو۔ (ابو یعلیٰ اور دیلمی)

(70) قصہ احد (طیلسی اور طبرانی)

(71) میں حضور ﷺ کے ساتھ تھا کہ آپ کو میں نے اپنے آپ سے کوئی چیز دور کرتے دیکھا اور کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کس چیز کو دفع کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میری طرف بڑھی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ کو کبھی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ (بزار) یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابن کثیر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہیں۔ مگر بہت سی حدیثیں ان سے رہ گئی ہیں اس لیے ہم اس عدد کو پورا کرنے کیلئے جو نووی نے ذکر کیا ہے اور حدیثیں بطور حتم لکھتے ہیں



(72) اہل قرد سے سب لوگوں کو قتل کر دو۔ (طبرانی)

(73) جس کے گھر میں تم آباد ہو اور جس کی زمین میں تم رہتے ہو اور جس کے راستوں میں تم چلتے ہو اس میں عذر کرو۔ (دیلیمی)

(74) مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ جب میری امت سے کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔ (دیلیمی)

(75) ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے جمعہ تک کفارہ گناہ ہو جاتا ہے اور جمعہ کے روز غسل کرنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ (عقیلی)

(76) دوزخ کی گرمی میری امت کے لئے حمام کی گرمی جتنی ہوگی۔ (طبرانی)

(77) جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ جھوٹ ایمان کو دور کر دیتا ہے۔ (ابن لال نے مکارم الاخلاق میں اسے ذکر کیا ہے۔)

(78) جو شخص جنگ بدر میں حاضر ہوا ہے اسے جنت کی خوشخبری دیدو۔ (دارقطنی)

(79) دین اللہ تعالیٰ کا بڑا بھاری جھنڈا ہے۔ اس کے اٹھانے کی کون طاقت رکھتا ہے؟

(دیلیمی)

(80) سورہ یسین مطعمہ کہلاتی ہے۔ (دیلیمی، بیہقی)

(81) بادشاہ عادل اور متواضع زمین پر خدا کا سایہ اور نیزہ ہوتا ہے۔ اسے ہر رات دن میں ستر صد یقوں کا ثواب ملتا ہے۔ (شیخ عقیلی اور ابن حبان)

(82) موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا۔ جو شخص مصیبت زدہ اور بچہ مردہ عورت کو تسلی دے گا اسے کیا اجر ملے گا؟ حکم ہوا کہ میں اسے اپنے سایہ رحمت میں بٹھاؤں گا۔ (ابن شاہین اور دیلمی)

(83) اے اللہ! اسلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ قوت و مدد دے۔ (طبرانی)

(84) کوئی شکار شکار نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی کانٹے دار درخت کاٹا جاتا ہے اور نہ کسی درخت کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں مگر قلت تسبیح کی وجہ سے۔ (ابن راہویہ)

(85) اگر میں تم میں مبعوث نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ (دیلیمی)

- (86) اگر اہل جنت کو کوئی کام کرنا پڑتا تو وہ بزازی کی تجارت کرتے۔ (ابو یعلیٰ)
- (87) جو شخص اپنے یا کسی غیر کے لیے لوگوں کو بلائے (یعنی امیر بننا چاہے) اور لوگوں پر ایک دوسرا امام آگے موجود ہو تو اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ایسے شخص کو قتل کر دو۔ (دیلمی نے اسے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔)
- (88) جو شخص مجھ سے علم یا حدیث لکھے تو جب تک وہ علم یا حدیث باقی رہے گی تب تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ (حاکم)
- (89) جو شخص اللہ کی اطاعت میں برہنہ پا چلے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن فرائض سے سوال نہیں کرے گا۔ (طبرانی)
- (90) جس شخص کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے جوش سے بچا کر اپنے سایہ رحمت میں بٹھائے تو اسے چاہئے کہ مومنوں کے ساتھ سختی نہ کرے بلکہ ان پر مہربانی اور شفقت کرے۔ (ابن لال)
- (91) جو شخص صبح کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے نیت کرے تو اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اگر چہ وہ بعد ازاں خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرے۔ (دیلمی)
- (92) جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے خدا تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ (طبرانی)
- (93) افتراء پرداز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (دیلمی)
- (94) کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہے۔ (دیلمی)
- (95) خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میرا رحم چاہتے ہو تو میری خلقت پر رحم کرو۔ (ابن حبان و دیلمی)
- (96) میں نے رسول اللہ ﷺ سے ازار کی بابت عرض کیا۔ (یعنی کہاں تک لمبا ہونا چاہئے) تو آپ نے پنڈلی کے گوشت کو پکڑا، میں نے عرض کیا کہ کچھ زیادہ کیجئے۔ پھر آپ نے پنڈلی کے گوشت کے مقدم کو پکڑا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ نیچے کرنے میں بھلائی نہیں۔ (ابو نعیم)
- (97) میری میزان اور حضرت علیؓ کی میزان پلڑا عدل میں مساوی ہے۔

(دیلیسی وابن عساکر)

(98) شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کیا کرو کیونکہ تم اگر چہ اسے نہیں دیکھتے لیکن وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ (دیلیسی)

(99) جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیلئے مسجد بنائے، خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ (طبرانی)

(100) جو شخص کچا بیاز یا لہسن کھائے، وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ (طبرانی)

(101) افتتاح، رکوع اور جود میں رفع یدین کرنا۔ (بیہقی)

(102) آنحضرت ﷺ نے ہدیۃ ابو جہل کو اونٹ بھیجا۔ (اسماعیلی)

(103) میری طرف دیکھنا عبادت ہے۔ (ابن عساکر)

فصل نمبر 35

## تفسیر قرآن میں آپ سے مروی

ابوالقاسم بغوی ابن ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے ایک آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کون سی زمیں مجھے سما سکے گی یا کون سا آسمان مجھ پر سایہ لگن ہو سکے گا؟ اگر میں کتاب اللہ کے وہ معنی کر دوں جو منشاء خدا کے خلاف ہوں۔ ابو عبیدہ ابراہیم تمیمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ؓ سے فَاِتَّخَذَتْ وَاَبَاكَ مَعْنٰی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں کس آسمان و زمین میں سما سکوں گا؟ اگر میں نے کتاب اللہ کے منشاء خدا کے خلاف معنی کیے۔ بیہقی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ سے کلامہ کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ اگر ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ سے سمجھو اور اگر غلط ہو تو مجھ سے اور شیطان سے سمجھو۔ میں تو کلامہ اسے سمجھتا ہوں جس کا باپ اور لڑکا کوئی نہ ہو۔ جب حضرت عمر ؓ خلیفہ ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ جس بات کو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے کہا ہوا اسے میں رد کروں۔

ہمارا رب! اللہ

ابونعیم حلیہ میں اسود بن ہلال سے راوی ہیں کہ حضرت ابو بکر ؓ نے اپنے اصحاب سے

کہا کہ تم آیت ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا (پ 24 سورہ حم السجدہ آیت نمبر 30) ترجمہ: بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔

(ترجمہ از کنز الایمان اسمائے سور آیات نمبر صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

اوروا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم (پ 7 سورہ انعام آیت نمبر 32) (ترجمہ: وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمزش نہ کی۔

کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم استقاموا کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے استقامت کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا اور تم یلبسوا کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملایا۔ حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا کہ تم نے اس آیت کو غیر محل پر حمل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ربنا اللہ کہہ کر اس پر استقامت کی اور غیر خدا کی طرف مائل نہ ہوئے اور ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملایا۔

### زیادۃ سے مراد

ابن جریر عامر بن سعد علی سے راوی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ نے آیت للذین احسنوا الحسنی و زیادۃ (پ 11 سورہ یونس آیت 26) ترجمہ: بھلائی والوں کیلئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ (ترجمہ از کنز الایمان) کے بارے میں فرمایا کہ زیادۃ سے مراد خدا تعالیٰ کا دیدار ہے۔

ابن جریر حضرت صدیق اکبر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آیت ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا (پ 24 سورہ حم السجدہ آیت 30) سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ربنا اللہ کہا اور پھر اسی اعتقاد پر وفات پائی۔

### فصل نمبر 36

## اقوال و فیصلے اور خطبات و دعائیں

لاکالی ابن عمر ؓ سے راوی ہیں کہ ایک شخص حضرت صدیق اکبر ؓ کے پاس آیا اور کہا: کیا زنا بھی تقدیر خدا سے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس شخص نے کہا کہ جب خدا تعالیٰ نے اسے میری تقدیر میں لکھا ہے تو مجھے عذاب کیوں دے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

اے مردار کے بیٹے! عذاب کرے گا۔ بخدا اگر میرے پاس کوئی شخص موجود ہوتا تو میں اسے حکم دیتا کہ تیری ناک کاٹ ڈالتا۔

### اللہ سے شرم

ابن ابی شیبہ زبیر سے راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے شرم کرو۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جب میں باہر قضاے حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کے باعث اپنا سر ڈھانک لیتا ہوں۔

عبدالرزاق عمرو بن دینار سے راوی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے شرم کیا کرو۔ بخدا جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو خدا تعالیٰ سے شرم کر کے دیوار سے اپنی کمر لگا لیتا ہوں۔

ابوداؤد ابو عبد اللہ صنابچی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قصار مفصل سے ایک سورت پڑھی اور تیسری رکعت میں آیت رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا پڑھی۔ (پ 3 سورہ عمران آیت 8) ترجمہ: اے رب ہمارے دل میڑھے نہ کر۔ بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ (ترجمہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

### تمہارا اجر

ابن ابی خنیسہ اور ابن عساکر ابن عیینہ سے راوی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی کی تعزیت کرتے تو فرماتے۔ صبر کرنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے اور جزع و فزع کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ موت اپنے ناقبل کی حالت کی نسبت سے تو سخت مگر بہ نسبت اپنے مابعد کے آسان ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات شریف کو یاد کیا کرو۔ تمہاری مصیبت کم ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔

### ذوق عبادت

ابن ابی شیبہ اور دارقطنی سالم بن عبید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ عبادت میں مشغول رہو حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔

ابو قلابہ اور ابوالسفر سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح تک دروازے کو بند رہنے دیا کرو۔

نبیہتی اور ابو بکر بن زیاد نیشاپوری کتاب ”الزیادات“ میں حذیفہ بن اسید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کو دیکھا ہے۔ وہ دونوں صلوٰۃ الضحیٰ اس ارادے سے نہیں پڑھا کرتے تھے کہ ان کا طریقہ اختیار کیا جائے۔

ابوداؤد ابن عباس سے راوی ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ طانی مچلی کھالیا کرو۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گوشت کو حیوان کے بدلے بچنا مکروہ جانتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہی میراث میں دادے کو بمنزلہ باپ کے قرار دیا ہے۔

ابن ابی شیبہ عطاء سے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ دادا بمنزلہ باپ کے ہے جبکہ باپ اس کے تحت نہ ہو اور پوتا بمنزلہ بیٹے کے ہے جبکہ بیٹا اس کے اوپر نہ ہو۔

قاسم سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جو اپنے باپ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے سر میں جوتے لگاؤ کیونکہ اس کے سر میں شیطان گھس آیا ہے۔

ابو مالک سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس کسی مردے پر نماز جنازہ پڑھتے تو فرماتے اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ اَسْلَمَهُ الْاَهْلُ وَالْمَالُ وَالْعَشِيْرَةُ وَالذَّنْبُ عَظِيْمٌ وَاَنْتَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

ترجمہ: اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے۔ اس کے اہل و مال اور اقرباء نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ گناہ اس کا بڑا ہے لیکن تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

سعید بن منصور اپنی سنن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عاصم بن عمر بن خطاب کے معاملے میں فیصلہ ام عاصم کے حق میں فرمایا اور فرمایا! تمہاری

والدہ کی مہربانی اور سونگھنا وغیرہ ہر چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔

### مال سے مراد

بیہقی قیس بن حازم سے راوی ہیں کہ ایک شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرا والد چاہتا ہے کہ میرا سب مال لے لے۔ آپ نے اس شخص کے والد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس کے مال سے اس قدر لے لو جو تمہیں کفایت کرے۔ اس نے عرض کی۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مال سے مراد نفقہ اور بقدر ضرورت ہے۔ احمد عمر بن شعیب سے اور وہ اپنے باپ اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا کرتے تھے۔

بخاری ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی شخص کے ہاتھ کو کاٹ کھایا۔ جب اس شخص نے اپنے ہاتھ کو اس کے منہ سے باہر نکالا تو جھٹکے سے دوسرے شخص کے سامنے کے دو دانت نکل آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جھگڑا لایا گیا تو آپ نے اس کے قصاص کو باطل کیا۔

### بال اور عمامہ

ابن ابی شیبہ اور بیہقی عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کان کے بدلے 15 اونٹ دیت مقرر کی تھی اور فرمایا کہ کان نہ ہونے کے عیب کو بال اور عمامہ پوشیدہ کر لیتے ہیں۔

### دس باتیں

بیہقی وغیرہ ابو عمران جوئی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا اور اس کا سردار یزید بن ابی سفیان کو کیا اور جاتے وقت انہیں فرمایا کہ میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ عورت لڑکے اور بوڑھے لوگوں کو مل نہ کرنا اور نہ ہی کسی میوہ دار درخت کو کاٹنا اور نہ کسی آبادی کو خراب کرنا اور کھانے کے سوا کسی اونٹ یا بکری کو بے فائدہ ذبح نہ کرنا اور نہ کھجور کے درخت کو جڑھ سے اکھاڑنا اور نہ ہی اسے جلانا اور نہ اسراف کرنا اور نہ ہی نخل ظاہر کرنا۔

## ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ

احمد ابوداؤد اور نسائی ابو بزرہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک شخص پر نہایت سخت خفا ہوئے تو میں نے عرض کیا یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تجھے خرابی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔  
**دو گویہ عورتیں**

سیف رحمہ اللہ تعالیٰ ”کتاب الفتوح“ میں اپنے شیوخ سے نقل کرتے ہیں کہ مہاجر بن امیہ جو یمامہ کا حاکم تھا اس کے پاس دو گویہ عورتیں لائی گئیں ان سے ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچو اور سب دشتم آمیز گیت گایا تھا تو اس کا ہاتھ قطع کر دیا گیا تھا اور سامنے کے چاروں دانت اکھڑ دیئے گئے اور دوسری نے مسلمانوں کی بچو میں گیت گائے تھے اس لیے اس کے بھی دانت اکھڑ دیئے گئے اور ہاتھ قطع کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف خط لکھا کہ مجھے تیرا فیصلہ جو تو نے اس عورت کے حق میں کر دیا تھا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں پہنچا ہے۔ اگر تجھے معلوم ہونے سے پہلے فیصلہ نہ کر لیتے تو تمہیں حکم کرتا کہ اسے قتل کر دو کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی بے ادبی کی حد ایسی نہیں جو اوروں کی حد کے برابر ہو۔ جو شخص مسلمان ہو کر ایسی بے ادبی کا مرتکب ہو تو وہ مرتد اور عدار ہے اور جس نے مسلمانوں کی بچو کی تھی اگر وہ مسلمان ہے تو اسے نادیب سے لیے سزا دینی کافی تھی مثلاً نہیں کرنا چاہئے تھا اور اگر وہ کورت ذلت ہے تو جب شرک جیسی بری چیز سے چشم پوشی کرتے ہو تو اس سے بھی چشم پوشی کرنا چاہئے تھی۔ آئندہ مجھے لیے ایسی باتوں میں احتیاط اور نرمی اختیار کرنی چاہئے اور مشلہ سے بچنا چاہئے کیونکہ وہ گناہ ہے اور نفرت دلاسنے والی بات ہے۔ مگر نقل میں یہ باتیں نہیں۔

## زمانی سزا

مالک اور دارقطنی صفیہ بنت ابوعبید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کنواری لڑکی سے زنا کیا اور پھر آجر بھی کر لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے سو درے لگاوا کر جلاوطن کر کے قذح کی طرف بھیج دیا۔



## نہ ہاتھ نہ پاؤں

ابو یعلیٰ محمد بن حاطب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا جس کے چاروں ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے تھے۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اب میں تیرے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے تیرے قتل کا حکم صادر فرمایا اور آپ مجھ سے بدرجہا دانا تھے۔ پھر آپ نے اس کے قتل کا حکم دیدیا۔

## زیور کی تلاش

مالک رحمہ اللہ تعالیٰ قاسم بن محمد سے راوی ہیں کہ اہل یمن سے ایک شخص جس کا ایک ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان ہوا اور شکایت کی کہ حاکم یمن نے مجھ پر ظلم کیا۔ رات کو اس شخص نے اس قدر نوافل پڑھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ میری رات تو اس چور کی رات جیسی بھی نہیں ہے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حرم محترم اسماء بنت عمیس کا ایک زیور کھو گیا۔ گھر والوں کے ساتھ وہ ہاتھ کٹا شخص بھی زیور تلاش کرنے میں مشغول تھا اور کہتا جاتا تھا۔ اے اللہ! جس شخص نے ایسے شریف لوگوں کے گھر میں چوری کی ہے اسے پکڑ۔ تلاش کرتے کرتے وہ زیور سار کے پاس سے ملا اور اس نے کہا کہ اسی ہاتھ کٹے شخص نے میرے پاس بیچا ہے۔ پھر شاید اس نے خود اقرار کر لیا یا گواہوں نے گواہی دی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بخدا! اس نے اپنے آپ کو جو بد عادی ہے وہ مجھے اس کے چوری کرنے سے گراں معلوم ہوئی ہے۔

دارقطنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک ڈھال چرانے کے بدلے جس کی قیمت پانچ درہم تھی ہاتھ قطع کیا تھا۔

## سختی سے مراد

ابونعیم حلیہ میں ابوصالح سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اہل یمن آئے تو وہ قرآن مجید سن کر رونے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ پہلے ہم بھی ایسے ہی (رفیق القلب) تھے۔ مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ابونعیم

کہتے ہیں کہ سخت ہونے سے مراد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مطمئن ہو گئے ہیں۔

### فرمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا آپ کے اہل بیت میں انتظار کیا کرو۔

ابو عبید رضی اللہ عنہ غریب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں فتنے شروع ہونے سے پہلے مر گیا اس کے لیے خوشخبری ہے۔

### چھٹا حصہ

آئمہ اربعہ اور مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے قبضہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت کسی میت کی دادی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے حصہ میراث کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا۔ قرآن مجید میں تمہارا کوئی حصہ مقرر نہیں اور نہ ہی حدیث نبوی میں تیرا حصہ پاتا ہوں۔ پھر کسی وقت آنا تا کہ میں اور لوگوں سے مشورہ کر لوں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دادی کو چھٹا حصہ دلایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کوئی اور بھی موجود تھا۔ اس پر محمد بن مسلمہ اٹھے اور کہا یہ سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو چھٹا حصہ دلوا دیا۔

### حصہ کی تقسیم

مالک رحمہ اللہ اور دارقطنی قاسم بن محمد راوی ہیں کہ کسی میت کی ایک دادی اور ایک نانی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنا حصہ میراث طلب کیا تو آپ نے دادی کو حصہ دلویا۔ اس پر عبدالرحمن بن سہل انصاری نے جو اہل بدر سے تھے عرض کیا۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے اس کو حصہ دلویا ہے کہ اگر وہ مرجاتی تو میت اس کی وارث ہی نہ ہوتی۔ آپ نے وہ حصہ دونوں میں تقسیم کر دیا۔

### رجوع سے ممانعت

عبدالرزاق اپنی تصنیف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ کی بیوی نے طلاق لیکر عبدالرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن وہ بھی اسے خوش نہ

کر سکے اور اس نے پھر رفاعہ کے پاس جانا چاہا تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ وہ تم سے جماع نہ کرے۔ (اس قدر حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے) مگر عبدالرزاق نے اس کے بعد یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ پھر وہ عورت انہی کے پاس رہی اور کچھ مدت کے بعد پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ عبدالرحمن بن زبیر نے مجھ سے جماع کیا ہے۔ مگر پھر بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے زوج اول کی طرح رجوع سے منع فرمایا اور فرمایا کہ شاید عبدالرحمن بن زبیر نے اسے رفاعہ کی طرف بھیجے پر مصالحت کر لی ہو اور اس طرح اس کا دوسری دفعہ نکاح نہ ہو سکے اور پھر یہ عورت حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں دونوں صاحبوں کی خدمت میں حاضر ہوئی، مگر آپ نے اسے رفاعہ کی طرف رجوع کرنے سے منع کیا۔

### بنان کا سر

نبی عقیقہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص اور شرجیل بن حسنہ نے مجھے حضرت صدیق اکبر ؓ کی خدمت میں شام کے بطریق "بنان" کا سر دیکر روانہ کیا۔ جب میں حضرت ابو بکر ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس بات کو کمرہ سمجھا تو میں نے عرض کی۔ اے خلیفہ رسول ﷺ اوہ بھی (یعنی عیسائی) ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں اہل فارس اور اہل روم کی اقتداء نہیں کرنی چاہئے۔ (کسی کے بابت) صرف خبر دے دینی یا خط لکھ دینا ہی کافی ہے۔

### جاہلیت کی رسم

بخاری میں بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ انیس کی ایک عورت کے پاس آئے۔ انہیں نہ سب گتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ روایت چوہہ لٹکائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کھٹکوں میں لٹکائی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے چپ رہنے کا عزم یا الحزم کر لیا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ بات چیت کر چپ نہ رہو کیونکہ یہ ناجائز ہے اور جاہلیت کی رسم ہے۔ یہ سن کر وہ بولنے لگی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مہاجرین میں سے ایک شخص ہوں۔ اس نے کہا مہاجرین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قریش سے۔ پھر اس نے کہا کہ قریش کے کس گروہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ تو بڑی باتونی نکلی۔ میں ابو بکر صدیق ؓ ہوں۔

ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم اس امر صالح (یعنی اسلام) پر جو جاہلیت کے بعد ظاہر ہوا ہے کس طرح ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک تمہارے امام اس پر ثابت قدم رہے تم بھی اس وقت تک ثابت قدم رہ سکتے ہو۔ اس نے کہا امام کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آخر تمہاری قوم میں رئیس و اشراف نہیں ہیں جو تم پر حکم کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پس وہی لوگ امام ہیں۔

### کہانت سے بات

بخاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ کا ایک غلام تھا جو ضروری کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر ؓ نے اسے کھایا تو اس غلام نے کہا آپ جانتے تھے یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مال کیسا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کو کہانت سے بات بتائی تھی اور میں کہانت سے اچھی طرح واقف نہیں تھا بلکہ ”انگل پتو“ سے میں نے فریب دینے کی خاطر اسے کچھ بتا دیا تھا۔ اب وہ شخص مجھے ملا۔ یہ چیز مجھے دی جس سے آپ نے کچھ کھایا ہے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر ؓ نے انگی اپنے منہ میں ڈال کر قے کر دی۔

احمد زہد میں ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے سوا مجھے ایسا اور کوئی شخص معلوم نہیں جس نے کھانا کھانے کے بعد اسے قے کر کے باہر نکل دیا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالا قصہ کو بیان کیا۔

نسائی اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر ؓ حضرت صدیق اکبر ؓ کے پاس آئے تو اس وقت آپ اپنی زبان چکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسی نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے۔

ابو نعیمہ غریب میں حضرت صدیق اکبر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بدر میں بنی نوف کے پاس سے گزرے اور وہ ایک ہمسائے سے لڑ رہے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہمسائے سے نہ لڑو کیونکہ یہ باتیں باقی رہ جائیں گی اور لوگ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔

۱. پیش گوئی کرتا۔ (صاحبزادہ محمد ہمشیرا لوی نظامیہ لاہور)

## خطبہ

ابن عساکر موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تو فرمایا کرتے تھے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَحْمَدُهُ وَاسْتَعِينُهُ وَاسْتَلْتُهُ الْكَرَامَةَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ  
 قَدْ دَنَا أَجَلِي وَأَجَلِكُمْ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَسِرَاجًا مُبِيرًا لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا  
 وَيُبْحِقُ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِمُهَا فَقَدْ  
 ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا. أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَاعْتِصَامِ بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي شَرَعَ لَكُمْ  
 وَهَدَاكُمْ بِهِ فَإِنَّ جَوَامِعَ هُدَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ  
 لِمَنْ وُلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ حَفِظَ  
 مِنَ الْهَوَى وَالطَّمَعِ وَالغَضَبِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفَخْرَ وَمَا فَخِرَ مِنْ خَلْقٍ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ  
 إِلَى التُّرَابِ يَعُودُ ثُمَّ يَا كَلَّةَ الدُّوْدِ ثُمَّ هُوَ الْيَوْمَ حَيٌّ وَعَدَا مَيِّتٌ فَأَعْمَلُوا يَوْمًا  
 بِيَوْمٍ وَسَاعَةً بِسَاعَةٍ وَتَوَفُّوا دُعَاءَ الْمَظْلُومِ وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْمَوْتَى وَاصْبِرُوا  
 فَإِنَّ الْعَمَلَ كُلَّهُ بِالصَّبْرِ وَاحْذَرُوا وَاحْذَرُوا وَاعْمَلُوا وَالْعَمَلُ يَقْبَلُ وَاحْذَرُوا  
 مَا حَذَرَ كُمْ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ وَسَارِعُوا فِيْمَا وَعَدَّ كُمْ اللَّهُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَأَفْهَمُوا وَتَفَقَّهُوا  
 وَاتَّقُوا وَتَوَفُّوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ مَا أَهْلَكَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَمَا نَجَّى بِهِ مَنْ  
 نَجَّى قَبْلَكُمْ قَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ فِي كِتَابِهِ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَمَا يُحِبُّ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمَا  
 يَكْرَهُ فَإِنِّي لَا أَوْلُو كُمْ وَنَفْسِي نَضْحًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ  
 وَاعْمَلُوا أَنْكُمْ مَا أَخْلَصْتُمْ لِلَّهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَرَبِّكُمْ أَطْعَمَ وَحَطَّكُمْ حَفِظْتُمْ  
 وَاعْتَبَطْتُمْ وَمَا تَطَوَّعْتُمْ بِهِ لِدِينِكُمْ وَاجْعَلُوا نَوَافِلَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ تَسْتَوْفُوا لِسَلْفِكُمْ  
 وَتُعْطُوا جِزَاءَهُمْ حِينَ فُقِرْتُمْ وَحَاجَتِكُمْ إِلَيْهَا ثُمَّ تَفَكَّرُوا عِبَادَ اللَّهِ فِي إِخْوَانِكُمْ  
 وَصَحَابَتِكُمْ الَّذِينَ مَضَوْا قَدْ وَرَدُوا عَلَى مَا قَدَّمُوا فَأَقَامُوا عَلَيْهِ وَحَلُّوا فِي الشَّقَاءِ  
 وَالسَّعَادَةِ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ

خَلَقَهُ نَسَبًا يُعْطِيهِ بِهِ خَيْرًا وَلَا يَصْرِفُ عَنْهُ سُوءًا إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ  
لَا خَيْرَ فِي خَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَلَا شَرَّ فِي شَرِّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا  
وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَصَلُّوا عَلَيَّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

ترجمہ: ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کرتا ہوں اور  
اسی سے مدد مانگتا ہوں اور مرنے کے بعد اسی سے بزرگی طلب کرتا ہوں کیونکہ میری اور تمہاری  
موت قریب آگئی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے  
لائق نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق دیکر خوشخبری دینے والا  
اور ڈرسانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے تاکہ زندہ آدمیوں کو ڈرائیں اور کافروں پر اتمام  
حجت ہو۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فرمانبرداری کی تو وہ راہ  
پانے والا ہو گیا اور جس نے ان کی نافرمانی کی تو وہ کھلے طور پر گمراہ ہو گیا۔ میں تمہیں اللہ سے  
ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کے اس امر کے ساتھ جس کو اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اور اس سے  
تمہیں ہدایت دی ہے، چنگل مارنے کی وصیت کرتا ہے کیونکہ کلمہ اخلاص کے بعد خدا تعالیٰ کی  
ہدایت کی جامع بات اللہ تعالیٰ کے حاکم کردہ شخص کی فرمانبرداری کرتا ہے کیونکہ جو شخص اللہ اور  
ان حاکموں کی جو نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، فرمانبرداری کرتا ہے کیونکہ جو شخص  
اللہ اور اس کے حاکموں کی جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، فرمانبرداری کرے  
تو اس نے خلاصی پالی اور اپنا حق ادا کر دیا۔ تمہیں چاہئے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی سے  
بچتے رہو کیونکہ جو شخص خواہشات اور طمع و غضب سے بچتا رہا، اس نے خلاصی پالی۔ تمہیں فخر سے  
بھی بچتے رہنا چاہئے اور وہ شخص فخر کر ہی کیا سکتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور پھر مٹی میں ہی  
جائے گا اور وہاں اسے کیڑے کھائیں گے۔ آج وہ زندہ ہے۔ مگر کل وہ مردہ ہوگا۔ اس لیے  
تمہیں چاہئے کہ ہر دن اور ہر وقت عمل کرتے رہو اور مظلوم کی دعا سے بچتے رہو اور اپنے آپ کو  
مردوں سے شمار کرو اور صبر اختیار کرو کیونکہ سب کام صبر سے ہی انجام پاتے ہیں اور خوف کرتے  
رہو کیونکہ خوف نفع دیتا ہے اور اعمال نیک کرتے رہو کیونکہ وہ قبول ہوتے ہیں اور جس چیز کے

عذاب سے خدا نے تمہیں ڈرایا ہے اس سے ڈرتے رہو اور جس چیز کے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے کرنے میں جلدی کرو اور لوگوں کو سمجھاؤ اور خود بھی سمجھو اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات تمہیں کھول کر بتا دی ہے جس کے باعث پہلے لوگ ہلاک ہوئے اور اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے جس کے باعث ان کو نجات ملی۔ قرآن مجید میں اس نے تمہارے لیے حلال و حرام کی چیزیں بیان کر دی ہیں اور وہ اعمال بھی بیان کیے ہیں جو اسے پسند ہیں یا ناپسند ہیں۔ میں اپنے آپ کو اور تم کو نصیحت کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ ہی سے بد چاہی گئی ہے اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت خدا تعالیٰ سے ہی ہے۔ تمہیں معلوم رہے کہ تم نے اپنے رب کے لیے عمل خالص نہیں کیے۔ تمہیں چاہئے کہ اپنے رب کی تابعداری کرو اور اپنے نصیب کی حفاظت کرو اور اعمال نیک میں رشک کرو اور جو کچھ تم نے اپنے دین کے لیے بطور نوافل ادا کیا ہے اسے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرو۔ اپنے سلف کا حق پوری طرح ادا کرو اور ان کو بدلہ دو۔ وہ تمہیں اس وقت جب کہ تم ان کی طرف محتاج ہو گے بدلہ دیں گے۔ اے بندگانِ خدا! اپنے بھائیوں اور ان کے دوستوں میں جو گزر گئے ہیں، غور کرو کہ وہ اس چیز سے جاملے ہیں جس کو انہوں نے آگے بھجھا تھا اور اس پر قائم رہے تھے اور اب وہ موت کے بعد دوزخ میں یا بہشت میں نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور خلقت میں سے کسی شخص اور اس کے درمیان نسبت نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ایسے بھلائی دے اور برائی کو روک لے۔ یہ بات صرف اس کی اعانت اور اتناج امر سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس بھلائی میں کوئی غولی نہیں جس کے بعد آگ ہو اور اس برائی میں کوئی برائی نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ یہ بات کہہ کر اب میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آمین ہے نبی ﷺ پر درود اور سلام بھیجو۔

حمد و ثناء کے بعد

حاکم اور بیہقی عبد اللہ بن حکیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمہیں خط لکھا تو بے حد تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور پھر فرمایا:

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَإِنْ تَسُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَإِنْ تَخَلَطُوا بِالرَّغْبَةِ  
بِالرَّهْمَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أُنْثَى عَلَى زَكْرِيَّاءَ وَأَهْلِيهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ

فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ  
 أَنَّ اللَّهَ قَدِ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَائِقَكُمْ وَأَشْرَى مِنْكُمْ  
 الْقَلِيلَ الْفَاقِي بِالْكَبِيرِ الْبَاقِي وَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ فِيكُمْ وَلَا يَطْفَأُ نُورُهُ وَلَا تَنْقُضِي  
 عَجَابُهُ فَاسْتَضِيئُوا بِنُورِهِ وَانْتَصِحُوا بِكِتَابِهِ وَاسْتَضِيئُوا مِنْهُ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ فَإِنَّهُ  
 إِنَّمَا خَلَقَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَوَكَّلَ بِكُمْ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ثُمَّ  
 اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ تَعْدُونَ وَتَرْحُونَ فِي أَحَلِّ قَدَغَيْبٍ عَنْكُمْ عِلْمُهُ فَإِنِ  
 اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقُضِيَ الْأَجَلَ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا فِي  
 ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سَابِقًا فِي أَحْوَالِكُمْ قَالِ انْ تَقْضِي أَحْوَالَكُمْ فَتَرُدُّكُمْ إِلَى  
 لَبْسِ عَمَلِكُمْ فَإِنِ قَوْمًا جَعَلُوا أَسْمَاءَهُمْ لِقُرْبِهِمْ وَسَمُّوا أَنْفُسَهُمْ بِهَا كُمْ أَنْ  
 تَكْفُرُوا بِمَا هَلُمُّ فَالْوَحَا الْوَحَا لَكُمْ الشُّعَاءُ لِحَا هَا وَرَبِّكُمْ أَحَدًا حَسْبًا امْرُؤَ  
 سَبُوعٍ

ترجمہ: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے لائق ہونے کی جدوجہد کرو اور نہرت  
 اور خوف کو آپس میں ملاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا علی نبینا وعلیہ السلام اور ان کی زوجہ بہن  
 والسلام کی صفات بیان کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے اور ہم  
 نے زجاجہ و خوف سے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اور وہ ہمارے نہایت درجہ کے تابع اور تھے۔ اے  
 بندگان خدا! تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے عوض تمہاری جانوں کو گروی رکھ لیا  
 ہے اور اس بات پر تم سے عہد و پیمان لے لیے ہیں اور تم سے تھوڑی سی نالی چھڑک لیا کہ تمہاری  
 اور ہلکی چیز کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے جس کا نور  
 کبھی نہیں بجھے گا اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پس تم اس کے نور سے روشنی  
 حاصل کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس سے اپنے آپ کو منور کر کے یوم ظلمت کے لیے  
 تیار ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور کرام کاتبین تم پر مامور  
 کیے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ آئے بندگان خدا! جان لو کہ تم ایک ایسی  
 موت میں صبح و شام کرتے ہو جس کی انتہا کا علم تم سے پوشیدہ ہے۔ اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ  
 تمہاری عمریں ایسے حال میں ختم ہوں کہ تم اللہ کے عمل میں مشغول ہو تو یہ بات کرو۔ مگر یہ بات



تم خدا کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ عمروں کے ختم ہونے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو تاکہ وہ تمہیں برے اعمال کی طرف نہ لے جائیں کیونکہ بعض لوگوں نے اپنی عمروں کو غیروں کے لیے بنایا اور اپنی جانوں کو بھول گئے۔ پس میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم نے ان کی روش اختیار نہیں کرنی۔ پس جلدی کرو جلدی کرو اور نجات طلب کرو نجات طلب کرو کیونکہ تمہارے پیچھے ایک جلد طلب کرنے والا لگا ہوا ہے جس کا حکم بہت تیز ہے۔

### دورانِ خطبہ

ابن ابی الدنیا اور احمد زہد میں اور ابو نعیم حلیہ میں یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ خطبے میں فرمایا کرتے تھے:

أَيْنَ الْوُضَاةِ الْحَسَنَةِ وَجُوهُهُمُ الْمُعْجُونَ بِشَبَابِهِمْ أَيْنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ  
بَنُوا الْمَدَائِنَ وَحَصَّنُوهَا أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْتَظُونَ الْعَلْبَةَ فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ  
قَدْ تَضَعُضَعُ أَرْكَانُهُمْ حِينَ أَفْنَى بِهِ الدُّهُورُ وَأَصْبَحُوا فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ  
الْوَحَا الْوَحَا النَّجَا النَّجَاد

ترجمہ: وہ خوبصورت لوگ کہاں ہیں جن کی خوبصورتی سے لوگ تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے شہر بنائے اور انہیں مضبوط کیا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو میدانِ جنگ میں غالب رہتے تھے۔ زمانے نے جب انہیں فنا کیا تو ان کے ارکان نیست و نابود ہو گئے اور وہ قبر کے اندھیرے میں جا پڑے۔ پس جلدی کرو جلدی کرو اور نجات طلب کرو نجات طلب کرو۔

### اللہ کے اہل ذمہ

احمد زہد میں روایت کرتے ہیں کہ سلمان ؓ نے حضرت ابو بکر ؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ اے سلمان! اللہ سے ڈرتا رہو اور جان لے کہ عنقریب ہی فتوح ہوں گی۔ میں نہیں جانتا کہ ان سے تیرا حصہ کتنا ہوگا؟ کیا وہ جو تو اپنے پیٹ میں ڈال لے گا یا اسے اپنی پیٹھ پر لاد لے گا۔ جان لے کہ جو شخص پانچوں وقت نماز ادا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں صبح کرتا ہے اور اسی کے ذمے میں شام کرتا ہے۔ پس تم خدا تعالیٰ کے اہل ذمہ سے کسی کو قتل نہ کرنا (اور اگر کرو گے) تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑو گے اور

خدا تعالیٰ اس کے عوض تمہیں آگ میں اوندھا کر کے ڈالے گا۔

مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیندار اور صالح لوگ یکے بعد دیگرے مرتے جائیں گے، حتیٰ کہ دنیا میں ایسے لوگ رہ جائیں گے جو کھجوروں یا جو کے پس خوردہ کی طرح ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی پروا نہیں کرے گا۔

سعید بن منصور اپنی سنن میں معاویہ بن قرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے:

دعا: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ اٰخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ لِقَاءِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ میری عمر کا بہتر حصہ آخری عمر کو بنا اور میرے عملوں سے بہتر ان سے آخری عمل کو کر اور میرے دنوں سے بہتر اپنے دیدار کا دن بنا۔

### آپ کی دعا

دعا: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اٰخِرَ مَا تُعْطِيْ خَيْرَ رِضْوَانِكَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ۔

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو آخرت میں میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ! (تو) بھلائی اور نیکی سے جو آخری چیز مجھے عطا کرے وہ تیری خوشنودی ہو اور جناتِ نعیم کے بلند درجے ہوں۔

### رونا

عرفجہ سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص رونا رو سکتا ہے تو اسے چاہئے کہ رو لے ورنہ ایک دن وہ رلا یا جائے گا۔

عزراہ سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کو دو باتوں نے ہلاک کیا سونے اور زعفران نے۔

### اپنی ہی بغل میں

مسلم بن یسار سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ مسلمان کو ہر بات کا

اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ رنج میں بھی اور جوتی کا تمہ ٹوٹ جانے کے رنج سے بھی اور مال کے گم ہو جانے کے رنج سے بھی۔ اگر چہ وہ بعد ازاں اس مال کو اپنی بغل ہی میں موجود پائے۔

میمون بن مهران سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ؓ کے پاس ایک بڑے پروں والا کوا شکار کر کے لایا گیا تو آپ نے اسے الٹ کر فرمایا کہ جو جانور شکار کیا جاتا ہے یا جو درخت کا ٹاٹا جاتا ہے اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وہ تسبیح سے رک جاتا ہے۔

### محض اللہ

بخاری ادب میں اور عبداللہ بن احمد زوائد الزہد میں صنابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں محض اللہ (صرف اللہ کی رضا کے لئے) دعا کرنی بہت جلد مستجاب ہوتی ہے۔

عبداللہ بن احمد زوائد الزہد میں عبید بن عمیر سے اور وہ لبید شاعر سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے یعنی لبید نے حضرت صدیق اکبر ؓ کی خدمت میں حاضر کر یہ شعر پڑھا۔ اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ تَرْجَمُهُ: اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا مصرعوں پڑھا۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَّا مَحَالَةَ زَائِلٌ تَرْجَمُهُ: اور ہر ایک نعمت لامحالہ زائل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ جب لبید وہاں سے چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شاعر بسا اوقات ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں جو دانائی کی ہوتی ہے۔

### فصل نمبر 37

### اللہ سے ڈرنا

ابو ابراہیم حاکم مجاز بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک چڑیا کو سائے میں بیٹھے دیکھ کر حسرت سے ایک آہ کھینچ کر فرمایا۔ اے جانور! تجھے مبارک ہو کہ تو درختوں کے پھل کھاتا ہے اور ان کے سائے میں آرام لیتا ہے اور تجھ سے کسی بات کا حساب نہ ہوگا۔ کاش کہ ابو بکر تیرے جیسا ہوتا۔

ابن عساکر اصمعی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر ؓ کی کوئی شخص

مدح کرتا تو آپ فرماتے اے اللہ! تو مجھ سے میرے نفس کا اچھی طرح واقف ہے اور میں ان لوگوں سے اپنے نفس کا اچھی طرح واقف ہوں۔ اے اللہ! جیسا ان کا میرے بارے میں خیال ہے مجھے اس سے بہتر بنادے اور میرے وہ گناہ بخش دے جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے اور ان کی بات سے مجھے گرفت نہ کرنا۔

### پہلو کا بال

احمد زوائد الزہد میں ابی عمران جوئی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مومن پہلو کا ایک بال ہی ہوتا۔ احمد زوائد الزہد میں مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابن زبیر ؓ نماز میں کھڑے ہوتے تو خوفِ الہی کے ارے ستون کی طرح بے حس و حرکت ہو جاتے اور حضرت صدیق اکبر ؓ کا بھی یہی حال تھا۔

حسن ؓ سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا۔ بخدا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جسے جانور کھا لیتے یا لوگ اسے کاٹ ڈالتے۔ حضرت قتادہ ؓ سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ؓ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں گھاس پات ہوتا اور جانور مجھے کھا لیتے۔

### پانچ یا چھ دینار

ضمیرہ بن حبیب سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ؓ کے ایک صاحبزادے وفات کے وقت بار بار سر ہانے کی طرف دیکھتے تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو لوگوں نے حضرت صدیق اکبر ؓ سے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے صاحبزادے کو بار بار اس سر ہانے کی طرف نظر کرتے دیکھا ہے اور جب سر ہانے کو اٹھا کر دیکھا گیا تو اس کے نیچے شاید پانچ یا چھ دینار تھے۔ یہ سن کر آپ نے حیرت اور تعجب سے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے فرمایا اے فلاں میں نہیں سمجھتا کہ تم کو اس میں عذر کی کوئی گنجائش مل سکے۔

### خبر مرگ

ثابت بنابی سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ؓ اس شعر کو بطور مثال پڑھا کرتے تھے۔  
لَا تَسْأَلُ تَسْأَلُ حَبِيبًا حَتَّى تَكُوْنَهُ وَقَدْ يَرْجُو الْفَتْحَ الرَّجَاءَ يَمُوْتُ دُوْنَهُ

ترجمہ: تجھے ہمیشہ کسی نہ کسی کی خبر مرگ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ تو خود کسی دن وہ خبر ہو جائے گا، یعنی تو بھی مر جائے گا اور تیری خبر دوسروں کو ملے گی۔ آدی کبھی ایسی امید بھی کرتا ہے کہ اس امید کے حصول سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔

ابن سعید ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت صدیق اکبر ﷺ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں تھا جو نامعلوم بات کے بتانے میں آپ جیسی احتیاط کرتا ہو اور آپ کے بعد پھر حضرت عمر ﷺ سے بڑھ کر اس صفت والا شخص کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر ﷺ کے سامنے ایک معاملہ پیش ہوا تو آپ کو اس کا فیصلہ نہ ہی قرآن مجید میں ملا اور نہ حدیث شریف میں، تو آپ نے فرمایا! میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، اگر درست ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر اس میں غلطی واقع ہوئی تو مجھ سے ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔

### فصل نمبر 38

## حضرت صدیق اکبر ﷺ ایک مہم

سعید بن منصور سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا۔ گویا تین چاند آپ کے گھر میں آ پڑے ہیں۔ پھر اسے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے جو سب سے بڑھ کر معبر تھے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو تمہارے گھر میں تمام دنیا سے بہتر تین آدمی دفن ہوں گے۔ جب آنحضرت ﷺ نے وفات پائی تو حضرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا کہ یہ لے تیرے چاندوں میں سب سے بہتر چاند آ گیا ہے۔ عمر بن شریک سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کالی بکریوں کو بانگ رہا ہوں، پھر میں نے سفید بکریوں کو بانگنا شروع کیا اور وہ اس قدر بڑھیں کہ کالی بکریاں ان میں معلوم بھی نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت ابوبکر ﷺ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! وہ سیاہ بکریاں عرب ہیں جو کثرت سے اسلام آئیں گے اور سفید بکریوں سے عجم مراد ہیں جو اس کثرت سے ایمان لائیں گے کہ ان کی کثرت کے باعث عرب ان میں دکھائی بھی نہیں دیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ مجھے صبح کو فرشتے نے

بھی یہی تعبیر بتائی ہے۔

### رسول اکرم ﷺ کا خواب

ابن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا۔ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں ایک کنویں سے پانی نکال رہا ہوں۔ اتنے میں میرے پاس کالی بکریاں آئیں اور پھر سرخ اور سفید بکریاں آئیں۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے عرض کیا کہ ذرا توقف فرمائیے۔ میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا تعبیر بیان کی۔

### تعبیر دان

ابن سعد محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کر تعبیر دان حضرت صدیق اکبر ﷺ تھے۔

### مغفرت و رحمت

ابن سعد ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک خواب دیکھا اور اسے اس طرح صدیق اکبر ﷺ سے بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے اور تم نے ایک میزھی میں ایک دوسرے سے پیش دستی چاہی ہے۔ لیکن میں ڈھائی درجے آگے گزر گیا ہوں۔ آپ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت و رحمت کی طرف اٹھائے گا اور میں آپ کے بعد ڈھائی سال تک زندہ رہوں گا۔

### کمال فراست

عبدالرزاق اپنی تصنیف میں ابی قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ میں خون کے رنگ کا پیشاب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی عورت سے حالت حیض میں ہم بستر ہوتے ہو گے۔ اس سے توبہ کرو پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔

فائدہ: یہی ”دلائل“ میں عبداللہ بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے عمرو بن عاص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ جب میدان جنگ میں پہنچے تو عمرو بن عاص نے لوگوں کو آگ جلانے سے منع

کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے آشفٹ ہوئے اور چاہا کہ ان کو سختی سے پوچھیں۔ مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لڑائی کے فنون سے واقف ہونے کی وجہ سے امیر بنایا ہے اور اب یہ ان کی رائے ہے اس پر عمل کرنا چاہئے۔

فنون جنگ

بیہی ابی معشر سے اور وہ اپنے بعض مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میں جو معمولی درجے کے شخص کو لوگوں پر امیر بنا دیا کرتا ہوں، حالانکہ اس سے افضل موجود ہوتے ہیں تو اس کا یہ باعث ہے کہ وہ شخص فنون جنگ اور اس کے داؤ بیچ سے خوب واقف ہوتا ہے۔

### فصل نمبر 39

## بڑا کون ہے؟

حنیفہ بن خیاط اور احمد بن حنبل اور ابن عساکر بزید بن اہم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ میں بڑا ہوں یا تم؟ آپ نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے بڑے اور بزرگ ہیں اور میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں۔ (یہ حدیث مرسل اور غریب ہے) اگر یہ صحیح ہو تو اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ درجے کی ذکاوت اور ذہانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا علم ہوتا ہے۔ مگر مشہور یہ ہے کہ یہ جواب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سعید بن یربوع نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور لفظ اس کے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم دونوں سے کون بڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے بڑے اور افضل ہیں اور میں عمر میں بڑا ہوں۔

### دنیا کی میل

ابو نعیم سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اہل بدر کو حامل کیوں مقرر نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا مجھے ان کا مرتبہ تو معلوم ہے

مگر میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی میل سے میں انہیں ناپاک کروں۔

احمد زوائد الزہد میں اسماعیل بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر ؓ نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا تو سب کو یکساں دیا۔ اس پر حضرت عمر ؓ بولے۔ آپ اہل بدر اور دوسرے لوگوں کو یکساں بناتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ؓ نے فرمایا کہ دنیاوی مال تو قوت لایموت کے لیے ہوتا ہے اس لیے جس قدر بہت سے اشخاص کو ملے اتنا ہی بہتر ہے اور ان کی بزرگی ان کے اجر میں سے ہے۔

## فصل نمبر 40

### نقش خاتم

احمد زوائد الزہد میں ابو بکر بن حفص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ؓ گرمیوں میں روزے رکھا کرتے تھے اور سردیوں میں افطار فرمایا کرتے تھے۔ ابن سعد حیان صالح ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ؓ کا نقش خاتم القادر اللہ تھا۔

فائدہ: طبرانی موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے چار شخص معلوم نہیں جو ایک ہی نسل سے ہوں اور آنحضرت ؐ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ سوائے ان چار کے ابوقحافہ ابو بکر، عبدالرحمن بن ابی بکر اور عتیق بن عبدالرحمن (رضی اللہ عنہم) جن کا نام محمد تھا۔

ابن مندہ اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مہاجرین میں سے حضرت صدیق اکبر ؓ کے والد کے سوا کسی کا باپ ایمان نہیں لایا۔

فائدہ: ابن سعد اور بزار بسند حسن حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ؐ کے اصحاب میں سے سب سے سن رسیدہ حضرت صدیق اکبر ؓ اور اسمیل بن عمرو بن بیضاء تھے۔

فائدہ: بیہقی دلائل میں روایت کرتے ہیں کہ اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے فرمایا فتح مکہ کے دن ابوقحافہ ؓ کی لڑکی باہر نکلیں تو انہیں سوار ملے اور ان میں سے کسی نے چاندی کا طوق جو ان کے گلے میں تھا اتار لیا۔ جب آنحضرت ؐ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر ؓ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دے کر



پوچھتا ہوں کہ میری بہن کے طوق کا حال کسی کو معلوم ہے مگر بخدا کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دوسری بار بھی اسی طرح کہا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے اپنی بہن سے کہا! اپنے طوق پر صبر کر کیونکہ آج کل لوگوں میں امانت باقی نہیں رہی۔

فائدہ: حافظ ذہبی نے ایک جگہ تمام ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے زمانے میں کسی خاص فن میں یگانہ روزگار ہوئے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر ؓ نسب میں فرد تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ؓ امر خدا میں قوی ہونے میں فرد تھے۔ حضرت عثمان بن عفان ؓ حیا میں اور حضرت علی ؓ قضاء میں، ابی بن کعب قرأت میں، زید بن ثابت فرائض میں، ابو عبیدہ بن جراح امانت میں، ابن عباس تفسیر میں، ابو ذر صدق لہجہ میں، خالد بن ولید شجاعت میں، حسن بصری وعظ میں، وہب بن منبہ قصہ گوئی میں، ابن سیرین تعبیر میں، نافع قرأت میں، ابو حنیفہ فقہ میں، ابن اسحاق مغازی میں یعنی غزروں کے حالات یاد رکھنے میں، مقاتل تاویل میں، کلبی قصص قرآن میں، غلیل عروض میں، فضیل بن عیاض عبادت میں، سیبویہ نحو میں، مالک علم میں، شافعی فقہ حدیث میں، ابو عبیدہ غریب میں، علی بن مدینی علل میں، یحییٰ بن معین علم اسماء الرجال میں، ابو تمام شعر میں، احمد بن حنبل سنت میں، بخاری حدیث پر کھنے میں، جنید تصوف میں، محمد بن نصر مروزی اختلاف میں، جبائی اعتزال میں، اشعری علم کلام میں، محمد بن زکریا رازی طب میں، ابو معشر نجوم میں، ابراہیم کرمانی تعبیر میں، ابن نباتہ خطب میں، ابو الفرج اصفہانی محاضرات میں، ابو القاسم طبرانی عوالی میں، ابن خرم ظاہر میں، ابو الحسن بکری کذب میں، حریری مقامات میں، ابن مندہ سفر کی فراخی میں، منتہی شعر گوئی میں، موصلی گانے میں، صولی شطرنج میں، خطیب بغدادی تیز پڑھنے میں، علی بن ہلال خط میں، عطاء سلیمی خوف میں، قاضی فاضل انشاء میں، اصمعی نوادر میں، اشعب طبع میں، معبد غنا میں، ابن سینا فلسفہ میں۔

## حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

امیر المومنین ابو حفص قرشی عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن قرط بن رزاه بن عدی بن کعب بن بوی سن 6 ہجری میں ہمر 27 سال مشرف باسلام ہوئے۔ ذہبی اور نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ اشراف قریش سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفارت آپ کے ہی متعلق تھی۔ جب قریش کے اپنے درمیان یا ان کے اور دوسروں کے درمیان لڑائی ہوتی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی سفیر بنا کر بھیجا کرتے تھے اور جب کبھی تفاخر نسب کے اظہار کی بات ہوتی تو بھی آپ ہی کو روانہ کیا جاتا۔ آپ چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ انتالیس مردوں اور تیس عورتوں کے بعد ایمان لائے ہیں اور بعض پتالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد بیان کرتے ہیں۔ جب آپ اسلام لائے تو مکہ میں اسلام ظاہر ہو گیا اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ آپ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوروں سے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے علماء اور زہاد سے شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پانچ سو انتالیس حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابوذر عمرو بن عبسہ آپ کے بیٹے عبد اللہ بن عباس، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ اب آپ کے حالات مصنف بطور خلاصہ چند ایک فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔

## فصل نمبر ۱

## دعائے غلبہ اسلام

ترمذی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ (اے اللہ) عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اسے مسلمان کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ (اس حدیث کو طبرانی نے ابن مسعود اور انس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔)

حاکم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اے اللہ! خاص کر عمر بن خطاب کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے۔ (طبرانی نے اسے اوسط میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اور کبیر میں ثوبان سے روایت کیا ہے۔)

احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تعرض کرنے کی خاطر نکلا مگر میں نے دیکھا کہ آپ مجھ سے پہلے ہی مسجد میں جا پہنچے ہیں۔ میں جا کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورۃ الحاقۃ پڑھنی شروع کی تو میں قرآن کریم کی عبارت کی نصاحت سے تعجب کرتا تھا اور دل میں سوچتا تھا۔ یہ شخص شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں مگر جب آپ نے آیت: اِنَّهٗ لَقَوْلٌ رَّسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ اَبَقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُوْمِنُوْنَ (پ 29) سورۃ الحاقۃ آیت نمبر 41، 40) کو سنا تو میرے دل میں ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی باتیں نہیں۔ کتنا کم یقین رکھتے ہو۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

پڑھی تو میرے دل میں اسلام کی پوری عظمت بیٹھ گئی۔

## اسلام لانے کا سبب

ابن ابی شیبہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی طرف مائل ہونے کا باعث اس طرح ہے جیسے کہ انہوں نے خود بیان فرمایا! ایک رات میری ہمیشہ کو دروزہ شروع ہوا تو میں اپنے گھر سے نکل کر کعبہ کے پردوں میں جا داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور خانہ کعبہ کی مغربی جانب سے داخل ہوئے۔ آپ پریشم کی

ایک موٹی سی چادر تھی۔ پھر آپ نے نماز پڑھی۔ اس میں ایسے کلمات پڑھے جنہیں میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کے پیچھے چل دیا۔ آپ نے پیچھے مڑ کر فرمایا! کون ہے؟ میں نے عرض کیا۔ عمر۔ آپ نے فرمایا اے عمر! تم رات دن کسی وقت میرا پیچھا چھوڑتے بھی ہو یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں آپ کی بددعا سے ڈر گیا اور میں نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ۔ آپ نے فرمایا۔ اے عمر! اسے پوشیدہ رکھ، میں نے عرض کیا۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو حق دیکر بھیجا ہے۔ میں تو اسے ظاہر کروں گا جیسے کہ شرک ظاہر کیا کرتا تھا۔

### قسمت جاگ اٹھی

ابن سعد ابو یعلیٰ، حاکم اور بیہقی دلائل النبوت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار گلے میں ڈالے ہوئے گھر سے نکلے۔ راستے میں بنی زہرہ کا ایک شخص آپ کو ملا اور کہا اے عمر! کہاں جاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ان کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس سے بھی عجیب بات تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر اپنے بہنوئی اور بہن کے پاس آئے۔ اس وقت ان کے پاس جناب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے ہی چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ یہ گن گن کی آواز کیسی آ رہی تھی (اور وہ اس وقت سورہ طہ پڑھ رہے تھے) ان دونوں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین ترک کر دیا ہے۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا اے عمر! اگر حق دوسرے دین میں ہی ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر جھپٹے اور انہیں بری طرح زد و کوب کیا اور جب آپ کی بہن اپنے خاوند کی حمایت کیلئے آگے بڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی ایک ایسا تھپڑ رسید کیا جس سے ان کا چہرہ ہلہلہاں ہو گیا۔ آپ کی بہن اس سے بہت خفا ہوئیں اور کہا کہ اے عمر! تو ہمیں مارتا ہے؟ اگر حق تمہارے دین کے سوا اور دین میں ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت

عمرؓ نے کہا۔ اچھا وہ کتاب تو مجھے دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی پڑھوں۔ حضرت عمرؓ لکھ پڑھ سکتے تھے۔ آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اسے صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں اس لیے چاہئے کہ پہلے وضو یا غسل کر لو۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اٹھ کر وضو کیا اور پھر کتاب کو دیکھ کر طے سے پڑھنا شروع کیا۔ جب آیت اِنْسِنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ (پ 16 سورہ طہ اور آیت 14)

ترجمہ: بے شک میں ہی ہوں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کرو اور میری یاد کیلئے نماز قائم رکھ۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد بشیر سیالوی)

پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ آنحضرت ﷺ کہاں ہیں۔ جب جناب ﷺ نے حضرت عمرؓ کی یہ بات سنی تو وہ جھٹ نکل آئے اور کہا اے عمر! خوش ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کی دعائتمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے جمعرات کو دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ! اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے مسلمان ہونے سے غلبہ عطا فرما اور اس وقت آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام اس گھر میں تھے جو صفا کے نیچے ہے۔ پس حضرت عمرؓ اس گھر کی طرف چلے۔ اس دروازے پر اس وقت حضرت حمزہؓ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما اور کئی لوگ تھے۔ حضرت حمزہؓ نے کہا کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) آ رہے ہیں۔ اگر خدا کو ان کی بہتری منظور ہوئی تو اسلام لے آئیں گے ورنہ ہم آسانی سے انہیں قتل کر دیں گے۔ اس وقت آنحضرت ﷺ اندر تشریف فرما تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمرؓ آئے تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گھر سے باہر نکل کر حضرت عمرؓ کو ان کے کپڑوں اور تلوار سمیت پکڑ کر فرمایا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ! تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے۔ جب تک خدا تعالیٰ تم پر بھی ولید بن مغیرہ جیسی رسوائی اور عذاب نازل کرے۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر پڑھا:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْتَكَ عِبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ.

(یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک

آپ ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔)

### حق کی ہیبت

بزاز طبرانی اور ابو نعیم حلیہ میں اور بیہقی ”دلائل“ میں اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت مکہ کے بعض رستوں میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک شخص ملا اور اس نے کہا ابن خطاب تو اپنے آپ کو ایسا اور ایسا خیال کرتا ہے۔ حالانکہ یہ امر یعنی اسلام تمہارے گھر میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں غصہ سے بھرا ہوا واپس لوٹا اور اپنی ہمیشہ کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا عمر! یہ سن کر سب لوگ جلدی سے چھپ گئے اور اس وقت وہ صحیفہ پڑھ رہے تھے۔ مگر جلدی میں اسے وہیں بھول گئے۔ پھر میری بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میں نے کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بے دین ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر میں لکڑی جو میرے ہاتھ میں تھی ماری۔ اس سے خون بہہ پڑا اور وہ رو پڑی اور کہا اے ابن خطاب جو چاہے کر میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ پھر میں آگے بڑھ کر تخت پوش پر ہو بیٹھا اور اس صحیفہ کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ میری ہمیشہ نے کہا کہ تم اسے چھونے کے لائق نہیں کیونکہ تم کبھی جنابت سے نہاتے نہیں اور اس کتاب کو پاک شخص ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ میں اسے بار بار کہتا رہا کہ مجھے دکھاؤ، حتیٰ کہ اس نے مجھے دے دیا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جب میں نے خدا تعالیٰ کے اسماء سے ایک اسم کو دیکھا تو ڈر گیا اور اس ورق کو میں نے رکھ دیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس صحیفہ کو لیکر پھر پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا۔ سَبَّحَ اللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

ترجمہ: اللہ کی پاکی بولتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ پڑھ کر میں پھر ڈر گیا۔

اس کے بعد پھر میں نے اَمَّنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (پ 27 سورة الحدید آیت 7)

ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان)

تک پڑھا۔ پھر میں نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ یہ سن کر سب لوگ جو چھپے ہوئے تھے نکل آئے اور زور سے تکبیر کہی اور کہنے لگے کہ مبارک ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز دوشنبہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ! ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں سے جو شخص تجھے محبوب ہے، اسے مسلمان کر لے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

مجھے آنحضرت ﷺ کی خدمت شریف میں لے چلو۔ اس وقت آنحضرت ﷺ صفا کے پاس ایک مکان میں تشریف رکھتے تھے۔ پس میں وہاں سے نکل کر اس مکان کی طرف گیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی 'کون ہے؟ میں نے کہا ابن خطاب! لوگ چونکہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ میری سختی کو جانتے تھے اس لیے کسی نے دروازہ کھولنے کی جرأت نہ کی۔ تب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ دروازہ کھول دو۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا اور دو شخص مجھے بازوؤں سے پکڑ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا! انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا تو آنحضرت ﷺ نے میرے کپڑے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر فرمایا! اے ابن خطاب! اسلام لے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ! اسے ہدایت دے۔ پھر میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر کہی کہ تمام مکہ کے کوچوں میں سنی گئی۔ اس وقت تک مسلمان پوشیدہ رہتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ مسلمان مارکھاتے اور مارتے ہیں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا تو میں سیدھا اپنے ماموں ابو جہل بن ہشام کے گھر آیا جو شرفائے قریش سے تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا ابن خطاب اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے اندر ہی سے کہا کہ ایسا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا اس حرکت سے کیا فائدہ؟ وہاں سے لوٹ کر عظمائے قریش سے ایک شخص کے پاس گیا اور جا کر اسے آواز دی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس سے بھی میں نے وہی گفتگو کی اور اس نے وہی جواب دیا جو میرے ماموں نے دیا تھا اور پھر گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا یہ کیسی حرکت ہے؟ مسلمانوں کو تم مارتے ہو اور مجھے کچھ نہیں کہتے؟ ایک شخص نے کہا کہ کیا تم یہ بات چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام ظاہر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ جب لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوں تو وہاں جا کر فلاں شخص کو کہہ دینا کیونکہ وہ شخص کبھی کسی راز کو نہیں چھپاتا۔ جب لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے تو میں نے اس شخص کو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا۔ کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے نہایت بلند آواز سے کہہ دیا کہ ابن خطاب مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں انہیں مارتا تھا اور وہ مجھے مارتے تھے۔ میرے ماموں نے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے خانہ کعبہ کی

مغربی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنے ہمیشہ زادے کو پناہ دی ہے۔ یہ سن کر لوگ مجھ سے ہٹ گئے۔ لیکن مسلمانوں کو مار کھاتے اور مارتے ہوئے دیکھ کر میں دل میں کڑھتا تھا۔ اس لیے میں اپنے ماموں کے پاس آیا اور کہا کہ میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں۔ پھر میں مارتا اور مار کھاتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی۔

### عظمت اسلام

ابونعیم دلائل میں اور ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا لقب فاروق کیسے پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مجھ سے تین روز پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ میں مسجد کی طرف گیا تو دیکھا کہ ابو جہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے۔ لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خبر کی تو آپ اپنی کمان پکڑ کر مسجد میں قریش کے اس مجمع کی طرف آئے جس میں ابو جہل موجود تھا اور اپنی کمان ٹیک کر ابو جہل کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے آپ کے چہرے سے غضب کے آثار دیکھ کر کہا اے ابوعمارہ! تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے یہ سن کر اسے کمان ماری جس سے اس کی پیٹھ سے لہو نکل آیا۔ قریش نے یہ دیکھ کر کہہیں معاملہ بڑھ نہ جائے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم مخزومی کے مکان میں پوشیدہ طور پر تشریف فرما تھے۔ پس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں جا کر مشرف باسلام ہوئے۔ اس واقعہ کے تین دن بعد میں گھر سے نکلا تو راستے میں ایک مخزومی شخص مجھے ملا۔ میں نے اسے کہا کہ تو نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیوں قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اسے ایک ایسے شخص نے بھی کیا ہے جس پر تمہارا حق بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی۔ یہ سن کر میں ان کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں مجھے کچھ گنگٹانے کی سی آواز آئی۔ میں نے اندر جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے؟ غرض اسی طرح بات بڑھ گئی اور میں نے اپنے بہنوئی کا سر پکڑ کر ایسا مارا کہ خون نکل آیا۔ اس پر میری بہن نے اٹھ کر مجھے سر سے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ امر تیری منشاء کے برخلاف ہوا ہے۔ جس وقت میں نے خون بہتا دیکھا تو مجھے بھی شرم آگئی اور میں بیٹھ گیا اور کہا کہ اچھا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ میری ہمیشہ نے کہا کہ اسے پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پس میں نے غسل کیا تو انہوں نے وہ صحیفہ دیا جس میں لکھا تھا



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میں نے کہا۔ یہ اسماء تو نہایت پاکیزہ اور مبارک ہیں۔ پھر لکھا  
تَهَاظِلْ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفٰی اِلَّا تَذٰكِرَةٌ لِّمَنْ یُّحْشٰی تَنْزِیْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ  
الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ  
وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی وَاِنْ تَجَهَّرَ بِاَلْقَوْلِ فَاِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ  
وَاَخْفٰی۔ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی۔

(پ 16 سورہ طہ آیت 8۱ تا 8۲)

ترجمہ: اے محبوب! ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہ اتارا تا کہ تم مشقت میں پڑو۔ ہاں  
اس کو نصیحت ہے جو ڈر رکھتا ہو۔ اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ وہ  
بڑی مہربانی والا اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کا ہے۔ جو  
کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی  
کے نیچے ہے اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اس سے بھی جو زیادہ چھپا ہے۔  
اللہ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اسی کے ہیں اچھے نام۔ (ترجمہ از کنز الایمان۔  
صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

یہ آیات پڑھ کر میرے دل میں اس کی عظمت بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ کیا اسی سے قریش  
بھاگتے ہیں۔ پھر میں اسلام لے آیا اور دریافت کیا رسول اللہ ﷺ اس وقت کس جگہ تشریف  
رکھتے ہیں؟ میری ہمیشہ نے کہا کہ آپ ﷺ اس وقت ارقم کے گھر تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں  
سے نکل کر ارقم کے گھر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ میری آواز سن کر لوگ جمع ہو گئے تو  
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا! کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا عمر دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ نے کہا  
عمر ہے! اچھا دروازہ کھول دو۔ اگر وہ سیدھی طرح آئے تو بہتر ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ  
بات رسول اللہ ﷺ نے بھی سنی۔ آپ باہر تشریف لے آئے اور میں نے فوراً کلمہ شہادت  
پڑھا۔ یہ دیکھ کر گھر والوں نے اس زور سے تکبیر کہی کہ سب مکہ والوں نے سنی۔ پھر میں نے  
عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ میں نے عرض کیا  
کہ پھر پوشیدہ کیوں رہیں؟ پھر ہم دو صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ  
تھے اور دوسری صف کے آگے میں تھا، ہم اسی طرح مسجد میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے

مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہیں نہایت صدمہ پہنچا۔ اس دن سے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میرا نام فاروق رکھا کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔

### لقب فاروق

ابن سعد ذکوان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق کس نے رکھا تھا؟ آپ نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

### آسمانی مبارک

ابن ماجہ اور حاکم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل آسمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشرف باسلام ہونے کی مبارک باد دیتے ہیں۔

### قوم آدھی رہ گئی

بزار اور حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے تو مشرکوں نے کہا کہ آج ہماری قوم آدھی رہ گئی ہے اور اسی روز یہ آیت نازل ہوئی یَسَاءُ يَهَيَّا  
النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

(پ 10 سورة الانفال آیت 64)

ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے اس وقت سے ہم باعزت ہی رہے ہیں۔

ابن سعد اور طبرانی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا گویا اسلام کے لیے فتح تھی اور آپ کا ہجرت کرنا بھی اسلام کی نصرت تھی اور آپ کا امام یعنی خلیفہ ہونا گویا رحمت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مگر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو مشرکوں سے لڑنے حتیٰ کہ انہوں

نے ہمیں خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے دی۔

لمحہ بہ لمحہ

ابن سعد اور حاکم حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اسلام ایک آگے بڑھنے والے شخص کی طرح تھا جو لمحہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل ہوئے تو اسلام ایک پیٹھ پھیرنے والے شخص کی طرح تھا جو ہر ساعت دور ہی ہوتا جاتا ہے۔

ظاہر اسلام

طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے پہل جس نے اسلام کو ظاہر کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ (اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں) اور ابن سعد صہیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہو گیا اور اعلان یہ اس کی طرف دعوت کی گئی اور خانہ کعبہ کے گرد ہم حلقہ بنا کر بیٹھے اور طواف کیا اور جو شخص ہم پر سختی کیا کرتا تھا۔ اس سے ہم نے بدلہ لیا اور جیسی بات کوئی ہم سے کہتا ہم بھی اس کا ویسا ہی جواب دیتے۔

مشرف باسلام

ابن سعد اسلم سے (جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا) روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجر چھبیس سال چھ ذی الحجہ 6ھ مشرف باسلام ہوئے۔

فصل نمبر 2

## حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت

ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا ہر ایک شخص نے چھپ کر اور پوشیدہ ہی ہجرت کی ہے کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار کو گلے میں ڈالا اور کمان کو کندھے کے ساتھ لٹکایا اور ترکش سے تیروں کو نکال کر ہاتھ میں پکڑا پھر آپ خانہ کعبہ میں آئے اور اس وقت وہاں اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سات بار طواف کیا اور مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر قریش کے گروہ کے پاس آئے اور ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا۔ خدا کرے یہ منہ کالے ہوں جو شخص یہ چاہتا کہ اس کی ماں

اسے گم کرے اور اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی عورت بے شوہر ہو جائے تو اسے چاہئے کہ اس میدان میں آئے مگر کوئی شخص بھی آپ کے پیچھے نہ گیا۔

### ثابت قدم

ابن عساکر براء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے پہل جو مہاجرین سے ہمارے پاس آیا مصعب بن عمیر تھے۔ ان کے بعد ابن ام مکتوم آئے اور بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا! آپ علی صاحبہا رضی اللہ عنہما وسلمۃ و السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ پیچھے تشریف لاتے ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں اور آپ ان لوگوں سے ہیں جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں اور آپ ان لوگوں سے ہیں جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے۔

### فصل نمبر 3

## احادیث بفضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ

بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کے پاس وضو کر رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا۔ یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ پھر میں نے تمہاری غیرت یاد کی اور لوٹ آیا۔ (اندراطل نہ ہوا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کیا کہ میں آپ سے غیرت کر سکتا ہوں؟

### تعبیر خواب! علم

بخاری و مسلم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن خواب میں میں نے دودھ پیا اور اس کا اثر میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نے اس کی کیا

تعبیر نکالی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے۔

### تعبیر خواب! دین

بخاری و مسلم ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ لوگ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ان پر کرتے ہیں جن سے بعض کے کرتے سینوں تک پہنچتے ہیں اور بعضوں کے اس سے اوپر تک یا نیچے تک اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایسے حال میں میرے سامنے پیش ہوئے کہ ان کا کرتہ بہت لمبا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ آپ ﷺ نے اس کی کیا تعبیر نکالی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ دین۔

### شیطان راستہ چھوڑ دے

بخاری اور مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اے ابن خطاب! مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جس راستے سے تم چلو گے شیطان اس راستے سے کبھی نہیں گزرے گا۔ بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے لوگ ملہم لہم اللہ ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

ترمذی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا اور دوسرے لوگ اپنی رائے ظاہر کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی رائے ظاہر کرتے تو قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق ہی اترتا تھا۔

### اگر میرے بعد؟

ترمذی اور حاکم عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا! اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ (طبرانی نے اس حدیث کو

آنحضرت ﷺ پر نازل ہوئے اور عرض کیا۔ عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا! شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ڈرتا ہے۔

### شیطان کا ڈرنا

ابن عساکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا! شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ڈرتا ہے۔

### شیطان ایسا نہیں

ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی عزت نہیں کرتا اور زمین میں کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے نہیں ڈرتا۔

طبرانی اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! اللہ تعالیٰ نے تمام اہل عرفہ پر عموماً اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر خصوصاً فخر کیا ہے۔ (طبرانی نے کبیر میں اسی حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔)

### میرے بعد حق

طبرانی اور دیلمی فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! میرے بعد حق حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوگا۔ جہاں کہیں کہ وہ ہوں۔

### بڑا چرس

بخاری اور مسلم ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! میں نے خواب میں ایک کنواں دیکھا جس پر ایک ڈول پڑا تھا۔ میں نے اس سے کئی ایک ڈول کھینچے۔ پھر وہ ڈول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا اور ایک یا دو ڈول کھینچے اور ان کے کھینچنے پر کچھ سستی سی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور پانی کو کھینچنا شروع کیا تو وہ ڈول ایک بڑا چرس بن گیا اور میں نے لوگوں میں کسی شخص کو قوی نہیں دیکھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ڈول کھینچتا ہو، حتیٰ کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے اپنے اونٹ بٹھانے کی جگہ نہیں

ابوسعید خدری اور عصمتہ بن مالک سے روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

### شیاطین جن و انس

ترمذی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین جن و انس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگتے جاتے ہیں۔

ابن ماجہ اور حاکم ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! سب سے پہلے خدا تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کرے گا اور سب سے پہلے انہیں کو سلام کرے گا اور سب سے پہلے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔

### ایک اعزاز یہ بھی؟

ابن ماجہ اور حاکم ابو ذر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر رکھ دیا ہے۔ وہ ہمیشہ سچ ہی کہتے ہیں۔

### زبان و دل پر

احمد اور بزار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر سچ کو رکھ دیا ہے اور ابن عساکر نے اسے ابو ہریرہ اور صعب بن جشم سے روایت کیا ہے۔

### سخت دروازہ

بزار قد امہ بن مظنون سے اور وہ اپنے چچا عثمان بن مظنون سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے سبب فتنے بند ہو جائیں گے اور جب تک یہ زندہ رہیں گے تب تک تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک سخت دروازہ بند ہوگا۔

### غصہ! غلبہ اور عزت

طبرانی اوسط میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام

مقرر کر لیں۔

نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ یہ خلافت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں کثرت فتوح کی طرف اشارہ ہے۔

طبرانی سدیہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں تب سے جس وقت شیطان انہیں ملتا ہے تو منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ (دارقطنی نے اس حدیث کو سدیہ سے اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔) (محدث)

طبرانی ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوست رکھا۔ اس نے مجھے ہی دوست رکھا اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا۔ گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ عرفہ کی رات اوگوں پر عموماً اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خصوصاً فخر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کی امت میں ایک ملہم من اللہ پیدا کیا ہے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ (اسناد اس کے حسن ہیں۔)

فصل نمبر 4

## اقوال صحابہ و سلف صالحین

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا! پردہ زمین پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخص عزیز نہیں۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مرض الموت میں پوچھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے امیر بنانے کی نسبت جب سوال ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا! میں کہہ دوں گا۔ میں نے ان سب سے بہتر کو ان پر حاکم بنایا ہے۔ (اسے ابن سعد نے روایت کیا ہے۔)

ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ



سے بڑھ کر کسی شخص کو ذہن اور سخی نہیں دیکھا۔ (اسے ابن سعد نے روایت کیا ہے۔)  
ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم ایک پلڑے میں اور باقی لوگوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم سب سے بڑھ کر رہے اور لوگ خیال کرتے تھے کہ نو حصے علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا ہے۔ (طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔)

حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تمام لوگوں کے علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں پوشیدہ ہو جاتے تھے اور انہی سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی شخص کو نہیں جانتا جسے خداوند تعالیٰ کے کام میں کسی ملامت گر کی ملامت اثر نہ کرے۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا! آپ بڑے ذکی اور تیز فہم تھے۔

معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دنیا کی خواہش کی اور نہ دنیا نے ان کی خواہش کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دنیا نے تو خواہش کی مگر انہوں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ مگر ہم اس میں بے حد مبتلا و مشغول ہیں۔ (اسے زبیر بن بکار نے موقفیات میں روایت کیا ہے۔)  
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے حال میں آئے جبکہ انہیں کفنا دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا! تم پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو۔ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص جو اپنا نامہ اعمال لیکر خدا تعالیٰ کو ملا ہو اس کفنائے ہوئے شخص سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ (اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فراموش نہ کرو کیونکہ وہ ہم سب سے کتاب اللہ کے زیادہ واقف اور دین کی زیادہ سمجھ رکھے والے تھے۔ (اسے طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔)

### بیدار مغز، سراپا بھلائی اور ہوشیار

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا! وہ تو سراپا بھلائی تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا! وہ ایک بیدار اور دانا جانور کی طرح تھے جو اپنے ہر راستے میں جا لگا ہوا دیکھتا ہے کہ اس میں پھنس جائے گا۔ (یعنی نہایت

بیدار مغز تھے) پھر حضرت علیؑ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا! آپ پتنگی قصد ہو شیاری، علم اور دلیری سے بھرے ہوئے تھے۔ (اسے طیوریات میں روایت کیا گیا ہے۔)

### لوہے کا سینگ

طبرانی عمیر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کعب بن اخبارؓ کو فرمایا! تو ریت میں میری صفت کسی لکھی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی صفت میں لکھا ہے۔ وہ ایک لوہے کا سینگ ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ لوہے کے سینگ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ایک نہایت سخت اور بارعب امیر ہے جو خدا تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی ملامت قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا۔ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ایک خلیفہ ہوگا جسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آپ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پھر بلیات و فتنے نمودار ہوں گے۔

### اسباب فضیلت

احمد بن زرار اور طبرانی ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ لوگوں پر بہ سبب چار چیزوں کے فضیلت دیئے گئے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے بدر کے روز قیدیوں کے قتل کرنے کا حکم کیا تو خدا تعالیٰ نے بھی یہ آیت نازل فرمائی: لَوْلَا كِتَابٌ "مَنْ اللَّهُ سَبَقَ لَمَسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"۔ (پ 10 سورہ انفال آیات 68)

ترجمہ: اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اسے مسلمانو! تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا، تم پر بڑا عذاب آتا (ترجمہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری بات جس کی وجہ سے آپ کو فضیلت ہے وہ آپ کا پردے کا حکم کرنا ہے اور آپ نے آنحضرت ﷺ کی بیویوں کو کہا۔ پردہ کریں۔ اس پر زینب رضی اللہ عنہا نے کہا۔ اے ابن خطاب! تم ہمیں حکم کرتے ہو؟ حالانکہ وحی ہمارے گھر میں اترتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ جِحَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا وَأَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ أَبْدَانِ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

(پ 22 سورہ الاحزاب آیت 53) (ترجمہ از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

ترجمہ: اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو اس میں زیادہ ستمرائی ہے۔ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ ﷺ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ کبھی ان کے بعد ان کی بیبیوں سے نکاح کرو۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔

اور تیسری بات جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فضیلت دیئے گئے۔ وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دعا ہے جو آپ کے حق میں قبول ہوئی چنانچہ آپ نے فرمایا تھا: ”اے اللہ! دین اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے قوی (مضبوط) کر اور چوتھی بات جس سے ان کی فضیلت ہوئی۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے کا اجتہاد تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے ہی بیعت کی تھی۔

### مقید شیاطین

ابن عساکر مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شیاطین مقید ہیں اور جب آپ فوت ہوئے تو شیاطین رہا ہو گئے۔

### محافظ فرشتہ

سالم بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ کے پاس مدت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خبر خیریت نہ پہنچی تو انہوں نے ایک کاہنہ عورت کے پاس آ کر آپ کی بابت پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیے کہ میں اپنے شیطان سے دریافت کر لوں۔ جب شیطان آیا تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو پشم کی چادر اوڑھے ہوئے اور صدقہ کے اونٹوں کو قطر ان ملتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ ایسے شخص ہیں کہ شیطان ان کو دیکھتے ہی منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور فرشتہ ان کے سامنے رہتا ہے اور روح القدس ان کی زبان سے بولتا ہے۔

### فصل نمبر 5

## اسلام کے ماں باپ

سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے تو اس

نے گویا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور تمام مہاجرین اور انصار کو گنہگار اور خاطی ٹھہرایا۔ \*

شریک کہتے ہیں کہ جس شخص میں ذرا بھی خیر اور بھلائی ہے وہ کبھی بھی حضرت علی ؓ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر مقدم نہیں کر سکتا۔

ابو اسامہ کہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کون تھے؟ وہ اسلام کے باپ اور ماں تھے۔

امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ جو شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بھلائی سے یاد نہ کرے میں اس سے بیزار ہوں۔

### فصل نمبر 6

## موافقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ

ابن مردودہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ جو رائے حضرت عمر ؓ کی ہوتی، قرآن مجید بھی اسی طرح نازل ہوتا تھا۔

ابن عساکر حضرت علی ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عمر ؓ کی رائے سے کئی ایک رائیں ہیں۔

ابن عمر ؓ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے جب کبھی کسی بات میں اپنی رائے ظاہر کی اور حضرت عمر ؓ نے بھی اپنی رائے ظاہر کی تو قرآن مجید حضرت عمر ؓ کی رائے کے مطابق ہی نازل ہوا۔

بخاری و مسلم حضرت عمر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب سے موافقت کی۔ ایک تو یہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیں تو کیا اچھا ہو۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَآتَاكَ خُذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى**. (پ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125)

۱ موافقت سے معنی میل جول اتفاق رکھنا۔ (صاحبزادہ محمد بشیر سیالوی نقل یہاں سے)

(ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

ترجمہ: اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔

دوسری یہ کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے ازواج مطہرات کے پاس نیک و بد آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ انہیں پردہ کا حکم دیں تو کیا اچھا ہو۔ اس پر آیت حجاب (پردہ) نازل ہوئی۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (پ 22 سورۃ الاحزاب آیت 59) (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

ترجمہ: اے نبی! اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تیسری بات یہ کہ جب آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات نے آپ کے غیرت دلانے کی خاطر اتفاق کیا تو میں نے کہا علسی رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ۔ (پ 28 سورۃ التحريم آیت 5)

ترجمہ: ان کا رب قریب ہے۔ اگر وہ تمہیں طلاق دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیبیاں بدل دے۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

اس پر یعنہم یہی آیت نازل ہوئی۔

مسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے تین باتوں میں موافقت کی ہے۔ حجاب میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں اور مقام ابراہیم میں۔ پس اس حدیث سے ایک چوتھی بات بھی معلوم ہوئی۔ (یعنی جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ)

نوی تہذیب میں لکھتے ہیں۔ قرآن مجید جنگ بدر کے اسیروں پر دے مقام ابراہیم اور تحریم خمر (شراب کا حرام ہونا) میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوا ہے۔ پس اس حدیث سے ایک پانچویں بات (یعنی تحریم خمر) معلوم ہوئی اور حدیث اس کی سنن اور مستدرک حاکم میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی۔ اے اللہ! شراب کے بارے میں ہمیں کوئی کافی شافی حکم عطا فرما اس پر شراب کی تحریم نازل ہوئی۔

ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے چار باتوں میں موافقت کی ہے۔ جب آیت **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ** (پ 18، سورۃ المؤمنون آیت 12)

(ترجمہ وحوالہ آیت از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

(ترجمہ: اور بے شک ہم نے آدمی کو چینی ہوئی مٹی سے بنایا۔

نازل ہوئی تو میں نے کہا **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**۔

(پ 18، سورۃ المؤمنون آیت 14)

ترجمہ: تو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ سب سے بہترین بنانے والا ہے۔

پس یہی آیت نازل ہوئی۔ اس حدیث سے چھٹی بات ثابت ہوئی۔ یہ حدیث کئی اور

طریقوں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جن کو میں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ پھر میں

نے ابو عبد اللہ شیبانی کی کتاب فضائل الایمان میں لکھا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رب

سے اکیس باتوں میں موافقت کی ہے اور اس نے یہ چھ جگہیں ذکر کر کے عبد اللہ بن ابی کافصہ

ذکر کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح میں اس طرح آئی ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی مر

گیا تو رسول اللہ ﷺ کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا تو آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے مگر

میں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے دشمن

پر جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں جو ایسے ایسے کلمات کہا کرتا تھا۔ بخدا مجھے

اس بات کو کہے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آیت **وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا**۔

(پ 10، سورۃ توبہ آیت 84)

ترجمہ: اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا۔

ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

یعنی جب کبھی منافقوں سے کوئی مر جائے تو ان پر نماز جنازہ نہ پڑھا کریں۔

(8) آیت **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ** وَ

**مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ**

**كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ**

(پ 2 سورۃ البقرہ آیت 219) ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی  
ترجمہ: تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ کون دونوں میں بڑا گناہ ہے  
اور لوگوں کیلئے کچھ دنیوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے اور تم سے پوچھتے ہیں کیا  
خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل بچے اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور  
آخرت کے کام سوچ کر کرو۔

(9) آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ (پ 5 سورۃ  
النساء آیت 43) (ترجمہ وحوالہ آیت از کنز الایمان: محمد مبشر سیالوی)

ترجمہ: اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ تا آخر آیت۔ میں کہتا  
ہوں کہ یہ آیت اور مادہ والی ایک ہی بات ہے اور تین حدیثیں سابق میں آچکی ہیں۔

(10) جب رسول اللہ ﷺ نے ایک قوم کے لیے دعائے مغفرت زیادہ مانگی شروع کی  
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے لیے دعا مانگی یا نہ مانگی برابر ہے۔ اس پر آیت  
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ (پ 28 سورۃ المفقون آیت  
6) (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

ترجمہ: ان پر ایک سا ہے۔ تم ان کیلئے معافی چاہو یا نہ چاہو۔ تا آخر آیت نازل ہوئی۔  
(اس حدیث کو طبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔)

(11) جب آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنگ بدر کے لیے چلنے میں مشورہ کیا تو حضرت  
عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بیشک باہر نکلنا چاہئے۔ اس پر آیت كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ  
بَيْتِكَ (پ 9 سورۃ انفال آیت 5)

ترجمہ: جس طرح تمہیں اے محبوب تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ  
برآمد کیا۔ تا آخر نازل ہوئی۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

(12) جب آنحضرت ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے قصہ اُفک میں مشورہ کیا تو  
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کا عقد کس نے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ  
تعالیٰ نے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر کیا آپ کو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی  
پیر کے عیب کو آپ پر پوشیدہ رکھا ہو؟ خداوند تعالیٰ پاک ہے۔ یہ تو ایک بہتانِ عظیم ہے۔ پس

اسی طرح آیت نازل ہوئی۔

### روزوں کا قصہ

(13) روزوں کا قصہ: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رات کو بیدار ہو کر اپنی بیوی سے مجامعت کی اور یہ بات شروع اسلام میں حرام تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ تَأْخِرَ آيَتِ**۔ (پ 2 سورہ بقرہ آیت 183)  
ترجمہ: راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ (احمد نے اسے مسند میں روایت کیا ہے۔)

(14) آیت **قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ** (پ 1 سورہ البقرہ آیت 97)  
ترجمہ: تم فرماؤ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس (جبریل) نے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر یہ قرآن اتارا۔ اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ (ترجمہ و حوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

میں (یعنی مصنف) کہتا ہوں کہ ابن جریر وغیرہ نے اسے کئی طریقوں سے روایت کیا ہے۔ اور ان سب سے زیادہ موافقت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ قریب ہے جسے ابن ابی حاتم نے عبدالرحمن بن یسلیب سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا اور کہا! جبرائیل جس کا ذکر تمہارا پیغمبر کرتا ہے ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا من گمان عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَكِيَّتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ الْكٰفِرِيْنَ

(پ 1 سورہ بقرہ آیت 98) (حوالہ و ترجمہ آیت از کنز الایمان: محمد مبشر سیالوی)  
ترجمہ: جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ (پس یہی آیت بعینہ نازل ہوئی۔)

(15) آیت **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**

(پ 5 سورہ النساء آیت نمبر 65)

ترجمہ: تو اے محبوب! تمہارے رب کی قسم کہ وہ مسلمان نہ ہوں گے کہ اپنے آپس کے



جنگلوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس میں رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ (ترجمہ و حوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

میں کہتا ہوں (یعنی مصنف) کہ اس کا قصہ ابن ابی حاتم اور ابن مرویہ نے ابی الاسود سے اس طرح روایت کیا ہے کہ دو شخص اپنا جنگلوں آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس لائے۔ آپ نے فیصلہ کر دیا جس کیخلاف فیصلہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو حضرت عمرؓ کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے پاس آئے تو دوسرے شخص نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے حق میں فیصلہ فرمادیا تھا۔ لیکن اس نے مجھے کہا۔ ہم حضرت عمرؓ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے دوسرے شخص سے کہا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے جواب دیا! ہاں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ یہیں ٹھہرو۔ میں ابھی آتا ہوں۔ پس تھوڑی دیر کے بعد آپ تلوار لیے ہوئے باہر آئے اور اس شخص کو قتل کر دیا۔ جس نے کہا تھا۔ چلو حضرت عمرؓ کے پاس چلیں۔ دوسرا شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا۔ حضرت عمرؓ نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا! مجھے خیال نہیں تھا۔ حضرت عمرؓ ایک مومن کے قتل کرنے پر جرات کریں گے۔ اس پر یہ آیت فَلَآ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تَاْخِرَ آیت۔ پس اس شخص کا خون رائیگاں گیا اور حضرت عمرؓ بری ہو گئے۔

### (16) اذن دخول بیت

گھر میں داخل ہوتے وقت اذن (اجازت) لینا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ کا غلام بے دھڑک اندر چلا آیا۔ آپ نے دعا کی۔ اے اللہ! بے اذن داخل ہونے کو حرام کر۔ اس پر آیت استیران نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا

عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (پ 18 سورۃ النور آیت 27)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساتوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔

(ترجمہ و حوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

## (17) سرگرداں لوگ

یہودیوں کے بارے میں آپ کا کہنا کہ یہ سرگرداں اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔

(18) آپ کا قول ثُلَّةٌ "مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ" مِّنَ الْآخِرِينَ۔ (پ 27 سورة الواقعة آیت 39'40) (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد میسرسیا لوی)

ترجمہ: اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ۔

میں (یعنی مصنف کتاب) کہتا ہوں کہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں جابر بن

عبداللہ سے روایت کیا ہے جو اسباب النزول میں مذکور ہے۔

(19) الشيخ والشیخہ اذا زنيا کانسوخ التلاوت ہونا۔

(20) احد کے دن آپ کا ابوسفیان کے قول اَفْسَى الْقَوْمِ فَلَانِي (کیا فلاں آدمی تم میں

ہے) کے جواب میں (لَا تُجِيبْنَهُ) فرمانا اور رسول اکرم ﷺ سے آپ کا اس بات میں

موافقت کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا قصہ احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور

کہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ بات بھی ملانی چاہئے جسے عثمان بن سعید دارمی نے اپنی کتاب 'الرد

علی الجہیمتہ" میں ابن شہاب کی سند سے سالم عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ کعب احبار ﷺ

نے ایک دفعہ کہا کہ بادشاہ زمین پر بادشاہ آسمان (یعنی خدا تعالیٰ سے) ہلاکت اور خرابی نازل

ہوتی ہے۔ حضرت عمر ﷺ نے یہ سن کر فرمایا مگر جس نے اپنے نفس سے حساب لیا اور اسے قابو

میں رکھا، کعب اخبار نے کہا بخدا! توریت میں اس کے آگے یہی عبارت ہے جو آپ نے کہی۔

اس پر حضرت عمر ﷺ شکرانہ کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔

اس کے بعد مصنف کہتے ہیں۔ میں نے ابن عدی کی کتاب (اکامل) میں دیکھا ہے۔

عبداللہ بن نافع اپنے باپ سے اور وہ ابن عمر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال ﷺ

اذان کے وقت کہا کرتے تھے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ حَسْبِيَ عَلَى الصَّلٰوةِ۔ (یعنی میں

گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آؤ نماز کی طرف) تو حضرت عمر ﷺ نے کہا کہ

اس کے بعد کہا کرو اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ۔ (یعنی میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد

ﷺ اللہ کے رسول ہیں) کہا کرو۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عمر ﷺ

کہتے ہیں اسی طرح کہا کرو۔

## فصل نمبر 7

## کراماتِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور حضرت ساریہ کو اس کا سردار بنایا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے ہوئے آواز دینے لگے۔ اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑ۔ (یعنی اس کی طرف سے ہوشیار رہ) آپ نے اس فقرہ کو تین دفعہ فرمایا! کچھ دنوں کے بعد اس لشکر سے ایک اٹپٹی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین! پہلے ہمیں شکست ہو گئی تھی۔ اس اثناء میں ہم نے تین مرتبہ ایک آواز سنی کے اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑ۔ یہ سن کر ہم نے پہاڑ کو اپنے پیچھے کیا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے عرض کیا۔ آپ نے ہی اس دن یہ آواز لگائی تھی (یہ پہاڑ جس کے نزدیک ساریہ تھا موضع نہادند میں ارض عجم میں واقع ہے) ابن حجر "اصابہ فی معرفۃ الصحابہ" میں لکھتے ہیں کہ اس کی اسناد حسن ہے۔

## بے اختیار

ابن مردویہ بسند میمون بن مہران ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بروز جمعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ یکا یک آپ نے خطبہ میں فرمایا *سَارِيَةَ الْجَبَلِ مَنِ اسْتَسْرَعِيَ الذَّنْبَ ظَلَمَ* (یعنی اے ساریہ پہاڑ کو پشت و پناہ بنا۔ جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا تو اس نے ظلم کیا۔) لوگ آپ کا یہ کلام سن کر ایک دوسرے کا منہ تکلنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ عنقریب ہی ظاہر اور معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ کو اس کے بارے پوچھا۔ آپ نے فرمایا! اس وقت میرے دل میں القا ہوا تھا۔ کافروں نے ہمارے بھائی مسلمانوں کو شکست دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں اور وہ پہاڑ اس طرح پر ہے۔ اگر وہ اس پہاڑ کو اپنی پشت و پناہ بنا کر لڑیں تو دشمن ان سے ایک ہی طرف سے لڑ سکتے ہیں اور اگر وہ اس طرح نہ کریں گے تو دشمن انہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ معاملہ دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار وہ بات نکلی جسے تم کہتے ہو ہم نے سنا ہے۔

## صدائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد جب قاصد خوشخبری لے کر آیا تو اس نے بیان کیا کہ ہم نے فلاں روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا تھا اور ہم نے اس کے مطابق پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔

### یا ساریۃ الجبل

ابونعیم دلائل میں عمرو بن حارث سے راوی ہیں کہ ایک دن جمعہ کے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور دیا تین دفعہ فرمایا **يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ**۔ اس کے بعد پھر آپ خطبہ پڑھنے لگے۔ اس پر بعض حاضرین کہنے لگے کہ شاید آپ کو جنون ہو گیا ہے۔ فراغت نماز کے بعد عبدالرحمن بن عوف جو آپ سے ذرا بے تکلف تھے۔ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے آج لوگوں کو اپنی بابت گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے جو آپ نے خطبہ پڑھتے ہوئے **يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ** کہہ دیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے اختیار نہیں کی بلکہ جب میں نے دیکھا کہ مسلمان ایک پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن انہیں گھیرے ہوئے ہے تو بے اختیار **يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ** کہہ کر اے ساریۃ پہاڑ کو پشت کی طرف کرو، نکل گیا۔

### دشمن پر غلبہ

راوی کہتا ہے۔ اس معاملہ کے بعد ساریۃ کے پاس سے قاصد ایک خط لیکر آیا تو اس میں لکھا تھا۔ جمعہ کے دن کافروں سے ہماری لڑائی ہوئی۔ ہم ان سے لڑتے رہے۔ جب جمعہ کا وقت ہوا تو ہم نے دو دفعہ یہ آواز سنی **يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ** اس پر ہم پہاڑ کے ساتھ مل گئے اور اپنے دشمن پر غالب رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی۔ (اس پر بھی بعض نے کہا کہ یہ بتاؤنی بات ہے۔)

### وہ جل گئے

ابوالقاسم بن بشران **”نوافذ“** میں بسند موسیٰ بن عقبہ نافع سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے فرمایا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جمرہ۔ آپ نے پوچھا کہ کس کے بیٹے ہو؟ اس نے عرض کیا شہاب کا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ

کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا! حرقہ سے۔ آپ نے دریافت فرمایا! تمہارا وطن کونسا ہے؟ اس نے عرض کیا حرقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ جلدی سے اپنے اہل کے پاس جاؤ کیونکہ وہ جل گئے ہیں۔ جب وہ گیا تو دیکھا کہ واقعی سب جل گئے ہیں۔ (اس حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطاء میں یحییٰ بن سعید سے روایت کیا ہے اور ابن ورید نے اسے اخبار مشہورہ میں اور ابن کلبی نے جامع میں روایت کیا ہے۔)

### دریا کو خط

ابو الشیخ کتاب العصمت میں ابو الطیب سے اور وہ علی بن داؤد سے اور وہ عبد اللہ بن صالح سے اور وہ ابن لبیعہ سے اور وہ قیس بن حجاج سے اور وہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس وہاں کے لوگوں نے آ کر عرض کیا۔ اے ہمارے امیر! ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ جب ماہ حال کی گیارہ راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک کنواری اور اکلوتی لڑکی کو اس کے والدین کو راضی کر کے لے لیتے ہیں اور اسے نہایت ہی نفیس اور عمدہ کپڑے اور زیور پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات اسلام میں کبھی نہیں ہوگی کیونکہ اسلام جاہلیت کی رسوم بد کو مٹاتا ہے۔ لوگ یہ بات سن کر اس بات سے باز رہے۔ مگر نیل کا پانی بہت کم ہو گیا اور لوگوں نے پھر اس رسم کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ جب عمرو بن عاص نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس تمام قصے کو ایک خط میں لکھ کر روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب لکھا اور کہا۔ آپ نے بہت خوب کیا جو اس بری رسم سے روک دیا۔ بیشک اسلام جاہلیت کی بری رسوں کو مٹاتا ہے۔ میں نے اپنے خط میں ایک رقعہ لکھا ہے۔ اسے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط عمرو بن عاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس چھوٹے سے خط کو جو اس میں تھا اسے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا۔ ”یہ خط خدا تعالیٰ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے نیل مصر کی طرف ہے۔ اما بعد۔ اے نیل! اگر تو اس سے پہلے خود بخود جاری تھا تو اب جاری نہ ہو اور اگر اس سے پہلے تو خدا تعالیٰ کے حکم سے جاری تھا تو اب میں خدائے قہار سے سوال کرتا ہوں کہ تمہیں جاری کرے۔“ عمرو بن عاص نے اس خط کو طلوع صلیب سے ایک دن پیشتر نیل میں ڈال دیا۔ جب

صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ہی رات میں نیل سولہ سولہ گز چڑھ آیا ہے۔ اس دن سے وہ بری رسم مصر سے جاتی رہی۔

### بات کی جانچ

ابن عساکر طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرتا اور اس میں کچھ جھوٹ بیان کرنے لگتا تو آپ اسے فرماتے کہ بات کو بند کر۔ پھر وہ کوئی اور بات کہنی شروع کرتا تو آپ فرماتے کہ اس سے بھی خاموش رہو تو وہ شخص کہتا۔ جب میں آپ سے سچ کہنے لگتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں۔ خاموش رہو۔

ابن عساکر حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹی بات کو پہچان سکتا تھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔

### دورانِ نبی

بہت ہی دلائل میں ابی ہدبتہ جمہی سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی۔ اہل عراق نے اپنے امیر کو سنگسار کیا ہے۔ یہ سن کر آپ نہایت غضبناک ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ مگر اس میں آپ کو سہو ہو گیا۔ سلام کے بعد آپ نے دعا کی۔ اے اللہ! ان لوگوں نے مجھ پر کام ملتحمس کر دیا ہے تو ان پر کام مشتبه کر دے اور جلدی ہی ان پر ایک سقشی غلام کو حاکم بنا جو ان پر جاہلیت کا سا حکم کرے۔ نہ ان کے محسن سے نیکی قبول کرے اور نہ برے کو معاف کرے۔ میں (یعنی مصنف) کہتا ہوں کہ اس غلام سے آپ کا اشارہ حجاج کی طرف تھا۔ ابن ابیہ کہتے ہیں۔ اس وقت تک حجاج کا ابھی نام و نشان بھی نہ تھا۔

### فصل نمبر 8

## سیرت و خصلت

ابن سعد اخلف بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہاں سے ایک لونڈی گزری۔ لوگوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین کی لونڈی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ امیر المومنین کی کوئی لونڈی نہیں اور نہ اس کے

لیے لوٹنی حلال ہی ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا مال ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ پھر خدا تعالیٰ کے مال سے امیر المؤمنین کے لیے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے مال سے صرف دو پوشاکیں ایک سردی کی اور ایک گرمی کی اور حج و عمرہ کرنے کے لیے خرچ اور اپنی اور اپنے عیال کی قریش کے ایک متوسط شخص جیسی خوراک حلال ہے اور میرا تہہ صرف مسلمانوں کے ایک معمولی شخص کا سا ہے۔

### حاکم سے شرط

خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے تو آپ اس سے یہ شرط لکھوا لیتے کہ وہ شخص کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو اور میدہ کی روٹی نہ کھائے اور باریک کپڑا نہ پہنے اور اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ بند نہ کرے۔ اگر ان میں سے کوئی بات کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔

### گھی اور گوشت

عکرمہ بن خالد وغیرہ کہتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا عبد اللہ رضی اللہ عنہ وغیرہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا۔ اگر آپ اچھا کھانا کھائیں تو آپ میں عبادت کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا! کیا سب لوگوں کی یہی رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری خیر خواہی معلوم کر لی ہے۔ مگر میں نے اپنے دونوں صاحبوں کو ایک ایسے شاہراہ پر پایا ہے۔ اگر میں ان کے راستے کو چھوڑ دوں تو منزل پر میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکوں گا۔ عکرمہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ قط پڑا تو آپ نے اس سال گھی اور گوشت مطلقاً نہیں کھایا۔

ابن ابی لہیعہ کہتے ہیں کہ عقبہ بن فرقہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کے طعام کے بارے میں گفتگو کی تو آپ نے فرمایا! نہایت افسوس ہے۔ میں اس زندگانی (دنیا) کو اچھا کھا کر اور مزے اٹھا کر گزار دوں۔

حسن کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عامر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ اس وقت گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آج گوشت

کھانے کو بہت دل چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ کیا جس چیز کی تمہیں خواہش ہوگی؟ کہ لایا کرو گے؟ یہ تھوڑا اسراف ہے کہ آدمی جو دل چاہے کھالے۔

### مچھلی کی خواہش

اسلم کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! ایک دفعہ تازہ مچھلی کھانے کو میرا دل چاہا تو بڑا قافلاً نے اپنی اونٹنی پر پالان رکھا اور آمدورفت میں آٹھ میل سفر کر کے 15 صاع کی زنبیل خرید لایا اور اونٹنی جو پسینہ میں تڑپتی تھی اسے نہلا بھی لایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا! پہلے میں اونٹنی کو دیکھ لوں، پس آپ نے اونٹنی کو دیکھا اور فرمایا کہ اس کے کانوں کے نیچے کا پسینہ دھونا بھول گئے ہو۔ (انسوس کہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حرص میں اس بے زبان کو تکلیف ہوئی۔ بخدا میں اس مچھلی سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ قنادہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کی حالت میں ایک پشم کا جبہ پہنا کرتے تھے جس میں بعض چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے اور آپ دُڑا کو کندھے پر ڈالے ہوئے بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ اور لوگوں کو تادیب کیا کرتے اور رایتے میں اگر پھٹے پڑے کپڑے یا کھجوروں کی گھلیاں ملتیں تو انہیں اٹھالیتے اور لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ انہیں کام میں لائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص میں صرف کندھوں کے درمیان چار پیوند لگے ہوئے دیکھے ہیں۔

### نہ خیمہ نہ سائبان

ابو عثمان تہدی کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تہبند میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو آپ نے اپنے لیے نہ کوئی خیمہ لگایا اور نہ سائبان کھڑا کیا بلکہ چادریا چمڑے کی ادھوڑی درخت پر ڈال کر سایہ کر لیتے اور اس کے نیچے تشریف رکھتے۔

### دو لکیریں

عبداللہ بن عیسیٰ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک میں رونے کے



باعث دو لکیریں پڑی ہوئی دیکھی ہیں۔

حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تلاوت قرآن مجید میں کسی آیت عذاب کو پڑھتے تو مارے خوف کے ایسے گرتے کہ کئی روز تک لوگ عیادت کو آیا کرتے۔

اللہ سے ڈر

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں ایک باغ میں گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور میرے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور آپ کہہ رہے تھے۔ اے عمر بن خطاب امیر المؤمنین واہ! بخدا اے ابن خطاب تو اللہ سے ڈرور نہ تھے خدائے تعالیٰ عذاب کریگا۔

خودکلامی

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا! کاش! میں یہ تنکا ہوتا، کاش! میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی۔

میرا نفس

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے پر مشک اٹھائی تو لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا! میرا نفس مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اسے ذلیل کروں۔

محمد بن سیرین کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بیت المال سے مجھے کچھ دیجئے۔ آپ نے انہیں جھڑک دیا اور فرمایا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں بادشاہ خائن بن کر ملوں۔ پھر آپ نے اپنے ذاتی مال سے انہیں دس ہزار درہم دیئے۔

نحوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بحالت خلافت بھی تجارت کیا کرتے تھے۔

پیٹ کی گڑگڑ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ عام الرمادہ میں روغن زیتون کھانے کے باعث ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیٹ بولا (یعنی گڑگڑ کرنے لگا) اور آپ نے اس سال اپنے آپ پر گھی حرام

کیا ہوا تھا تو آپ نے پیٹ کو انگلی سے دبا کر کہا کہ جب تک قحط دور ہو کر لوگ آسودہ نہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس تیرے کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ مجھے وہ شخص محبوب ہے جو میرے عیوب پر مجھے مطلع کرے۔

اسلم کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ آپ نے گھوڑے کا ایک کان اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑا ہوا ہوتا۔ پھر گھوڑے پر سوار ہوتے۔

### غصے کا ٹلنا

ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے بسا اوقات دیکھا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوتے تو اس وقت اُروں شخص آپ کے پاس اللہ کا ذکر کرتا یا خوف دلاتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا تو آپ کا غصہ فرو ہو جاتا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلم سے پوچھا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ مگر جب آپ خفا ہوں تو پھر غضب ہو جاتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم بحالت غضب ان کے پاس موجود ہو تو قرآن مجید کی آیت پڑھ دیا کرو۔ اس سے ان کا غصہ فرٹا ہو جاتا ہے۔

احرس بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مرغن پکا ہوا گوشت لایا گیا تو آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا! ان دونوں سے ہر ایک سالن ہے۔

ابن سعد حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! سب سے آسان پانت جو میں کسی قوم کی اصلاح کے لیے کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کے حاکم کو بدل دوں۔

### فصل نمبر 9

## حلیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

ابن۔ حداد حاکم زر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عید کے دن اہل مدینہ کے ساتھ باہر

نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برہنہ پا چلنے دیکھا۔ آپ ایک سن رسیدہ شخص اصلع زنگ گندم گوں قد کے لمبے سب لوگوں سے مر نکالتے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ سوار ہیں۔

واقدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے نزدیک ثابت نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گندم گوں تھے۔ شاید راوی نے آپ کو عام الرمادہ میں دیکھا ہوگا جبکہ روغن زیتون کھانے کے باعث آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔

ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا رنگ گورا تھا جس پر سرخی غالب تھی قد لمبا تھا اور سر کے بال اڑے ہوئے تھے اور سن رسیدہ تھے۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے قد میں دراز نظر آیا کرتے تھے۔ سلمہ بن اکوع سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے ایک جیسا کام کر سکتے تھے۔ ابن عساکر اور جاعطاردی سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت لمبے جسم اسلع اور سرخی لیے ہوئے گورے تھے۔ آپ کے دونوں رخسار چمکے ہوئے تھے مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کے سرے سرخ تھے۔

ابن عساکر اپنی تاریخ میں بسندہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ختمہ تھا جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی اور ابو جہل بن ہشام کی بہن تھیں۔ اس رشتہ سے ابو جہل آپ کا ماموں تھا۔

## فصل نمبر 10

### آپ کی خلافت

آپ (یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ) حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات میں ہی جمادی الاخریٰ سن 13ھ میں خلیفہ ہوئے۔

زہری کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے روز یعنی سہ شنبہ (منگل) جمادی الاخریٰ کی بائیس تاریخ کو خلیفہ ہوئے۔ (اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔)

اور آپ نے امر خلافت نہایت اچھی طرح سنبھالا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں بی شمار فتوحات ہوئیں۔ چنانچہ 14ھ میں دمشق از روئے صلح و غلبہ فتح ہوا اور حمص و بعلبک صلح سے فتح ہوئے اور بصرہ اور ابلہ از روئے غلبہ فتح ہوئے۔ اسی سال آپ نے لوگوں کو جمع کر کے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ (اسے عسکری نے اوائل میں روایت کیا ہے۔)

سن 15 ہجری میں اردن جنگ سے فتح ہوا اور طبر یہ صلح سے۔ اس سال جنگ یرموک اور قادسیہ ہوئیں۔

ابن جریر لکھتے ہیں۔ اس سال میں سعد نے کوفہ کو بسایا اور اسی سال میں آپ نے جاگیریں مقرر کیں اور دفتر و رجسٹر بنوائے اور جو صحابہ سابق فی الایمان تھے انہیں عطیات فرمائے۔

16 ہجری میں ابو اوزد اسن فتح ہوئے اور سعد رضی اللہ عنہ نے ایوان کسریٰ میں جمعہ پڑھایا اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں پڑھایا گیا اور یہ واقعہ صفر میں ہوا۔

جنگ جلولابھی اسی سن میں ہوا جس میں یزید جرد بن کسریٰ کو شکست ہوئی اور وہ ”رنے“ کی طرف بھاگ گیا۔ اسی سال میں مکریت فتح ہوا اور اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے جس پر وہ فتح ہو گیا اور جابیہ میں آپ نے خطبہ پڑھا جو مشہور ہے۔ اسی سال قنسرین غلبہ سے فتح ہوا اور حلب انطاکیہ اور پنج صلح سے فتح ہوئے اور سروج غلبہ سے فتح ہوا۔ اسی سال قرقسیا صلح سے فتح ہوا اور ربیع الاول میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو وسعت دی اور اسی سال حجاز میں قحط پڑا۔ عام الرمادہ اسی کو کہتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ویسے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا۔

ابن سعد یزار اسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلے تو آپ پر رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چادر مبارک تھی۔

### بارش کی دعا

ابن عون سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا اے اللہ! ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ لاپنے ہیں۔ ہم سے خشک سالی کو دور کر اور باران رحمت بھیج۔ ابھی یہ دعا مانگ کر آپ وہاں سے واپس بھی نہ ہوئے تھے حتیٰ کہ بارش

۱۔ پانی طلب کرتا۔

شروع ہوئی اور لگا تار کئی دن تک ہوتی رہی۔

### فتح نیشاپور

18 ہجری میں نیشاپور صلح سے اور حلوان غلبہ سے فتح ہوا اور اسی سال طاعون عمواس پڑا اور اسی سال ربا۔ شمساط غلبہ سے فتح ہوا اور حران، نصیبین اور کئی ایک جزیرے غلبہ یا صلح سے فتح ہوئے اور موصل اور اس کے مضافات غلبہ سے فتح ہوئے۔

### بادشاہ روم

19 ہجری میں قیساریہ غلبہ سے فتح ہوا اور 20 ہجری میں مصر غلبہ سے فتح ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ مصر سب کا سب صلح سے اور اسکندریہ غلبہ سے فتح ہوا۔ علی بن ریاح کہتے ہیں کہ مغرب سب کا سب غلبہ سے فتح ہوا۔ اسی سال میں تستر فتح ہوا اور اسی سال قیصر بادشاہ روم مر اور اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو خیبر اور نجران سے جلا وطن کر دیا اور خیبر اور وادی قریٰ کو تقسیم کر دیا۔

21 ہجری میں اسکندریہ غلبہ فتح ہوا اور اسی سال نہاد فتح ہوا جس کے بعد عجمیوں کا زور کم ہو گیا اور کوئی بڑا شہران کے پاس نہ رہا۔

22 ہجری میں آذربائیجان غلبہ یا صلح سے فتح ہوا اور اسی سال دینور، ماسدان، ہمدان، طرابلس، غرب رے، عسکر، قوس غلبہ سے فتح ہوئے۔

23 ہجری میں کرمان، بھستان، مکران، اصفہان وغیرہ فتح ہوئے اور اسی سال کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج سے آ کر شہادت پائی۔

### شہادت! نعمت عظمیٰ

سعید بن مسیب کہتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ منیٰ سے جدا ہوئے تو آپ نے ابلح میں اونٹ کو بٹھایا اور پھر چت لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ! اب میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور میرے قویٰ بضعیف ہو گئے ہیں اور میری رغبت منتشر ہو گئی ہے اس لیے ضائع ہونے اور عقل میں فتور آنے سے پہلے مجھے اپنی طرف اٹھالے، چنانچہ ذوالحج

ختم بھی نہ ہونے پایا تھا۔ آپ شہید ہوئے۔ (حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔)  
ابوصالح سمان سے مروی ہے۔ کعب احبار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے تو ریت  
سے ایسا معلوم ہوتا ہے آپ شہید ہوں گے۔ آپ نے فرمایا۔ میں جزیرہ عرب میں رہ کر کس  
طرح شہادت کی نعمتِ عظمیٰ حاصل کر سکتا ہوں۔

اسلم کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی تھی۔ اے اللہ تعالیٰ! مجھے اپنے راہ  
میں شہادت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر ہی میں مجھے موت نصیب فرما۔ (اسے بخاری نے  
روایت کیا ہے۔)

### تادم آخر

معدان بن ابوظلمہ سے مروی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا تو فرمایا۔  
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرغ نے مجھے ایک یاد دھونگیں ماری ہیں اور اس کی تعبیر میں  
نے یہ نکالی ہے کہ میری موت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ خلیفہ بناؤ۔ لیکن  
خدا تعالیٰ اپنے دین اور خلافت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر مجھے موت نے کچھ مہلت دی بھی تو  
بھی خلافت ان چھ شخصوں کے مشورے سے ہوگی جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے وقت  
راضی تھے۔ (اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔)

### ابولولو کا حملہ

زہری کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی بالغ لڑکے کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں  
دیتے تھے، حتیٰ کہ مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ نے آپ کو لکھا کہ میرے پاس ایک نہایت کارگر لڑکا  
ہے۔ آپ اسے مدینہ میں آنے کا اذن (اجازت) دیجئے۔ وہ بہت سے کام جانتا ہے جس  
سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ وہ لوہار، نقاش اور بڑھئی ہے۔ اس پر آپ نے اسے مدینہ کی  
طرف روانہ کرنے کی اجازت دیدی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر سو درہم ماہوار ٹیکس لگایا۔ اس نے  
آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادتی ٹیکس کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! تمہارا ٹیکس  
زیادہ تو نہیں ہے۔ وہ یہ جواب سن کر غصہ میں بھرا ہوا چلا گیا۔ کچھ روز کے بعد اسے حضرت عمر  
رضی اللہ عنہ نے بلا کر کہا تموزے دنوں کی بات ہے۔ میں نے سنا تھا تم کہتے تھے میں ایسی چکی بنا سکتا

ہوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے ترش روئی سے جواب دیا۔ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ مدت تک ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا۔ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ گھر جا کر اسی لڑکے ابو لؤلؤ نے دو دھارا خنجر بنایا جس کا قبضہ بیچ میں تھا اور اندھیرے میں جا کر مسجد کے ایک گوشہ میں چھپ رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو اس نے آپ پر تین وار کیے۔ (اسے ابن سعد نے روایت کیا ہے۔)

### لو لؤلؤ کی خودکشی

عمر بن میمون انصاری کہتے ہیں کہ ابو لؤلؤ نے جو مغیرہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خنجر سے جس کے دو پھل تھے زخمی کیا اور آپ کے ساتھ اور شخصوں کو بھی زخمی کیا جس سے چھ شخص مر گئے۔ اس پر اہل عراق سے ایک شخص نے اپنا کپڑا اس پر ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب ابو لؤلؤ نے دیکھا کہ اب پکڑا گیا ہے تو اس نے خودکشی کر لی۔

### چھ اشخاص

ابورافع کہتے ہیں۔ ابو لؤلؤ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور وہ چکیاں بنایا کرتا تھا اور مغیرہ رضی اللہ عنہ اس سے ہر روز چار درہم لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المؤمنین! مغیرہ رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت سختی کرتے ہیں اور پھر اس نے اپنا قصہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے مالک سے اچھی طرح سہہ کرو۔ اور آپ کی نیت یہ تھی کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے گفتگو کریں گے۔ مگر یہ بات سن کر وہ خفا ہوا اور کہا آپ میرے سوا سب لوگوں سے عدل کرتے ہیں اور اسی وقت آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اور ایک تیز خنجر بنا کر اسے زہرا لود کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاعدہ تھا۔ تکبیر کے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے صفیں سیدھی کر لو۔ وہ غلام بھی ایک روز صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برابر کھڑا ہو گیا اور آپ کے کندھے اور کولہے پر زخم لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے پھر اس نے تیرہ اور آدمیوں کو زخمی کیا جن میں سے چھ مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھرنے آئے چونکہ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا اس لیے عبدالرحمن بن عوف نے نہایت چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبیذ پلائی گئی۔ مگر وہ آپ کے زخموں سے باہر نکل گئی۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا۔ لوگوں نے آپ کی تسلی کے لیے کہا آپ کچھ خوف نہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر قتل ہونے کے خوف کی بابت کہتے ہو تو میں تو قتل ہو ہی چکا ہوں۔ اس پر لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے کہ آپ ایسے تھے اور ایسے تھے۔ آپ نے فرمایا بخدا میری آرزو تھی کہ میں دنیا سے ایسی حالت میں جاؤں۔ نہ میں نے کسی سے لینا ہوا اور نہ کسی کا دینا ہو۔ سو الحمد للہ رسول اللہ ﷺ کی شرف صحبت نے مجھے اس بات سے بچائے ہی رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی تعریفیں کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر زمین کے پہاڑوں جتنا میرے پاس سونا ہوتا تو قیامت کے دن کے ہول سے بچنے کے لیے میں اس تمام سونے کو راہِ خدا میں خرچ کر دیتا اور میں نے خلافت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مشورے پر چھوڑا ہے۔ اور پھر آپ نے ان چھ شخصوں کو تین دن کی مہلت دی۔ (اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔)

### وصیت اور بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو لؤکؤ بن جحس تھا۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! الحمد للہ خدا تعالیٰ نے میری موت کسی مسلمانی کے دعویدار شخص کے ہاتھ سے نہیں کی۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبد اللہ کو کہا شمار کر دو میرے سر پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے حساب کر کے قریباً چھیالیس ہزار بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آل عمر رضی اللہ عنہما کا مال اسے پورا کر دے تو اس سے ادا کر دینا اور در نہ بنی عدی سے مانگ لینا۔ اگر اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لیکر پورا کرنا اور اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا کر عرض کر دو کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن ہونے کا اذن چاہتا ہے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں گئے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا! وہ مکان تو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا۔ مگر آج میں اپنے آپ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ جواب سن کر عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا۔ انہوں نے اجازت دیدی ہے۔ آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ آرزو بھی پوری



ہوئی۔ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! کوئی وصیت کیجئے اور کسی کو خلیفہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا! خلافت کے لیے میں ان چھ شخصوں سے کسی کو زیادہ مستحق نہیں سمجھتا کہ جن سے انتقال فرماتے وقت تک رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام راضی رہے۔ پھر آپ نے ان چھ شخصوں کا نام لیا۔ پھر فرمایا کہ عبد اللہ میرا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ مگر اسے اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر خلافت سعد کو ملے تو وہ اس کے مستحق ہیں اور اگر نہ ملے تو جو شخص امیر ہو ان سے اچھا سلوک کرے کیونکہ میں نے انہیں کسی خیانت یا عاجزی کے واسطے معزول نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا! جو شخص میرے بعد خلیفہ ہو میں اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور مہاجرین و انصار اور اہل ملک کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر اسی قسم کی وصیتیں بھی آپ نے کیں۔ جب آپ نے وفات پائی تو ہم سب لوگ آپ کا جنازہ لیکر چلے تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے نے سلام کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اذان چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ انہیں لے آؤ۔ پس لوگوں نے آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کر دیا۔ جب آپ کے دفن کرنے سے فارغ ہو کر لوگ واپس آئے تو وہ چھ شخص ایک جگہ جمع ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اپنے سے تین آدمیوں کو اس کام کے لیے منتخب کرو۔ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وکیل مقرر کیا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ پس یہ تینوں شخص علیحدہ ہوئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں تو خلیفہ بننا پسند نہیں کرتا اور تم دونوں سے جو شخص خلافت سے بری ہوگا وہی امیر ہوگا اور امر خلافت اور انتظام سلطنت ہم اسی کے سپرد کریں گے اور اسے افضل امت اور اصلاح امت پر حریص ہونا ضروری ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہو رہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انتخاب کا کام میرے سپرد کرو۔ بخدا میں تم میں سے افضل کو منتخب کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ دونوں صاحبوں نے اس بات پر اتفاق کیا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف لے جا کر کہا۔ آپ پہلے اسلام لائے ہیں اور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آپ قریبی بھی ہیں اور ان باتوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر میں تمہیں امیر بناؤں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور عدل کرنا اور اگر میں کسی اور کو تم پر امیر بناؤں تو اس کی اطاعت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بات منظور

ہے۔ پھر عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو الگ لے جا کر ان سے بھی یہی عہد و پیمانہ لے لیے اور جب دونوں سے عہد لے چکے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔

### ابوعبیدہ اور معاذ رضی اللہ عنہما

مسند احمد میں مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اگر میرے مرتے وقت تک ابوعبیدہ بن جراح زند رہے تو میں انہیں خلیفہ بناؤں گا اور اگر خدا تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے پوچھے گا تو کہہ دوں گا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین ابوعبیدہ بن جراح ہے اور اگر میرے مرتے وقت تک ابوعبیدہ انتقال کر گئے ہوں تو میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤں گا اور اگر خدا تعالیٰ سوال کرے گا تم نے انہیں کیوں خلیفہ بنایا؟ تو میں کہہ دوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میں نے سنا ہے۔ فرماتے تھے۔ معاذ بن جبل قیامت کے دن بوجہ بزرگی علماء کے گروہ سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ دونوں صاحب آپ کی خلافت میں ہی فوت ہو گئے تھے۔

مسند احمد رحمہ اللہ میں ابورافع سے مروی ہے۔ وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنانے کے واسطے کہا گیا تو آپ نے فرمایا! اپنے ہم نشینوں سے کئی ایک کو اس پر حریص دیکھتا ہوں۔ مگر اگر اس وقت سالم مولا ابوحنیفہ اور ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما ہوتے تو یہ امر میں ان میں سے کسی ایک کو سونپ دیتا اور مجھے اس پر بھروسہ بھی ہوتا۔

### جنازہ اور اختلاف عمر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھبیس ذی الحج بروز چہار شنبہ (بدھ) زخم آئے تھے اور بروز یکشنبہ (اتوار) محرم کی چاند کھائی دینے کی رات دفن ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر تریسٹھ برس کی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ چھیاسٹھ برس کی تھی اور بعض کہتے ہیں اکتھ برس کی تھی اور بعض ساٹھ برس کی بتاتے ہیں اور واقدی نے اسے ہی درست قرار دیا ہے اور بعض اٹھ برس کی بیان کرتے ہیں اور بعض چون اور پچپن برس کی بتلاتے ہیں۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

تہذیب مزنی میں لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کا نقش تھا۔ کَفَى بِالْمَوْتِ

وَاعْظَا (نصیحت کے طور پر موت ہی کافی ہے۔)

طبرانی طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین ام ایمن رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے دن کہا آج اسلام کمزور ہو گیا۔

طبرانی عبدالرحمن بن یثار سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ سورج کو گہن لگ گیا تھا۔ (راوی اس کے سب ثقہ ہیں۔)

## فصل نمبر 11

### اولیاتِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

عسکری کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی امیر المومنین کہا گیا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ہی ہجری تاریخ مقرر کی اور بیت المال بھی سب سے پہلے آپ نے ہی مقرر کیا اور قیام رمضان یعنی نماز تراویح باجماعت آپ نے ہی مقرر کیا اور رات کو پاسانوں کی طرح سب سے پہلے آپ ہی پھرے ہیں اور جو کہنے پر سب سے پہلے حد آپ نے ہی مقرر کی اور شراب نوشی پر اسی دڑے لگوائے اور سب سے پہلے متعہ آپ نے ہی حرام کیا اور آپ نے ہی سب سے پہلے ام الولد یعنی بیچ کو منع فرمایا۔ جنازے میں چار تکبیریں کہنے پر لوگوں کو آپ نے ہی متفق کیا۔ دفتر پہلے آپ نے ہی مقرر کیے اور زمین کی پیمائش کی اور مصر سے بحر ایلہ کے راستے سے مدینہ میں آپ نے ہی سب سے پہلے غلہ منگوایا اور ”مسئلہ عول“ تسلیم راث میں آپ نے ہی زائد کیا اور گھوڑوں کی زکوٰۃ سب سے پہلے آپ نے ہی لی اور جملہ اَلْحَالِ اللّٰهُ بِقَاءِ كَ اور اَيَّدَكَ اللّٰهُ (جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہے تھے) سب سے پہلے آپ نے ہی کہے (یہاں تک عسکری کا بیان ہے۔)

۱۔ برائی کرنا۔ ۲۔ اہل تشیع کا میعاد کی نکاح۔ ۳۔ لوٹنی جو اپنے مالک کے بچے کی ماں ہو۔  
 ۴۔ علم المیراث میں وہ دم جس سے وراثت کے حصے نکالے جائیں یہ مخزن کہلاتا ہے۔ جب مخرج سے کچھ اجزاء بڑھ جائیں تو مخرج ذوالفروض کے حصص کے مقابلے میں تنگ پڑ جائے تو اس عدد سے بڑا عدد مخرج بنایا جاتا ہے اور اس طرح وراثت۔ حصوں میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس طریق کار کو عول کہتے ہیں۔ (محمد میثم سیالوی)

## مہیب درّہ

نووی تہذیب میں لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے درّہ آپ نے ہی ایجاد کیا اور اسی طرح ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ اور بیان کیا ہے کہ آپ کے بعد مثال کے طور پر لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درّہ تمہاری تلواروں سے زیادہ مہیب تھا۔ سب سے پہلے شہروں میں قاضی آپ نے ہی مقرر کیے اور سب سے پہلے شہر آپ نے ہی بسائے۔ چنانچہ کوفہ بصرہ ہزیرہ، شام اور موصل آپ کے ہی آباد کردہ ہیں۔

ابن عساکر، اسماعیل بن زیاد سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں مسجدوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان میں روشنی اور قدیلوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا! جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری مساجد کو روشن کیا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے۔

## فصل نمبر 12

### لقب امیر المؤمنین

عسکری اوائل میں اور طبرانی کبیر میں اور حاکم مستدرک میں بسند ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر بن سلیمان بن ابی حمزہ سے پوچھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں من خلیفۃ رسول اللہ کیوں لکھا جاتا تھا؟ اور پھر پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ من خلیفۃ ابی بکر لکھا کرتے تھے تو من امیر المؤمنین کس کے عہد سے لکھا جانے لگا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے شفاء نے جو مہاجرات سے تھی بات سنائی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے خطوط وغیرہ میں من خلیفۃ رسول اللہ لکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عامل عراق کی طرف خط لکھا۔ میرے پاس عراق کے دو ہوشیار شخص روانہ کرو تا کہ میں ان سے عراق اور اہل عراق کا حال پوچھوں۔ اس پر انہوں نے آپ کی خدمت میں لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم کو روانہ کیا۔ جب وہ دونوں مدینہ میں آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں

انہوں نے عمرو بن عاص کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہیں کہا ہمیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلئے۔ عمرو بن عاص نے کہا بخدا تم نے آپ کا خوب لقب رکھا ہے۔ عمرو بن عاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین! آپ نے فرمایا! بتاؤ!! تمہیں یہ نام کس طرح معلوم ہوا؟ کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے سب قصہ سنایا اور عرض کیا آپ امیر ہیں اور ہم مومن ہیں۔ اس دن سے خط و کتابت میں یہی لکھا جانے لگا۔

نودی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ نام عدی بن حاتم اور لبید بن ربیعہ نے رکھا تھا جبکہ وہ دونوں بطور قاصد کے آپ کے پاس عراق سے آئے تھے۔

اور بعض کہتے ہیں یہ نام آپ کا مغیرہ بن شعبہ نے رکھا تھا اور بعض بیان کرتے ہیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! تم مومن ہو اور میں تمہارا امیر ہوں۔ اسی دن سے آپ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا اور اس سے قبل خلیفہ رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ پس اس کے بعد اس لمبی عبارت کو چھوڑ دیا۔

ابن عساکر معاویہ بن قرہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں (من ابی بکر خلیفہ رسول اللہ) خط و کتابت میں لکھا جاتا تھا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو لوگ خلیفہ خلیفہ رسول اللہ کہنے لگے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عبارت بہت لمبی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو اپنا امیر بنایا ہے تو آپ ہمارے امیر ہوئے۔ آپ نے فرمایا بیشک اور تم مومنین ہو اور میں تمہارا امیر۔ پس اس دن سے آپ کو امیر المؤمنین کہنے لگے۔

بخاری اپنی تاریخ میں ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں تاریخ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی مقرر کی اور یہ واقعہ آپ کی خلافت سے اڑھائی سال گزرنے کے بعد ہوا۔ پس آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اس وقت 16 جمادی مقرر کیا۔

### ترک کتاب

سلفی طواریات میں بسند صحیح ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوانح عمری لکھوانے کا ارادہ کیا تھا اور اس واسطے برابر ایک مہینہ تک استخارہ کیا۔ ایک دن لکھوانے کا عزم بھی کر لیا۔ مگر پھر فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کی بات یاد آئی ہے جو تم سے پہلے

تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھیں اور پھر ان پر ایسے متوجہ ہوئے کہ کتاب اللہ کو ہی چھوڑ دیا ہے۔

### پہلی بات

ابن سعد شہادہ سے روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی بات جو منبر پر کھڑے ہو کر کہی وہ یہ تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے اور میں ضعیف ہوں مجھے قوی کر دے اور میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا دے۔

ابن سعد اور سعید وغیر ہماروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! میں نے اللہ تعالیٰ کے مال کے لیے اپنے آپ کو بمنزلہ یتیم کے والی سمجھا ہوا ہے۔ اگر میں فراخ دست ہو جاتا ہوں تو خدا کے مال سے باز رہتا ہوں۔ اگر محتاج ہو جاتا ہوں تو اس سے کھا لیتا ہوں اور پھر جب فراخ دست ہو جاتا ہوں تو اسے ادا کر دیتا ہوں۔

### حیلہ وحوالہ

ابن سعد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تنگ دست ہو جاتے تو صاحب بیت المال سے آ کر قرض لے جاتے اور بسا اوقات آپ تنگ دست ہو جاتے تو صاحب بیت المال آپ سے تقاضا کیا کرتا تھا اور آپ کو عدم ادائیگی کا الزام لگایا کرتا تھا۔ اس پر آپ کئی بار حیلہ وحوالہ کیا کرتے اور اکثر ادا کیا کرتے تھے۔

### اگر اجازت دو تو؟

ابن سعد براء بن معرور سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور آپ کو کچھ بیماری کی شکایت تھی۔ لوگوں نے اس بیماری کے لیے شہد کو مفید بتلایا اور اس وقت بیت المال میں شہد کا ایک کپا بھر اڑا تھا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو اس میں سے لے لوں ورنہ وہ شہد مجھ پر حرام ہے تو لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی۔

### مجھے خوف ہے

ابن سعد سالم بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کے زخم کو اپنے ہاتھ سے دھوتے اور صاف کرتے اور فرماتے، مجھے خوف ہے کہ تمہاری اس تکلیف کے بارے میں قیامت کے روز مجھ سے پرسش نہ ہو۔

## دُگنی سزا

ابن سعد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کسی بری بات سے منع فرمانا چاہتے تو ان کے پاس آ کر فرماتے میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو میری منع کردہ بات کا مرتکب ہوا ہو اور میں نے اسے دُگنی سزا دی ہو۔

طرق عدیدہ سے مروی ہے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے مدینہ شریف میں پھر رہے تھے (اور یہ اکثر آپ کا دستور تھا) تو آپ کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو دروازہ بند کر کے یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ شعر

تَطَاوَلْ هَذَا اللَّيْلُ تَسْرِي كَوَاكِبُهُ  
وَأَرْقَنِي أَنْ لَا ضَجِيعَ الْأَعْبَةُ

ترجمہ: آج کی رات لمبی ہوگئی ہے اور اس کے ستارے سیر کر رہے ہیں اور مجھے اس امر نے بیدار کر دیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہنجواب نہیں ہے جس کے ساتھ میں کھیلوں۔

فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ تَخَشَى عَوَاقِبُهُ  
تَرْجَمَةُ: بخدا اگر خدائے تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تو اس پلنگ کی چولیس ہلائی جاتیں۔

وَلَكِنِّي أَحْشَى رَقِيْبًا مُؤَكَّلًا  
بِأَنْفُسِنَا لَا يَفْتُرُ الدَّهْرُ كَاتِبُهُ

ترجمہ: لیکن مجھے اپنے نفس کے نگہبان کا خوف ہے جس کا لکھنے والا ایک ساعت بھی سستی نہیں کرتا۔

مَخَافَةُ رَبِّي وَالْحَيَاءُ يَصْلُدْنِي  
وَأَكْرَمُ بَعْلِي أَنْ تَنَالَ مَرَاكِبُهُ

ترجمہ: اور خدا تعالیٰ کا خوف اور حیا مجھے مانع ہوتا ہے اور میرا خاوند اس بات سے بزرگ ہے کہ کوئی شخص اس کی عورت کا قصد کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ اشعار سنے تو آپ نے اپنے عمال جنگ کو لکھ کر بھیجا کہ کوئی شخص چار ماہ سے زیادہ عرصہ تک میدان جنگ میں نہ روکا جائے۔

خليفة يابادشاه

مسلمان سے مروی ہے کہ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو

مسلمان ﷺ نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی مسلمان کے ایک درہم یا کم و بیش مال کی بیجا صرف کریں تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر روڑے۔

### فرق

ابن سعد سفیان بن ابی العرجاء سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دوہ فرمایا۔ میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ کسی نے حاضرین سے عرض کیا اے امیر المؤمنین! بادشاہ اور خلیفہ میں فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کیا فرق ہے؟ اس نے عرض کیا خلیفہ تو واجبی مال ہی لیتا ہے اور اسے واجبی جگہ پر ہی صرف کرتا ہے اور آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہی ہیں اور بادشاہ لوگوں کا مال ظلم سے لے لیتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے۔ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔

### سیاہ داغ

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھوڑے پر سوار ہونے لگے تو آپ کی راہ کھل گئی۔ نجران کے یہودیوں نے اس پر ایک سیاہ داغ دیکھ کر کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی شخص ہمیں جلا وطن کرے گا۔

سعد جاری سے مروی ہے۔ کعب اخبار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ہم اپنی کتاب میں آپ کو ایسا شخص پاتے ہیں کہ آپ دوزخ کے دروازے پر کھڑے لوگوں کو اس میں گرنے سے منع کر رہے ہو اور جب آپ وفات پائیں گے تو قیامت لوگ دوزخ میں داخل ہوتے رہیں گے۔ ابن معشر سے مروی ہے کہ ہمارے اشیاء روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا یہ امر خلافت ایسی سختی جس میں جبر نہ ہو اور ایسی نرمی جس میں سستی نہ ہو اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔

### حد شرعی

ابن ابی شیبہ حکم بن عمیر سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا جب تک لشکر یاسر یہ حدود اسلام میں داخل نہ ہو جائے تب تک کوئی سردار لشکر یاسر یہ کسی شخص کو حد شرعی نہ لگائے تاکہ غیرت شیطانی اسے برا سمجھنے نہ کر کے اسے کفار کے ساتھ نہ ملا دے۔



### قیصر روم کا خط

ابن حاتم اپنی تفسیر میں شعیبی سے روایت کرتے ہیں کہ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا کہ میرے ایلچی جو آپ کے پاس آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں آپ کی طرف ایک درخت ہے جس کی شکل و صورت درخت کی سی نہیں ہوتی۔ وہ زمین میں سے جب اگتا ہے تو گورنر کے کان کی طرح ہوتا ہے۔ پھر وہ پھٹتا ہے تو موتی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر سبز ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ زمرہ کا سا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سرخ یا قوت کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پکنا ہے تو فالودہ کی طرح لذیذ، میٹھا اور نرم ہوتا ہے اور جب وہ پھل خشک ہو جاتا ہے تو ہضم کا بچاؤ اور مسافر کا زادراہ بنتا ہے۔ پس اگر میرے ایلچیوں نے سچ کہا ہے تو میری دانست میں یہ جنت کے درختوں سے ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا:

### حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب

خدا تعالیٰ کے بندے عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی طرف سے قیصر روم کی طرف تیرے ایلچیوں نے سچ کہا ہے۔ یہ درخت ہماری طرف ہوتا ہے اور یہی وہ درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہا السلام کے واسطے پیدا فرمایا تھا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ پس تو اللہ سے ڈرا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ مانا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی سی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔

### فہرست اموال

ابن سعد رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کو حکم بھیجا کہ اپنے مالوں کی فہرست لکھ بھیجو۔ ان میں سے سعد بن وقاص بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کے مال سے آدھا آدھا لے لیا اور بیت المال میں داخل کیا۔ شعیبی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی شخص کو عامل مقرر فرماتے تو اس کے مال کی فہرست آٹھوا لیتے۔

## دن رات کا خرچ

ابو امامہ بن اہل حنیف سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بہت مدت تک بیت المال سے اپنے خرچ کے لیے کچھ نہیں لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ تنگدست ہو گئے تو آپ نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ میں امر خلافت میں مشغول رہتا ہوں۔ مجھ کو اس پر کیا لینا چاہئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا دن رات کی روٹی کا خرچ لے لیا کریں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو آپ نے اس حج میں سولہ دینار خرچ کیے تو آپ نے فرمایا۔ اے عبد اللہ! ہم نے اس مال میں اسراف کیا۔

## حقوق زوجیت بھی

عبدالرزاق قتادہ اور شععی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ میرا خاوند تمام رات نماز پڑھتا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو تم نے اپنے خاوند کی بہت اچھی تعریف کی ہے۔ اس پر کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا! اس عورت نے تو اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! وہ کیسے؟ کعب بن سوار رضی اللہ عنہ نے کہا اس بات سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاوند حقوق زوجیت کو پورا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا! جب تم نے اس کی غرض کو سمجھ لیا ہے تو فیصلہ بھی خود ہی کرو۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! خدا تعالیٰ نے مرد کے لیے چار عورتیں حلال کی ہیں تو اس عورت کے لیے ہر چوتھے دن کے بعد ایک دن اور ہر چوتھی رات کے بعد ایک رات چاہئے۔

ابن جریج کہتے ہیں۔ مجھے ایک صادق شخص نے خبر دی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ منورہ میں پھر رہے تھے۔ اچانک آپ کے کان میں ایک عورت کی آواز پڑی جو یہ شعر پڑھ رہی تھی:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَسْوَدَ جَانِبُهُ  
وَأَرَقْنِي أَنْ لَا خَلِيلَ إِلَّا عَيْبُهُ

ترجمہ: یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور نہایت سیاہ ہے اور مجھے اس بات نے بیدار کر دیا ہے کہ میرے پاس کوئی دوست نہیں جس کے ساتھ میں کھلیوں۔

۱۔ فضول خرچی۔

فَلَوْ لَا حَذَرَ اللَّهُ لَا شَيْءَ مِثْلَهُ لَزُعْزَعٌ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ  
ترجمہ: اگر اس خدا تعالیٰ کا جس کی مثل کوئی چیز نہیں، خوف نہ ہوتا تو اس پلنگ کی چولیس  
ہلائی جاتیں۔

شوہر کے بغیر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ  
میرا خاوند کی مہینوں سے باہر جنگ میں گیا ہوا ہے اور اب اس کا شوق مجھ پر غالب ہوا ہے۔  
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! تو نے کہیں ارادہ بد تو نہیں کر لیا۔ اس نے کہا معاذ اللہ۔ آپ نے  
فرمایا! اچھا اپنے آپ کو سنبھالے رکھو۔ کل اس کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کر دیا جائے گا۔  
پس صبح آپ نے اس کی طرف قاصد روانہ کر دیا۔ پھر آپ اپنے حرم محرم حضرت حفصہ رضی اللہ  
عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج مجھے ایک مشکل درپیش ہے۔ اسے حل کر دو۔ یہ  
بتلاؤ کہ عورت مرد کے بغیر کتنی مدت اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا  
نے یہ سن کر شرم کے مارے سرینچے ڈال لیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم نہیں  
کرتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ عورت مرد کے بغیر اپنے  
آپ کو تین یا چار مہینے روک سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام عمال کو لکھ بھیجا  
کوئی لشکر چار ماہ سے زیادہ باہر نہ رکھا جائے۔

شکایت

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی بیویوں کی شکایت کی  
تو آپ نے فرمایا! بھائی مجھے کیا کہتے ہو؟ ہماری خود یہی حالت ہے۔ اگر میں کسی کام کے لیے  
باہر جاتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ تم فلاں قبیلے کی عورتوں کی دید بازی کرنے کے لیے جاتے ہو۔  
اس پر عبد اللہ بن مسعود نے کہا۔ آپ کو معلوم نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ  
کے خلق کی خدا تعالیٰ سے شکایت کی تو جواب ملا۔ عورتیں پہلی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں۔ جب  
تک ان کے دین میں کوئی خرابی نہ ہو ان سے جس طرح سے ہو سکے نباہنا چاہئے۔

عکرمہ بن خالد سے مروی ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرزند ارجمند بالوں کو شانہ

۱۔ کنگھی، کندھا۔ یہاں کنگھی مراد ہے۔

وغیرہ کر کے اور نئے کپڑے پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے اتنے دڑے لگوائے کہ وہ رو پڑے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا (آپ کے حرم محرم) نے پوچھا کہ آپ نے اسے کس تصور پر سزا دی؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اسے اس کے نفس نے غرور میں ڈالا تھا اس لیے میں نے چاہا کہ اسے سبق سکھا دوں۔

معمر لیث بن ابی سلیم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا (فیصلہ کرنے والے کو) حکم اور ابوالحکم نہ کہا کرو کیونکہ حکم خدا تعالیٰ ہی ہے اور راستے کو سکہ بھی نہ کہا کرو۔  
میں انسان نہ ہوتا

بیہقی شعب الایمان میں ضحاک سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا۔ کاش کہ میں کنارہ سڑک پر ایک درخت ہوتا اور اونٹ مجھے کھا کر چالیتا اور پھر میٹگی کر کے نکال دیتا۔ مگر میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کاش کہ میں دنبہ ہوتا اور لوگ مجھے نہایت مونا کرتے۔ پھر اپنے عزیز واقرباء کی خاطر مجھے ذبح کرتے اور کچھ گوشت بھونتے اور کچھ حصہ کے کوفتے بناتے۔ پھر مجھے کھالیتے۔ مگر میں انسان نہ بنا ہوتا۔

### سچی بات

ابن عساکر ابوالبحتری سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! بیشک یہ تمہارے باپ کا منبر ہے، مگر اس شخص کے باپ کا نہیں جس نے تمہیں یہ بات کہنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ بخدا اسے کسی نے سکھلایا نہیں اور پھر حسین رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اوبے وفا! میں تجھے سزا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی سزا کیوں دو گے۔ اس نے سچی بات کہی ہے۔ (اسناد اس حدیث کے صحیح ہیں۔)

### دینی مسئلہ

خطیب رواقہ میں مالک سے سندہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان

ﷺ مسئلہ دینی میں اس طرح لڑا کرتے تھے کہ دیکھنے والا خیال کرتا تھا کہ پھر کبھی ان میں صلح نہ ہوگی۔ مگر جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کبھی ان میں لڑائی ہوئی ہی نہیں۔  
بنفس نفیس

ابن سعد حسن ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ پہلا خطبہ جو حضرت عمر ﷺ نے پڑھا۔ اس میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کہا میں تمہارے ساتھ اور تم میرے ساتھ جتنا کیے گئے ہو اور اپنے دونوں بزرگواروں کے بعد اب میں تم میں پیدا ہوا ہوں۔ جو لوگ ہمارے پاس ہیں انہیں تو ہم بنفس نفیس ملیں گے اور جو ہم سے غائب ہیں ان پر ہم کسی اہل قوت اور امانت کو حاکم بنائیں گے۔ جو شخص نیکی کرے گا ہم اس کے ساتھ بھلائی میں زیادتی کریں گے اور جو شخص برائی کرے گا اسے ہم سزا دیں گے۔ اب دعا ہے خدا تعالیٰ تمہیں اور ہمیں بخشے۔

### مدوین دفتر

جبیر بن حویرث سے مروی ہے۔ حضرت عمر ﷺ نے دفتر مدوین کرنے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت علی ﷺ نے کہا آپ ہر سال کی آمدن لوگوں پر تقسیم کر دیا کیجئے۔ حضرت عثمان ﷺ نے کہا میری رائے میں لوگوں پر تقسیم کرنے کے لیے بہت سے مال کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر لوگوں کا شمار اور حساب نہ ہوگا تو یہ معلوم نہ ہوگا کہ کس کو ملا ہے اور کس کو نہیں اور مجھے خوف ہے کہ اس طرح یہ کام ملتبس ہو جائے گا۔ ولید بن ہشام بن مغیرہ نے عرض کیا اے امیر المومنین! میں نے شام میں دیکھا ہے وہاں کے بادشاہوں نے دفتر بنائے ہوئے اور باقاعدہ انواع رکھی ہوئی ہیں۔ پس آپ نے اس کے کہنے کے موافق عقیل بن ابی طالب، مخرمہ بن نوفل اور جبیر بن مطعم کو بلایا۔ (یہ تینوں شخص نساب قریش سے تھے) اور کہا لوگوں کے ناموں کو درجہ بدرجہ لکھو۔ پس انہوں نے بہ ترتیب خلافت پہلے بنی ہاشم کو لکھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر ﷺ کو اور ان کی قوم کو اور حضرت عمر ﷺ اور آپ کی قوم کو۔ حضرت عمر ﷺ نے دیکھ کر فرمایا! پہلے آنحضرت ﷺ کے قریبوں سے شروع کر دو۔ جو آپ کے زیادہ قریبی ہوں انہیں پہلے لکھو اور جو اس سے دور ہوں انہیں دور لکھو حتیٰ کہ حضرت عمر ﷺ کو اسی جگہ رکھو جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔

سعید بن مسیب سے مروی ہے۔ حضرت عمر ﷺ نے دفتر ماہِ محرم 20 ہجری میں مدوین کیا۔

حسن ؓ سے مروی ہے۔ حضرت عمر ؓ نے حدیفہ ؓ کی طرف لکھا لوگوں کے وظائف اور تنخواہیں دیدی۔ انہوں نے جواب میں لکھا۔ تنخواہیں وغیرہ سب دیدی ہیں اور بہت سا مال باقی بچ رہا ہے۔ حضرت عمر ؓ نے لکھا وہ غنیمت ہے جو خدا تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ وہ نہ عمر کے لیے ہے اور نہ آل عمر کے لیے۔ اسے انہیں میں تقسیم کر دو۔

### یا خلیفہ یا خلیفہ

ابن سعد جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر ؓ عرفہ پر کھڑے تھے اچانک ایک شخص کی آواز آئی جو یا خلیفہ یا خلیفہ! کہہ رہا تھا۔ ایک اور شخص نے اس کی آواز کو سنا اور عرب چونکہ آواز وغیرہ سے فال لیا کرتے ہیں اس لیے اس شخص نے آواز دینے والے کو کہا کہ خدا تیرے تالو کو پھاڑ دے۔ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے آگے بڑھ کر اس دوسرے شخص کو روکا۔ پھر دوسرے دن میں حضرت عمر ؓ کے ساتھ حجرہ عقبہ پھینک رہا تھا کہ دور سے ایک کنکر آیا جس سے حضرت عمر ؓ کے سر مبارک پر خیف ساز خم ہو گیا۔ اس طرف کو گیا جس طرف سے وہ کنکر آیا تھا۔ تو میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ”بخدا اس بات کو سمجھ لے کہ اس سال کے بعد کبھی حضرت عمر ؓ اس جگہ پر کھڑے نہ ہوں گے۔“

جبیر ؓ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جو کل چلایا تھا اور اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت گرانی ہوئی۔

### سوار کا کہنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آخری حج جو حضرت عمر ؓ نے امہات المؤمنین کے ساتھ کیا اس میں جب ہم عرفہ سے نکلے تو میں محصب کے پاس سے گزری تو میں نے ایک سوار شخص کو دیکھا جو دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ؓ کس جگہ تھے؟ اس نے کہا اسی جگہ تھے اس پر اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور پھر بلند آواز سے یہ شعر پڑھے۔

عَلَيْكَ سَلَامٌ مِنْ إِمَامٍ وَبَارَكْتَ  
بِذِ اللَّهِ فِئْسَى ذَاكَ الْإِدِيمِ الْمُسْرَقِ

ترجمہ: اے امام تجھ پر سلام ہو اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ اس پارہ پارہ کردہ چمڑے میں برکت عطا فرمائے۔

وَمَنْ يَسْعُ أَوْ يَرُكِبْ جَنَاحِي نَعَامَةٍ  
لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمَتْ بِالْأَمْسِ يُسْبِقِ

ترجمہ: جو شخص آپ جیسے اعمالِ حسنہ حاصل کرنے کیلئے دوڑے یا شتر مرغ کے بازوؤں پر سوار ہو جائے تو وہ مسبوق ہی ہوگا اور آپ ہی سابق رہیں گے۔

فَقَضَيْتَ أُمُورًا لَّمْ عَادَرَتْ بَعْدَهَا      بَوَائِقَ فِى أَكْمَامِهَا لَمْ تَنْتَقِ  
ترجمہ: آپ نے کئی امور کا فیصلہ کیا جو شکستہ نہیں ہوئے اور ہلاکتوں کو ان کے خلاف میں ہی بند کر دیا۔

اس کے بعد اس سوار نے حرکت ہی کی اور نہ معلوم کہ وہ کون تھا۔ ہم نے کہا کہ شاید وہ جن ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حج سے واپس ہوئے تو خنجر سے شہید کر دیئے گئے۔

### اہل بدر و اُحد

عبدالرحمن بن ابی بکر سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ خلافت اہل بدر میں رہنے گی جب تک کہ ان میں سے کوئی رہے گا اور پھر اہل اُحد میں رہے گی اور اس میں ان مسلمانوں اور ان کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔

### طریقہ طلاق نہیں

خنخی سے مروی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اپنے بیٹے عبد اللہ کو خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے عارت کرے۔ میں نے کبھی خدا تعالیٰ سے یہ بات نہیں چاہی۔ کیا میں اس شخص کو خلیفہ بناؤں جسے اپنی عورت کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔

### اللہ نبی اور بندہ

شداد بن اوس کعب سے روایت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا۔ جب کبھی ہم اس کا ذکر کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا کرتے تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوتا تو اس کا بھی تذکرہ ہوتا۔ اس بادشاہ کے عہد میں ایک نبی بھی تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وحی بھیجی کہ اس بادشاہ کو کہہ دو جو عہد اور وصیت کرتی ہے، کر لو کیونکہ تم تین دن کے بعد مر جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے بادشاہ کو اس وحی سے آگاہ کیا۔ جب تیسرا روز ہوا تو بادشاہ اپنے تخت اور یوار کے درمیان سجدہ میں گر پڑا اور کہا۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں حکم کرنے میں عدل کیا کرتا تھا اور اختلافِ امور کے وقت تیری ہدایت کی تا بعد اری کیا کرتا تھا اور میں ایسی

ایسی باتیں کیا کرتا تھا تو میری عمر اس قدر بڑھادے کہ میرا لڑکا بڑا ہو جائے اور لڑکی پرورش پالے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی طرف وحی کی کہ اس بادشاہ نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں اور اس نے کہا سچ ہے۔ میں نے اس کی عمر 15 برس زیادہ کی۔ اس میں اس کا لڑکا بڑا ہو جائے گا اور اس کی لڑکی پرورش پالے گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر مارا گیا تو کعب نے کہا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بقا کی دعا کریں تو خدا تعالیٰ انہیں اور عمر عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا۔ اے اللہ! مجھے بغیر عاجز اور با ملامت ہونے کے دنیا سے اٹھالے۔

سلیمان بن ہارون سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر جنوں نے نوحہ کیا۔

### جبل تبالہ

اور حاکم مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو جبل تبالہ سے یہ آواز سنی گئی۔ شعر

لَبَّيْكَ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ مَنْ كَانَ بَاكِيًا      فَقَدْ أَوْشَكُوا صِرْعِي وَمَا قَدَّمَ الْعَهْدُ  
ترجمہ: جو شخص اسلام پر رونا چاہے اسے چاہے کہ رولے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ مگر قریب ہے کہ سب لوگ مشغول، مصروع ہو جائیں۔

وَأَذْبَرَتِ الدُّنْيَا وَأَذْبَرَ خَيْرُهَا      وَقَدَّمَلَهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ  
ترجمہ: دنیا بھی چلی گئی اور اس کا بہترین شخص بھی چلا گیا اور جو شخص وعدے کیا کرتا تھا دنیا نے اس کو بول کر دیا ہے۔

### وصیت تدفین کے بارے میں

ابن ابی الدنیا یحییٰ بن راشد بصری سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس میری بھلائی ہوگی تو وہ مجھے اس سے عمدہ لباس عطا کرے گا اور اگر میں ایسا نہ ہوا تو وہ بھی مجھ سے چھین لے گا اور میری قبر میں بھی میانہ روی اختیار کرنا کیونکہ اگر میں خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ کشادہ جگہ کا مستحق ہوں گا تو جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے خدا تعالیٰ اسے وہاں تک فراخ کر دے گا اور اگر میں اس لائق نہیں تو وہ اسے اس قدر تنگ کر دے گا کہ میری پسلیاں ایک



طرف سے دوسری جانب چلی جائیں گی۔ کوئی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ نکلے۔ جو صفات مجھ میں نہیں ہیں ان سے مجھے یاد نہ کرنا، کیونکہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جب جنازے کے لیے باہر نکلو تو جلدی چلنا کیونکہ اگر میرے لیے خدا تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے تو مجھے تم نہایت اچھی چیز کی طرف لے جا رہے ہو گے اور اگر میں اس کے برعکس ہوں تو اپنے کندھوں سے ایک بری چیز کا بوجھ پھینک دو گے۔

### فصل نمبر 13

## حساب سے خلاصی

ابن عساکر سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں مجھے خواب میں دکھلا۔ پس میں نے دیکھا کہ آپ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ اے امیر المومنین! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت میں نے حساب و کتاب سے فراغت پائی ہے اور اگر خدا تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو قریب تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی عزت منہدم ہو جاتی۔

ابن عساکر نے زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے کیسا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ عبداللہ نے کہا قریباً بارہ سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی میں نے حساب سے خلاصی پائی ہے۔

### پیشانی سے پسینہ

ابن سعد سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انصار سے ایک شخص کہتا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دکھلا تو میں نے دس سال وفات کے بعد آپ کو دیکھا کہ آپ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اے امیر المومنین! کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا اب میں فارغ ہوا ہوں اور اگر خدا کا فضل و کرم نہ

ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔

### مرثیہ عاتکہ

حاکم شعی سے روایت کرتے ہیں۔ عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان اشعار سے مرثیہ پڑھا۔

عَيْنُ جُودِي بَعْبُورَةٌ وَ نَجِيبٌ      وَلَا تَمْلِيْ عَلَيَّ اِلَّا مَامَ الصَّلِيْبِ  
ترجمہ: اے آنکھ اس کی یاد میں جودینی کاموں میں سخت گیر تھا آٹھ آٹھ آنسو بہا اور  
رتھک نہ جا۔

فَجَعَتْنِي الْمُنُونُ بِالْفَارِسِ الْمَعْلَمِ      يَوْمَ الْهَيَاجِ وَالْتَائِيْبِ  
ترجمہ: مجھے حوادث زمانہ نے ایک شہسوار کو تکلیف پہنچا کر دردمند کیا ہے اس پر لڑائی اور  
سرزنش کے دن دلیری اور بہادری کا نشان ہوتا تھا۔

عِصْمَةُ الدِّينِ وَالْمَعِيْنُ عَلَيَّ الدَّهْرِ      وَعَيْتُ الْمَلْهُوْفِ وَالْمَكْرُوْبِ  
ترجمہ: وہ دین کا مددگار اور مصائب زمانہ کے برخلاف مدد کرنے والا اور مصیبت زدہ  
کیلئے ابر باراں تھا۔

قُلْ لِّاهْلِ الصَّرَاءِ وَالْبُؤْسِ مُوتُوا      اِذْ سَقَتْنَا الْمُنُونُ كَأَسْ شُعُوْبِ  
ترجمہ: تکلیف زدہ اور مصیبت زدوں کو کہہ دو کہ مر جاؤ کیونکہ حوادث نے ہمیں موت کا  
پیالہ پلا دیا ہے۔

فصل نمبر 14

## اعلام امت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مندرجہ ذیل اعلام امت فوت ہوئے:

عتبہ بن غزوآن، عبا بن حضرمی، قیس بن سکن، ابوقحافہ (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے  
والد بزرگوار)، سعد بن عبادہ، سہیل بن عمر، ابن ام مکتوم، مؤذن، عیاش بن ربیعہ، عبدالرحمن  
(زبیر بن عوام کے بھائی)، قیس بن ابی معصہ، جو ان شخصوں سے تھے جنہوں نے قرآن جمع  
کیا۔ نوفل بن حارث بن عبدالطلب اور ان کے بھائی ابوسفیان، ماریہ قبطیہ، سیدہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی

۱۔ جمع علم کی نشان بھنڈا۔

والدہ ماجدہ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس، ابو جندل بن سہیل، ابو نائل اشعری، صفوان بن معطل، ابی بن کعب، بلال مؤذن، اسید بن حضیر، براء بن مالک، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی، امن المؤمنین زینب بنت جحش، عاص بن غنم، ابو الہیثم بن تہیان، خالد بن ولید، جارود سید بنی عبد القیس، نعمان بن مقرن، قتادہ بن نعمان، اقرع بن جاس، سودہ بنت زمعہ، عویم بن ساعدہ، غیلان ثقفی، ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہم۔ ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ تھے۔

## حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی الاموی کنیت آپ کی ابو عمرو عبد اللہ اور ابولیلی ہے۔ آپ عام الفیل کے چھ سال بعد پیدا ہوئے اور ابتدا میں ہی اسلام لائے۔ آپ ان لوگوں سے ہیں جنہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت کی۔ آپ نے دو ہجرتیں کیں۔ پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور انہیں کی تیمارداری کے باعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کو حصہ عطا فرمایا اور اجر دیا۔ اسی لیے آپ بدریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جس وقت جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے دفن کیا تھا۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا اور وہ 9 ہجری میں فوت ہوئیں۔

### عشرہ مبشرہ سے

علماء لکھتے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی اور ایسا شخص نہیں ہوا جس نے پیغمبر کی دوڑ کیوں سے نکاح کیا ہو اور اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ آپ سابقین اولین اور اول المہاجرین اور عشرہ مبشرہ سے ہیں اور ان چھ شخصوں سے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف تک خوش رہے۔ نیز آپ ان صحابہ سے شمار ہوتے ہیں بلکہ ابن عباد کہتے ہیں کہ خلفاء سے قرآن آپ نے اور مامون نے ہی جمع کیا ہے۔

ابن سعد کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع اور غطفان میں تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں آپ ہی کو خلیفہ مقرر فرما گئے تھے۔ آپ سے ایک سو چھیالیس

حدیثیں مروی ہیں اور زید بن خالد جعفی اور ابن زبیر، سائب بن زید، انس بن مالک، زید بن ثابت، سلمہ بن اکوع، ابوامامہ، بابلی، ابن عباس، ابن عمر، عبداللہ بن مغفل، ابوقادہ، ابوہریرہ وغیرہم صحابی اور تابعین آپ سے روایت کرتے ہیں۔

### احسن اسلوبِ بیاباں

ابن سعد عبدالرحمن بن حاطب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے کسی صحابی کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسی خوش اسلوبی اور پورے طور سے حدیث بیان کرتا ہو جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ روایت کرنے سے بہت ڈرا کرتے تھے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے۔ مناسک حج کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ جانتے تھے اور ان کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ۔

### شان امتیاز

بیہنی اپنی سنن میں عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میرے ماموں حسین جعفی نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر اس وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سوا کسی شخص کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں نہیں آئیں۔ اسی لیے انہیں ذوالنورین کہتے ہیں۔

ابونعیم حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے سوا ہمیں کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جس کے گھر پیغمبر کی دو بیٹیاں ہوں۔

### ذوالنورین

خیثہ فضائل صحابہ میں اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے شخص ہیں جنہیں ملأء اعلیٰ بھی ذوالنورین کہتے ہیں اور آپ کے نکاح میں رسول اکرم ﷺ کی دو صاحبزادیاں تھیں۔

### وجہ تسمیہ ذوالنورین

مالینی بسند ضعیف اہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین

اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جنت کی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ اسلام میں جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام اروی تھا جو کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس کی بیٹی تھیں اور ان کی والدہ (یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی) بیضا بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ساتھ تو اُمّ لہیدہ ہوئی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہوتی ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ کے بعد سب سے پہلے آپ ہی مشرف باسلام ہوئے۔

### حلیہ

ابن عساکر کئی طریقوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میانہ قد تھے۔ نہ چھوٹے اور نہ لمبے۔ نہایت خوبصورت تھے۔ رنگ سرخی مائل گورا تھا۔ چہرے پر چچک کے داغ تھے۔ ڈاڑھی گھنی تھی۔ جوڑ بڑے بڑے اور سینہ فراخ تھا۔ پنڈلیاں گوشت سے پر تھیں۔ بازو لمبے تھے اور ان پر بال تھے۔ سر کے بال گھنگریالے تھے اور اصلع تھے۔ دانت بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کی کنپٹیوں کے بال کانوں سے نیچے لٹکتے تھے۔ زرد خضاب لگایا کرتے تھے۔ دانتوں کو سونے کی تار سے باندھا ہوا تھا۔

### خوبرو و خوبصورت

ابن عساکر عبداللہ بن حزم مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی مرد و عورت کو خوبصورت نہیں دیکھا۔

### ان سے زیادہ

ابن عساکر اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ گوشت سے بھرا ہوا دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا۔ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پس میں کبھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے کی طرف دیکھا اور کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف نظر کرتا۔

جب میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تم ان دونوں کے پاس گئے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا! تم نے کبھی ان سے زیادہ خوبصورت میاں بیوی دیکھے ہیں؟ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! نہیں۔

### استقامت

ابن حارث تمیمی سے روایت ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ کے چچا حکم بن ابوالعاص بن امیہ نے آپ کو پکڑ کر مضبوط رسی سے جکڑ دیا اور کہا کہ کیا تم اپنے آبائی دین سے پھر کرنے کی طرف جاتے ہو؟ بخدا میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم اس دین پر ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا! بخدا میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جب حکم نے آپ کا یہ استقلال دیکھا تو آپ کو چھوڑ دیا۔

### ہجرت

ابویعلیٰ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے پہلے پہل جس نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر ہجرت کی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا! خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ بیشک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل کو ساتھ لیکر ہجرت کی۔

### عقد ام کلثوم رضی اللہ عنہا

ابن عدی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ جب آنحضرت ﷺ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عقد کر دیا تو آپ نے انہیں فرمایا! تیرا خاوند تیرے دادے ابراہیم علیہ السلام اور تیرے باپ محمد ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔

### مشابہت

ابن عدی اور ابن عساکر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہ پاتے ہیں۔

## فصل نمبر 1

## احادیث فضیلت ما تقدم کے سوا

بخاری و مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آنحضرت ﷺ نے اپنے تمام کپڑے سمیٹ لیے اور فرمایا۔ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

## جنت ملے گی

بخاری ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے راوی ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہوئے تو آپ نے اوپر سے جھانک کر فرمایا! میں صرف آنحضرت ﷺ کے اصحاب کو قسم دلا کر پوچھتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جیشِ عمرت <sup>۱</sup> کو روانہ کرے گا اسے جنت ملے گی۔ تو میں نے ہی انہیں روانہ کیا۔ پھر کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص بیر <sup>۲</sup> کو لے کر وقف کر دے اسے جنت ملے گی۔ پس میں نے اسے مول لے کر وقف کر دیا۔ اس پر سب اصحاب نے آپ کی تصدیق کی۔

## یہی کافی ہے

ترمذی عبد الرحمن جناب رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایسے حال میں آنحضرت ﷺ کے پاس آیا کہ آپ جیشِ العسرة کے لیے لوگوں کو برا بھینٹ کر رہے تھے۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! میں سوادنٹ مع پلان وغیرہ سامان کے دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو اس لشکر کی روانگی کے لیے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں دو سوادنٹ دیتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو اس جیش کے لیے پھر ترغیب دلائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں مع پلان وغیرہ کے تین سوادنٹ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نمبر سے اتر آئے اور آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اس کے بعد اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئی نقلی عبادت نہ بھی کریں تو انہیں یہی



کافی ہے۔

### دست اقدس

ترمذی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اہل مکہ کی طرف بطور ایچی گئے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ نے فرمایا! حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام گئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے اب تمام ہاتھوں سے بہتر تھا۔

ترمذی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عنقریب ہی ایک فتنہ برپا ہوگا اور فرمایا اس میں یہ (یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) مظلوم قتل ہوں گے۔

### آئندہ کی خبر

ابن ماجہ مرہ بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہی ایک فتنہ نمودار ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص اپنے گرد چادر لپیٹے ہوئے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا یہ شخص اس دن حق پر ہوگا۔ مرہ بن کعب کہتے ہیں۔ میں لپک کر اس شخص کی طرف بڑھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر عرض کیا کہ یہ شخص؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔

### ایک قیص

ترمذی اور حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ رسوم کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا! اے عثمان! اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قیص پہنائے گا۔ پس اگر منافق اسے اتارنے کا قصد کریں تو تم اسے نہ اتارنا، حتیٰ کہ تم مجھ سے ملو۔

### ایک عہد

ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے محصور ہونے کے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد کیا ہوا ہے اور میں اس پر صابر و ثابت ہوں۔

حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے تمام اصحاب سے میرے بہت مشابہ ہیں۔

### نکاح بذریعہ وحی

طبرانی عصمتہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں فوت ہوئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دو۔ میرے پاس اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی ان سے نکاح کر دیتا اور میں نے اپنی بیٹیوں کا ان سے نکاح بذریعہ وحی کیا ہے۔

ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ ”اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے ان کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیتا، حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔

### فرشتے نے کہا؟

ابن عساکر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے اور اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ تھا تو اس نے کہا کہ یہ شخص قتل ہوگا۔ ان کی قوم انہیں شہید کرے گی اور میں ان سے حیا کرتا ہوں۔ ابو یعلیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جیسے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہیں۔ ابن عساکر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حیا فرمانے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں ہوتے اور کوٹھڑی کا دروازہ بھی بند ہوتا اور کپڑے اتار کر آپ نہانا چاہتے تو حیا کی وجہ سے پیٹھ سیدھی نہ کرتے۔

### فصل نمبر 2

## خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کرنے کے تین رات بعد آپ سے بیعت کی گئی۔ مروی ہے کہ

لوگ ان ایام میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتے اور مشورے اور سرگوشیاں کرتے۔ مگر جو صاحب رائے شخص آپ سے خلوت میں بات کرتا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہی افضل بتلاتا۔ جب عبدالرحمن بیعت کے لیے بیٹھے تو آپ نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کہا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے خلیفہ بننے کو پسند نہیں کرتے۔ (اسے ابن عساکر نے مسور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے)

### خلافت کے لائق

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے حمد و ثناء کے بعد کہا۔ اے علی رضی اللہ عنہ میں نے لوگوں کے حالات میں نظر کی ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو خلافت کے لائق نہیں بتاتے اس لیے تم اپنے واسطے کوئی کارروائی نہ کرنا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہم آپ سے خدا تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں خلیفوں کے طریقوں پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ سے بیعت کر لی۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی۔

### ایک گھڑی پہلے

ابن سعد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مرنے سے ایک گھڑی ہی قبل ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا! انصار سے پچاس شخصوں کو لے کر اصحاب شوریٰ کے ساتھ رہنا۔ مجھے خیال ہے کہ وہ عنقریب ہی ایک گھر میں جمع ہوں گے۔ تم اپنے پچاس آدمیوں کو ساتھ لے کر دروازے پر کھڑے رہنا اور جب تک وہ کسی کو امیر مقرر نہ کر دیں کسی کو اندر نہ جانے دینا اور نہ ہی بغیر امیر مقرر کیے تیسرا دن گزرنے دینا۔

### بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

مسند احمد میں ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیسے بیعت کر لی؟ تو آپ نے فرمایا! اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کتاب اللہ

سنت رسول ﷺ اور سیرۃ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر بیعت کرتا ہوں تو انہوں نے کہا جہاں تک میری طاقت میں ہے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر میں نے یہی بات پیش کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات پر راضی ہوں۔

کس سے بیعت؟

مروی ہے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو علیحدہ لے جا کر کہا اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ پھر ایسے ہی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علیحدہ لے جا کر ان سے بھی یہی کچھ پوچھا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے۔ انہوں نے کہا! حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اگر میں تم سے بیعت نہ کروں تو تم مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیتے ہو تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیتے ہو۔ کیونکہ میں اور تم تو خلافت چاہتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد عبدالرحمن نے دیگر معزز شخصوں سے پوچھا تو ان سے اکثر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہی راضی پایا۔

سنتہ الرعاف (یعنی نکسیر کا سال)

ابن سعد اور حاکم ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمارے امیر مقرر کیے گئے تو ہم نے ان کی تابعداری اور امیر بنانے میں کوتاہی اور کمی نہیں کی۔ آپ کی خلافت کے سال اول 24 ہجری میں ملک رے فتح ہوا جو پہلے بھی ایک فتح ہو چکا تھا مگر پھر ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اسی سال لوگوں کو کثرت سے نکسیریں جاری ہوئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی نکسیر جاری ہوئی، حتیٰ کہ آپ حج کے لیے نہ جاسکے اور مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ اس سال کو سنتہ الرعاف (یعنی نکسیر کا سال) کہتے ہیں۔ اسی سال میں روم کے بہت سے قلعے فتح ہوئے اور اسی سال میں مغیرہ کو معزول کر کے سعد بن ابی وقاص کو آپ نے کوفہ کا حاکم بنایا۔

پہلا الزام

25 ہجری میں آپ نے سعد کو کوفہ سے معزول کر کے ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو والدہ کی طرف سے آپ کے بھائی تھے وہاں کا حاکم مقرر کیا اور اس سے سب سے پہلا الزام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر قائم کیا گیا چونکہ آپ نے اپنے اقرباء کو حاکم بنانا اختیار کیا۔ کہتے ہیں ولید نے ایک دن حالت نشہ میں صبح کی چار رکعات پڑھادیں اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔

کیا اور پڑھاؤں؟

قبرص پر حملہ

26 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمندر کے راستے سے قبرص پر حملہ کیا۔ اس لشکر میں عبادہ بن صامت اور ان کی بیوی ام حرام بنت ملھان بھی ساتھ تھیں جو اس جگہ اپنے گھوڑے سے گر کر انتقال کر گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لشکر کی پہلے ہی خبر دی تھی اور ان کے لیے دعا کی تھی۔ خدا کرے تم بھی اس لشکر سے ہو۔ آخر انہیں قبرص میں ہی دفن کیا گیا اور اسی سال ار جان اور دار بجر فتح ہوئے اور اسی سال میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص کو مصر سے معزول کیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی صراح کو وہاں کا حاکم بنایا اور انہوں نے وہاں جا کر افریقہ پر حملہ کیا اور تمام ملک کو فتح کر لیا اور اس فتح سے ہر سپاہی کو ایک ہزار دینار اور ایک قول کے مطابق تین ہزار دینار غنیمت حصہ میں آئی۔ اس کے بعد اسی سال اندلس فتح ہوا۔

لطیفہ:

معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بار بار اصرار کیا کرتے تھے کہ سمندر کے راستے قبرص پر حملہ کیا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص کی طرف لکھا کہ سمندر اور اس کی سواری کا حال لکھو تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی مخلوق پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ اگر وہ بڑی مخلوق کھڑی ہو جائے تو دل دھڑکنے لگتے ہیں اور اگر حرکت کرے تو عقلیں خوف کھاتی ہیں اور اس میں عقلیں کم ہوتی ہیں اور گناہ بہت ہوتے ہیں۔ لوگ اس میں اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کیڑا لکڑی پر سوار ہوتا ہے۔ اگر لکڑی ذرا کسی طرف جھکتی ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے اور اگر نجات پا جائے تو مارے خوشی کے چک اٹھتا ہے۔

جب حضرت عمرؓ نے اس خط کو پڑھا تو معاویہؓ کی طرف لکھا۔ بخدا میں مسلمانوں کو کبھی ایسی خوفناک چیز میں سوار نہیں کروں گا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے عہد میں قبرس سے لڑے اور انہوں نے جزیہ دینے پر صلح کر لی۔

### توسیع مسجد نبوی

29 ہجری میں اصطر اور قساء وغیرہ غلبت فتح ہوئے۔ اسی سال حضرت عثمانؓ نے مسجد نبوی میں توسیع کی اور اسے نقش و نگار کردہ پتھروں سے بنوایا اور ستون ایک ایک پتھر کے ہی بنوائے اور چھت سا گوان کی ککڑی سے بنوایا اور مسجد کا طول 160 ہاتھ اور عرض 150 ہاتھ رکھا۔

### انتاز زیادہ مال

30 ہجری میں جو راور خراسان کے بہت سے شہر فتح ہوئے اور نیشاپور صلح سے اور طوس اور سرخس دونوں صلح سے اور اسی طرح ”مرد“ اور بیہق بھی فتح ہوئے۔ جب یہ سب ملک فتح ہوئے تو مال بڑھ گیا اور حضرت عثمانؓ غنیؓ کے پاس ہر طرف سے اتنا مال آنے لگا کہ خزانے بنانے پڑے اور آپ نے دل کھول کر لوگوں کو مال دیا، حتیٰ کہ ہر شخص کے حصے میں ایک لاکھ بدرہ آ یا اور ہر ایک بدرہ میں چار ہزار اوقیہ ہوتے تھے۔

### اپنا حق

35 ہجری میں حضرت عثمانؓ شہید کر دیئے گئے۔ زہری کہتے ہیں حضرت عثمانؓ نے بارہ سال خلافت کی ہے۔ پہلے چھ سال تک تو لوگوں کو آپ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہوئی بلکہ قریش آپ کو حضرت عمرؓ سے بھی اچھا سمجھتے تھے کیونکہ حضرت عمرؓ کے مزاج میں ذرا سختی تھی اور جب حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو آپ نے ان سے نرمی اختیار فرمائی۔ مگر پھر آپ نے قریش کے امر میں سستی کی اور اپنی خلافت کے پچھلے چھ سالوں میں اپنے عزیزوں اور قریبوں کو مناصب پر فائز کیا جن میں مروان کو افریقہ کا افسر بنایا۔ چنانچہ مروان کو افریقہ کا نمس معاف کر دیا اور اپنے اقرباء کو اپنے ذاتی مال سے دینا شروع کیا۔ چنانچہ فرمایا میں صلح حرمی کرتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما

نے اگر چاہا یہ حق نہیں لیا تھا۔ مگر میں اسے لیکر اپنے اقرباء میں تقسیم کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا۔ (رواہ ابن مسعود)

### معاملہ مصر اور سازش مروان

ابن عساکر ایک اور وجہ سے ابن زہری سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیسے شہید کیے گئے اور لوگوں کا اور ان کا کیا معاملہ تھا؟ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے انہیں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم قتل ہوئے اور جس نے انہیں شہید کیا تھا وہ ظالم تھا اور جس نے آپ کو چھوڑ دیا (یعنی مدینہ کی) وہ معذور تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بات کس طرح ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو صحابہ سے ایک جماعت نے آپ کی خلافت کو مکروہ سمجھا کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو دوست رکھتے تھے اور آپ نے بارہ سال تک خلافت کی اور اس میں اکثر بنی امیہ کو بھی حاکم مقرر کرتے تھے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب نہ تھے اور جب ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناپسند کرتے تو آپ صحابہ کو رضامند کر لیتے اور اس امیر کو منزول نہ فرماتے۔ جب آپ اپنی خلافت کے پچھلے چھ سالوں میں اپنے چچازاد بھائیوں کو حاکم بنانے لگے اور ساتھ ہی ان کو خدا تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم بھی کیا۔ پس عبداللہ بن ابی سرح کو مقرر فرمایا اور وہ چند سال تک وہاں رہا تو اہل مصر اس کے ظلم کی شکایت لیکر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس سے پہلے عبداللہ بن مسعود ابوذر اور عمار بن یاسر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ رنجش تھی۔ اس لیے بنو ہذیل اور بنو ہرہ ابن مسعود کے باعث اور بنو غفار اور ان کے ہم عہد ابوذر کی وجہ سے اور بنو مخزوم عمار بن یاسر کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کشیدہ خاطر تھے۔ ایسے حال میں اہل مصر ابن سرح کی شکایت لیکر آئے تو آپ نے ابن سرح کی طرف ایک خط لکھا جس میں اسے دھمکایا۔ لیکن ابن سرح نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا تھا اور جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے ان کو مارا اور قتل کر دیا۔ اس پر اہل مصر سے سات سو آدمی مدینہ منورہ میں آئے اور ابن سرح کے ظلم کی تمام صحابہ سے شکایت کی۔ پس طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور اس معاملہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سختی سے گفتگو کی اور حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سختی سے کہلا بھیجا۔ آنحضرت ﷺ کے اصحاب آپ سے اس شخص کے معزول کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ مگر آپ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس نے مصریوں کے کئی آدمی قتل کر دیئے ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ اپنے عامل سے انہیں انصاف لے دیجئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ابن سرح کی جگہ دوسرا آدمی چاہتے ہیں اور انہوں نے اس پر خون کا دعویٰ بھی کیا۔ آپ اسے معزول کر دیجئے اور ان کا فیصلہ کیجئے۔ پس اگر اس کے ذمہ جرم ثابت ہو جائے تو اس سے بدلہ لیجئے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے لیے کسی شخص کو پسند کر لو۔ میں اس کی جگہ اسے حاکم بنا دوں گا۔ لوگوں نے محمد بن ابی بکر کو پیش کیا اور کہا کہ انہیں وہاں کا حاکم بنا دیجئے۔ پس آپ نے ان کی تقرری کا حکم لکھ دیا۔ جب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مصر کو روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کئی مہاجر اور انصار بھی شامل ہوئے تاکہ ابن سرح اور اہل مصر کے معاملہ پر غور کریں۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ سے تین دن کے فاصلے پر پہنچے تو انہیں ایک حبشی غلام ملا جو اپنے اونٹ کو اس تیزی سے چلا رہا تھا گویا وہ کسی کی تلاش میں ہے یا کوئی اور شخص تلاش میں اس کے پیچھے لگا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے صحابہ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا اور کیا معاملہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھاگ کر آرہے ہو یا کسی کو تلاش کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں امیر المومنین کا غلام ہوں۔ مجھے انہوں نے عامل مصر کی طرف بھیجا ہے۔ ایک شخص نے کہا مصر کے حاکم تو یہ ہیں۔ اس نے کہا میں انہیں نہیں چاہتا۔ پھر محمد بن ابی بکر کے کہنے پر ایک آدمی اسے پکڑ لایا۔ اس سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ تو وہ خود کو کبھی امیر المومنین کا غلام بتاتا اور کبھی کہتا میں مروان کا غلام ہوں۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہے۔ پھر محمد بن ابی بکر نے پوچھا کہ تم کس کی طرف بھیجے گئے ہو۔ اس نے کہا عامل مصر کی طرف۔ پھر اس سے پوچھا کیوں بھیجے گئے ہو۔ اس نے کہا ایک پیغام دیکر۔ پھر اس سے پوچھا تمہارے پاس کوئی خط ہے۔ اس نے انکار کیا۔ پھر اس کی تلاشی لی گئی۔ لیکن اس کے پاس سے کوئی خط برآمد نہ ہوا۔ مگر اس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جو خشک ہو چکا تھا اور اس میں کوئی چیز کھڑکھڑاتی تھی۔ انہوں نے جب اسے نکالنا چاہا تو اس طرح نہ نکل سکی۔ پھر اس کو پھاڑا گیا تو اس میں سے ایک خط نکلا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابن سرح کی طرف لکھا گیا تھا۔ محمد بن ابی بکر نے سب مہاجرین و انصار کو جو آپ



کے ساتھ تھے جمع کیا اور پھر ان کے سامنے اس خط کو کھولا۔ اس میں لکھا تھا جب تیرے پاس محمد اور فلاں فلاں شخص آئے تو کسی حیلہ سے انہیں قتل کر دے اور ان کی تقرری کے فرمان کو باطل سمجھ اور اپنی ملازمت پر برقرار رہو۔ حتیٰ کہ میں تمہیں کوئی ہدایت اس کے بارے میں سمجھوں اور جو شخص تیرے ظلم کی شکایت لے کر میرے پاس آنا چاہتا ہو اسے قید کر دے اور اس بارے میں میری طرف سے عنقریب ہی تیرے پاس ہدایت آئے گی۔ یہ خط پڑھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے اور مدینے کی طرف واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ محمد بن ابی بکر نے اس خط پر اپنے ہمراہیوں میں سے چند ایک معزز لوگوں کی مہربانیاں لگوائیں اور پھر وہ خط ان میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے طلحہ زبیر، علی، سعد وغیرہ رضی اللہ عنہم اصحاب آنحضرت ﷺ کو جمع کیا اور ان کے رو برو خط کھولا اور وہ معاملہ ان میں شروع سے آخر تک بیان کر دیا جسے سن کر بظاہر سب لوگوں کو غصہ آیا اور جو لوگ ابن مسعود ابو ذر اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہم کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کشیدہ خاطر رہتے تھے ان کی آتش غضب اور بھی تیز ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کے صحابہ تو اس خط کی وجہ سے آزرده خاطر اور غمگین ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ محمد بن ابی بکر نے اپنے قبیلہ بنی تیم وغیرہ کو بھی وہاں لاکھڑا کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے طلحہ زبیر، سعد اور عمار وغیرہ رضی اللہ عنہم سب بدری صحابہ کو بلوایا اور سب مل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور خط غلام اور اونٹ ساتھ لے آئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا۔ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کیا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نہ ہی لکھنے کا حکم کیا ہے اور نہ مجھے اس کا علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مہر تو آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں مہر تو میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام آپ کا، اونٹ آپ کا اور خط جس پر مہر بھی آپ کی ہو کوئی لیکر جائے اور آپ کو خبر تک نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے اس خط کو لکھا ہے اور نہ اس کے لکھنے کا حکم کیا ہے اور نہ ہی اس غلام کو مصر کی طرف روانہ کیا

## خط کی تحقیق

بعد ازاں پہچانا گیا کہ خط مروان کا لکھا ہوا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے لوگوں کو شک ہوا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ مگر آپ نے مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا۔ (مروان اس وقت آپ کے گھر میں موجود تھا۔) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہاں سے آزرده ہو کر نکلے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے شک کیا۔ مگر وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جھوٹی قسم نہیں اٹھاتے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مروان کو ہمارے حوالے نہ کر دیں وہ شک سے بری نہیں ہو سکتے۔ ہم مروان سے دریافت کریں گے اور اس خط کا حال پوچھیں گے کہ کس طرح وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو بغیر حق کے قتل کا حکم کرتا ہے۔ اگر ثابت ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی اس خط کو لکھا ہے تو ہم انہیں معزول کر دیں گے اور اگر مروان حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا ہوگا تو ہم مروان کے معاملہ میں غور کریں گے۔ پس لوگ بلوے ٹپرجم گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان کو حوالہ کرنے سے پہلو تہی کی۔ جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا اور پانی اندر جانا بند کر دیا تو آپ نے اوپر سے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں سعد رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچائے اور وہ ہمیں پانی پلائیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی کارکردگی

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے پانی سے بھری ہوئی تین مشکیں اندر بھجوا دیں مگر یہ پانی اس وقت آپ کو نہ مل سکا جب تک بنی ہاشم اور بنو امیہ کے گھر والوں کو زخم نہ پہنچ گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا! ہم تو ان سے صرف مروان کو طلب کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کو تو نہیں چاہتے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ اپنی تلواریں لیکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو اور کسی کو اندر نہ آنے دو اور زیر و طلحہ اور دیگر

کئی صحابہ نے بھی اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ وہ کسی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل نہ ہونے دیں اور ان سے مروان کے حوالہ کر دینے کے بارے میں عرض کریں۔

### دیوار پھاند کر

جب محمد بن ابی بکر نے دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تیر چلانے شروع کیے ہیں، حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی خون میں تر پتر ہیں اور مروان کو بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تیر لگا اور محمد بن طلحہ بھی خون میں رنگین ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام قمبر بھی زخمی ہیں تو اسے (یعنی محمد بن ابی بکر کو) فکر پیدا ہوا کہ حسنین رضی اللہ عنہما کا حال دیکھ کر بنو ہاشم غضبناک نہ ہو جائیں اور ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہو جائے اس لیے انہوں نے دو شخصوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر بنو ہاشم نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خون دیکھ لیا تو وہ لوگوں کو آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہٹا دیں گے اور ہمارا ارادہ باطل ہو جائے گا اس لیے مناسب ہے کہ ہم تینوں شخص دیوار پھاند کر اندر چلے جائیں اور پوشیدہ طور پر انہیں قتل کر دیں۔

### شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

یہ پردگرم بنا کر محمد بن ابی بکر اور اس کے دونوں ساتھی انصاری کے گھر سے کود کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک جا پہنچے اور کسی کو بھی ان کے پہنچنے کی خبر نہ ہوئی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کے سب لوگ چھت پر تھے اور نیچے صرف آپ اور آپ کی بیوی ہی تھے۔ محمد بن ابی بکر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کہا تم یہاں ہی ٹھہرو کیونکہ آپ کے پاس آپ کی بیوی ہے۔ میں پہلے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پکڑتا ہوں۔ جب میں اجازت دوں تو آ جانا اور انہیں قتل کر دینا۔ پس محمد بن ابی بکر اندر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈاڑھی سے پکڑ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ اگر تمہارے والد اس فعل کو دیکھتے تو اسے برا مانتے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر نے آپ کی ڈاڑھی چھوڑ دی۔ پھر ان کے دونوں ساتھیوں نے اندر آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے بھاگ گئے۔

### میں قاتل نہیں

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی چیتھے لگیں مگر شور و غوغا کے باعث ان کی آواز کسی نے نہ سنی۔

آخر انہوں نے چھت پر چڑھ کر پڑا کہ امیر المؤمنین قتل کر دیئے گئے ہیں۔ لوگ یہ بات سن کر اندر گئے۔ دیکھا تو واقعی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مذبح پڑے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ طلحہ زبیر سعد رضی اللہ عنہم اور مدینہ کے باقی لوگوں کو پہنچی تو سراسیمہ ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے۔ دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واقعی شہید پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہارے دروازے پر موجود ہوتے ہوئے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کون قتل کر گیا۔ یہ کہہ کر حسن رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا اور حسین رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر مکارا اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو سرزنش کی اور سخت غصے ہو کر آپ اپنے مکان میں تشریف لے آئے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ ہاتھ بڑھائیے۔ ہم آپ سے بیعت کریں کیونکہ کسی امیر کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا خلیفہ کا انتخاب کرنا تمہارا کام نہیں ہے بلکہ یہ اہل بدر کا کام ہے جس پر وہ راضی ہوں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ پھر سب اہل بدر نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں۔ پھر سب نے آپ سے بیعت کی اور مروان اور اس کا لڑکا بھاگ گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حرم محترم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اتنا ہی جانتی ہوں کہ دو شخص یہاں آئے تھے جنہیں میں نہیں پہچانتی اور ان کے ساتھ محمد بن ابی بکر بھی تھا۔ پھر انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو بلایا اور جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زوجہ محترمہ نے کہا تھا اس کے بارے اس سے پوچھا تو محمد بن ابی بکر نے کہا انہوں نے سچ کہا ہے۔ میں بیشک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوا تھا مگر جب انہوں نے میرا باپ مجھے یاد دلایا تو میں فوراً الگ ہو گیا اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ بخدا میں نے انہیں قتل کیا ہے اور نہ انہیں پکڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حرم محترمہ نے کہا مگر ان دونوں شخصوں کو تو انہوں نے ہی اندر داخل کیا تھا۔

### قاتل حمار

ابن عساکر کتنا مولا صفیہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اہل مصر

سے ایک شخص نے نقل کیا تھا جس کی آنکھیں کرنچی اور رنگ سرخ تھا اور اسے حمار کہتے تھے۔  
دار ہجرت اور ہمسائیگی نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

احمد روایت کرتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ محصور ہونے کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا آپ لوگوں کے امام ہیں اور اب آپ پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں۔ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے۔ یا تو آپ ان سے باہر نکل کر جنگ کیجئے کیونکہ آپ کے پاس سامان اور لشکر ہے اور آپ حق پر بھی ہیں اور وہ باطل پر۔ اور یا اپنے مکان سے دوسری طرف دروازہ نکال کر سوار ہو کر مکہ پہنچ جائیے کیونکہ وہ آپ کو قتل کریں گے ہی نہیں۔ اور یا شام کی طرف تشریف لے جائیے کیونکہ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں باہر نکل کر ان سے نہیں لڑوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے ہو کر خونریزی کروں اور نہ بھاگ کر مکے میں ہی جا سکتا ہوں کیونکہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے قریش سے ایک شخص حرم مکہ میں ظلم کرے گا۔ اس پر تمام دنیا سے آدھا عذاب ہوگا۔ پس میں نہیں چاہتا کہ میں وہی شخص بنوں اور شام کی طرف میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے دار ہجرت اور رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہمسائیگی کو چھوڑ دوں۔

### دس پوشیدہ خصلتیں

ابن عساکر ابو ثور ثنی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محصور ہونے کی حالت میں ان کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے پاس دس خصلتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ میں تین شخصوں کے اسلام لانے کے بعد اسلام لایا ہوں۔

- دوم: یہ کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا۔
- سوم: یہ کہ جب وہ فوت ہو گئیں تو اپنی دوسری صاحبزادی سے نکاح کر دیا۔
- چہارم: یہ کہ میں نے کبھی گایا نہیں۔

پنجم: یہ کہ میں نے کبھی برائی کی آرزو نہیں کی۔

ششم: یہ کہ جب سے میں نے رسول پاک ﷺ سے بیعت کی ہے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ پر نہیں رکھا۔

ہفتم: یہ کہ جب سے میں مشرف باسلام ہوا ہوں کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہو اور اگر اس وقت پاس نہ ہوتا تو بعد ازاں آزاد کرتا۔

ہشتم: یہ کہ میں نے جاہلیت اور اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔

نہم: یہ کہ میں نے جاہلیت اور اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔

اور دہم: یہ کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے عہد کے موافق قرآن مجید کو جمع کیا ہے۔

### حش و کوکب

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایام تشریق میں 35 ہجری میں ہوئی اور ایک قول کے مطابق بروز جمعہ 18 ذی الحج کو شہید ہوئے اور ہفتہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان جنت البقیع میں بمقام حش و کوکب دفن ہوئے۔ کہتے ہیں کہ سب سے اول آپ ہی اس جگہ دفن ہوئے ہیں۔

### اختلاف عمر

اور بعض کہتے ہیں آپ چہار شنبہ (بدھ) کو شہید ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ تاریخ 24 ذی الحج بروز دو شنبہ (اتوار) شہید ہوئے اور عمر آپ کی اس وقت 82 برس کی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ 81 برس کی تھی اور ایک قول کے مطابق 84 برس اور ایک قول کے مطابق 86 برس اور ایک قول کے مطابق 88 برس 89 برس یا 90 برس کی تھی۔

قائد کہتے ہیں زیر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کیا کیونکہ آپ نے انہیں اسی طرح وصیت کی تھی۔

### اللہ کی تلوار

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کرتے ہیں کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ رہے اللہ تعالیٰ کی تلوار بھی میان میں رہی۔ مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے تو وہ

کھجوروں کا جھنڈا اور کوکب بخت گرمی والی جگہ اور ایک ستارہ کئی جماعت چمک اٹھنے والی جگہ۔

تلوار پھر ایسی میان سے نکلی کہ تاقیامت کبھی میان میں نہ جائیگی۔

## سزائی

ابن عساکر یزید بن حبیب سے روایت کرتے ہیں کہ عام لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بلوا کیا تھا ان سے بہت سے دیوانے ٹھہ گئے تھے۔

## پہلا فتنہ اور آخری فتنہ

حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جانا ہے اور سب سے آخری فتنہ خروجِ دجال ہوگا اور قسم ہے اس خدا تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس شخص کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی ذرا سی بھی خوشی ہوگی اگر وہ دجال کے زمانہ میں ہوگا تو اس کا پیرہ ہو جائے گا ورنہ قبر میں اس پر ایمان لائے گا۔

## نہ خوش نہ مددگار

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ نہ کرتے تو آسمان سے ان پر پتھر برستے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ سے باہر اپنی کسی زمین پر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ نے یہ خبر سنی تو آپ نے فرمایا: الہی تو جانتا ہے کہ نہ میں اس واقعہ سے خوش ہوں اور نہ میں نے اس میں مدد دی ہے۔

## عقل اڑ گئی

حاکم قیس بن عبادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگِ جمل کے روز فرما رہے تھے ”اے اللہ! میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری ہوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے روز میری عقل اڑ گئی تھی اور میں اپنے آپ کو نہ پہچانتا تھا اور جب لوگ میرے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ بخدا مجھے شرم آتی ہے میں ایسی قوم سے بیعت لوں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے اور مجھے خدا تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں ایسی حانت میں بیعت کیا جاؤں کہ ابھی تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دفن بھی نہ کیے گئے ہوں۔ یہ سن کر لوگ چلے گئے۔ جب پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے مجھے بیعت کے لیے کہا تو میں نے

کہا اے اللہ! میں اس چیز سے ڈرتا ہوں جس پر میں پیش کیا جاتا ہوں۔ آخر انہوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے ان سے بیعت لے لی۔ پھر انہوں نے مجھے امیر المومنین کہہ کر پکارا تو گویا ان کی بات نے میرے دل میں چھید کر دیا اور میں نے کہا۔ اے اللہ! اگر میں نے کچھ کیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مجھ سے بدلہ لے لے تاکہ تو راضی ہو جائے۔

### خیال بنی امیہ

ابن عساکر ابوخلدہ حنفی سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے آپ فرما رہے تھے بنی امیہ خیال کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو میں نے قتل کرایا ہے۔ مگر میں اس خدائے واحد کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ میں نے انہیں قتل کیا ہے اور نہ اس میں مدد دی ہے بلکہ میں نے لوگوں کو منع کیا تھا مگر انہوں نے میرا کہا نہ مانا۔

### خلافت اور اہل مدینہ

سمرہ سے مروی ہے۔ اسلام ایک مضبوط قلعہ میں تھا۔ مگر لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے اس میں رخنڈال دیا ہے جو تا قیامت بند نہ ہوگا اور خلافت اہل مدینہ میں چلی آتی تھی۔ مگر انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ اب پھر کبھی ان میں واپس نہیں آئے گی۔

### فرشتوں کے گھوڑے

محمد بن سیرین سے مروی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کیے جانے سے ہی فرشتوں کے اہلق گھوڑے جنگوں سے مفقود ہو گئے اور ہلا لوں کی رویت میں اختلاف بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے شروع ہوا ہے اور اہل حق کی سرخی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے ہی شروع ہوئی ہے۔

### قاتل کوڑی

عبدالرزاق اپنی کتاب میں حمید بن ہلال سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرہ کرنے والوں کے پاس آتے اور کہتے انہیں قتل نہ کرو۔ بخدا! جو شخص بھی تم سے ان کو قتل کرے گا وہ کوڑی ہو جائے گا اور اس کا ہاتھ وغیرہ نہ رہے گا اور اب تک تو اللہ کی تلوار میان میں ہے اور اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس تلوار کو میان سے ایسے کھینچے گا کہ پھر کبھی میان میں نہیں کرے گا اور یہ خوب سمجھ لو کہ ایک نبی کے بدلے 70 ہزار



اور ایک خلیفہ کے بدلے 35 ہزار شخص قتل ہوتے ہیں۔

### انفرادیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

ابن عساکر عبدالرحمن بن مہدی سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں دو خصالتیں ایسی تھیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بھی نہیں تھیں۔ ایک تو شہادت کے وقت تک صبر کرنا دوسرے ایک صحف پر تمام لوگوں کو جمع کر دینا۔

حاکم شععی سے روایت کرتے ہیں۔ کعب بن اخبار رضی اللہ عنہ کے مرثیہ سے بہتر اور کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مرثیہ نہیں کہا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

### مرثیہ کے اشعار

فَكَفَّ يَدَيْهِ ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ  
وَأَيْقَنَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ  
ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کشت و خون سے اپنے دونوں ہاتھ روک لیے اور اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیا اور یقین کر لیا خدا تعالیٰ ہمارے اور ان کے حال سے غافل نہیں۔

وَقَالَ لِأَهْلِ الدَّارِ لَا تَقْتُلُوهُمْ  
عَفَا اللَّهُ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ لَمْ يُقَاتِلْ  
اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ بلوا کرنے والوں سے جنگ نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ نہ کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔

فَكَيْفَ رَأَيْتَ اللَّهَ صَبَّ عَلَيْهِمُ  
الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ بَعْدَ التَّوَاضُّعِ  
(کعب بن اخبار) کہتے ہیں اے مخاطب دیکھ۔ پھر خدا تعالیٰ نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں کس طرح عداوت اور بغض ڈالا۔ بعد اس کے کہ وہ آپس میں ملے جلے تھے۔

وَكَيْفَ رَأَيْتَ الْخَيْرَ أَذْبَرَ بَعْدَهُ  
عَنِ النَّاسِ إِذْ بَارَ الرِّيَّاحُ الْجَوَافِلُ  
اور پھر آپ کی شہادت کے بعد لوگوں سے بھلائی کیسے دور ہو گئی جیسے کہ تیر چلے والا۔

### فصل نمبر 3

## زر د کپڑے

ابن سعد موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ آپ جمعہ کے دن گھر سے نکلتے اور آپ پر دوز زرورنگ کے کپڑے ہوتے اور آپ منبر پر بیٹھ

جاتے اور مؤذن اذان دیتا اور آپ ابھی تک لوگوں کو غلہ کے نرغ اور ان کی خیریت اور مریضوں کے حالات سے ہی پوچھتے ہوتے۔  
خود وضو کرنا

عبداللہ رومی سے مروی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کے وقت خود وضو کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے کسی خدمتگار کو کیوں نہیں بلا لیا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اب رات کو بھی وہ آرام نہ کریں۔

### انگوٹھی کا نقش

ابن عساکر عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کا نقش اَمْنَتْ بِاللَّيْمِ خَلَقَ فَسَوَّى تھَا۔

### گستاخی کی سزا

ابو نعیم دلائل میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جب جہاد غفاری نے ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عصا لیکر جس کو پکڑے ہوئے آپ خطبہ پڑھ رہے تھے اپنے زانو پر رکھ کر توڑ دیا۔ ابھی ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے اس کے پاؤں میں گوشت خورہ ہو گیا۔

### فصل نمبر 4

## اولیات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

عسکری اوائل میں لکھتے ہیں کہ جاگیریں پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی مقرر کیں اور چراگاہیں رکھنے کا دستور بھی سب سے پہلے آپ نے ہی جاری کیا۔ تکبیر میں سب سے پہلے آپ نے اپنی آواز کو پست کیا اور لوگوں سے سب سے پہلے آپ نے ہی مسجد کی لپائی کرائی اور جمعہ میں پہلی اذان آپ نے ہی مقرر کی اور مؤذنون کی تنخواہیں آپ نے ہی مقرر کیں اور آپ ہی پہلے وہ شخص ہیں جو خطبہ پڑھتے پڑھتے رک گئے اور فرمایا کہ اے لوگو! پہلے سوار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے بعد بھی پھر کئی دن آئیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو تمہیں نہایت اچھی طرح

سے خطبہ سنایا کروں گا۔ ہمارا خاندان خطیب نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جیسے کہ ہم ہیں۔ (رواہ ابن سعد) عید میں نماز سے قبل خطبہ آپ نے ہی مقدم کیا اور سب سے پہلے آپ نے ہی لوگوں کو خود زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا اور آپ ہی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو اپنی والدہ کی زندگی میں خلیفہ ہوئے اور کو تو ال سب سے پہلے آپ ہی نے مقرر کیے۔ سب سے پہلے مسجد میں مقصورہ آپ نے ہی بنوایا تا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معاملہ واقعہ نہ ہو۔ (یہاں تک عسکری کا بیان ہے) سب سے پہلے آپ کے عہد خلافت میں ہی بعض لوگوں نے بعض کو خطا وار ٹھہرایا اور آپ پر نکتہ چینی کی۔ اس سے قبل لوگ صرف فقہ میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو کوئی برائہ کہا کرتا تھا۔ میں (یعنی مصنف) کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ہی اپنے اہل و عیال کو لیکر ہجرت کی اور ایک قرأت پر لوگوں کو متفق کیا۔

### کبوتر اور غلیلیں

ابن عساکر حکیم بن حنیف سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کے عہد خلافت میں جب دنیاوی مال بہت بڑھ گیا تو پہلی بری بات یہ پیدا ہوئی کہ بے فکروں نے کبوتر بازی اور غلیلی اندازی شروع کی اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے روکنے کے لیے اپنی خلافت کے آٹھویں برس بنی لیث سے ایک شخص کو مقرر کیا جس نے کبوتروں کے پر کتر ڈالے اور غلیلیں توڑ دیں۔

### فصل نمبر 5

## وفات اعلام امت

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مندرجہ ذیل اعلام امت فوت ہوئے:

سراقہ بن مالک بن جعشم، جبار بن سحر، حاطب بن ابی بلتعہ، ایاض بن زہیر، ابواسید ساعدی، اوس بن صامت، حرث بن نوفل، عبداللہ بن حذافہ، زید بن خارجہ جو مرنے کے بعد بھی بولتا رہا، لبید شاعر، مسیب والد سعید، محاذ بن عمرو بن جموح، سعید بن عباس، معقیب بن ابی فاطمہ دوسی، ابولبابہ بن عبدالمعز، نعیم بن مسعود اشجعی، ان کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ فوت ہوئے اور غیر صحابہ سے خطبہ شاعر اور ابو ذریب شاعر ہڈی فوت ہوئے۔

## حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

### نسب و کنیت

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابو طالب عبدمناف کے نام سے مشہور تھے اور عبدمناف عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور ان کا نام شیبہ تھا یعنی اس نام سے مشہور تھے اور شیبہ ہاشم کے بیٹے تھے اور وہ عمر کے نام سے مشہور تھے اور وہ عبدمناف کے بیٹے تھے اور عبدمناف مغیرہ کے نام سے مشہور تھے اور وہ قصی کے بیٹے تھے اور قصی زید کے نام سے مشہور تھے اور زید مرہ بن کعب کے بیٹے تھے اور کعب لوی کے بیٹے تھے اور لوی غالب کے بیٹے تھے اور غالب فہر کے بیٹے تھے اور مالک مصر کے بیٹے تھے اور نصر کنانہ کے بیٹے تھے۔ اور آپ کی کنیت ابوالحسن اور ابو تراب ہے اور ابو تراب آپ کی کنیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ یہ پہلی ہاشمیہ ہیں جنہوں نے ایک ہاشمی جنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع میں ہی مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت فرمائی۔ آپ عشرہ مبشرہ سے ہیں اور از روئے مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں سے ہیں اور علمائے ربانیین اور شجعان مشہورین اور زہاد مذکورین اور خطبائے معروفین سے شمار ہوتے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں اور آپ بنی ہاشم کے پہلے خلیفہ ہیں اور آپ ہی ابوالسپین ہیں۔ آپ شروع میں ہی مشرف باسلام ہوئے بلکہ ابن عباس انس زید بن ارقم مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ کئی علماء نے کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے اور بعض نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔

### روز و شب

ابوعلی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شنبہ (سوموار) کے روز مبعوث ہوئے اور میں شنبہ (منگل) کو ایمان لایا۔ اس وقت آپ (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) تھے۔

اللہ عنہ) کی عمر دس برس کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ 9 برس کی اور بعض 8 برس کہتے ہیں اور بعض اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔

حسن بن زید بن حسن کہتے ہیں۔ آپ نے ابتدائے عمر سے ہی کبھی بت نہیں پوچھے۔

(رواہ ابن سعد)

### امانتیں اور وصایا

جب آنحضرت ﷺ نے مدینہ شریف کو ہجرت کی تو آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تم یہاں چند دن یہاں تک رہ کر میرے پاس جو لوگوں کے امانتیں اور وصایا وغیرہ ہیں وہ ان کو پہنچا کر اپنے اہل و عیال کو لے کر آ جانا۔ پس آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدرواؤد وغیرہ تمام جنگوں میں شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ اس جنگ میں آنحضرت ﷺ آپ کو مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ تمام جنگوں میں آپ کی شجاعت کے آثار مشہور ہیں اور کئی جگہوں میں آنحضرت ﷺ نے آپ کو جھنڈا عطا فرمایا۔

### سولہ زخم

سعید بن مسیب کہتے ہیں۔ جنگ اُحد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سولہ زخم کھائے تھے۔

### فتح خیبر

صحیحین میں مذکور ہے۔ آنحضرت ﷺ نے جنگ خیبر میں ایک دن قبل فرمایا کہ کک میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا فتح انہی کے ہاتھ پر ہوگی اور اس سے اگلے روز آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا۔

لڑائیوں میں آپ کے آثار شجاعت اور احوال مشہور ہیں۔ آپ بدن کے ڈہرے لہو اور صلح تھے قد میان تھا مگر پستی کی طرف مائل تھا پیٹ بڑا تھا اور کندھوں کے درمیانی حصہ پر گوشت تھا ڈالھی بہت ہی بڑی تھی۔ رانیں گوشت سے پر تھیں رنگ گہرا گندمی تھا۔

### ایک اور چالیس

جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں۔ جنگ خیبر میں آپ نے دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھالیا تھا اور

مسلمانوں نے اس پر سے گزر کر قلعہ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اس دروازہ کو اٹھانا چاہا تو چالیس آدمیوں سے بھی اٹھایا نہ گیا (رواہ ابن عساکر)

### ایک اور اسی

ابن اسحاق مغازی میں اور ابن عساکر اور ارفع سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی ؓ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر ڈھال بنا لیا اور اسی سے لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قلعہ پر فتح عطا فرمائی۔ جب آپ نے وہ دروازہ پھینکا تو ہم سے 80 آدمیوں نے اس دروازے کو پلٹنے کا قصد کیا مگر وہ پلٹ نہ سکے۔

اے ابوتراب رضی اللہ عنہ

امام بخاری ادب میں اسہل بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ؓ کو سب ناموں میں سے جو سب زیادہ پیارا نام تھا وہ ابوتراب تھا اور اس کے ساتھ پکارنے پر آپ بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ ابوتراب آپ کا نام آنحضرت ﷺ نے ہی رکھا تھا اور یہ اس طرح کہ ایک دن آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کلام لہو جانے کی وجہ سے گھر سے باہر چلے گئے اور مسجد میں آ کر ایک دیوار کے ساتھ لگ کر سو گئے۔ اس دوران آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے اور حضرت علی ؓ کی کمر کے ساتھ جوٹی لگی ہوئی تھی، اسے جھاڑتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوتراب اٹھ۔

### آپ سے مروی احادیث

آپ نے رسول اللہ ﷺ سے پانچ سو چھیاسی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور آپ سے آپ کے بیٹوں حسین کریمین رضی اللہ عنہما، محمد بن حنفیہ اور ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، ابوموسیٰ، ابوسعید زید بن ارقم، جابر بن عبد اللہ، ابوامامہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کئی صحابہ اور تابعین روایت کرتے ہیں۔

## فصل نمبر 1

## حضرت علیؑ کی فضیلت میں احادیث

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ جتنی احادیث حضرت علیؑ کی فضیلت میں وارد ہیں کسی کی فضیلت میں وارد نہیں۔ (رواہ حاکم)

## عورتوں اور بچوں پر خلیفہ

بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؑ کو غزوہ تبوک میں خلیفہ بنایا۔ حضرت علیؑ نے عرض کی کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑے جاتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (رواہ احمد بزار)

## آئندہ کل کی خبر

بخاری اور مسلم سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ نے جنگ خیبر کے دن فرمایا میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ اسے (قلعہ خیبر) فتح کرے گا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ رات کو لوگ اسی بات میں غور و خوض کرتے رہے کہ دیکھئے کل جھنڈا کس کو عطا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس بلاؤ۔ جب حضرت علیؑ آئے تو آنحضرت ﷺ نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگا دیا اور آپ کیلئے دعا کی تو آپ کی آنکھیں بالکل اچھی ہو گئیں۔ گویا کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ نے حضرت علیؑ کو جھنڈا عطا فرمایا (رواہ طبرانی)

## میرے اہل

مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت کرتے ہیں۔ جب آیت نذاع

ابناءنا و ابناءکم (پ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 61)

ترجمہ: ”ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے“ نازل ہوئی تو رسول پاک ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا۔ اے اللہ! یہ میرے اہل ہیں۔

### اللہ کی دوستی

ترمذی ابی سریجہ اور زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا میں دوست ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے دوست ہیں۔ (امام احمد اسی حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابویوب، انصاری، زید بن ارقم اور زمی سے روایت کیا ہے اور ابو یعلیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور طبرانی نے ابن عمر اور مالک بن حویرث اور حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور جریر نے سعد بن ابی وقاص اور ابوسعید خدری، حضرت انس، بزاز، ابن عباس، عمارہ اور بریدہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے اور ان میں سے بعض روایتوں میں یہ لفظ ”اے اللہ! جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ اور جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ“ زائد ہیں۔

### اللہ کی دشمنی

احمد، ابوالطفیل سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک کشادہ (کھلی) جگہ میں جمع کیا اور کہا کہ میں ہر اس مسلمان کو قسم دیکر پوچھتا ہوں جو غدر و خیم کے روز وہاں تھا جب رسول اکرم ﷺ کھڑے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا۔ اس پر تیس شخصوں نے کھڑے ہو کر کہا آنحضرت ﷺ نے اس دن فرمایا تھا جس کا میں دوست ہوں اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دوست ہیں۔ اے اللہ! جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمن سمجھ۔

### چار شخصوں کی دوستی

ترمذی اور حاکم حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے چار شخصوں کو دوست رکھوں اور یہ بھی بتلایا ہے کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ ان کے نام بیان فرمائیے۔ آپ نے



فرمایا حضرت علیؑ ان سے ہی ہیں۔

### کمال قرابت

ترمذی نسائی اور ابن ماجہ حبشی بن جنادہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ نے فرمایا حضرت علیؑ مجھ سے اور میں حضرت علیؑ سے ہوں۔ یہ کمال قرابت کی طرف اشارہ ہے۔

### دنیا و آخرت

ترمذی ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کے درمیان عقد مواخات کر دیا تھا۔ یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا تو حضرت علیؑ پچشم تر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے اپنے سب صحابہ میں عقد مواخات کر دیا ہے، مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو اس پر آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔

### مومن اور منافق

مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس نے دانہ کو پھاڑا ہے اور جان کو پیدا کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے مجھے وصیت کی ہے جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت رکھے گا اور جو منافق ہوگا وہ ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔

### علامت نفاق

ترمذی ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم منافقین کو حضرت علیؑ کے بغض سے پہچاننا کرتے تھے۔ (یعنی جو شخص حضرت علیؑ سے بغض رکھتا تھا اسے ہم منافق سمجھتے تھے) (رواہ بزار و طبرانی)

شہر علم

ترمذی اور حاکم حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حاکم نے اسے کہا ہے اور موضوع بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ جن سے ابن

جزوی اور نووی بھی ہیں اور میں نے (یعنی مصنف نے) اس کا حال (تعمیقات علی  
الموضوعات میں لکھا ہے۔)

### قضا کیا ہے؟

حاکم حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہﷺ نے مجھے یمن کی طرف  
بھجواتو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہﷺ آپ نے مجھے ان لوگوں کی طرف بھیجا ہے حالانکہ  
میں ابھی نو عمر ہوں۔ مجھے معلوم بھی نہیں کہ قضا کیا ہوتی ہے۔ یہ سن کر آنحضرتﷺ نے  
میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا۔ اے اللہ! اس کے دل کو راہِ راست دکھا دے اور اس کی  
زبان کو ثابت رکھ۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں بخدا اس کے بعد کبھی دو شخصوں کے درمیان فیصلہ  
کرنے میں مجھے شک نہیں ہوا۔

### زیادہ حدیثیں

ابن سعد حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا۔ کیا  
وجہ ہے آپ نے صحابہ سے زیادہ حدیثیں آنحضرتﷺ سے روایت کی ہیں۔ آپ نے فرمایا  
جب کبھی میں رسول اللہﷺ سے پوچھا کرتا تھا تو آپ مجھے بتلایا کرتے تھے اور جب میں چپ  
ہو جاتا تو آپ خود مجھ سے دریافت فرمایا کرتے تھے (کہ کچھ پوچھنا تو نہیں)

### اچھا فیصلہ

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کہ حضرت  
علیؑ ہم سب سے اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔

ابن مسعودؓ سے مروی ہے۔ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علیؑ  
مدینہ بھر میں سب سے اچھا فیصلہ کرنا جانتے ہیں۔

ابن سعد ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علیؑ  
کا فتویٰ بتاتا تو پھر ہم اس سے تجاوز نہ کیا کرتے تھے (یعنی ہم اسی کو ہی تسلیم کر لیا کرتے تھے۔)

سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا اور حضرت علیؑ  
موجود نہ ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر خدا کی پناہ مانگا کرتے تھے۔

جو چاہو پوچھو

انہی سے مروی ہے۔ صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ یہ کہے مجھ سے جو کچھ چاہو پوچھو۔  
ماہر علم فرانس

ابن عساکر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سب سے بڑھ کر قاضی اور علم فرانس جاننے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔  
واقف بالسنّت

ابن عساکر ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا موجودہ لوگوں میں آپ سب سے بڑھ کر واقف بالسنّت ہیں۔  
 مسروق کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گیا ہے۔

پختہ اور مضبوط

عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم میں نہایت پختہ اور مضبوط تھے اور اپنے قبیلے میں نہایت معزز تھے۔ سب سے پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور سنت نبوی کی سمجھ دلیری اور بخشش میں مشہور تھے۔

ایک درخت سے

طبرانی اوسط میں جابر بن عبداللہ سے بسند ضعیف روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہی درخت سے ہیں۔  
اے ایمان والو!

طبرانی ابن ابی حاتم سے روایت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلام اللہ میں جہاں کہیں یا ایہا الذین امنوا (یعنی اے ایمان والو!) آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے امیر ہیں۔  
نزول آیات

ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جتنی آیات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق

میں نازل ہوئی ہیں اتنی آیات کسی کے حق میں نازل نہیں ہوئیں۔

### حضرت علیؑ کی شان

ابن عساکر سے ہی مروی ہے۔ حضرت علیؑ کی شان میں تین سو آیات نازل ہوئی

ہیں۔

### مقام و مرتبہ

بزاز سعد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرمایا میرے اور تمہارے سوا کسی کو جائز نہیں کہ اس مسجد میں جنبی ہو۔

### گفتگو کی جرأت

طبرانی اور حاکم ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ جب رسول اکرم ﷺ غضبناک ہوتے تو حضرت علیؑ کے علاوہ کسی کو آپ سے گفتگو کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔

### حضرت علیؑ کو دیکھنا

طبرانی اور حاکم ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا حضرت علیؑ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ (اس حدیث کی اسناد حسن ہیں۔)

طبرانی اور حاکم نے اس حدیث کو عمران بن حصین سے بھی روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، حضرت انس، حضرت ثوبان، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

طبرانی اوسط میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علیؑ میں اٹھارہ صفات ایسی ہیں جو اس امت کے اور شخص میں نہیں ہیں۔

### تین خصلتیں

ابویعلیٰ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت علیؑ میں تین خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر مجھ میں ان سے ایک خصلت بھی ہوتی تو تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر تھی۔ لوگوں نے عرض کیا وہ تین خصلتیں کونسی ہیں؟ تو

آپ نے فرمایا رسول اکرم ﷺ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور ان دونوں کو مسجد میں رہنے دیا جو مسجد میں انہیں جائز ہے وہ مجھے جائز نہیں اور جنگ خیبر میں آپ کو چھنڈا عطا کیا۔ احمد نے بسند صحیح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی روایت کیا ہے۔

### لعاب مبارک کی برکت

احمد اور ابویعلیٰ بسند صحیح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جب سے رسول اللہ ﷺ نے میرے چہرے کو پونچھا ہے اور خیبر کے دن میری آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا ہے اس دن سے نہ میری آنکھ دکھی ہے اور نہ درد سہ ہوا ہے۔

عظمت و درجہ

ابویعلیٰ اور یزار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے ہی تکلیف دی۔

اللہ سے بغض

طبرانی بسند صحیح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھا اس نے گویا مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دوست رکھا اور جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔

سب و شتم

احمد اور حاکم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں اس نے گویا مجھے گالیاں دیں۔

### قرآن کے معانی کا بیان

احمد اور حاکم بسند صحیح ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم قرآن مجید کے معانی بیان کرنے میں فرقہ اسلام سے لڑو گے جب میں ان لوگوں سے لڑا ہوں جو قرآن کے نازل ہونے کے منکر تھے۔

## مثال عیسیٰ علیہ السلام

بزار ابو یعلیٰ اور حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے مجھے بلا کر فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ یہودیوں نے ان سے ایسی دشمنی کی ان کی والدہ پر بہتان باندھا اور نصاریٰ نے ان سے اس درجہ محبت کی کہ ان کو ایسے مرتبہ پر پہنچا دیا جس کے وہ لائق نہ تھے۔

### بہتان باندھنا

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آگاہ ہو جاؤ میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے۔ ایک تو اس درجہ محبت رکھنے والا جو ایسی باتیں ثابت کرے گا جو مجھ میں نہیں اور دوسرا اس درجہ کا بغض رکھنے والا جو برا کہتے کہتے مجھ پر بہتان باندھنے لگے گا۔

### حوض کوثر پر

طبرانی اوسط اور صغیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ دونوں مجھے حوض کوثر پر آلیں گے۔

### خون سے رنگین؟

احمد اور حاکم بسند صحیح عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا دو شخص بہت ہی بد بخت ہیں۔ ایک تو احمر جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹیں اور دوسرا وہ شخص جو اے علی رضی اللہ عنہ تیرے سر پر تلوار مار کر ڈاڑھی کو خون سے رنگ دے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ صہیب اور جابر، سمرہ وغیرہم سے بھی مروی ہے۔

### اللہ سے معاملہ

حاکم بسند صحیح ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کھڑے ہو کر فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت نہ کیا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ میں بہت سخت ہیں۔

## فصل نمبر 2

## صحابہ کی بیعت اور جنگ جمل

ابن سعد سے مروی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوسرے دن ہی تمام صحابہ نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ بعدہ حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ قصاص کے سلسلہ میں مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ عراق کی طرف نکلے اور جمادی الاخریٰ 36 ہجری میں بصرہ کے پاس جنگ جمل ہوئی جس میں طلحہ زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ تیرہ ہزار آدمی شہید ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پندرہ روز بصرہ میں قیام فرمایا اور پھر کوفہ میں تشریف لے آئے۔

## جنگ صفین

اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے شام کے لوگوں کو ساتھ لیکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف خروج کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی مقابلے کیلئے روانہ ہوئے اور دونوں لشکر صفر کے مہینہ میں سینتیس ہجری میں مقام صفین میں صف آرا ہوئے۔ کئی روز تک جنگ ہونے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی سے اہل شام نے قرآن مجید اپنے نیزوں پر بلند کیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے لڑائی سے ہاتھ ہٹالیے اور صلح کے لیے دو ثالث مقرر کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوموسیٰ اشعری اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ثالث مقرر کیا۔

## عہد نامہ

اس صلح نامہ میں یہ عہد نامہ لکھا گیا شروع سال میں مقام ارض میں جمع ہوں اور جس امر میں امت کی اصلاح ہو اس میں غور کریں۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی طرف اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کی طرف لوٹ گئے۔ اس معاملہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر اور ہمراہیوں سے بہت سے لوگ علیحدہ ہو گئے اور کہنے لگے لاکھم الا للہ پھر انہوں نے مقام حروراء میں لشکر جمع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سدباب کیلئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لشکر دیکر روانہ کیا جنہوں نے ان سے جنگ اور مناظرہ کیا جس سے ان میں سے بہت سے لوگ واپس حضرت

علیؑ کی طرف آگئے اور کچھ اسی رائے پر قائم رہے اور نہروان کی طرف جا کر راہ زنی کرنے لگے۔ حضرت علیؑ بھی ان کی روک تھام کیلئے تشریف لے گئے اور انہیں قتل کر ڈالا اور انہیں میں ذوالشعبہ بھی مارا گیا (جس کے خروج کی آنحضرتؐ نے خبر دی تھی) یہ واقعہ 38 ہجری میں ہوا۔

### ابوموسیٰ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما

شعبان 38 ہجری میں لوگ حسب قرارداد مقام ازرح میں جمع ہوئے اور سعد بن ابی وقاص ابن عمرو غیر ہما بھی تشریف لائے۔ پہلے ابوموسیٰ اشعری نے عمرو بن عاص کی باتوں میں آ کر اس طرح کی تقریر کی جس سے حضرت علیؑ کو معزول کر دیا۔ بعد ازاں عمرو بن عاص نے تقریر کر دی اور امیر معاویہؓ کو برقرار رکھا اور اس سے بیعت کر لی۔ اس پر لوگ دو گروہ ہو گئے۔

### گھناؤنا منصوبہ

ادھر خوارج سے تین شخص مبداء الحسن بن ملجم، ادیٰ برک بن مبداء، عیسیٰ اور عمرو بن عبیدہ تھے مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ معاویہ بن سفیانؓ اور عمرو بن عاصؓ کو قتل کر کے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ ابن ملجم نے کہا میں تو حضرت علیؑ کے قتل کا بیڑا اٹھاتا ہوں اور برک نے کہا کہ میں معاویہؓ کے قتل کا ذمہ قبول کرتا ہوں اور عمرو بن عبیدہ نے کہا کہ معاویہ بن عاصؓ کا قتل میرے حصہ میں آیا۔ پھر انہوں نے عہد کیا یہ معاملہ ایک ہی رات میں یعنی گیا رہو یا ستر ہو یا رمضان کی رات کو طے ہو جائے۔ یہ منصوبہ باندھ کر ان میں سے ہر ایک اس شہر کی طرف روانہ ہوا جس میں اس کا مطلوب موجود تھا۔

### حضرت علیؑ کی شہادت

چنانچہ ابن ملجم کو فہم میں پہنچ کر اپنے دوستوں خوارجیوں سے جاملا۔ جب 40 ہجری 17 ماہ رمضان جمعرات کو حضرت علیؑ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے حسنؓ کو کہا آج رات میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہؐ مجھے



آپ کی امت سے بہت تکلیف پہنچی ہے تو آپ نے فرمایا آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ابن بناح مؤذن حاضر ہوا اور نماز فجر کے لیے آپ کو بلایا۔ آپ اپنے مکان سے لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہوئے نکلے۔ راستے میں ابن مجملہ ملا اور اس نے ایسی تلوار ماری جو آپ کی پیشانی مبارک کو چیرتی ہوئی کپٹی تک چلی گئی۔ لوگوں نے ہر طرف سے دوڑ کر ابن مجملہ کو پکڑ لیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی ؓ جمعہ اور ہفتہ دو دن زندہ رہے اور اتوار کی رات کو خالق حقیقی سے جا ملے۔

### غسل اور نماز جنازہ

حضرت حسن و حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے آپ کو غسل دیا اور نماز جنازہ آپ کی حضرت حسن ؓ نے پڑھائی اور رات کو ہی دارالامارۃ کونڈ میں دفن فرمایا گیا۔ پھر ابن مجملہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایک ٹوکڑے میں لپیٹ کر اسے حلایا گیا۔ یہ سب کچھ ابن مجملہ نے ہی کیا۔ یہ ہے کہ ان واقعات کے خلاصہ کرنے میں انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے کام لیا ہے اور دوسرے مؤرخوں کی طرح ان پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس مقام کے لائق بھی ایسا ہی بیان ہے۔ آنحضرت ؐ نے فرمایا جب میرے اصحاب کا تذکرہ ہو تو خاموش رہا کرو (یعنی ان پر اعتراض نہ کیا کرو) نیز فرمایا میرے اصحاب کیلئے قتل ہو جانا ہی کافی ہے۔

### گمراہی کی وجہ

حاکم نے متدرک میں سدی سے روایت کیا ہے۔ عبدالرحمن بن مجملہ مرادی خارجیوں سے ایک عورت پر عاشق تھا جس کا نام قطام تھا۔ جب اس سے نکاح کیا تو اس کا مہر تین ہزار درہم اور حضرت علی ؓ کا قتل مقرر ہوا۔ اس واقعہ کو فرزوق شاعر نے یوں نظم کیا ہے۔

فَلَمَّ أَرْمَهُرَا سَافَهُ ذُو سَمَاحَةِ كَمَهْرٍ قَطَامٍ بَيْنَ غَيْرِ مُعْجَمٍ

ترجمہ: مجھے معلوم نہیں کہ کسی جو امر دے ایسا مہر مقرر کیا ہو جیسا کہ قطام کا مہر بین تھا اور مجمل نہیں تھا۔

ثَلَاثَةُ الْاَلْفِ وَ عَبْدٍ وَ قَيْنَةَ وَ ضَرْبُ عَلِيٍّ بِالْحَسَامِ الْمُصَّمِّمِ

۱ گلکار ۲ تیز کانٹے والی

ترجمہ: یعنی تین ہزار درہم اور ایک غلام اور ایک سرودنگولونڈی اور حضرت علیؑ کو شمشیر براں سے قتل کر دینا۔

فَلَا مَهْرَ أَعْلَىٰ مِنْ عَلِيٍّ وَإِنْ غَلَاَ وَلَا فَتْكَ إِلَّا فُؤُنَ فَتْكِ ابْنِ مَلْجَمٍ  
ترجمہ: پس کوئی مہر اگر چہ کتنا ہی گراں (مہنگا بیش قیمت) ہو مگر حضرت علیؑ سے گراں نہ ہوگا اور ابن ملجم کی دلیری یا ناگاہ قتل کرنے سے کسی کی دلیری زیادہ نہ ہوگی۔  
ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں۔ حضرت علیؑ کی قبر کو پوشیدہ کر دیا گیا تھا۔ تاکہ خوارج اس کو کھود نہ لیں۔

شریک کہتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت حسنؑ نے آپ کی میت مبارک کو لے جا کر مدینہ منورہ میں دفن کر دیا تھا۔

میر محمد بن حبیب سے نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علیؑ ہی ایک قبر سے دوسری قبر میں تحویل کیے گئے ہیں۔

ابن عساکر سعید بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت علیؑ شہید ہوئے تو آپ کی میت کو مدینہ شریف لے جانے لگے تاکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کو دفن کریں۔ مگر اٹھائے راہ میں وہ اونٹ جس پر آپ کا جنازہ تھا بھاگ گیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں گیا اسی لیے اہل عراق کہتے ہیں آپ بادلوں میں رہتے ہیں۔

”بعض لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اونٹ بھاگ کر بلاد طے میں چلا گیا۔ انہوں نے آپ کو وہیں دفن کر دیا۔“

جس وقت حضرت علیؑ شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ بعض چونسٹھ اور بعض پینسٹھ ستاون اور بعض اٹھاون برس بتاتے ہیں۔ آپ کی انیس لونڈیاں تھیں۔

### فصل نمبر 3

## آپ کے اخبار، قضا یا اور کلمات

سعد بن منصور اپنی سنن میں فزارہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ میرا دشمن بھی دینی معاملات میں مجھ سے استفادہ کرتا ہے۔ حضرت معاویہ

نے مجھ سے خوشگوشی کا لی بہت پوچھ بھیجا ہے تو میں نے جواب لکھ دیا ہے کہ اس کی پیشاب ہوا، کیونکہ حکم یہ اسٹ جاری کیا جائے گا۔ (ہشتم نے مغیرہ سے اور انہوں نے شعبی سے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے۔)

**بہتان کیوں باندھوں؟**

ابن عساکر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ابن کواء اور قیس بن عباد نے آپ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی بابت آپ کو کوئی وصیت کی تھی۔ اس معاملہ میں آپ سے بڑھ کر کون ثقہ ہوگا جس سے ہم دریافت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت کی بابت وصیت کی تھی۔ یہ تو غلط ہے۔ اب میں نے آپ کی سب سے قبل تصدیق کی تو آپ پر بہتان کیوں باندھوں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میری خلافت کی کوئی وصیت کی ہوتی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑا ہونے دیتا، بدمان کے ساتھ جہاد کرتا۔ خواہ میرا ساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قتل نہیں کئے گئے اور نہ ہی آپ اچانک وفات پا گئے بلکہ آپ کئی روز تک بیمار رہے۔ ہر روز مؤذن حاضر ہو کر نماز کے لیے اذن چاہتا تو آپ فرمادیتے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حالانکہ آپ میرے مرتبہ اور مکان کو بھی جانتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات سے ایک (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) نے آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کے ارادے سے باز رکھنا بھی چاہا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور تاکید کرتے ہوئے فرمایا تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سی عورتیں ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے جاؤ، وہی نماز پڑھائیں گے۔

### حق ادا کیا

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا اور اس شخص کو اپنی دنیا کے واسطے قبول کر لیا جسے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمارے دین کیلئے منتخب فرمایا تھا، چونکہ نماز اصل دین ہے اور آپ دین کے امیر اور اس کے قائم رکھنے والے ہیں۔ پس ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور وہ اس کے لائق بھی تھے اور اسی لیے ہم میں سے کسی نے

بھی ان کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہی کیا اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی شخص بیزار ہی ہوا۔ اسی بنا پر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق ادا کیا اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی طرف سے لڑتا رہا۔ جو کچھ آپ مجھے دیتے تھے میں لے لیتا تھا اور جہاں کہیں آپ مجھے لڑنے کا حکم دیتے تھے لڑتا تھا اور ان کے حکم سے حدود شرعیہ لگاتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدم بقدم چلے۔ اس لیے ہم نے ان سے بیعت کر لی اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو ضرر پہنچانے کا ارادہ ہی کیا اور نہ ہی کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیزار ہی ہوا۔ پس میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی حق ادا کیا اور ان کی اطاعت کی اور لشکر میں شامل ہو کر ان کی طرف سے لڑتا رہا۔ جو کچھ وہ مجھے دیتے تھے لے لیتا اور جہاں لڑنے بھیجتے چلا جاتا اور ان کے سامنے اپنے دُڑہ کے ساتھ حدود شرعی جاری کرتا۔

**بخشش و عوض کا اصول**

جب انہوں نے انتقال فرمایا تو میں نے اپنی قرابت اسلام کی پیش قدمی اور فضیلت میں غور کیا تو خیال ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے خلیفہ نہ بنائیں گے لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کے بعد والا خلیفہ جو گناہ کرے گا انہیں قبر میں اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ اپنے آپ اور اپنے بیٹے کو اس سے نکال لیا اور اگر آپ بخشش و عوض کے اصول پر چلتے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے۔ مگر آپ نے خلافت کو قریش کے چھ شخصوں کے سپرد کیا جن سے ایک میں بھی ہوں۔ جب یہ لوگ انتخاب کے لیے جمع ہوئے تو مجھے خیال تھا کہ وہ مجھ سے تجاوز کریں گے۔ پس عبدالرحمن بن عوف نے ہم سے اس بات پر وعدے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی تو میں نے اپنے معاملہ میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بیعت پر اطاعت غالب آگئی ہے اور وعدہ جو لیا گیا تھا وہ غیر کی اطاعت کے لیے لیا گیا تھا۔ پس ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور میں نے ان کا بھی حق ادا کیا اور ان کی اطاعت کی اور لشکر میں شامل ہو کر لڑتا رہا۔ جو کچھ بھی وہ مجھے دیتے تھے لے لیتا تھا اور جہاں لڑنے کے لیے بھیجتے چلا جاتا اور ان کے سامنے اپنے درہ سے حدود شرعی جاری کیا کرتا تھا۔

## حق خلافت

جب وہ بھی شہید ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ وہ خلیفے جنہیں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مقرر فرمایا تھا، گزر گئے اور یہ جن کی اطاعت کا وعدہ لیا گیا تھا وہ شہید ہو گئے تو اہل حرمین اور دونوں شہروں کے لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی۔ مگر درمیان میں ایک شخص کو پڑا جو نہ میرے جیسا تھا اور نہ اس کی قرابت میری قرابت جیسی اور نہ ہی اس کیلئے میرے جیسی سبقت فی الاسلام ہے بلکہ میں اس سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔

## بوسیدہ دیوار

ابونعیم دلائل میں جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دو شخصوں کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت علیؑ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے۔ ایک شخص نے عرض کی دیوار گر چاہتی ہے۔ آپ نے جواب فرمایا تم اپنا کام کرو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا کافی ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں شخصوں کا فیصلہ کر دیا اور جب آپ وہاں سے اٹھے تو دیوار گر پڑی۔

## امام الہدی

طیوریات میں بسند جعفر بن محمد مذکور ہے۔ ایک شخص نے حضرت علیؑ سے عرض کیا آپ خطبہ میں فرمایا کرتے ہیں الہی ہمیں ویسی ہی صلاحیت عطا فرمایا جیسی خلفائے راشدین کو عطا فرمائی۔ تو وہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا وہ دونوں میرے دوست حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں جو امام الہدیٰ ہیں اور شیخ الاسلام ہیں اور قریش میں سے ایسے دو شخص تھے جن کی رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد لوگوں نے پیروی کی جس نے ان کی پیروی کی اس نے نجات پائی اور جو ان کے قدم بقدم چلا اس نے راہ راست پالیا اور جس نے ان دونوں سے تمسک کیا وہ اللہ تعالیٰ کے گروہ سے ہیں۔

## گہری بات

عبدالرزاق حجر مدری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا تیرا حال اس وقت کیسا ہوگا جب تجھ سے کہا جائے گا کہ مجھ پر لعنت بھیج۔ میں نے عرض کیا! کیا ایسی بات

ہوگی؟ آپ نے فرمایا! ہاں۔ میں نے عرض کیا میں ایسی حالت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ بظاہر مجھ پر لعنت کر دینا مگر دراصل مجھ سے بیزار نہ ہونا۔ حجر مدری کہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حجاج کے بھائی محمد بن یوسف نے جو یمن کا امیر تھا، مجھ سے کہا حضرت علیؑ پر لعنت بھیج۔ امیر نے مجھے حضرت علیؑ پر لعنت بھیجنے کو کہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ تم اس پر لعنت بھیجو۔ میری اس بات کے راز کو ایک شخص کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھا۔

طبرانی، اوسط میں اور ابو نعیم دلائل میں زاذان سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علیؑ نے ایک بات سنائی تو ایک شخص نے آپ کی تکذیب کی۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو میں تجھ پر بدعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، کیجئے۔ پس آپ نے بدعا کی تو وہ ابھی وہاں سے اٹھنے نہ پایا تھا کہ اندھا ہو گیا۔

### آٹھ درہموں کا فیصلہ

زر بن حبیش سے مروی ہے۔ دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے ایک کے پاس پانچ اور دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو پاس سے ایک آدمی گزرا اور سلام کیا۔ انہوں نے اسے بھی کھانے میں شریک کر لیا اور تینوں شخص آٹھ روٹیوں کے کھانے میں شریک رہے۔ جب کھا چکے تو اس تیسرے شخص نے انہیں آٹھ درہم دیدیے اور کہا کہ کھانا جو میں نے کھایا ہے اس کے عوض میں یہ قبول کیجئے۔ اب ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ پانچ روٹیوں والے نے کہا کہ میں پانچ لیتا ہوں اور تم تین لو، مگر تین روٹیوں والے نے کہا کہ میں تو نصف سے کم پر راضی نہیں ہوں گا۔ آخر کار وہ حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام قصہ سنایا۔ آپ نے تین روٹیوں والے سے کہا کہ جو تیرے دوست نے تجھ پر پیش کیا ہے اسے قبول کر لے کیونکہ اس کی روٹیاں تیری روٹیوں سے زائد تھیں۔ اس نے عرض کیا۔ بخدا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک حق طور سے فیصلہ نہ کیا جائے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اگر حق پوچھتا ہے تو پھر تمہیں ایک درہم ملتا ہے اور تیرے ہمراہی کے حصہ میں سات درہم آتے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا سبحان اللہ! آپ بھی عجیب فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی یہی بات ہے۔ اس نے عرض کیا اگر یہی بات ہے تو اچھا پھر یہ بات

مجھے سمجھا تو دیجئے تاکہ میں اسے مان لوں۔ آپ نے فرمایا آٹھ روٹیوں کے چوبیس ٹکڑے ہوتے ہیں اور تم تین شخص ہو اور یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تم سے کس نے زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم۔ اس لیے برابر ہی فرض کیا جائے گا اور اس لحاظ سے تم نے چوبیس سے آٹھ ٹکڑے کھائے اور تمہاری روٹیوں کے نو ٹکڑے بنتے ہیں۔ گویا تمہاری روٹیوں سے اس شخص نے ایک ٹکڑا کھایا اور تمہارے ہمراہی نے بھی آٹھ ٹکڑے کھائے اور اس کی روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے بنتے تھے تو گویا اس کی روٹیوں سے اس شخص نے سات ٹکڑے کھائے۔ اس لیے تمہیں ایک ٹکڑے کے بدلے ایک درہم مل جائے گا اور اس کو سات درہم مل جائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ اب میں راضی ہو گیا ہوں۔

جھوٹے گواہ

ابن ابی شیبہ عطا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ؓ کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا اور دو شخصوں نے گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے۔ آپ ایک اور مقدمہ میں مشغول ہو گئے اور جھوٹے گواہوں کو آپ نے ڈرایا اور فرمایا کہ اگر جھوٹے گواہ میرے سامنے پیش ہوں گے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ پھر آپ نے دوسرے مقدمہ سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں اس لیے اس شخص کو چھوڑ دیا گیا۔

سایہ کوڑے

عبدالرزاق روایت کرتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی ؓ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ خواب میں اس نے میری والدہ سے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سایہ کوڑے لگا دو۔

بادشاہی اللہ کیلئے ہے

ابن عساکر بسند جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی ؓ کی مہر پر نعم القادر اللہ کھدا ہوا تھا مگر عمرو بن عثمان بن عفان ؓ سے مروی ہے کہ آپ کی آنکھوں کا نقش خاتم (الملک لله) تھا۔

زیستِ خلافت

اسی روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت علی ؓ کوذ میں آئے تو حکمائے عرب سے

ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ نے تو خلافت کو زینت دی ہے مگر اس نے آپ کو زینت نہیں دی اور آپ نے تو اس کا مرتبہ بلند کیا ہے لیکن اس نے آپ کا مرتبہ بلند نہیں کیا اور وہ بہ نسبت آپ کے آپ کی طرف بہت محتاج تھی۔

پہلے جھاڑو پھر نماز

مجمع سے روایت ہے کہ حضرت علی ؓ کا قاعدہ تھا۔ بیت المال میں جھاڑو دیتے اور پھر وہاں نماز ادا فرماتے۔ اس خیال سے کہ یہ قیامت کے روز گواہی دے کہ مسلمانوں سے روک کر انہوں نے بیت المال میں روپیہ جمع نہیں رکھا۔

### علماء کی فضیلت

ابوالقاسم زجاجی اپنے امالی میں بسندہ ابوالاسود دہلی سے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز میں حضرت علی ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ سر جھکائے متفکر سے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ متفکر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے اس شہر میں لوگوں کو اعراب میں غلطی کرتے سنا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اصول عربیہ میں کوئی کتاب وضع کر دوں۔ میں نے عرض کیا اگر آپ ایسا کریں گے تو گویا آپ ہم کو زندہ کریں گے اور یہ لغت یعنی عربی ہم میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ پھر میں تین روز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف ایک کاغذ پھینکا جس میں لکھا ہوا تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام کی تین قسمیں ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ ہے جو کسی سے خبر دے اور فعل وہ ہے جو حرکت کسی ظاہر کرے اور حرف وہ ہے جو ایسے معنی سے خبر دے جو نہ اسم میں پایا جاتا ہے نہ فعل میں۔ پھر آپ نے فرمایا تتبع کر کے اس میں اور باتیں زیادہ کرو۔ پھر فرمایا اے ابوالاسود چیزوں کی تین قسمیں ہیں۔ ظاہر، مضمحل اور تیسری وہ جو نہ ظاہر ہے اور نہ مضمحل اور علماء کی فضیلت اسی چیز کے معلوم کرنے سے ظاہر ہوتی ہے جو نہ ظاہر ہے اور نہ مضمحل۔

### حروف النصب

ابوالاسود کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے کئی ایک اشیاء جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ منجملہ ان کے حروف النصب بھی تھے اور ان سے میں نے ان، ان، لیت، لعل اور کان ہی ذکر کیے تھے اور لکن کو ذکر نہیں کیا تھا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا لکن کو تم نے کیوں نے نہیں



لکھا؟ میں نے عرض کیا میں اسے حروفِ ناصبہ سے خیال نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو حروفِ ناصبہ سے ہے۔ اسے ان میں لکھ لو۔

### اعمال اور دل

ابن عساکر ربیعہ بن ناجد سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی ؓ نے فرمایا اے لوگو! ایسے بن جاؤ جیسے کہ جانوروں میں شہد کی مکھی ہے۔ سب پرندے اسے ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں اس چیز کی خوبی معلوم ہوتی جو اس کے پیٹ میں ہے تو وہ اسے ایسا نہ سمجھتے۔ لوگوں سے اپنی زبان اور جسموں کے ساتھ ملا جلا کرو۔ مگر اپنے اعمال و دل ان سے علیحدہ رکھا کرو۔ کیونکہ ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا اور قیامت کے روز انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں وہ دوست رکھتا تھا۔

### عمل بغیر خلوص

مروی ہے کہ حضرت علی ؓ نے فرمایا نیک کام کرنے کی بجائے اس کے قبول کا زیادہ اہتمام کیا کرو کیونکہ عمل تقویٰ کے باعث ہی قبول ہوا کرتا ہے۔ پس بغیر خلوص کے عمل کیسے قبول ہو؟

### ظاہر کے مخالف

یحییٰ بن جعدہ سے مروی ہے۔ حضرت علی ؓ نے فرمایا اے اہل قرآن! قرآن مجید پر عمل بھی کیا کرو کیونکہ عالم وہی ہوتا ہے جو عمل بھی کرے اور اس کا عمل علم کے موافق بھی ہو۔ عنقریب ہی ایسے لوگ پیدا ہوں گے علم ان کے حلقوں سے نیچے نہ اترے گا۔ ان کا باطن ظاہر سے مخالف ہوگا اور ان کا عمل علم سے مختلف ہوگا۔ حلقے باندھ کر بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحثات کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر ان کا ہم نشین دوسرے کے پاس بیٹھے گا تو اس پر خفا ہوں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ ایسے لوگوں کے اعمال خدا تک نہیں پہنچیں گے۔

### عمدہ میراث

مروی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا توفیق بہت اچھا راہبر ہے اور خوش خلق ہونا سب سے بہتر ہم نشین ہے اور عقل بہت اچھا دوست ہے اور ادب سب سے عمدہ میراث ہے اور وحشت غرور سے بھی بری ہے۔

تقدیر ایک راز ہے

حادث سے مروی ہے۔ ایک شخص حضرت علی ؓ کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے تقدیر کے بارے میں خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ اندھیرا راستہ ہے۔ اس میں نہ چل۔ پھر اس شخص نے وہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا وہ بحرِ عمیق ہے۔ اس میں داخل نہ ہو۔ پھر اس نے وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو تجھ پر پوشیدہ ہے۔ اس کی تفتیش نہ کر۔ لیکن اس شخص نے وہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتاؤ خدا تعالیٰ نے تمہیں اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے یا تیری مرضی کے مطابق اس نے عرض کیا اپنی مرضی کے مطابق۔ آپ نے فرمایا پھر جب چاہے وہ تجھے استعمال کرے تیرا اس میں کیا چارہ ہے۔

انتہاءِ رنج و الم

مروی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر رنج و مصیبت کی انتہا ہوا کرتی ہے اس لیے ضروری ہے ہر صاحب مصیبت اس انتہا تک پہنچے تو عاقل کو چاہئے جب مصیبت میں گرفتار ہو تو اس سے غافل ہو جائے۔ (یعنی اس کے دفع میں کوئی حیلہ نہ کرے۔) حتیٰ کہ اس کی مدت ختم ہو جائے کیونکہ اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کے دفع کرنے میں حیلہ جوئی کرنا رنج میں زیادتی کرنا ہے۔

سخاوت اور بخشش

حضرت علی ؓ سے سوال کیا گیا سخاوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بغیر سوال کے ہو اور جو مانگنے کے بعد ہو وہ تو بخشش ہے۔

مدح میں مبالغہ

مروی ہے۔ ایک شخص حضرت علی ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت مبالغہ سے آپ کی تعریف کی (اور اس سے قبل اس شخص نے آپ کی شان کے بارے برے کلمات کہے تھے) آپ نے فرمایا جس قدر تم میری صفت بیان کر رہے ہو میں ویسا نہیں البتہ جو مرتبہ میرا تمہارے دل میں ہے اس سے بڑا ہوں۔

مروی ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ کا بدلہ عبادت کی سستی رزق کی تنگی اور لذات کا کم

ہو جانا ہے۔ نیز فرمایا اگر حلال چیز سے شہوت آئے تو فوراً ہی وہ کم ہو جاتی ہے۔

علی ربیعہ سے مروی ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی ؓ سے کہا کہ خدا تعالیٰ آپ کو ثابت رکھے (اور وہ شخص دل میں آپ سے دشمنی رکھتا تھا) آپ نے فرمایا۔ ہاں خدا تعالیٰ مجھے ثابت رکھے، مگر تیرے سینے پر۔

### بڑے شاعر

شعری کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ؓ بھی شعر کہا کرتے تھے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی۔ مگر حضرت علی ؓ ان تینوں سے بڑھ کر شاعر تھے۔

نبیط اشجعی کہتے ہیں حضرت علی ؓ نے ایک دفعہ یہ اشعار پڑھے۔

إِذَا اشْتَمَلْتُ عَلَى الْيَاسِ الْقُلُوبُ وَضَاقَ لِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ

ترجمہ: جب دل ناامیدی پر مشتمل ہوں اور سینے وسعت کے باوجود تنگ ہو جائیں

وَأَوْطَنْتِ الْمَكَارِهِ وَأَطْمَأَنْتِ وَأَرَسْتُ فِي أَمَاكِنِهَا الْكُرُوبُ

ترجمہ: اور حوادث و مصائب اقامت اختیار کریں اور سختیاں اپنی جگہوں میں جم جائیں

وَلَمْ يَرَ لِأَنْكِشَافِ الضَّرِّ وَجْهٌ وَلَا أَغْنَى بِجِئَلْتِهِ الْآرِيبُ

ترجمہ: اور خلاصی کی کوئی وجہ نظر نہ آئے اور حیلہ دانا کو کوئی فائدہ نہ دے

أَتَاكَ عَلَى قُتُوبٍ مَنَكَ غُوثٌ يَمُنُّ بِهِ السُّطِيفُ الْمُسْتَجِيبُ

ترجمہ: تو اس ناامیدی کی حالت میں تیرے پاس خدائے دانا دعا قبول کرنے والے کی

مہربانی سے کوئی نہ کوئی فریاد رس پہنچ جائے گا۔

وَكُلُّ الْحَادِثَاتِ إِذَا تَنَاهَتْ فَمَوْضُوعٌ بِهِ فَرَجٌ قَرِيبُ

ترجمہ: اور جب حوادث زمانہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جلد ہی کشائش آ جاتی ہے۔

شعری سے مروی ہے۔ حضرت علی ؓ نے ایک شخص کو صحبت بد سے ڈرانے کیلئے فرمایا۔

وَلَا يَضْحَبُ أَحَا الْجَهْلِيَّ وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ فَلَمْ مِنْ جَاهِلٍ أَرْدَى حَكِيمًا حِينَ أَخَاهُ

يُقَاسُ الْمَرْءُ بِالْمَرْءِ إِذَا مَا هُوَ مَا شَاءَ وَلِلشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ مَقَائِيسُ وَأَشْيَاءُ

قِيَاسُ الْعَلِيِّ بِالْعَلِيِّ إِذَا مَا هُوَ حَادَاهُ وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ

ترجمہ: جاہل کے پاس نہ بیٹھ اور اس سے بچتا رہ کیونکہ بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ

جب کسی دانائے ان سے بھائی چارہ کیا تو انہوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ آدمی اپنے ساتھ چلنے والے پر ہی قیاس کیا جاتا ہے اور قاعدہ کی بات ہے کہ ایک شے کو دوسری شے سے مشابہت ہو اسی کرتی ہے جیسے کہ جب جوتی کے ایک پاؤں کو دوسرے کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو وہ برہم ہو جاتے ہیں اور دونوں کو دونوں سے راہ ہوا ہی کرتے ہیں۔

### تلوار پر اشعار

مہر دیکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی تلوار پر یہ شعر کندہ تھے: شعر

لِلنَّاسِ حِرْصٌ "عَلَى الدُّنْيَا بِتَبْدِيرٍ وَصَفْوَهَا لَكَ مَمْرُوجٌ" بِتَكْدِيرٍ  
لَمْ يُرْزُقُوها بِعَقْلِ حِينَ مَارَزُقُوا لَكِنَّهُمْ رُزِقُوها بِالْمَقَادِيرِ  
كَمْ مِنْ أَدِيبٍ لَبِيبٍ لَأَتَسَانَدُهُ وَمَا نَقِي نَالَ دُنْيَاهُ بِتَقْصِيرِ  
لَوْ كَانَ عَنْ قُوَّةٍ أَوْ عَنْ مُعَالَبَةٍ طَارَ النَّزْةُ بِأَرْزَاقِ الْعَصَافِيرِ

ترجمہ: لوگ دنیا کے مال و متاع خرچ کرنے پر بہت حریص ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا کی خوشی کدورت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ دنیا کا مال لوگوں کو عقل سے نہیں ملا۔ (یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں عقل زائد ہو۔ اسے مال بھی زیادہ ملے۔) بلکہ دنیا کا مال انہیں تقدیر کے موافق ملا ہے۔ بہت سے ایسے دانائے ان کی مدد ہی نہیں کرتی اور بہت سے ایسے احمق ہیں کہ بغیر مشقت کے انہیں مال ملتا ہے۔ اگر رزق قوت و غلبہ سے حاصل ہوا کرتا تو باز چڑیوں کا رزق چھین لے جایا کرتے۔

### حمزہ کی روایت

حمزہ بن حبیب زیات سے مروی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علیؑ یہ اشعار پڑھ رہے تھے:

لَأَتَقَشَّ سِرَّكَ إِلَّا إِلَيْكَ فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيحٍ نَصِيحًا  
فَأَيْسَى رَأَيْتُ غَوَاةَ الرَّجَالِ لَا يَتَرُكُونَ أَدِيمًا صَحِيحًا

ترجمہ: راز کسی دوسرے شخص کو نہ بتایا کر کیونکہ ہر ناصح کا ایک ناصح ہوتا ہے۔ مگر گمراہ آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو بے عیب لگائے نہیں چھوڑتے۔

### آٹھ باتیں

عقبہ بن ابی الصہبہ سے مروی ہے۔ جب ابن ملجم نے آپ کو (یعنی حضرت علی رضی اللہ

عنه) کو زخم پہنچایا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اے بیٹا! آٹھ باتیں مجھ سے یاد رکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے والد مہربان وہ کون سی ہیں۔ آپ نے فرمایا:

- 1- سب سے بڑی تو نگری عقل ہے۔
  - 2- اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے۔
  - 3- اور سب سے بڑی وحشت تکبر ہے۔
  - 4- سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔
- یہ تو چار باتیں تھیں جبکہ دوسری چار یہ ہیں:
- 5- احمقوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کیونکہ وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے مگر نقصان پہنچاتا ہے۔

- 6- جھوٹے شخص کی ہم نشینی سے بھی پرہیز کیا کرو کیونکہ وہ قریب کو تجھ سے بعید کر دیتا ہے اور بعید کو قریب کر دیتا ہے۔
- 7- بخیل سے بھی دور بھاگنا کیونکہ وہ تم سے وہ چیزیں چھڑا دے گا جن کی تمہیں سخت حاجت ہے۔
- 8- بدکار کی صحبت سے دور بھاگنا کیونکہ وہ تمہیں کوزیوں کے بدلے بیچ ڈالے گا۔

### یہودی اسلام لایا

ابن عساکر سے مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا ہمارا خدا کیسے ہوا تھا۔ یہ بات سن کر آپ کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ہر ایک چیز سے پہلے بلا کیفیت موجود تھا۔ اس کی ابتدا و انتہا نہیں۔ اس کی غایت اور نہایت کے وڑی ہی سب غایات ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہر غایت کی غایت ہے۔ آپ کا یہ کلام سن کر یہودی مسلمان ہو گیا۔

### قاضی شریح کا فیصلہ

دراج اپنی جزء مشہور میں بسند مجہول میسرہ سے اور وہ قاضی شریح سے روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ جب آپ لڑائی سے کوفہ میں واپس آئے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو آپ

نے فرمایا کہ یہ زرہ تو میری ہے، نہ میں نے اسے بیچا ہے اور نہ بہہ کیا تمہارے پاس یہ کس طرح آگئی۔ یہودی نے کہا یہ تو میری زرہ ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔ حضرت علی ؓ نے فرمایا ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ قاضی شریح کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا اگر میرا فریق جانی یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ برابر کھڑا ہوتا لیکن میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے یہودیوں کو ذلیل و حقیر سمجھا کرو کیونکہ خدا تعالیٰ نے بھی انہیں ذلیل و حقیر سمجھا ہے۔ شریح نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اپنا دعویٰ پیش کیجئے۔ آپ نے فرمایا میرا دعویٰ یہ ہے یہ زرہ جو یہودی کے ہاتھ میں ہے یہ میری ہے۔ میں نے نہ اسے بیچا ہے اور نہ بہہ کیا ہے۔ شریح نے یہودی سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔ شریح نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کا کوئی دعویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا غلام قنبر اور میرا بیٹا حسن ؓ اس بات کی گواہی دیں گے یہ زرہ میری ہے۔ شریح نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے لیے جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا جنتی شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہو سکتی؟ میں نے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو انان جنت کے سردار ہوں گے۔ یہودی نے کہا امیر المؤمنین! مجھے اپنے قاضی کے پاس لائے تھے اور اس نے ان کے برخلاف فیصلہ کیا۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے اور یہ زرہ بیشک حضرت علی ؓ کی ہی ہے اور میں اب بطیب خاطر مسلمان ہوتا ہوں۔

#### فصل نمبر 4

### آپ کا کلام

تفسیر قرآن مجید میں آپ کا کلام بہت سا ہے جسے ہم نے پوری طرح اپنی تفسیر (یعنی تفسیر مصنف) میں پوری طرح بیان کیا ہے۔ یہاں مختصر آبیان کرتے ہیں۔

#### قلب عاقل

ابن سعد روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی ؓ نے فرمایا قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں مجھے اس کی شان نزول اور مقام نزول نیز یہ کہ وہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے معلوم نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے مجھے قلب عاقل اور زبان ناطق عطا فرمائی ہے۔

## ایک ایک آیت

ابن سعد وغیرہ ابن الطفیل سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی ؓ اکثر فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی نسبت جسے کچھ پوچھنا ہو وہ پوچھ لے کیونکہ مجھے ایک ایک آیت کی نسبت معلوم ہے کہ وہ رات کے وقت نازل ہوئی یا دن کے وقت پہاڑ پر نازل ہوئی یا میدان میں۔  
ذخیرہ علم

ابن ابی داؤد محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وصال فرمایا تو حضرت علی ؓ نے حضرت صدیق اکبر ؓ کی بیعت کرنے میں دیر کی تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے آپ سے مل کر پوچھا کیا آپ میری امارت کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے قسم کھالی ہے نماز کے سوا کبھی چادر نہ اوڑھوں گا، حتیٰ کہ قرآن جمع کر لوں۔ لوگوں کا خیال ہے قرآن مجید آپ نے اسی ترتیب سے جمع کیا تھا جیسے نازل ہوا تھا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں اگر وہ قرآن پاک ہم تک پہنچتا تو وہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا۔

## فصل نمبر 5

### چالاک و ہوشیار

آپ نے فرمایا ہوشیاری اور چالاک سوئے ظن کا نام ہے۔ یعنی چالاک و ہوشیار وہی ہوتا ہے جو کسی پر بھروسہ نہ کرے بلکہ ہر ایک پر بدگمان ہی رہے۔ (رواہ شیخ ابن حبان)  
زیادہ قربت

ایک دفعہ آپ نے فرمایا قریبی وہی ہے جسے دوستی قریب کرے۔ اگر چہ وہ بعید النسب ہی ہو اور بعید وہ ہے جسے عداوت دور کرے۔ اگر چہ وہ قریب النسب ہی ہو۔ جسم میں سب سے زیادہ قربت ہاتھ کو ہے۔ لیکن جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو قطع کیا جاتا ہے اور قطع کرنے کے بعد اسے داغ دیا جاتا ہے۔ (رواہ ابو نعیم)

## یاد رکھو

آپ نے فرمایا مجھ سے پانچ باتیں بھی یاد رکھو۔

- 1- گناہ کے علاوہ اور کسی بات سے نہ ڈرو۔
  - 2- خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔
  - 3- جو چیز نہ آتی ہو اس کے پوچھنے میں شرم نہ کرو۔
  - 4- عالم کو چاہئے کہ جب اس سے ایسی بات پوچھی جائے جو اسے نہ آتی ہو تو کہہ دے اللہ اعلم ورسولہ یعنی خدا تعالیٰ وہ رسول پاک ﷺ بہتر جانتے ہیں۔
  - 5- صبر و ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے (یعنی صبر ایمان کا سر ہے) جب صبر جاتا رہتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے جیسے کہ جب سر اتر جاتا ہے تو جسم بھی جاتا رہتا ہے۔
- (رواہ ابن منصور)

### بے فائدہ

ایک بار آپ نے فرمایا کامل فقیہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے ناامید نہ کرے اور گناہوں کی رخصت نہ دے اور نہ ہی انہیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف کر دے۔ قرآن مجید سے اعراض کر کے کسی اور کی طرف نہ جائے جس عبادت کا آدمی کو علم نہ ہو۔ اس میں بھلائی نہیں ہوتی اور نہ اس سے علم و فہم ہی بڑھتا ہے۔ اس قرأت کا بھی فائدہ نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو۔ (رواہ ابو بصریس فی فضائل القرآن)

آپ نے فرمایا میرے نزدیک نہایت ہی لذیذ اور عمدہ بات یہ ہے جب مجھ سے ایسی بات پوچھی جائے جو مجھے نہ آتی ہو تو اس کے جواب میں اللہ اعلم کہہ دوں۔ (رواہ ابن عساکر)

### انصاف کی بات

آپ نے فرمایا اپنے نفس اور لوگوں کے درمیان انصاف کرے تو اسے لوگوں کے لیے بھی وہی بات پسند کرنی چاہئے جسے وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ (رواہ ابن عساکر)

### سات چیزیں

آپ نے فرمایا سات باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں:

- 1- غصہ کی شدت۔
- 2- و 3- عطاس اور جھانکی کی شدت۔
- 4- تے
- 5- تکسیر



6- بول و برابر

7- اور ذکر خدا کے وقت نیند کا آنا۔

مقوی معده

آپ نے فرمایا اناراس کی نیلی سی جھلی کے ساتھ ہی کھایا کرو کیونکہ وہ مقوی معده ہے۔  
(رواہ عبداللہ بن احمد فی زوائد المسند)

پڑھنا برابر

آپ نے فرمایا تیرا عالم پڑھنا اور تجھ پر عالم کا پڑھنا برابر ہے۔ (رواہ حاکم فی تاریخ)  
ایک دفعہ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مومن شخص لوٹدیوں  
سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔ (رواہ سعید بن منصور)

اسود کے اشعار

ابوالاسود دکنی نے ہا شعرا ذیل حضرت علی ؓ کا مرثیہ کہا ہے۔

أَلَا يَأَعِينُنْ وَيُحَكِّ أَسْعِدِينَا	إِلَّا تَبْكِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
وَتَبْكِي أَمْ كَلْفُومٌ عَلَيْهِ	بِعَرَّتَيْهَا وَقَدْرَاتِ الْيَقِينَا
أَلَا قُلْ لِلْخَوَارِجِ حَيْثُ كَانُوا	فَلَا قَرَّتْ عُيُونُ الْحَاسِينَا
إِنِّي شَهْرُ الصِّيَامِ فَجَعَلْتُمُونَا	بِخَيْرِ النَّاسِ طُرًّا أَجْمَعِينَا
قَتَلْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا	وَذَلَّلَهَا وَمَنْ رَكِبَ السِّفِينَا
وَمَنْ لَبَسَ النِّعَالَ وَمَنْ خَذَاهَا	وَمَنْ قَرَأَ الْمَثَانِي وَالْمِينَا
وَكُلُّ مَنَاقِبِ الْخَيْرَاتِ فِيهِ	وَحُبُّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَا
لَقَدْ عَلِمْتُ قُرَيْشٌ "حَيْثُ كَانَتْ	بِأَنَّكَ خَيْرُهُمْ حَسْبًا وَدِينَا
إِذَا اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَ أَبِي حُسَيْنِ	رَأَيْتَ الْبَدْرَ فَوْقَ السَّاطِرِينَا
وَكُنَّا قَبْلَ مَقْتَلِهِ بِخَيْرِ	نَرَى مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ فِيْنَا
يُقِيمُ الْحَقَّ لَا يُرْتَابُ فِيهِ	وَيَعْدِلُ فِي الْعَدَى وَالْأَفْرَبِينَا
وَلَيْسَ بِكَاتِمٍ عَلِمًا لَدَيْهِ	وَلَمْ يَخْلُقْ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَا
كَأَنَّ النَّاسَ إِذْ قَفَدُوا عَلِيًّا	نَعَامَ" حَارَ فِي بَلَدِ سِينَا
فَلَا تَسُسْتُ مَعْرُوبِيَةَ بَنِ صَخْرِ	فَإِنَّ بَقِيَّةَ الْخُلَفَاءِ فِيْنَا

ترجمہ: اے آنکھ تجھے خرابی ہو گیا تو ہماری مدد نہ کرے گی اور امیر المؤمنین پر نہ روئے گی، حالانکہ ام کلثوم ان پر روتی اور اپنے آنسو بہاتی ہے اور انہوں نے یقیناً یعنی موت کو دیکھ لیا۔ اے مخاطب! خارجی جہاں کہیں بھی ہوں ان کو کہہ دے کہ (خدا کرے) ہمارے حاسدوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہوں۔ (ادکم بخنوا!) کیا تم نے ماہ رمضان میں ایسے شخص کو شہید کر کے جو سب لوگوں سے بہتر تھا، ہمیں تکلیف پہنچانی تھی۔ تم نے ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو تمام ان لوگوں سے جو کشتیوں یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہوئے بہتر تھا اور تمام ان لوگوں سے بہتر تھا جنہوں نے جوتا پہنا یا مٹائی و مین کو پڑھا۔ تمام خوبیاں اس میں موجود تھیں اور وہ رسول رب العالمین کے دوست تھے۔ قریش جہاں کہیں ہوں انہیں معلوم رہے کہ آپ ان سب سے حسب دین میں بہتر تھے۔ اے مخاطب! جب تو ابو حسین (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) کے سامنے آئے تو دیکھنا کہ گویا نازکین پر ماہ کامل نکل آیا ہے۔ ہم ان کے شہید ہونے سے پہلے خوش تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے دوست کو اپنے درمیان دیکھتے تھے۔ آپ حق کو قائم کرتے تھے اور اس میں ذرا بھی شک نہ کرتے تھے اور دشمنوں اور اقرباء میں ایک جیسا عدل کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے علم کو کبھی نہ چھپاتے اور نہ ہی آپ متکبروں سے تھے اور لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گم کر کے ایسے ہو گئے ہیں جیسے شتر مرغ قحط سالی میں میدان میں مارا مارا پھرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خوش نہیں ہونا چاہئے کیونکہ خلفاء کا بقیہ (یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ) اب بھی ہم میں موجود ہیں۔

## فصل نمبر 6

### فوت یا شہید

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مندرجہ ذیل اعلام امت فوت یا شہید ہوئے:

خدیجہ بنت ابی بکر، زبیر بن عوام، طلحہ زید بن صوحان، سلمان فارسی، ہند بن ابی ہالہ، اوس بن قریظ، جناب بن ارت، عمار بن یاسر، اہل بن حنیف، تمیم الداری، خوات بن جبیر، شریک بن سلم، ابو میسرہ ہداری، صفوان بن عسال، عمرو بن عتبہ، ہشام بن حکیم اور ابورافع آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین۔

## حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

### موافق حدیث

حضرت حسن بن علی بن ابی طالب ابو محمد رسول اللہ ﷺ کے دو بچے اور جگر گوشہ اور موافق حدیث سب سے آخری خلیفہ تھے۔

### اہل کساء

ابن سعد عمران بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اہل جنت کے اسماء سے ہیں۔ جاہلیت میں عرب میں کسی شخص کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نصف ماہ رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے بیٹے حسن اور ابو حور زبیر بن شیبان شعمی اور ابو الوائل وغیرہم بہت سے تابعین نے آپ سے روایت کی ہے۔ آپ صورت میں حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بہت مشابہہ تھے۔ آپ کا نام حسن آنحضرت ﷺ نے ہی رکھا تھا اور ساتویں دن عقیدہ کر کے بال اتروائے تھے اور حکم کیا تھا ان بالوں کے عوض چاندی کا صدقہ کیا جائے۔ آپ اہل کساء سے پانچویں ہیں۔

### پوشیدہ نام

عسکری کہتے ہیں۔ جاہلیت میں یہ نام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ منضل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین دونوں نام پوشیدہ رکھے تھے حتیٰ کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے دو ہتوں کے نام رکھے۔

بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مشابہہ نہ تھا۔

بخاری و مسلم براء سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ! میں اسے دوست رکھتا

ہوں تو بھی اسے دوست رکھ۔

بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر ؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن آنحضرت ﷺ منبر پر تشریف رکھتے تھے اور حضرت حسن ؓ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے تو آپ کبھی لوگوں کی طرف نظر کرتے اور کبھی حضرت حسن ؓ کی طرف اور فرماتے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ امید ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔

بخاری ابن عمر ؓ سے روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔

ترمذی اور حاکم ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو انانِ جنت کے سردار ہوں گے۔

### پیار کا اظہار

ترمذی اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ التحیۃ والثناء کو دیکھا آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے اے اللہ! یہ میرے بیٹے اور نواسے ہیں۔ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ اور نیز ان سے محبت رکھ جو ان کو دوست رکھیں۔

### زیادہ پیارہ

حضرت انس ؓ سے مروی ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔

### سواری اور سوار

حاکم حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن آنحضرت ﷺ حضرت حسن ؓ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تشریف لارہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا اس نے دیکھ کر کہا میاں لڑکے تمہیں کیا اچھی سواری ملی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا سوار بھی تو اچھا ہے۔

### انتہائے محبت

ابن سعد عبد اللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے حضرت حسن ؓ رسول

اللہ ﷺ کے ساتھ صورت میں بہت ملتے جلتے تھے اور وہی آپ کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ مجھ سے بیٹے میں جاتے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے کندھے یا پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ انہیں نہ اتارا کرتے، حتیٰ کہ وہ خود ہی خوشی سے اتر جاتے اور کبھی آنحضرت ﷺ رکوع میں ہوتے تو آپ اپنے پاؤں کو کشادہ کر دیتے، حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتے۔

ابن سعد ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی زبان مبارک باہر نکالا کرتے اور زبان کی سرخی دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔

حاکم زہیر بن ارقم سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ قبیلہ ازد سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں ایک دن رسول اللہ ﷺ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے آپ کو گود میں لیے ہوئے فرما رہے تھے جو شخص یہاں ہے وہ دوسرا کو پہنچا دے کہ جو شخص مجھے دوست رکھتا ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی دوست رکھے۔ اگر نبی رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی تعمیل مقصود نہ ہوتی تو میں اس بات کو بیان نہ کرتا۔

### باکمال سخاوت

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مناقب بہت ہیں۔ آپ نہایت حلیم صاحب وقار و حشمت اور نہایت سخی تھے۔ فتد و خوزری سے آپ سخت تنفر تھے۔ شادیاں آپ بہت کیا کرتے تھے اور سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک شخص کو ہی ایک ایک لاکھ درہم عطا فرمایا کرتے تھے۔

### پچیس حج

حاکم عبداللہ بن عبید بن عیسر سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پچیس حج پایا۔ دیکھئے حالانکہ اعلیٰ درجے کی تیز رفتار اونٹنیاں آپ کے پاس ہوا کرتی تھیں۔

ابن سعید عمیر بن اہلق سے روایت کرتے ہیں۔ صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی ایسے شخص تھے کہ جب آپ کلام کرتے تو میں چاہتا تھا کہ آپ خاموش نہ ہوں۔ کبھی کوئی شخص کلمہ آپ کی زبان سے نہیں سنا گیا۔ مگر ایک مرتبہ کہ آپ کے اور عمرو بن عثمان کے درمیان زمین کا کچھ تنازع تھا۔ آپ نے ایک امر پیش فرمایا۔ مگر عمرو اس سے راضی نہ ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے

پاس تو اس شخصے علاوہ کچھ نہیں جس سے تمہاری ناک خاک آلودہ ہو یعنی یہی کچھ ہے اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہے۔ پس یہی ایک سخت کلمہ میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا۔  
کم نہیں کرتا

ابن سعد عمیر بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ مروان ہمارا حاکم تھا اور وہ ہر جمعہ کو منبر پر کھڑا ہو کر حضرت علیؑ کے بارے سب و شتم کیا کرتا تھا۔ حضرت حسنؑ سنتے رہتے، مگر کبھی آپ جواب نہ دیا۔ ایک دن مروان نے آپ کے پاس ایک آدمی بھیجا اور کہلا بھیجا کہ حضرت علیؑ پر اور اتھ پر..... تمہاری مثال نخر کی سی ہے جب اس سے پوچھا جائے تمہارا باپ کون تھا تو وہ کہتی ہے میری ماں گھوڑی تھی۔ حضرت حسنؑ نے اس شخص سے کہا جا کر اسے کہہ دو میں تجھے گالیاں دیکر تیرے نامہ اعمال سے کوئی چیز کم نہیں کرتا۔ میرا تیرا فیصلہ خدا کے سامنے ہوگا۔ اگر تو سچا ہے تو خدا تجھے جزائے خیر دے اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تعالیٰ سب سے سخت عذاب دینے والا ہے۔

تم پر اُف

ابن سعد زین بن سوار سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسنؑ اور مروان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی تو مروان نے آپ سے درستی کے ساتھ کلام کیا۔ پھر مروان نے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا تو حضرت حسنؑ نے فرمایا تو ہلاک ہو تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ دایاں ہاتھ منہ کیلئے ہے اور ناک کیلئے اور ناپاکیوں کے دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ ہے۔ تجھ پر اُف ہے۔ مروان یہ سن کر بالکل خاموش ہو گیا۔

کیا اجازت ہے؟

ابن سعد اشعث بن سوار سے روایت کرتے ہیں۔ ایک شخص آ کر حضرت حسنؑ کے پاس بیٹھ گیا آپ نے فرمایا آپ ایسے وقت یہاں آ کر بیٹھے ہیں کہ ہم اٹھ رہے ہیں۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟

ایک موزہ

ابن سعد علی بن زید بن جدعان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسنؑ نے اپنے ساترا مال راہ خدا میں بانٹ دیا اور تین مرتبہ نصف نصف مال خیرات کی حتیٰ کہ ایک جوتا رکھ لیا اور

ایک خیرات کر دیا اور ایک موزہ رکھ لیا اور ایک خیرات کیا۔

### نہایت دوست

ابن سعد علی بن حسن رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسن ؓ عورتوں کو بہت طلاق دیا کرتے تھے اور جسے آپ طلاق دیتے وہ آپ کو نہایت دوست رکھتی چنانچہ آپ نے نوے عورتوں سے نکاح کیا۔

ابن سعد جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسن ؓ ادھر عورتوں سے نکاح کرتے اور ادھر طلاق دیدیتے۔ آپ کی اس عادت سے یہاں تک اندیشہ ہوا کہ قبائل کی آپس میں عداوت ہی نہ پڑ جائے۔

ابن سعد جعفر بن محمد سے ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی ؓ نے فرمایا اے اہل لوف! حضرت حسن ؓ سے لڑکیوں کا نکاح نہ کیا کرو کیونکہ وہ طلاق بہت دیا کرتے ہیں۔ اس پر ہمدان کے ایک شخص نے اٹھ کر کہا بخدا ہم تو ان سے نکاح کر دیا کریں گے۔ ان کی مرضی ہے جس کو چاہیں رکھیں اور جس کو چاہیں طلاق دیں۔

### عاشق اور فریفتہ

ابن سعد عبداللہ بن حسن سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسن ؓ بہت عورتوں سے نکاح کیا کرتے تھے اور ایسی عورتیں بہت کم ہوا کرتی تھیں کہ آپ ان سے نکاح کریں اور وہ آپ پر عاشق اور فریفتہ نہ ہو جائیں۔

### حلیم اور بردبار

ابن عسا کر جویریہ بن اسماء سے روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت حسن ؓ فوت ہوئے تو مروان آپ کے جنازے میں رو پڑا۔ حضرت حسین ؓ نے کہا کہ اب تو روتا ہے اور ان کی زندگی میں انہیں گالیاں دیا کرتا تھا۔ مروان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس سے بھی زیادہ حلیم اور بردبار شخص کو کہا کرتا تھا۔

### اللہ کی رضا

ابن عسا کر مرد سے روایت کرتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت سن بن علی رضی اللہ عنہما

سے کہا ابوذر کہتے ہیں غنی سے فقر اور تندرستی سے بیماری مجھے بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ ابوذر پر رحم کرے۔ ان کا خیال اچھا ہے۔ مگر میں تو کہتا ہوں جو شخص اللہ کے اختیار پر بھروسہ کرے تو اسے اس بات کی تمنا کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کردہ حالت کے سوا کسی اور حالت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر ٹھہرنے کی یہی حد ہے۔

**صلح کرائے گا؟**

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کی شہادت کے بعد از روئے بیعت خلیفہ ہوئے اور چھ مہینے اور چند دن تک خلیفہ رہے۔ لیکن حکم خدا میں چارہ نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان شرائط پر خلافت انہیں سپرد کر دی کہ ان کے بعد خلافت آپ کو ملے اور اہل مدینہ و حجاز اور عراق کے پاس جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت سے چلا آتا ہے ان سے کچھ نہ لیا جائے گا اور آپ کے قرض ادا کر دیئے جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب شرائط مان لیں اور آپس میں صلح ہو گئی اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ثابت ہو گئی جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔

بلقیس نے آپ کے منصب خلافت کو جو سب منصبوں سے بڑا ہوتا ہے چھوڑ دینے سے یہ دلیل لی ہے کسی وظیفہ اور منصب سے دستبردار ہو جانا جائز ہے۔ آپ نے ماہ ربیع الاول 41 ہجری میں خلافت کو چھوڑا۔ اور بعض ربیع الاخریٰ اور بعض جمادی الاولیٰ میں بتاتے ہیں۔ آپ کے دوست آپ کو عار المسلمین کہا کرتے تھے تو آپ جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ عار آگ سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے کہا۔ اے مسلمانوں کو ذلیل کرینو اے السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا میں نے مومنوں کو ذلیل تو نہیں کیا بلکہ مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ ملک کی خاطر تمہیں قتل کرواؤں۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور وہیں اقامت اختیار کی۔

### محض خدا تعالیٰ

حاکم جبیر بن نفیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کیا میں نے سنا ہے آپ پھر خلافت کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تمام اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں تھے جسے جس سے چاہتا لڑا دیتا اور جس سے چاہتا صلح کر لیتا اس وقت بھی



میری خوشنودی محض خدا تعالیٰ اور اس خیال سے آنحضرت ﷺ کی امت کا ناحق خون نہ ہو، خلافت چھوڑ دی اور اب اہل حجاز کی غمگینی دور کرنے کے لیے میں اسے کیوں قبول کرنے لگا۔

زہر کس نے دیا؟

حضرت حسن رضی اللہ عنہ مدینہ میں مسموم لغوت ہوئے۔ آپ کی زوجہ جعدہ بنت اشعث بن قیس نے آپ کو زہر دیدیا تھا جسے یزید بن معاویہ نے پوشیدہ طور سے کہلا بھیجا تھا کہ انہیں زہر دیدو۔ پھر میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اس نے یزید سے ایفاء وعدہ طلب کیا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ جب میں یہ نہ دیکھ سکا کہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہے تو بھلا میں تجھے اپنے واسطے کیسے پسند کرتا ہوں؟ آپ کی شہادت 49 ہجری اور ایک قول کے مطابق ربیع الاول 50 ہجری اور ایک قول کے مطابق 51 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہزار ہا چاہا آپ یہ بتلا دیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے مگر آپ نے نہ بتلایا اور فرمایا کہ جس پر میرا شبہ ہے اگر وہ قاتل ہے تو خدا تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے ورنہ میرے واسطے کوئی دوسرا کیوں قتل کیا جائے۔

شہادت حضرت حسن رضی اللہ عنہ

ابن سعد عمران بن عبد اللہ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا میری دونوں آنکھوں کے درمیان قتل ہو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ یہ خواب سن کر اہل بیت خوش ہوئے اور اس خواب کو سعید بن مسیب سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی عمر بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ چند دنوں کے بعد شہید ہوئے۔

فراخی کی دعا

بیہقی اور ابن عساکر سند ابی المنذر راور ہشام بن محمد روایت کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک لاکھ درہم بطور وظیفہ سالانہ ملا کرتا تھا۔ ایک سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ وظیفہ نہ بھیجا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بہت تنگ ہو گیا۔ ایک روز آپ نے امیر معاویہ

ﷺ کی یاد دہانی کی خاطر خط لکھنے کیلئے قلم دوات منگوائی مگر آپ پھر رک گئے۔ رات کو آپ نے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے حسن ﷺ کیسا حال ہے؟ تو حضرت حسن ﷺ نے عرض کیا اچھا ہوں اور پھر اپنی تنگدستی کی شکایت کی تو آپ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تم نے آج اس خاطر قلم دوات منگوائی تھی کہ اپنے ہی جیسی مخلوق سے مدد مانگوں تو حضرت حسن ﷺ نے عرض کی۔ ہاں یا رسول اللہ ﷺ۔ پھر میں اور کیا کرتا؟ آپ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو:

اللَّهُمَّ أَقْدِفْ فِي قَلْبِي رَجَاءَ كَ وَأَقْطَعْ رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ اللَّهُمَّ وَمَا ضَعُفْتُ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصَرَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ تَنْتَه إِلَيْهِ رَغْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي وَلَمْ يَجْرُ عَلَي لِسَانِي مِمَّا أَعْطَيْتَ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَيْنَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْيَقِينِ فَخَصِّصْنِي بِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل میں اپنی امید ڈال دے اور اپنے ماسوا سے میری امید قطع کر دے یہاں تک کہ اپنے علاوہ مجھے کسی کی امید نہ رہے اور اس سے میری قوت کمزور نہیں ہوتی اور نہ میرا عمل اس سے کوتاہ ہوا ہے اور نہ میری رغبت انتہا کو پہنچی ہے اور نہ میرا سوال اس تک پہنچا ہے اور نہ وہ میری زبان پر جاری ہوا ہے۔ (پس اے اللہ وہ مجھے بھی عطا کر) جس سے تو نے اولین و آخرین کو عطا کیا ہے۔ یقین سے پس تو مجھے بھی اس کے ساتھ خاص فرما اے جہانوں کے پالنے والے۔

### ہفتہ نہ گزرا

حضرت حسن ﷺ کہتے ہیں۔ مجھے یہ دعا پڑھتے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ ﷺ نے میرے پاس پندرہ لاکھ درہم بھیج دیئے۔ میں نے کہا اس خدا تعالیٰ کا شکر ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو کبھی نہیں بھولتا اور جو اس سے دعا کرتا ہے اس کو مایوس نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر میں نے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے حسن ﷺ کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اچھا ہے۔ پھر میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا جو شخص اپنے خالق سے مانگتا ہے اور مخلوق سے امید نہیں رکھتا اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہی ہوتا ہے۔

طیوریات میں سلیم بن عیسیٰ سے جو کوفہ کے قاری تھے مروی ہے۔ جب حضرت حسن ؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ حضرت حسین ؓ نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو رسول کریم ﷺ اور اپنے والد حضرت علی ؓ کے پاس جا رہے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا رہے ہیں اور وہ آپ کی والدہ ہیں اور قاسم و طاہر کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کے ماموں ہیں اور حمزہ و جعفر کے پاس جاتے ہو جو آپ کے چچا ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسن ؓ نے کہا اے بھائی! میں اب اللہ تعالیٰ کے ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں جس میں اس سے پہلے کبھی داخل نہیں ہوا اور میں اس وقت خدا تعالیٰ کی ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جسے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔

سفہائے کوفہ

ابن عبد البر کہتے ہیں۔ کئی طرق سے مروی ہے۔ جب حضرت حسن ؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت حسین ؓ سے کہا اے بھائی! تیرے باپ نے خلافت کا ارادہ کیا تھا مگر خدا تعالیٰ نے ان سے پھیر کر حضرت ابو بکر ؓ کو دیدی۔ ان کے بعد پھر انہوں نے ارادہ کیا۔ مگر وہ حضرت عمر ؓ کو مل گئی۔ پھر ان کے بعد انہیں یقین تھا کہ وہ انہیں ملے گی مگر وہ حضرت عثمان ؓ کو ملی۔ جب حضرت عثمان ؓ شہید ہوئے تو حضرت علی ؓ سے بیعت کی گئی مگر تلواریں نیا موموں سے باہر آگئیں اور یہ معاملہ ملے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہم میں نبوت و خلافت کو جمع نہیں فرمائے گا اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفہائے کوفہ تمہیں یہاں سے ضرور نکالیں گے۔ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اس وقت انہوں نے مان لیا تھا۔ مگر مجھے خیال ہے کہ لوگ یہ بات نہ تسلیم کریں۔ تو اصرار نہ کرنا۔ جب حضرت حسن ؓ فوت ہوئے تو حسین ؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بسر و چشم قبول ہے۔ لیکن مروان مانع آیا۔ اس پر حضرت حسین ؓ اور آپ کے ہمراہیوں نے ہتھیار لگا لیے۔ مگر حضرت ابو ہریرہ ؓ نے آپ کو روک دیا اور آپ کو اپنی والدہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔

## امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ

معاویہ بن ابوسفیان صحیح بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی اموی ابو عبد الرحمن۔ یہ اور ان کے والد فتح مکہ کے روز ایمان لائے۔ جنگ حنین میں شامل ہوئے موافقہ القلوب میں سے تھے۔ مگر بعد میں نہایت بکے مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے منشیوں میں سے تھے۔ آپ سے ایک سوترہ سٹھ حدیثیں مروی ہیں جن کو ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ابو الدرداء، جریر بن عبد اللہ، نفعان بن بشیر، ابن مسیب، حمید بن عبد الرحمن وغیر ہم رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔

آپ ہوشیاری اور حلم میں مشہور تھے۔ آپ کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں مگر بہت کم ثابت ہوئی ہیں۔

دعائے حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام

ترمذی عبد الرحمن بن ابی عمیر صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا۔ اے اللہ اسے ہدایت کنندہ اور ہدایت یافتہ بنا دے۔

احمد اپنی مسند میں عرابض بن ساریہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتے سنا اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب و حساب سکھا اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ۔

### خلافت کا شوق

ابن ابی شیبہ مصنف میں اور طبرانی کبیر میں عبد الملک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اے معاویہ جب تو بادشاہ ہو تو لوگوں سے اچھی طرح سلوک کرنا اس وقت سے مجھے خلافت کا طمع رہا ہے۔

### کسریٰ عرب

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خوبصورت اور مہیب شخص تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں کسریٰ عرب کہا کرتے تھے۔

## خلافت معاویہ کا اٹھنا

حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ حضرت معاویہؓ کی امارت کو مکروہ نہ سمجھو کیونکہ جب یہ تمہارے سروں سے اٹھ جائیں گے تو دیکھو گے کہ کتنے سر جسموں سے جدا کیے جاتے ہیں۔  
معاویہ ضرب المثل

مقبری کہتے ہیں کہ تم ہر قل اور کسریٰ کی ہوشیاری اور زیری کو تو یاد کرتے ہو مگر معاویہؓ کو چھوڑ جاتے ہو حالانکہ وہ ہم میں ضرب المثل تھے۔

ابن ابی الدنیا اور ابو بکر بن عاصم نے حضرت معاویہؓ کے حلم میں ایک علیحدہ کتاب تصنیف کی ہے۔

ابن عون کہتے ہیں۔ ایک شخص حضرت معاویہؓ سے کہہ رہا تھا اے معاویہ ہمارے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرو ورنہ ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ آپ نے کہا کہ کس چیز سے سیدھا کرو گے؟ اس نے کہا لکڑی سے۔ آپ نے کہا کہ ہاں بھائی میں اس وقت سیدھا ہو جاؤں گا۔ قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہؓ کے پاس مدت تک رہا ہوں، پس میں نے آپ سے بڑھ کر حلیم، عاقل اور متواضع کوئی شخص نہیں دیکھا۔

## طویل المیعاد حاکم

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا تو امیر معاویہؓ بھی اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ہمراہ گئے اور جب یزید مر گئے تو حضرت صدیق اکبرؓ نے امیر معاویہؓ کو دمشق کا حاکم مقرر کر دیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے بھی انہیں برقرار رکھا اور حضرت عثمانؓ نے انہیں تمام شام پر حاکم بنا دیا۔ اس لحاظ سے وہ بیس برس شام کے امیر رہے ہیں اور بیس برس ہی خلیفہ رہے ہیں۔

کعب احبار کہتے ہیں۔ جتنی مدت حضرت معاویہؓ حاکم رہے ہیں اتنی مدت اس امت سے وہ منعم حاکم نہیں رہا۔

## بغیر مخالفت کے خلافت

ذہبی کہتے ہیں۔ کعب احبارؓ، امیر معاویہؓ کے خلیفہ ہونے سے پہلے ہی وفات

پاگئے۔ لیکن کعب احبار نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیس برس تک اس طرح خلافت کی ہے کہ کوئی ان کا مخالف کھڑا نہ ہوا۔ برخلاف کہ جو ان کے بعد خلفاء ہوئے اکثر لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور کئی شہر ان کے تصرف سے نکل گئے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر خروج کیا تھا اور بعد ازاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑ دی تھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 41 ہجری سے مستقل خلیفہ ہوئے۔ اسی لیے اسے عام جماعت کہتے ہیں کیونکہ اس میں امت کا ایک خلیفہ پر اتفاق ہو گیا۔ اسی سال میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔

43 ہجری میں حج وغیرہ بلادِ جستان اور وڈان برقہ، کلوازی وغیرہ شہر فتح ہوئے اور اسی سال میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی زیاد کو حاکم بنایا اور یہ پہلی بات ہے جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فی الاسلام کی مخالفت کی۔ (رواہ ثعالبی)

### یزید کی بیعت

45 ہجری میں قیقان فتح ہوا۔

50 ہجری میں قوہستان غلبہ فتح ہوا اور اس سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام کو بلا کر ان سے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی اور آپ ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی حیات میں اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ میں مروان کو لکھا کہ وہاں کے لوگوں سے بھی بیعت لو۔ چنانچہ مروان نے خطبہ پڑھا اور کہا امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم بھیجا ہے کہ میں ان کے بیٹے یزید کے لیے سنت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر بیعت لوں۔ اس پر عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا یہ نہ ہو بلکہ کہو کہ سنت کسریٰ و قیصر پر کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے خلافت کو اپنے بیٹوں یا اپنے خاندان کے لیے خاص نہیں کیا تھا۔

### ایسی رات

51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور وہاں بھی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلا کر کہا اے ابن عمر تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں نہیں پسند کرتا کہ

ایسی رات گزاروں جس میں مجھ پر کوئی امیر نہ ہو اور اب مجھے خوف ہے کہ تم ہی اس معاملہ میں مسلمانوں کے امن میں خلل ڈالنے اور ان میں فساد کرنے والے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا تم سے پہلے بھی خلیفہ گزرے ہیں اور ان کے بیٹے بھی تھے اور تیرا بیٹا ان کے بیٹوں سے اچھا بھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے تمہاری طرح اپنے بیٹوں کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ خلافت کو مسلمانوں کے مشورے پر چھوڑا کہ جسے وہ اچھا سمجھیں خلیفہ بنالیں اور یہ جو آپ نے کہا تم مسلمانوں میں فساد ڈالو گے سو میں تو مسلمانوں سے ایک شخص ہوں۔ جب وہ سب کسی امر پر اتفاق کر لیں گے تو مجھے بھی ان کے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا۔ آپ کی یہ بات سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے (یعنی آپ نے اچھی بات کہی) اتنا کہہ کر ابن عمر رضی اللہ عنہ چلے آئے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کو بدایا۔ جب وہ آئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی وہی باتیں کرنے لگے تو عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما نے ان کے کلام کو قطع کر کے کہا کہ شاید آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بیٹے کے معاملہ میں آپ کو اپنا وکیل کر لیا ہے۔ بخدا ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ ہم امر خلافت کو مسلمانوں کے مشورے پر چھوڑیں گے یا فریب سے آپ کو اس سے علیحدہ کر دیں گے۔ اس کے بعد عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ! جو میں چاہتا ہوں اس میں میری مدد فرما۔ پھر کہا ذرا سختی کو کام میں نہ لائیں اور نرمی اختیار کریں اور اہل شام تک اس بات کو نہ پہنچانا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ تمہیں میرے جانے سے پہلے ان سے کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب آج شام کو میں انہیں خبر دے دوں کہ تم نے بیعت کر لی ہے تو پھر جو کچھ چاہے کرنا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر کو بلایا اور کہا اے ابن زبیر تو تو مکار لو مڑی کی طرح ہے۔ جب کبھی وہ ایک سوراخ سے نکلتی ہے دوسرے میں جا گھسکتی ہے۔ تم نے ان دونوں آدمیوں (یعنی ابن عمر اور ابن ابوبکر رضی اللہ عنہم) کے کانوں میں کچھ پھونک دیا ہے اور ان کی رائے کے خلاف ہمیں آمادہ کر دیا ہے۔ اس پر ابن زبیر نے کہا اگر آپ ایسے ہی خلافت سے بیزار ہو گئے ہیں تو اسے چھوڑ دیں اور اپنے بیٹے کو لائیں۔ ہم اس سے بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیعت بھی رکھیں اور اس سے بھی بیعت کر لیں تو کس کی اطاعت کریں اور کس کی اطاعت نہ کریں۔ ایک وقت میں دو بیعتیں نہیں ہو سکتیں۔ یہ کہہ کر ابن زبیر

ﷺ چلے آئے۔

## بیعت نہیں کی

پھر اس کے بعد امیر معاویہ ﷺ منبر پر چڑھے اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد کہا: اے ہاکل جھوٹ کہتے ہیں کہ ابن عمر اور ابن ابی بکر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت نہیں کی حالانکہ انہوں نے بیعت کر لی ہے۔ اہل شام نے کہا جب تک وہ سب کے سامنے بیعت نہ کریں تب تک ہم راضی نہ ہوں گے ورنہ ہم ان تینوں کو قتل کر دیں گے۔ امیر معاویہ ﷺ نے کہا سبحان اللہ! لوگ قریش کی شان میں کس قدر جلدی گستاخی کرتے ہیں۔ خبردار! آج کے بعد کوئی شخص ایسا کلمہ زبان پر نہ لائے۔ یہ کہہ کر آپ منبر سے اتر آئے۔ پس لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ابن عمر ابن ابی بکر اور ابن زبیر نے بیعت کر لی ہے۔ مگر وہ کہتے تھے بخدا ہم نے بیعت نہیں کی۔ لیکن لوگ کہتے تھے نہیں تم نے بیعت کر لی ہے۔ پھر امیر معاویہ ﷺ شام کو واپس لوٹ گئے۔

ابن مکندر سے مروی ہے۔ ابن عمر ﷺ نے یزید سے بیعت کرتے وقت کہا: اگر اچھا ہوگا تو ہم راضی ہوں گے اور اگر برا ہوگا تو صبر کریں گے۔

خرامطی ہوا تھ میں حمید بن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ ہند بنت عقبہ بن ربیعہ فاکہ بن مغیرہ کے عقد میں تھی جو جو انان قریش سے تھا اور اس نے ایک بیت الضیافت بنا رکھا تھا جس میں لوگ بغیر اذن کے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مکان خالی تھا اور فاکہ اور ہند دونوں اس میں تھے۔ قنضا سے فاکہ کسی کام کے لیے باہر گیا تو اس کے بعد ایک شخص جو ہر روز وہاں آیا جایا کرتا تھا اندر داخل ہوا۔ مگر ایک عورت کو دیکھ کر اٹھنے پاؤں واپس چلا گیا۔ جاتے وقت اسے فاکہ نے دیکھ لیا۔ اپنی عورت کو آ کر کہنے لگا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا اور میں تو تمہارے آگاہ کرنے سے خبردار ہوئی ہوں۔ اس نے کہا جانے گھر چلی جا۔ اس واقعہ کا لوگوں میں چرچا ہو گیا تو ہند کے باپ نے ایک روز اسے علیحدہ لے جا کر پوچھا۔ اے بیٹی! تمہارے معاملہ میں لوگ بہت کچھ گفت و شنید کرتے ہیں تو مجھے اصلی واقعہ بتادے۔ اگر وہ شخص یعنی تیرا خاوند سچا ہوگا تو میں کسی آدمی کو کہہ کر اسے پوشیدہ طور سے قتل کرادوں گا اور اگر وہ جھوٹا ہے تو ہم یمن کے کابھوں کے پاس جا کر اس سے فیصلہ کریں گے۔



اس پر ہند نے زمانہ جاہلیت کی تمام قسمیں کھا کر کہا یہ اس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ پھر عقبہ نے فاکہ سے کہا تم نے میری بیٹی پر نہایت سخت بہتان باندھا ہے۔ چلو یمن کے بعض کاہنوں سے اس کا فیصلہ کرائیں۔ پس فاکہ اپنے قبیلہ بنی مخزوم کے کئی آدمی ساتھ لیکر عقبہ بن عبد مناف کے بہت سے شخص ساتھ لے کر چلے ان کے ساتھ ہند اور اس کی کئی سہیلیاں تھیں۔ جب یہ لوگ بلاد یمن کے قریب گئے تو ہند کا حال دگرگوں ہو گیا اور اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تیرا حال متغیر ہوا جاتا ہے اور اس کا کوئی سبب ضرور ہے۔ اس نے کہا اے میرے باپ یہ حال دگرگوں ہونا کسی برائی کا باعث نہیں بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ تم اس معاملہ کو ایک ہم جیسے آدمی کے پاس لیے جاتے ہو جن کی باتیں کبھی سچی ہوتی ہیں اور کبھی جھوٹی اس لیے میں ڈر رہی ہوں کہ وہ مجھ پر کہیں ایسا نشان نہ لگا دے جو میرے لیے عرب بھر میں ننگ و عار بن جائے۔ عقبہ نے کہا تمہارا معاملہ پیش کرنے سے پہلے میں اسے آزما لوں گا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو اس طرح کی آواز دی کہ اس نے اپنا ذکر باہر نکال لیا اور اس نے اس کے سوراخ میں گے ہوں کا دانہ رکھ دیا اور بعد ازاں اسے باندھ دیا۔

### جھٹک دیا

جب صبح کے وقت کاہن کے پاس گئے تو اس نے ان کی بڑی خاطر و تواضع کی اور ان کے لیے بکرے وغیرہ ذبح کیے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو عقبہ نے کہا ہم تیرے پاس ایک کام کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے تیری آزمائش کے لیے ایک چیزہ پوشیدہ کی ہے۔ بتاؤ وہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ گھوڑے کے ذکر کے سوراخ میں گندم کا دانہ پوشیدہ کیا ہے۔ عقبہ نے کہا تو نے سچ کہا ہے۔ اب تو ان عورتوں کا حال دیکھ۔ پس وہ کاہن ایک ایک کے پاس جاتا اور کہتا کھڑی ہو جا۔ جب ہند کے پاس گیا تو اس کے کندھوں پر دھڑ مار کر کہنے لگا کہ کھڑی ہو جا نہ ہی تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے اور نہ ہی تو زانیہ ہے۔ تجھ سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام معاویہ ہوگا۔ فاکہ نے یہ سن کر ہند کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر ہند نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا جا دور ہو جا۔ اگر کوئی ایسا بادشاہ میرے وطن سے پیدا ہونے والا ہے تو وہ تیرے نطفہ سے نہ ہوگا۔ اس کے بعد ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے اس سے شادی کر لی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

## بال مبارک اور ناخن مبارک

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ماہِ رجب 60 ہجری میں انتقال کیا اور بابِ جاہلیہ اور بابِ صغیر کے درمیان مدفون ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 77 سال کی ہوئی۔ ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن تھے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں میری آنکھوں اور منہ میں رکھ دینا اور مجھے خدا تعالیٰ کے حوالہ کر دینا۔

### فصل نمبر 1

## مختصر حالاتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

ابن ابی شیبہ سعید بن جہان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سفینہ سے پوچھا بنی امیہ کا کیا خیال ہے کیا وہ خلیفہ ہیں؟ اس نے کہا کہ بنو زرقا جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ ہیں اور بادشاہ بھی سخت ترین اور سب سے پہلے بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔

### خلفاء کون؟

نبیہتی اور ابن عساکر ابراہیم بن ارمنی سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ خلفاء کون تھے؟ آپ نے فرمایا! حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ میں نے عرض کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر خلافت کا کوئی مستحق نہیں تھا۔

### عیب نہ نکلا

سلفی طور پر بات میں عبداللہ بن احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا اصل بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بہت تھے۔ انہوں نے تلاش کیا کہ آپ میں کوئی عیب نکلے مگر نہ نکلا تو وہ ایسے شخص کے پاس آئے جس نے آپ سے جنگ و جدل کیا اور انہوں نے اسے اپنی نسبت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ حیلہ گر پایا۔

## ڈنگ اور آب دہن

ابن عساکر عبدالملک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ جاریہ بن قدامہ سعدی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جاریہ بن قدامہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیا بن سکتے ہو۔ تمہاری مثال تو ایک حقیر شہد کی مکھی کی سی ہے۔ جاریہ بن قدامہ نے کہا تم نے تو مجھے ایک ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کا ڈنگ زہرا لود اور آب دہن مینھا ہوتا ہے۔ مگر معاویہ تو کتیا کو کہتے ہیں جو دوسرے کتب کو بھونکاتی ہے اور امیر امت کی تصغیر ہے۔

## سخت زر ہیں

نسل بن ہاشم سے مروی ہے۔ جاریہ بن قدامہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اور کہا تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر کوشش کر رہے ہو اور ایسی آگ بھڑکار ہے جو جس سے عرب کے گاؤں جل جائیں اور سخت خوزیزی ہو۔ جاریہ نے کہا اے معاویہ رضی اللہ عنہ! حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کرو کیونکہ جب سے ہم نے ان کے ساتھ دوستی کی ہے اس دن سے کبھی ان سے دشمنی نہیں کی اور جس روز سے ہم نے ان کی خیر خواہی پر کمر باندھی ہے کبھی ان سے فریب نہیں کیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے جاریہ! تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنے گھر والوں کی نظروں میں کیسا ذلیل تھا کہ انہوں نے تیرا نام جاریہ (لونڈی) رکھ دیا۔ اس نے کہا اے معاویہ تو بھی اپنے اہل کی نظروں میں کس قدر ذلیل تھا۔ انہوں نے تیرا نام معاویہ رکھ دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کرے تیری ماں نہ ہو اس نے کہا مجھے ماں نے جنا ہی نہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ابھی تک ان تلواروں کے قبضے ہیں جن سے ہم نے صفین میں آپ کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو مجھے دھمکا تا ہے۔ جاریہ نے کہا آپ ہم پر زبردستی اور غلبہ سے حاکم نہیں بنے ہو بلکہ آپ نے ہم سے عہد و پیمان کیے تھے (اور ہم نے ملک آپ کے حوالے کر دیا) اگر آپ انہیں پورا کریں گے تو ہم بھی پورا کریں گے اور اگر آپ کسی اور بات کی طرف رغبت کریں گے تو یہ جان لیں کہ میں نے اپنے پیچھے ایسے مددگار چھوڑے ہیں جن کی زرہیں سخت ہیں اور زبائیں تیز۔ پس اگر آپ نے ذرا بھی عہد شکنی کی تو ہم بھی آپ کے ساتھ مکرو فریب کی چال چلیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کرے تیرے جیسے اور لوگ پیدا ہی نہ ہوں۔

## کس نے روکا!

ابوالطفیل عامر بن واصلہ سے مروی ہے۔ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا تم عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں ان لوگوں سے ہوں جو آپ کی شہادت کے وقت موجود تھے۔ مگر انہوں نے آپ کی مدد نہ کی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں ان کی مدد سے کس بات نے روکا تھا۔ انہوں نے کہا مہاجرین و انصار نے بھی تو آپ کی مدد نہ کی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں لازم تو تھا آپ کی مدد تو کرتے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ نے اور اہل شام نے ان کی مدد کیوں نہ کی۔ آپ نے کہا کیا آپ کے خون کا مطالبہ کرنا مذہب نہیں ہے؟ یہ سن کر ابوالطفیل ہنس پڑے اور کہا آپ کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حال ایسا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

لَا الْفَيْتَنُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَنْدُبِي      وَفِي حَيَاتِي مَا زُوِّدْتَنِي نَادِي

ترجمہ: تجھے چاہئے کہ موت کے بعد مجھ پر نہ روئے کیونکہ زندگی میں مجھے خرچ دینا جو تجھ

پر واجب تھا تو نے نہ دیا۔

## خطبہ سنایا

شعبی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی بیٹھ کر خطبہ سنایا اور یہ بات بسبب موٹا ہو جانے اور پیٹ کے بڑھ جانے کے ہوئی۔ (رواہ ابن ابی شیبہ)

زہری کہتے ہیں۔ نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی ایجاد کیا۔

(رواہ عبدالرزاق)

سعید بن مسیب کہتے ہیں۔ سب سے قبل عید کی اذان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی مقرر کی۔

(رواہ ابن ابی شیبہ)

انہی سے ہی روایت ہے کہ تکبیر میں سب سے پہلے آپ نے ہی کمی کی۔

(رواہ عسکری فی اوائل)

سب سے پہلے ہر کارے آپ نے ہی مقرر کیے اور اپنی خدمت کے لیے آپ نے ہی

ملازم رکھا۔ سب سے پہلے آپ سے ہی رعیت کو نفرت ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کو ہی السلام

علیک یا امیر المومنین رحمہ اللہ تعالیٰ کہا گیا۔ مہر لگانے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے ہی ایجاد

کیا اور یہ کام عبداللہ بن اوس غسانی کے سپرد تھا اور اس مہر پر کندہ تھا (لُكَلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ) یعنی ہر کام کا ثواب ہوتا ہے اور یہ طریقہ خلفائے عباسیہ میں بھی آخر وقت تک رہا اور اس طریقہ کے ایجاد کی وجہ یہ ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ درہم انعام دینے کا حکم لکھ دیا۔ اس نے اس کاغذ کو کھول کر ایک لاکھ کی جگہ دو لاکھ بنا لیے۔ جب حساب معاویہ رضی اللہ عنہ کے روبرو پیش ہوا تو انہوں نے اس شخص کی خیانت کو معلوم کر کے مہر لگانے کا طریقہ ایجاد کیا۔

### غلاف پر غلاف

سب سے پہلے مسجد میں حجرہ آپ نے ہی بنوایا اور سب سے پہلے کعبہ کے غلاف اتارنے کا آپ نے حکم دیا۔ اس سے پہلے غلاف تو بر توڑ چھائے جاتے تھے۔

قسم

زبیر بن بکار موقوفیات میں روایت کرتے ہیں کہ زہری سے ان کے بھائی نے پوچھا سب سے پہلے بیعت لیتے وقت قسم دینے کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ انہوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وقت سے کہ انہوں نے بیعت لیتے وقت خدا کی قسم دلائی تھی اور جب عبدالملک بن مروان خلیفہ ہوا تو اس نے طلاق اور آزادی غلام کی قسم دلائی۔

### حلقہ میں

عسکری کتاب الاوائل میں سلیمان بن عبداللہ بن معمر سے روایت کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مکہ یا مدینہ میں آئے تو مسجد میں آ کر اس حلقہ میں بیٹھ گئے جس میں ابن عمر، ابن عباس اور عبدالرحمن بیٹھے ہوئے تھے تو سب لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس اعراض کرنے والے اور اس کے پچازاد بھائی سے خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔

عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں۔ ایک دفعہ امیر معاویہ مدینہ میں آئے تو راستے میں انہیں ابو قتادہ انصاری ملے، انہیں دیکھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اے انصار کے گروہ تمہارے سوا مجھے سب لوگ ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس سواریاں نہیں رہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ پانی لانے والے تیز رفتار اونٹ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ سب جنگ بدر میں تمہارے او

رتہارے باپ کا تعاقب کرتے کرتے مر گئے۔ پھر ابو قتادہ نے کہا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حقداروں پر غیر حقداروں کو ترجیح دی جائے گی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر اس زمانے میں رسول اللہ ﷺ نے تمہیں کیا کرنے کا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا ہمیں صبر کرنے کا حکم فرمایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس تم صبر کرو۔ جب یہ بات عبد الرحمن بن حسان بن ثابت کو پہنچی تو انہوں نے کہا:

أَلَا أَبْلِغُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَرْبٍ      أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَا كَلَامِي

ترجمہ: اے مخاطب امیر المؤمنین معاویہ بن حرب کو میری طرف سے یہ بات بطور پیغام

پہنچادیں۔

فَأِنَّا صَابِرُونَ وَمُنْتَظِرُونَ كُمْ      إِلَى يَوْمِ التَّغَابُنِ وَالْخِصَامِ

ترجمہ: ہم قیامت تک صبر کرتے اور تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا

معلوم ہو جائے گا۔

ابن ابی الدنیا اور ابن عساکر جملہ بن حکیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے پاس ان کے خلیفہ ہونے کے زمانہ میں گیا تو دیکھا ایک چھوٹا سا لڑکا ان کی گردن میں رسی ڈالے ہوئے انہیں کھینچ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے بندہ نفس! تمہیں معلوم نہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جس شخص کا کوئی بچہ ہو تو اسے چاہئے اس کی خاطر وہ بھی بچہ بن جائے۔ (ابن عساکر کہتے ہیں کہ حدیث بہت ہی غریب ہے۔)

غصہ اور گرفت

ابن ابی شیبہ شعمی سے روایت کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کا ایک جوان آیا اور نہایت سختی سے کلام کرنے لگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا! اے میرے بھتیجے! اس بات سے باز آ جاؤ کیونکہ بادشاہ کا غصہ لڑکے کا سا اور اس کی گرفت شیر کی طرح ہوتی ہے۔

سختی نرمی اور آسانی

شعمی روایت کرتے ہیں۔ زیاد نے ایک شخص کو خراج لینے پر متعین کیا اور اس سے خراج میں کچھ کمی آگئی تو وہ اس کے عذاب سے ڈر کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ اس پر زیاد نے

ان کی طرف لکھا میرے اس نوکر کی یہ گستاخی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا نہ مجھے ہی یہ بات لائق ہے اور نہ تجھے کہ لوگوں کو ایک ڈنڈے سے ہی دھمکائیں اور سب سے نرمی سے برتاؤ کر کے انہیں گناہ کرنے پر دلیہ کر دے۔ نہ ہی یہ چاہئے کہ سب سے سختی کر کے انہیں مہلکات میں گرفتار کر دیں بلکہ تمہیں سختی کرنی چاہئے اور مجھے نرمی اور آسانی سے کام لینا چاہئے۔

### یہ امت

شعسی کہتے ہیں۔ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا جس قوم میں تفرقہ پڑا اسی میں اہل باطل اہل حق پر غالب آگئے۔ مگر یہ امت اس بات سے بچی رہی۔

طیوریات میں سلیمان مخزومی سے مروی ہے۔ ایک دن معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اپنے پاس آنے کا اذن عام دیا۔ جب تمام لوگ آگئے تو آپ نے کہا مجھے اہل عرب سے کسی شخص کے ایسے تین شعر سناؤ کہ ان سے ہر شعر مستقل معانی رکھتا ہو دوسرے پر موقوف نہ ہو۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن زبیر آئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شخص عرب بھر میں سب سے فصیح اور علامہ ہے۔ پھر کہا اے ابو ضبیب (یہ ابن زبیر کی کنیت ہے) انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے عرب کے کسی آدمی کے تین شعر سناؤ جو قائم بالمعنی ہوں۔ انہوں نے کہا تین لاکھ لیکر سناؤں گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیشک ہم دیدیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ مختار ہیں لیجئے سنئے۔ پھر یہ شعر اٹھا:

بَلَوْتُ النَّاسَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ فَلَمْ أَرِ غَيْرَ خَتَالٍ وَقَالَ  
ترجمہ: میں نے لوگوں کو ہر زمانے میں آزمایا ہے مگر سوائے دھوکہ باز اور دشمن کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔

معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے۔ دوسرا شعر سناؤ تو انہوں نے یہ شعر پڑھا:

وَلَمْ أَرِ فِي الْخُطُوبِ أَشَدَّ وَقَعًا وَأَضْعَبَ مِنْ مُعَادَاتِ الرِّجَالِ  
ترجمہ: اور حوادثِ زمانے سے میں نے نہایت سخت اور شدید لوگوں کی دشمنی سے کسی واقعہ کو نہیں دیکھا۔

آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرا سناؤ۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا:

وَذُقْتُ مِرَاةَ الْأَشْيَاءِ طُرًا فَمَا طُعِمْتُ أَمْرًا مِنَ السُّؤَالِ  
ترجمہ: میں نے تمام کڑوی اشیاء کو چکھا ہے مگر سوال سے زیادہ کوئی کڑوی چیز نہیں دیکھی۔  
معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے بہت ٹھیک کہا ہے۔ پھر تین لاکھ درہم آپ کو دیدیے۔

### اچھی رائے

بخاری اور نسائی، ابن ابی حاتم سے روایت کرتے ہیں۔ جب مروان معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حجاز کا حاکم تھا تو اس نے ایک دن مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھا اور کہا امیر المؤمنین نے ایک اچھی رائے سوچی ہے کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں کیونکہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے بھی تو خلیفہ بنایا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے کے موافق۔ اس پر عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اٹھ کر کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو ہر قتل و قیصر کے طریقے کے موافق کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کو اپنی اولاد کے لیے خاص نہیں کیا اور نہ کسی اپنے اور رشتہ دار کے لیے ہی مقرر کیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کام شفقت پدیری کے باعث کر رہے ہیں۔ مروان نے کہا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جنہوں نے اپنے والدین کو اف کہا تھا۔ عبدالرحمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم ابن اللعین نہیں ہو۔ تمہارے باپ پر رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لعنت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مروان جھوٹ کہتا ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا سَمِيحًا

(پ 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت 23)

ترجمہ: اور ان سے ہوں نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔

(ترجمہ و حوالہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

عبدالرحمان رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل نہیں ہوئی بلکہ وہ تو فلاں شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مروان کے والد کو لعنت کی تھی اور مروان اس کی صلیب میں تھا تو مروان کو کہو وہ اللہ کی لعنت سے فیض حاصل کرے۔

ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حلم تجربہ سے حاصل ہوا کرتا ہے۔



## عاقل، زیرک اور چالاک

ابن عساکر شعمی سے روایت کرتے ہیں۔ عاقلان عرب چار ہیں۔ اول معاویہ رضی اللہ عنہ، دوم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سوم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، چہارم زیاد معاویہ رضی اللہ عنہ، تو حلم و تحمل کے باعث اور عمرو بن عاص مشکلات کو حل کرنے کے باعث اور مغیرہ بن شعبہ اچانک پیش آ جانے والے کاموں کو درست کرنے کے باعث اور زیاد چھوٹے بڑے کے ساتھ یکساں پیش آنے میں۔ نیز ان سے ہی مروی ہے کہ عرب سے قاضی بھی چار ہوئے ہیں اور زیرک اور چالاک بھی چار شخص ہی ہوئے ہیں۔ قاضی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم تھے اور زیرک و چالاک معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور زیاد۔

قیصہ بن جابر سے مروی ہے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ قاری اور فقیہہ کسی شخص کو نہیں دیکھا اور طلحہ بن عبید اللہ سے بڑھ کر بن مانگے دینے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا حلیم اور ہوشیار کسی کو نہیں دیکھا اور مغیرہ بن شعبہ تو ایسے ہیں کہ اگر کسی شہر کے آٹھ دروازے ہوں ازاران میں سے کسی ایک سے بھی سوائے مکر کے کوئی شخص نہ نکل سکتا ہو، مگر یہ سب دروازوں سے نکل آئیں گے۔

## ایک لاکھ درہم

ابن عساکر حمید بن ہلال سے راوی ہیں۔ عقیل بن ابی طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا میں محتاج اور فقیر ہوں۔ مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے کہا صبر کرو۔ جب مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت سے مجھے حصہ ملے گا تو تمہیں دوں گا مگر انہوں نے اصرار کیا ابھی دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا انہیں بازار میں لے جاؤ اور کہو دوکانوں کے قفل (تالے) توڑ کر جو کچھ ان میں ہے لے لو۔ انہوں نے کہا آپ مجھے چور بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے ہی چور بناتے ہو کہ مسلمانوں کا مال لے کر تمہیں دیدوں۔ انہوں نے کہا میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں۔ آپ نے کہا بڑے شوق سے جاؤ۔ پھر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو ایک لاکھ درہم عطا کیے اور کہا منبر پر کھڑے ہو کر جو کچھ تمہارے بھائی علی رضی اللہ عنہ نے اور جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس کا اعلان کر دو۔ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر خدا کی حمد و ثناء کے بعد

کہا کہ اے لوگو! میں تمہیں ایک امر کی خبر دیتا ہوں میں نے حضرت علیؑ سے ایسی چیز سنی تھی جو ان کے دین کو مضرت (نقصان دہ) تھی۔ پس انہوں نے اپنے دین کو زیادہ عزیز رکھا اور اسی بات کا میں نے معاویہؓ سے سوال کیا۔ لیکن انہوں نے مجھے اپنے دین سے عزیز سمجھا۔

### حضرت عقیل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے پاس

ابن عساکر جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں۔ عقیلؓ معاویہؓ کے پاس آئے تو معاویہؓ نے کہا یہ عقیل ہیں اور ان کا چچا ابولہب ہے۔ عقیلؓ نے کہا یہ معاویہ ہے اور اس کی پھوپھی حمالہ الحطب ہے۔

### عہد امیر معاویہؓ اور وفات اعلام امت

امیر معاویہؓ کے عہد میں مندرجہ ذیل اعلام امت فوت ہوئے۔ صفوان بن امیر رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، البید شاعر عثمان بن طلحہ، جحجی عمرو بن عاص، عبد اللہ بن سلام، محمد بن سلمہ، ابو موسیٰ اشعری، زید بن ثابت، ابوبکر، کعب بن مالک، مغیرہ بن شعبہ، جریر بن بحلی، ابویوب انصاری، عمران بن حصین، سعید بن زید، ابوقادہ انصاری، فضالہ بن عبد الرحمن بن ابوبکر، جبیر بن مطعم، اسامہ بن زید، ثوبان، عمرو بن خرم، حسان بن ثابت، حکیم بن حزام، سعد بن ابی وقاص، ابوالیسر، قثم بن عباس، ان کے بھائی عبید اللہ، عقبہ بن عامر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے 59ھ میں وفات پائی۔ وہ اکثر خدا تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے 60ھ اور لوٹوں کی امارت سے پناہ مانگتا ہوں، چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ فوت ہوئے۔

## یزید بن معاویہ ابو خالد اموی

یزید بن معاویہ 45 ہجری یا 46 ہجری میں پیدا ہوا۔ نہایت موٹا تازہ آدمی تھا۔ بدن پر بال بہت تھے۔ اس کی والدہ میمون بنت بجل کلبیہ تھی۔ احادیث اس نے اپنے والد سے روایت کی ہیں اور اس سے اس کے بیٹے خالد اور عبد الملک بن مروان نے روایت کی ہیں۔ اس

کے والد نے اپنی زندگی میں ہی اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اور لوگوں نے اس بات کو مناسب خیال نہ کیا، جیسا کہ پہلے گزرا۔

حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ دو شخصوں نے لوگوں کا کام بگاڑا ہے۔ ایک تو وہ جس نے جنگ صفین میں امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید نیزوں پر بلند کیے جائیں اور اس مکر سے صلح ہوگئی۔

(ابن قراء کہتا ہے۔ اس بات سے انہوں نے خارجیوں کو مضبوط کر دیا جو قیامت تک باقی رہیں گے۔)

اور دوسرا وہ جو امیر معاویہ کی طرف سے کوفہ کا عامل تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا۔ جب میرا خط پڑھا اسی وقت سے اپنے آپ کو معزول سمجھو۔ جب انہوں نے حکومت سے دستبردار ہونے میں دیر کی اور جب امیر معاویہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا میں ایک خاص کام کی تیاری کر رہا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید کیلئے بیعت لے رہا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے اس کام کو انجام دے دیا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا جاؤ تم اپنے کام پر بحال ہو۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر آئے تو لوگوں نے دریافت کیا، کیسے گزری تو انہوں نے لوگوں کو جواب دیا کہ میں نے ان کے پاؤں ایسی گراہی کی رکاب میں رکھ دیئے ہیں کہ قیامت تک اس میں رہیں گے۔ حسن بصری کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا سلطنت کا حقدار ہونے لگا ورنہ مشورہ سے اس کام کا انجام دینا قیامت تک مسلمانوں میں قائم رہتا۔

نصیحت اور رائے

ابن سیرین کہتے ہیں۔ عمرو بن حرم معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا میں تمہیں خوفِ خدا دلاتا ہوں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو خلیفہ بناؤ۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا۔ مجھے نصیحت کی اور اپنی رائے بتلائی۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دُعا

عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور یہ دعا کی اے اللہ!

اگر میں یزید کو اس کی لیاقت کی وجہ سے ولی عہد بناتا ہوں تو مجھے میرے ارادے میں کامیاب کر اور اگر میں محض شفقت پداری کے تحت اس کو ولی عہد بنا رہا ہوں اور حقیقت میں وہ اس قابل نہیں تو تخت نشین ہونے سے قبل ہی اس کی جان قبض فرمالمے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اہل شام نے یزید سے بیعت کر لی اور پھر اس نے اہل مدینہ کی طرف کسی شخص کو بھیجا تاکہ ان سے اس کیلئے بیعت لے۔ مگر حضرت حسین اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور وہ دونوں اسی رات کو مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نہ یزید کی بیعت کی اور نہ اپنی بیعت کے لیے کسی کو ترغیب دی۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے ہی کوفہ کے لوگ بلا رہے تھے مگر آپ توقف فرماتے رہے۔ اب جو لوگوں نے یزید سے بیعت کی تو آپ کبھی اپنی موجودہ حالت پر ہی رہنے کا قصد کرتے اور کبھی اہل کوفہ کی طرف جانے کا۔ آپ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اہل کوفہ کے پاس چلنے کا مشورہ دیا۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ یہاں سے نہ جائیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا آپ یہاں سے نہ جائیں کیونکہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا و آخرت میں سے کسی کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تھا تو آپ نے آخرت کو پسند فرمایا تھا اور آپ چونکہ ان کے لخت جگر ہیں اس لیے آپ کو دنیا نہیں مل سکے گی۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے معانقہ کیا اور رو کر الوداع کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی فکر پر عمل کیا اور اہل کوفہ کی طرف چل پڑے حالانکہ ان کو اپنے والد اور بھائی کے معاملہ میں کوفہ والوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔

### کوفہ میں چلے

جابر بن عبد اللہ ابوسعید اور ابوراقد لیشی وغیرہم نے بھی آپ سے نہ تشریف لے جانے کے بارے میں عرض کیا۔ مگر آپ نے چونکہ کوفہ کی طرف جانے کا مصمم ارادہ فرمایا تھا سو چلے گئے۔ جاتے وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے آپ اپنے حرموں (عورتوں) اور بچوں کے سامنے شہید کر دیئے جائیں گے جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے۔ یہ کہہ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا آپ نے زبیر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ادھر سے جب ابن زبیر رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو ابن عباس نے کہا لو بھائی تمہاری مراد پوری ہوئی۔ حضرت امام حسین

ﷺ چلنے کو تیار ہیں اور ہمیں اور جاز کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا:

يَا لَيْكِ مِنْ قُبْرُوقٍ بِمَعْمَرٍ خَلَا لَكَ الْبَرُّ فَيَضِيْ وَاصْفِرِي  
نَقْرِيْ مَا شِئْتِ اَنْ تَنْقِرِيْ

ترجمہ: اے معمر کے چنڈول تمہارے لیے میدان خالی ہو گیا ہے۔ پس جس جگہ چاہئے

اٹھ دے اور چچھا اور جہاں چاہے دانہ چک۔

### کوفیوں کا خدر

غرض امام حسین ﷺ اہل عراق کے لکھنے کے موافق دس ذی الحج کو اپنے اہل کا ایک گروہ ساتھ لے کر جس میں چند مرد عورتیں اور بچے تھے، کوفہ کو روانہ ہوئے۔ ادھر یزید نے عراق کے حاکم عبید اللہ بن زیادہ کو آپ سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کی زیرِ نگرانی چار ہزار لشکر روانہ کیا۔ پس اہل کوفہ نے جس طرح حضرت علی ﷺ کے ساتھ دھوکہ کیا، اسی طرح آپ کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور جب دشمنوں نے چاروں طرف سے غلبہ کر لیا تو آپ سے صلح کرنے یا یزید کے پاس چل کر بیعت کرنے کو کہا گیا۔ مگر آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کا سر مبارک ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ خدا آپ کے قاتل ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ آپ کی شہادت کر بلا میں عاشوراء کے روز ہوئی جس کا قصہ بہت لمبا ہے اور اس کے سننے کا کوئی دل متحمل نہیں ہو سکتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت سے سولہ آدمی شہید ہوئے۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد سات دن تک دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی معلوم ہوتا تھا۔ ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے تھے۔ سورج کو گرہن لگ گیا تھا۔ آپ کے شہید ہونے کے چھ مہینے بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے اور وہ سرخی آج تک موجود ہے۔ حالانکہ حضرت امام حسین ﷺ کی شہادت سے پہلے اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھا جاتا تھا، اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا اور لشکر مخالف میں جتنا کسم پتھا وہ سب کا سب راہ ہو گیا۔ ان ظالموں نے اپنے لشکر میں ایک اونٹ ذبح کیا تو اس کے گوشت سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ جب انہوں نے اسے پکایا تو وہ کولے کی طرح سیاہ ہو گیا۔

## آنکھیں گئیں

ایک شخص نے حضرت امام حسین ؑ کے بارے کوئی کلمہ گستاخی کہا تو خدا کی قدرت کاملہ سے آسمان سے ستارے گرے۔ جن سے اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔

## منحوس محل

شعالبی کہتے ہیں۔ کئی راویوں نے عبد الملک بن عمیر لیشی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اسی عمارت میں کوفہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کا سر ایک ڈھال پر رکھا ہوا سید اللہ بن زیاد کے سامنے دیکھا۔ پھر اسی عمارت میں عبید اللہ بن زیاد کا سر ڈھال پر مختار بن ابی عبید کے سامنے دیکھا ہے اور پھر مختار کے سر کو مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا اور اسی طرح مصعب کے سر کو عبد الملک کے سامنے دیکھا۔ عبد الملک کو جب لوگوں نے یہ بات سنائی تو اس نے محل کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیا۔

## خاک آلود ہے

ترمذی سلمی رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی تو دیکھا آپ رورہی ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ آپ کی ریش مبارک اور سر مبارک خاک آلودہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کا یہ کیسا حال دیکھتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی حضرت امام حسین ؑ کی شہادت کا واقعہ دیکھنے گیا تھا۔

نیہتی دلائل میں ابن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال منتشر اور خاک آلود ہیں اور ایک شیشہ ہاتھ میں ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ خون ہے جسے میں آج اکٹھا کرتا رہوں ہوا۔ ابن عباس ؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کو یاد رکھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین ؑ اسی روز شہید ہوئے تھے۔

جنوں کا نوحہ

ابو نعیم دلائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں۔ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین ؑ کی شہادت پر روتے اور نوحہ کرتے سنا ہے۔

ثعلب اپنے امالی میں ابو جناب کلبی سے روایت کرتے ہیں۔ میں کربلا میں آیا تو اشراف عرب سے ایک شخص سے میں نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ جنات کا نوحہ سنتے رہے ہو۔ اس نے کہا یہ بات تو یہاں تمہیں ہر شخص جو ملے گا بتا دے گا۔ میں نے کہا تم نے جو کچھ سنا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے تو یہ شعر سنے ہیں:

مَسَّحَ الرَّسُولُ بَجِينَهُ      فَلَمَّا بَسَّرْنَا فِي الْخُدُودِ

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ان کے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا۔ اسی وجہ سے ان کے رخسار چمک رہے ہیں۔

أَبَوَاهُ مِنْ عَلِيٍّ قَرِينِشِ      وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُودِ

ترجمہ: ان کے والدین کے اعلیٰ خاندان سے ہیں اور ان کے نانے بہترین خلقت ہیں۔ جب حضرت امام حسین ؑ اور ان کے بھائی شہید ہوئے تو ابن زیاد نے ان کے سر یزید کی طرف روانہ کیے پہلے تو وہ اس کام سے خوش ہوا مگر جب تمام مسلمان اس کی اس حرکت سے خفا ہوئے تو خود بھی شرمندہ اور پشیمان ہوا اور یہ حق بات ہے کہ لوگوں کا اس سے ناراض ہو جانا اور آج تک رہنا بجایا ہے۔

رخنہ ڈالے گا

ابو یعلیٰ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنی امیہ میں سے ایک شخص اس میں رخنہ ڈالے گا۔  
سنت بدلے گا

رویائی نے اپنی مسند میں ابوالدرداء سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی پاک ﷺ سے سنا ہے کہ سب سے پہلے بنی امیہ کا ایک شخص یزید نامی سنت کو بدلے گا۔

## بیس کوڑے

نوفل بن ابوالضرات کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص نے یزید کا ذکر کیا۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے یوں کہا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو نے اسے امیر المومنین کہا ہے، پھر اسے بیس کوڑے لگانے کا حکم کیا۔

## لعنت کمانے والا

63 ہجری میں یزید کو خبر ملی کہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت فسخ کر دی ہے اور اس سے باغی ہو گئے ہیں۔ اس نے فوراً ایک جزار لشکران سے لڑنے کیلئے روانہ کیا اور کہا ان سے لڑنے کے بعد مکہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کریں، چنانچہ مدینہ کے باب طیبہ پر جنگ حرہ ہوئی اور جنگ بھی کیسے ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ حسن بصری کہتے ہیں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اس لشکر کے گزند سے محفوظ رہا ہو۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور دیگر لوگ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ کو لوٹا گیا اور شرم و حیا کے دامن چاک کیے گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اللہ اس کو خوف زدہ کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔

(رواہ مسلم)

## فسخ کا سبب

اہل مدینہ کے بیعت فسخ کرنے کا یہ سبب ہوا کہ یزید نے گناہوں میں بہت ہی زیادتی شروع کر دی تھی، چنانچہ واقعہ سعد عبداللہ بن حنظلہ بن غسیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت فسخ نہیں کی یہاں تک کہ ہمیں یقین نہ ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ لوگ ماڈاں بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتے تھے اور شراب پیتے تھے اور نماز وغیرہ چھوڑ بیٹھے تھے۔

## اسلام کا فدیہ

ذہبی کہتے ہیں۔ جب یزید اہل مدینہ کے ساتھ ہدی سے پیش آیا (اور شراب وغیرہ برے کام تو وہ پہلے ہی کرتا تھا) تو لوگ اس سے بہت ہی برا فروختہ ہوئے اور سب کے سب



اس کے برخلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا نے اس کی عمر میں برکت نہ دی۔ چنانچہ جب لشکر حرہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ کو روانہ ہوا تو راستے میں سپہ سالار لشکر مر گیا تو یزید نے اس کی جگہ اور شخص کو امیر بنایا۔ آخر 64 ہجری ماہ صفر میں انہوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ شروع ہو گئی اور مختیق سے پتھر مارنے لگے اور ان کی آگ کے شعلوں سے کعبہ کے پردے، چھت اور اس دنبہ کے سینک جل گئے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا کر بھیجا گیا تھا اور جو اس زمانہ سے کعبہ کی چھت میں لٹکے چلے آتے تھے۔ اسی سال نصف ماہ ربیع الاول میں خدا تعالیٰ نے یزید کو ہلاک فرما دیا اور یہ خبر مکہ میں عین جنگ کی حالت میں پہنچی۔ پس ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پکارا کہ اے اہل شام تمہیں گمراہ کرنے والا مر گیا۔ یہ سن کر وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے تعاقب کر کے انہیں خوب ذلیل و خوار کیا۔ اس کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بیعت لے لی اور خلیفہ ہوئے اور اہل شام نے معاویہ بن یزید سے بیعت کی۔ مگر وہ دیر تک خلیفہ نہ رہا جیسا کہ ہم عنقریب ہی بیان کریں گے۔ یزید شعر کہا کرتا تھا چنانچہ ذیل کے شعر اسی کے ہیں۔

اب هذا السهم فالتعنا      وأمر النوم فامتنعنا

ترجمہ: قبیلہ سهم واپس آیا اور نیند کو اس نے مجھ سے باز رکھا۔

زاعيا للنجم أرقبنا      فإذا ما كؤبنا طلعنا

ترجمہ: وہ قبیلہ ستارہ کا منتظر تھا اور میں اس کا منتظر تھا حتیٰ کہ جب وہ ستارہ چڑھا۔

حام حتى أنى لأرى      أنه بالعمور قد وقعا

ترجمہ: تو وہ قبیلہ واپس ہوا حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ زمین بے مین میں جا اترے۔

ولها بانما طرون إذا      أكمل النمل الأذى جمعا

ترجمہ: اور اس کیلئے موضع ماطرون ہے جبکہ چیونٹی اپنے ذخیرہ کو کم کر دیتی ہے۔

نزهة حتى إذا بلغت      نزلت من جلتى بيضا

ترجمہ: اور اس قبیلہ نے وہاں سیر کی اور جب وہ موضع جلق کے گرجوں میں جا پہنچا۔

فى قباب وسط دسكره      حولها الزيتون قد بيضا

ترجمہ: گاؤں کے درمیان گند ہے جس کے ارد گرد زیتون کے درخت اگے ہوئے ہیں۔

ابن عساکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے ہوں گے جیسا کہ لوہے کا سینگ ہوتا ہے اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذوالنورین مظلوم ہوں گے۔ اور انہیں ڈگنا اجر ملے گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا دونوں ارض مقدس یعنی شام کے بادشاہ ہوں گے اور سفاح اسلام منصور جابر مہدی امین اور امیر الغضب سب کے سب بنی کعب بن لوئی سے ہوں گے اور ایسے صالح بادشاہ ہوں گے ان کی مثال نہ ملے گی۔ ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کئی طریقوں سے مروی ہے۔ مگر کسی نے اسے مرفوع نہیں کیا۔

### دیباچے رومی

واقفی ابو جعفر باقر سے روایت کرتے ہیں۔ سب سے قبل یزید بن معاویہ نے ہی کعبہ پر دیباچے رومی کا پردہ ڈالا۔ یزید کے عہد میں مندرجہ ذیل اعلام امت فوت ہوئے۔ (ان میں شہیدان کربلا اور شہیدان مدینہ شامل نہیں ہیں۔) ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، خالد بن عرفطہ، جہداسلمی، جابر بن عتیک، بریدہ بن حصیب، مسلمہ بن مخلد، علقمہ بن قیس، نخعی فقیہ، مسور بن مخرمہ اور مسروق وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ جنگ حرہ میں انصار و قریش سے تین سو چھ شخص شہید ہوئے۔

### معاویہ بن یزید

معاویہ بن یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ اسے ابو یزید بھی کہتے اور ابولیلی بھی۔ اپنے باپ کے بعد بیچ الا ذل 64 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ نہایت صالح اور نیک بخت تھا۔ جب تخت پر بیٹھا اس وقت بیمار تھا اور آخرا سی بیماری سے مر گیا۔ نہ وہ کسی دن تخت پر بیٹھا اور نہ اس نے کوئی کام کیا اور نہ ہی لوگوں کو اس نے کوئی نماز پڑھائی۔ کل چالیس دن تخت کا مالک رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا عہد حکومت دو ماہ ہے اور بعض کے نزدیک تین ماہ تک ہے اور اکیس یا بیس برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔ بوقت نزع اس سے کہا گیا آپ کسی کو بادشاہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے۔ کہنے لگا میں نے خلافت کی حلاوت چکھی نہیں اس لیے اس کی تختی برداشت نہیں کر سکتا۔

## عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ

عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اسدی۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ بعض کہتے ہیں ابو غیب تھی، خود بھی صحابی تھے اور باپ بھی اور والد عشرہ مبشرہ سے تھے۔ آپ کی والدہ اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کی دادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں جو آنحضرت ﷺ کی چھوٹی تھیں۔ آپ بیس ماہ بعد از ہجرت مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ آپ ہی ہیں۔ ان کی پیدائش کی مسلمانوں میں بڑی خوشی منائی گئی تھی کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے۔ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے۔ اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (تبرئنا و نمننا) ایک کھجور چبا کر ان کو کھلائی اور ان کا نام عبداللہ اور ان کے نانا صدیق اکبر ﷺ کے نام پر کنیت ابو بکر مقرر فرمائی۔ آپ کثیر الصوم، قائم اللیل، صلہ رحمی کرنے والے تھے اور اعلیٰ درجہ کے شجاع تھے۔ راتوں کے تین حصے کر رکھے تھے۔ ایک صبح تک نماز پڑھتے رہتے ایک صبح تک رجوع میں ہی رہتے اور ایک رات تک سجدہ میں ہی رہتے۔

### اہل مصرو شام

آنحضرت ﷺ سے آپ نے تینتیس حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان سے ان کے بھائی عروہ نے اور ابن ملیکہ، عباس بن سہل، ثابت البنانی، عطا اور عبیدہ سلمانی وغیرہ لوگوں نے روایت کی ہیں۔ یہ ان لوگوں سے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ نہ اپنی بیعت کے لیے کسی کو کہا اور نہ خود کسی کی بیعت کی۔ اس لیے یزید ان پر بہت خفا تھا۔ جب یزید مر گیا تو لوگوں نے ان سے بیعت کر لی اور اہل حجاز یمن، عراق اور خراسان نے ان کی اطاعت کر لی۔ کعبہ کی عمارت کو آپ نے نئے سرے سے تعمیر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے موافق دو دروازے بنوائے اور اپنی حالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی خواہش معلوم کر کے حجر کی طرف چھ گز زمین اس میں اور زیادہ کردی۔ صرف اہل شام اور اہل مصر نے آپ سے بیعت نہیں کی کیونکہ انہوں نے معاویہ بن یزید سے بیعت کی تھی۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے بھی آپ سے بیعت

کر لی۔ پھر مروان بن حاکم نے بغاوت کر کے شام اور مصر پر غلبہ کر لیا اور مرے تک ان پر قابض رہا اور مرتے وقت اپنے بیٹے عبدالملک کو ولی عہد کر گیا۔

## خلافت عبدالملک

ذہبی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ابن مروان خلفاء سے شمار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ باغی تھا جس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سرکشی کی اور نہ ہی اس کے باپ کا اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا صحیح ہے۔ ہاں عبدالملک کی خلافت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقتول ہونے کے بعد صحیح ہوئی ہے۔

### پوشیدہ طور

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ پر برابر خلیفہ رہے، حتیٰ کہ عبدالملک نے غلبہ پالیا اور آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حجاج کو چالیس ہزار سوار دیکر بھیجا۔ اس نے برابر ایک ماہ تک مکہ معظمہ کا محاصرہ رکھا اور منجیق لگا کر پتھر پھینکتا رہا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دوست اور ہمراہی آپ سے علیحدہ ہو گئے اور پوشیدہ حجاج سے جا ملے۔ پس ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج نے پکڑ کر 73 ہجری 10 جمادی الاولیٰ یا آخری کوسولی پر چڑھا دیا۔

### منجیق سے شعلہ

ابن عساکر محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جس روز حجاج نے مکہ شریف پر منجیق لگائی۔ اس روز میں کوہ ابو قیس پر کھڑا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے منجیق سے ایک بڑا شعلہ نکلا اور گدھے کی طرح گھوما اور قریباً پچاس اہل منجیق کو جھلسا کر راکھ کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں قریش کے شاہسوار تھے اور آپ کے اکثر جنگی واقعات زبان زد عام تھے۔

### پوشیدہ جگہ

ابویعلیٰ اپنی مسند میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز چھپنے لگوائے اور جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ اجاؤ اس خون کو ایسی جگہ گراؤ کہ کوئی نہ دیکھے۔ انہوں نے الگ ہو کر اس خون کو پی لیا اور جب واپس آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خون کدھر گیا۔ انہوں نے عرض کیا میں نے اسے نہایت ہی پوشیدہ جگہ میں رکھا۔

ہے۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تم نے پی لیا ہے۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ﷺ میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو تجھ سے خرابی پہنچے گی اور تجھے لوگوں سے نقصان پہنچے گا۔ لوگ کہا کرتے تھے ان کی قوت اسی خون کی وجہ سے تھی۔

### شہسوارِ خلفاء

نوف بکالی کہتے ہیں۔ میں نے کتب سابقہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو فارس الخلفاء یعنی خلیفوں کے شاہسوار (لکھادیکھتا ہوں)۔

عمر و بن دینار کہتے ہیں۔ ابن زبیر سے بڑھ کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور منجیق کے پتھر آ کر آپ کے پٹوں سے لگتے تھے۔ لیکن آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھتے۔

مجاہد کہتے ہیں۔ جس عبادت سے سب لوگ عاجز آ جاتے تھے۔ ابن زبیر اسے بھی ادا کر دیا کرتے تھے چنانچہ ایک دفعہ اتنا پانی آیا کہ اس سے خانہ کعبہ چھپ گیا تو آپ تیر کر طواف کرتے رہے۔

### بے مثل

عثمان بن طلحہ کہتے ہیں۔ تین باتوں یعنی شجاعت، عبادت اور بلاغت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ بے مثل تھے آواز ایسی بلند تھی کہ پہاڑوں سے ٹکرایا کرتی تھی۔

ابن عساکر عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ بضعہ جدی نے عبداللہ بن زبیر کو یہ شعر سنائے۔  
 حَكِيَّتْ لَنَا الصِّدِيْقَ لَمَّا وَكَيْتَنَا وَعُثْمَانَ وَالْفَارُوْقَ فَارْتَاخَ مُعْدِمُ  
 ترجمہ: جیسے کہ تم ہم پر حاکم ہوئے ہو (تو تم نے ایسا عدل و انصاف کیا ہے) کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے مشابہہ ہو گئے ہو۔ پس تنگ دست مفلس نے راحت پائی۔

وَسَوَّيْتُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْحَقِّ فَاسْتَوَى فَعَادَ صَبَاحًا حَالِكَ اللَّوْنِ أَسْحَمُ  
 ترجمہ: اور آپ نے تمام خلقت کو حق میں برابر رکھا ہے۔ پس حق روشن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کہ نہایت سخت سیاہ تھا۔

ہشام بن عروہ اور خبیب سے مروی ہے۔ پہلے پہل جس نے خانہ کعبہ پر دیباچے روئی کا پردہ ڈالا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اس سے قبل خانہ کعبہ پر ٹاٹ اور چمڑے کا پردہ ہوا کرتا تھا۔

### دینی و دنیوی امور

عمر بن قیس سے مروی ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ایک سوغلام تھے جن سے ہر ایک غلام علیحدہ علیحدہ زبان میں گفتگو کیا کرتا تھا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہر ایک سے اسی کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے اور جب میں آپ کے دنیاوی کاروبار دیکھتا تو سمجھتا تھا ان کو کبھی خدا یاد آتا ہی نہ ہوگا اور جب آپ کے دینی امور کو دیکھتا تو خیال کرتا تھا دنیا کا کوئی کام یہ کرتے ہی نہ ہوں گے۔

### اس تلوار سے

ہشام بن عروہ سے مروی ہے۔ میرے چچا عبداللہ بن زبیر نے سب سے پہلے جو لفظ زبان سے نکالا وہ سیف تھا اور اسے ایسا روزبان کیا کہ کبھی نہ بھلایا آپ کے والد ماجد نے بطور پیشین گوئی کہا بیٹے تمہیں اس تلوار سے طویل مدت تک کام پڑتا رہے گا۔

### فلاں سلسلہ سے

ابوسعیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن زبیر اسدی عبداللہ بن زبیر بن عدام کے پاس آئے اور کہا آپ فلاں سلسلہ سے میرے رشتہ دار ہیں تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بیشک یہ بات صحیح ہے مگر اگر تم غور سے سوچو تو سب لوگ ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا اے امیر المومنین میرا خرچ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا میں تمہارے نفقہ کا ضامن تو نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے کہا اے امیر المومنین میری اونٹنی تھک گئی ہے اور اس کے پاؤں میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا اپنی اونٹنی کو آہستہ آہستہ کسی مرغزار میں لے جا اور چرنے کے لیے اسے چھوڑ دے اور اسے نمندہ پہنا دے اور عصر و مغرب کے وقت اسے لے کر چل پڑ۔ اس نے کہا اے امیر المومنین میں آپ سے کچھ انعام لینے آیا صلاح و مشورہ تو پوچھنے نہیں آیا تھا۔ اس اونٹنی پر لعنت ہے جس نے مجھے یہاں پہنچایا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اس اونٹ کے سوار پر بھی لعنت کرو۔ پس اسدی یہ اشعار پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلا:

أَرَى الْحَاجَاتِ عِنْدَ أَبِي خُبَيْبٍ      يَكْذِبُ وَلَا أَمِيَّةَ فِي الْبِلَادِ

ترجمہ: میں جانتا تھا کہ ابو خبیب کے پاس میری حاجات پوری ہو جائیں گی کیونکہ میری اونٹنی لاغر ہو گئی ہے اور ملک میں امیر موجود نہیں۔

مِنْ الْأَعْيَاضِ أَوْ مِنْ آلِ حَرْبٍ  
أَغْرُ كَغَفْرَةَ الْفَرَسِ الْجَوَادِ

ترجمہ: اعیاض اور آل حرب سے کوئی بھی موجود نہیں جو گھوڑے کی سفید پیشانی کی طرح نمایاں ہے۔

وَقُلْتُ لِصَاحِبِي إِذْ نُوَا رَا كَمَا بِي  
أَفَارِقُ بَطْنَ مَكَّةَ فِي سَوَادِ

ترجمہ: اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری اونٹنیاں لاؤ۔ میں اندھیرے اندھیرے ہی وطن مکہ سے جدا ہو جاؤں۔

وَمَالِي جَيْنٌ أَقْطَعُ ذَاتَ عَرُوقٍ  
إِلَى ابْنِ الْكَاهِلِيَّةِ مِنْ مَعَادِ

ترجمہ: کیونکہ ذات عروق کی مسافت طے کر کے ابن کاہلیہ کے پاس جانے سے مجھے اچھا انجام نہیں ملے گا۔

### وفات مشاہیر امت

حسب ذیل مشاہیر امت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عہد میں فوت ہوئے: اسید بن ظہیر، عبداللہ بن عمرو بن عباس، نعمان بن بشیر، سلیمان سرذجاہ بن سرہ زید بن ارقم، عدی بن حاتم، ابن عباس، ابوداؤد لیثی، زید بن خالد جہنی، ابوالاسود دکی اور دیگر حضرات رضی اللہ عنہم اجمعین۔

## عبدالملک بن مروان

عبدالملک بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قصی بن کلاب اس کی کنیت ابوالولید تھی 60 ہجری میں پیدا ہوا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اپنے باپ کی حیات میں ولی عہد ہوا۔ اس لحاظ سے اس کی خلافت درست نہیں ہوئی اور یہ مصر و شام پر غالب رہا۔ پھر عراق پر بھی اور 73 ہجری میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے تمام ملکوں پر متصرف ہو گیا اور اسی روز سے اس کی بادشاہت چلی۔ اسی سال حجاج نے کعبہ شریف کو منہدم کر کے اس صورت میں پیسے کہ آج ہے بنا دیا اور اسی حجاج کے اشارہ سے ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ زہر میں بچھے ہوئے خنجر سے زخمی کیا جس سے آپ بیمار ہو کر

74 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حجاج نے مدینہ میں جا کر رسول اللہ ﷺ کے باقی ماندہ صحابہ کرام کو تنگ کیا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اور سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کی مشکلیں کسالیں اور ان کی سخت توہین کی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔

75 ہجری میں عبد الملک نے لوگوں کے ساتھ حج کیا اور حجاج کو عراق کا حاکم بنا کر روانہ کیا۔  
77 ہجری میں ہرقلہ فتح ہوا اور عبد العزیز بن مروان نے جامع مصر کو مسمار کر کے اسے چاروں طرف سے وسیع کیا۔

82 ہجری میں مصیصہ کا قلعہ سنان فتح ہوا اور مغرب میں جنگ ارمینیا و منہلجہ ہوئیں۔

83 ہجری میں شہر واسط کی بنیاد ڈالی۔

84 ہجری میں مصیصہ اور ادویہ فتح ہوا۔

85 ہجری میں عبد العزیز بن ابی حاکم بن نعمان باہلی نے شہر اردبیل اور شہر بروحہ کو بسایا۔

86 ہجری میں قلعہ تولق اور قلعہ اخزم فتح ہوا۔ اسی سال طاعونِ قنیاات پھیلی اور طاعون

قنیاات اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے عورتوں سے شروع ہوئی تھی۔ اسی سال خلیفہ عبد الملک سترہ بچے چھوڑ کر شوال میں فوت ہوا۔

### منہ سے بدبو

احمد بن عبد اللہ عجل کہتے ہیں۔ عبد الملک کے منہ سے بدبو آیا کرتی تھی اور چھ ماہ تھا۔ ابن سعد کہتے ہیں۔ خلیفہ ہونے سے پہلے عبد الملک نہایت عابد و زاہد تھا۔ یکجا غسائی کہتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان اکثر ام الدرداء کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو ایک دن انہوں نے دریافت کیا امیر المؤمنین مجھے معلوم ہوا تم قربانی اور عبادت کے بعد شراب پیتے ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں بخدا میں اس خون کو پیا ہی کرتا ہوں۔

### واقفِ قرآن

نافع کہتے ہیں۔ میں نے مدینہ میں کوئی جوان عبد الملک بن مروان سے بڑھ کر چالاک، فقیہ، عابد اور واقفِ قرآن نہیں دیکھا۔

### فقہائے مدینہ

ابوالزناد کہتے ہیں۔ سعید بن مسیب، عبد الملک بن مروان، عروہ بن زبیر اور قبیصہ بن



ذویب فقہائے مدینہ سے شمار ہوتے تھے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے اور لوگ تو بیٹے جنتے ہیں مگر مروان نے باپ کو جنا ہے۔

## ابن مروان فقیہ

عبادہ بن ابیہنی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا! آپ لوگ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ کے بعد ہم مسائل کس سے دریافت کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ابن مروان فقیہ ہے۔ اس سے پوچھ لیا کرنا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حکیم کہتے ہیں۔ عبدالملک لڑکا ہی تھا۔ ایک روز وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے فرمایا یہ کبھی عرب کا بادشاہ ہوگا۔

عبیدہ بن ربیع غسانی کہتے ہیں۔ ام الدرداء نے ایک دن عبدالملک بن مروان کو کہا میں پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تم ضرور بادشاہ بنو گے۔ عبدالملک نے پوچھا وہ کس طرح۔ انہوں نے کہا میں نے تم سے زیادہ اچھا بات سننے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔

بڑھ گیا

شععی کہتے ہیں۔ میں جس شخص کے پاس بیٹھا میں نے اس سے اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھا۔ مگر عبدالملک بن مروان سے جس بات میں بھی گفتگو کی وہ مجھ سے بڑھ گیا اور جس شعر میں اس سے مباحثہ کیا وہ مجھ سے سبقت ہی لے گیا۔

روایت حدیث

ذہبی کہتے ہیں۔ عبدالملک نے حضرت عثمان، ابو ہریرہ، ابوسعید رضی اللہ عنہم، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بریرہ رضی اللہ عنہا، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے احادیث سنیں اور اس سے عروہ، خالد بن معدان، رجاہ بن حیات، زہری، یونس بن میسرہ، ربیعہ بن یزید، اسطیعیل بن عبید اللہ، جریر بن عثمان وغیرہم نے روایت کی ہیں۔

بکر بن عبداللہ مرنی کہتے ہیں کہ ایک یوسف نامی یہودی مسلمان ہوا اور وہ کتب سابقہ کو اچھی طرح سے پڑھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ مروان کے گھر کے پاس سے گزرا۔ کہنے لگا امت

کے جوان عورتیں۔

محمد یہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو اس گھر والوں سے بہت سختی پہنچے گی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سختی کب تک پہنچے گی۔ اس نے کہا جب تک سیاہ جھنڈے والے خراسان سے نہ آ جائیں گے۔ یہ شخص عبدالملک بن مروان کا بڑا دوست تھا۔ ایک دن اس کے شانوں پر ہاتھ مار کر کہنے لگا جب تو بادشاہ ہو جائے تو امت محمدیہ ﷺ کے معاملہ میں خدا سے ڈر کر کام کرنا۔ عبدالملک نے کہا چھوڑو بھی۔ میں کہاں اور وہ بادشاہت کہاں۔ اس نے کہا تمہیں پھر کہتا ہوں ان کے معاملہ میں خدا سے ڈرنا۔ جب یزید نے اہل مکہ پر اپنی فوج بھیجی تو عبدالملک نے کہا خدا نہ کرے کہ میں کبھی حرم محترم پر فوج کشی کروں۔ یوسف نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا گھبرا نہیں تیرا لشکر جوان پر آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔

### اوندھے

یحییٰ غسانی کہتے ہیں۔ جب مسلم بن عقبہ مدینہ میں اترے تو میں رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں آ کر عبدالملک کے پاس بیٹھ گیا نو عمر عبدالملک نے مجھ سے کہا تو بھی اس لشکر سے ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ تیرا خانہ خراب ہو تو نہیں جانتا تو ایسے شخص کے برخلاف ہتھیاراٹھاتا ہے جو ظہور اسلام کے بر سب سے پہلے پیدا ہوا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی اور ذات الرضا قین کا بیٹا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے حاکم بنایا تھا۔ اگر تو دن کے وقت اس کے پاس جائے تو اسے روزہ دار پائے گا۔ اگر رات کے وقت جائے تو اسے نماز میں مشغول دیکھے گا۔ اگر تمام لوگ اس کے قتل پر اتفاق کر لیں تو خدا ان سب کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے گا۔ یحییٰ غسانی کہتے ہیں۔ جب عبدالملک خلیفہ ہوا تو اس نے اسی شخص پر لشکر بھیجا اور قتل کر ڈالا۔

### محارم سے بچنا

ابن ابی عاص کہتے ہیں۔ جب عبدالملک خلیفہ ہوا اس وقت قرآن پاک اس کے سامنے تھا۔ اسے بند کر کے کہنے لگا بس اب تیرا زمانہ ہو چکا۔ مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا ہے سب سے پہلے ظہر و عصر کے درمیانی وقت میں عبدالملک ہی نماز پڑھتا رہا ہے چنانچہ جب امام نماز پڑھ لیتا تو جوان جوان لوگ کھڑے ہو کر عصر تک نماز پڑھتے رہتے۔ سعید بن مسیب سے کسی نے کہا کاش ہم بھی ان لوگوں کی طرح نماز پڑھتے رہتے وہ

کہنے لگے کثرتِ صوم و صلوة کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ کے امر میں غور و فکر کرنے اور محارم سے بچنے کا نام ہے۔

### قرآن دیناروں پر

مصعب بن عبد اللہ کہتے ہیں۔ اسلام میں سب سے قبل عبد الملک کا نام ہی عبد الملک رکھا گیا۔ یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں۔ میں نے مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنا سب سے قبل عبد الملک نے ہی دینار بنوائے اور ان پر قرآن مجید کی آیات لکھوائیں۔

### حلقہ سے باہر

مصعب کہتے ہیں۔ عبد الملک نے دیناروں کی ایک طرف قل ہو اللہ احد لکھا اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ لکھا تھا اور اس کے گرد اگر دایک چاندی کا حلقہ تھا جس میں ”ضرب شہر فلاں“ لکھا ہوا تھا اور اس حلقہ سے باہر ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ“ (پ 26 سورة الفتح آیت 28, 29) ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

(ترجمہ و حوالہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد میسر سیا لوی)

عسکری اوائل میں بسندہ روایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبد الملک نے ہی خطوط کے شروع میں قل ہو اللہ احد اور آنحضرت ﷺ کا ذکر مبارک مع تاریخ کے لکھا۔ اس پر بادشاہ روم نے اس کی طرف لکھا کہ تم نے جو اپنے خطوط کے شروع میں اپنے پیغمبر کا ذکر شروع کر دیا ہے، اسے چھوڑ دو ورنہ ہمارے دینار تمہارے پاس نہیں آیا کریں گے۔ عبد الملک پر یہ بات بہت گراں گزری۔ اس نے خالد بن یزید بن معاویہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اس نے کہا ان کے دینار آپ بند کر دیجئے اور خود اپنے دینار جاری کیجئے۔ جن پر اللہ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہو اور اپنے خطوط کی پیشانی جسے وہ برا سمجھتے ہیں بدستور رہنے دیں۔ پس اس مشورے کے موافق 75 ہجری میں اس نے اپنے دینار ایجاد کیے۔

### خلفاء کے سامنے

عسکری لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا خلیفہ جس نے بخل کیا عبد الملک تھا۔ اسی لیے اسے رشح الحجارہ کہا کرتے تھے اور گند اہنی کے باعث ابوالزبان کہلاتا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے

اسی نے عذر کیا۔ خلفاء کے سامنے کلام کرنے سے اسی نے منع کیا اور سب سے قبل امر بالمعروف سے بھی اسی نے ہی منع کیا۔

### پہلا عذر

عسکری بسندہ ابن کلبی سے راوی ہیں۔ عمرو بن سعید بن عاص نے مروان کو اپنے بیٹے کے بعد ولی عہد بنایا تھا اور یہ سب سے پہلا عذر تھا جو اسلام میں ظاہر ہوا۔ اس پر کسی نے یہ اشعار کہے:

يَا قَوْمُ لَا تَغْلِبُوا عَنْ رَأْيِكُمْ فَلَقَدْ  
جَرَبْتُمْ الْعَدْرَ مِنْ ابْنَاءِ مَرْوَانَ  
ترجمہ: اے لوگو! اپنی راہوں پر نہ چلو کیونکہ تم نے مروان کے بیٹوں کا عذر دیکھ لیا ہے۔

أَمْسُوا وَقَدْ قَتَلُوا عُمُرًا وَمَا زَشَدُوا  
يَدْعُونَ عَدْرًا بَعْهَدِ اللَّهِ كَيْسَانًا  
ترجمہ: دیکھو انہوں نے عمرو کو قتل کر دیا اور یہ کام اچھا نہیں کیا کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔

تَلَا عَبْدُ بَكْسَابِ اللَّهِ فَاتَّخَذُوا  
هُوَ أَهْمٌ فِي مَعْاصِي اللَّهِ قُرْبَانًا  
ترجمہ: انہوں نے کتاب اللہ کو کھیل بنا لیا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی کو قربانی بنا لیا ہے۔

### تلوار دوا

عسکری بسندہ روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے شہید کیے جانے کے بعد عبدالملک نے 75 ہجری میں مدینہ میں خطبہ پڑھا تو خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کہا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ضعیف خلیفہ نہیں اور نہ معاویہ کی طرح ناز و نعمت کا اثر دکھانے والا اور نہ یزید کی طرح ضعیف الرائے۔ مجھ سے قبل خلفاء اس مال سے کھایا کرتے تھے۔ مجھے تو تلوار کے علاوہ اور کوئی دوا آتی نہیں، حتیٰ کہ تمہارے نیزے میری مدد کیلئے کھڑے ہوں تو ہمیں مہاجرین جیسے عمل کرنے کی تکلیف دیتے ہو اور خود ان جیسے عمل کرتے نہیں جب تک کہ تلوار ہمارے درمیان فیصلہ نہ کر دے، تکلیف بڑھتی ہی رہے گی۔ یہ عمرو بن سعید جس کی قربت اور مرتبہ تمہیں معلوم ہے، اس نے اپنے سر سے کہا کہ ایسا ہوگا۔ ہم نے اپنی تلواروں سے کہا، نہیں یوں ہوگا، ہم تمہاری ہر بات کو برداشت کر لیں گے مگر امیر کے ساتھ لڑنا برداشت نہیں کریں گے۔ جس تلوار کو میں نے عمرو بن سعید کی گردن پر رکھا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اب جو

شخص اس جیسا کام کرے گا اس کی گردن پر بھی وہی تلوار رکھوں گا۔ آج کے بعد تم سے جس شخص نے مجھے خدا سے ڈرنے کیلئے کہا اسے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر منبر سے اتر آیا۔

### فارسی سے عربی

عسکری کہتے ہیں۔ اس نے ہی سب سے قبل منبر پر اپنے ہاتھ بلند کیے اور اس نے ہی سب سے پہلے دفتر فارسی سے عربی میں نقل کیے۔ میں (یعنی مصنف) کہتا ہوں یہاں تک اس کی دس اولیات پوری ہوتی ہیں جن سے پانچ مذموم ہیں۔

### عیدین کی اذان

ابن ابی شیبہ بسندہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مروانوں نے ہی اذان دلائی۔ خواہ عبدالملک ہو یا اس کی اولاد سے۔

### کوئی پردہ

عبدالرزاق ابن جریج سے روایت کرتے ہیں۔ مجھے بہت لوگوں نے بیان کیا ہے سب سے پہلے عبدالملک نے ہی کعبہ پر دیباچ کے پردے لٹکائے اور تمام فقہاء نے سن کر یہ کہا کہ واقعی کعبہ شریف کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی پردہ نہیں ہو سکتا۔ یوسف بن ماحون کہتے ہیں۔ جب عبدالملک فیصلہ کرنے کیلئے بیٹھتا تو غلام برہنہ تلواریں کیے اس کے سر پر کھڑے رہتے۔

### عقل خرچ

اصمعی کہتے ہیں۔ عبدالملک سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنی جلدی بڑھا پا کیوں آ گیا تو اس نے کہا بڑھا پا کیسے نہ آئے حالانکہ میں ہر جمعہ لوگوں پر اپنی عقل خرچ کرتا رہا ہوں۔

### بلند اور زہد و قوت اور انصاف

محمد بن حرب زیادہ کہتے ہیں۔ عبدالملک سے پوچھا گیا۔ سب لوگوں سے افضل کون ہے؟ اس نے کہا جس نے بلندی کے باوجود تواضع کی اور قدرت کے باوجود زہد اختیار کیا اور قوت کے ہوتے ہوئے بھی انصاف کیا۔

## جھوٹ نہ کہنا

ابن عاصم کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص باہر سے عبد الملک کے پاس آتا تو عبد الملک اس سے کہہ دیا کرتا تھا چار باتوں سے مجھے معاف رکھنا اور ان کے علاوہ جو کچھ چاہے کہنا۔

نمبر 1۔ ایک تو مجھ سے جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جھوٹے کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔

نمبر 2۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ میں نہ پوچھوں اس کا جواب نہ دینا کیونکہ میرا خیال اسی بات میں ہوگا جو میں تم سے پوچھوں گا۔

نمبر 3۔ میری مدح میں مبالغہ نہ کرنا کیونکہ تیری نسبت میں اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوں۔

نمبر 4۔ چوتھا یہ کہ رعیت پر مجھے برا بیخند نہ کرنا کیونکہ مجھے ان کے ساتھ نرمی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔

مدائنی کہتے ہیں۔ جب عبد الملک کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا کاش میں پیدائش سے لیکر آج تک حمال (مزدور) رہتا۔ پھر اپنے بیٹوں کو بلا کر خوف خدا کی وصیت کی اور تفرقہ اور اختلاف سے ڈرایا۔ انہیں کہا کہ اچھی ماں کے بیٹے بننا اور لڑائی میں جواں مردوں کا سا کام کرنا اور نیکی میں نشان و علامت یعنی ضرب المثل بننے کی کوشش کرنا کیونکہ لڑائی آدمی کی مقررہ موت کو پہلے نہیں آتی اور احسان سے ہمیشہ تک ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ مصیبت میں خندہ پیشانی سے رہا کرنا اور سختی میں نرمی اختیار کیا کرنا اور ایسے ہو جاؤ جیسا کہ ابن عبد الاعلیٰ شیبانی نے کہا ہے۔

إِنَّ الْقِدَاحَ إِذَا جُمِعْنَ فَرَامَهَا بِالْكَسْرِ ذُو حَسَنِي وَبَطْشِ آيِدِ

ترجمہ: جبکہ تیر جمع ہو جائیں اور بڑا غصے والا حملہ آور شخص ان کے توڑنے کا قصد کرے تو

وہ تیر بوجہ ہیئت اجتماعی کے نہیں ٹوٹیں گے۔

عَزَّتْ عَلَيْهِ فَلَمْ تَكْسُرْ وَأَنْ هِيَ بَدَدَتْ فَالْكَسْرُ وَالنُّوْهَيْنُ لِلْمُتَبَدِّدِ

ترجمہ: اور اگر وہ تیر متفرق ہو جائیں تو متفرق کی ذلت اور شکستگی اہل (آسان) ہوتی ہے۔

دایاں ہاتھ اور تلوار

اے ولید جس معاملہ میں میں تجھے نائب کرتا ہوں اس میں خدا تعالیٰ کا خوف کرنا اور

ججاج کی عزت کرنا کیونکہ اسی نے تمہیں منبروں پر چڑھنے کے مرتبہ تک پہنچایا۔ اس کو اپنا دایاں

ہاتھ اور تلوار سمجھنا۔ وہ تجھے دشمنوں سے پناہ میں رکھے گا۔ اس کے حق میں کسی کا قول نہ سننا۔ اس کی نسبت تو اس کا زیادہ محتاج ہے۔ جب میں مر جاؤں تو لوگوں سے بیعت لے لینا اور جو شخص انکار کرے اس کو قتل کر دینا۔

### قریب المرگ

کہتے ہیں جب عبد الملک قریب المرگ ہوا تو اس کا لڑکا ولید اس کے پاس آیا تو عبد الملک نے یہ شعر پڑھا:

كَمْ عَائِدٍ رَجُلًا وَ لَيْسَ يَمُودُهُ إِلَّا لِيَعْلَمَ هَلْ يَرَاهُ يَمُوتُ

ترجمہ: بہت سے بیمار پرسی کرنے والے بظاہر تو بیمار پرسی کرتے ہیں مگر ان کی غرض یہ بات معلوم کرنا ہوتی ہے کہ مریض کس وقت مرے گا۔

### رونے سے منع کیا

یہ سن کر ولید رو پڑا تو عبد الملک نے کہا لڑکیوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ جب میں مر جاؤں تو تیار ہو جا اور جرات ظاہر کر اور تلوار اپنے کندھے پر رکھ لے اور جو شخص ذرا بھی سراٹھائے اسے قتل کر دے اور جو خاموش رہے اسے چھوڑ دے وہ اپنی بیماری آپ ہی مر جائے گا۔

میں (یعنی مصنف) کہتا ہوں اگر عبد الملک کے گناہوں سے صرف حجاج کو مسلمانوں اور صحابہ پر والی اور حاکم بنانا ہی ہوتا کہ جس نے ان کی توہین و ذلت اور قتل و ضرب کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اور بیٹھا صحابہ کرام اور کابرتا بعین کو تیغ کیا تھا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابیوں کی مشکلیں کسوائی تھیں تو بھی اس بات کیلئے کافی تھا کہ خدا تعالیٰ اسے کبھی نہ بخشے۔

عبد الملک شعر بھی کہا کرتا تھا۔ ذیل کے اشعار اسی کے ہیں:

لَعَمْرِي لَقَدْ عَمِرْتُ فِي الدَّهْرِ بُرْهَةً وَ ذَانَتْ لِي الدُّنْيَا بِوَقْعِ البَوَابِرِ

ترجمہ: مجھے اپنی عمر کی قسم کہ مدت دراز تک میں دنیا میں جیا ہوں اور دنیا زہر آلود تلوار لیکر

میرے قریب ہوئی (یعنی میں ہمیشہ لڑتا رہا ہوں)

فَأَصْحَى الذِّئْبِي قَدْ كَانَ مِمَّا يَسْرُونِي كَلَمَحٍ مَضَى فِي الْمُرْمَنَاتِ الفَوَابِرِ

ترجمہ: پس وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی تھی ایسے گزر گئی ہے جیسے کہ گزشتہ زمانے کا ایک لمحہ گزر

جاتا ہے۔

فِيَا لَيْتَنِي لَمْ أَعْنُ فِي الْمُلْكِ سَاعَةً وَلَمْ أَلِهْ فِي اللَّذَاتِ عَيْسَ نَوَاضِرٍ  
ترجمہ: کاش میں سلطنت پر غلبہ اور ظلم نہ کرتا اور اپنی زندگی کو عیش و عشرت پر بسر نہ کرتا۔  
وَ كُنْتُ كَذِبِي طَمْرِينٍ عَاشٍ بِلُغَةِ مِّنَ الدَّهْرِ حَتَّى زَارَ ضَنْكَ الْمَقَابِرِ  
ترجمہ: اور میں اس درویش کی طرح رہتا جو قوت لایموت (ہمیشہ کی قوت) پر زندگی بسر  
کرتا ہے حتیٰ کہ قبر میں جا پڑتا۔

### چار واقعات

ابن عساکر اپنی تاریخ میں ابراہیم بن عدی سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے  
عبدالملک بن مروان پر ایک ہی رات میں چار سخت واقعات پیش ہوئے۔ مگر وہ ذرا بھی نہ  
گھبرایا۔ اول عبداللہ بن زیاد کا قتل اور دوسرا حمیش بن دلجہ کا قتل حجاز میں تیسرا اس کے اور شاہ  
روم کے درمیان جھگڑا کا شروع ہو جانا چوتھے عمرو بن سعید کا دمشق میں بغاوت کرنا۔  
اصمعی کہتے ہیں کہ چار شخصوں نے نیکی اور بیہودگی کے کاموں میں کبھی خطا نہیں کی۔ یعنی  
شععی، عبدالملک بن مروان اور حجاج بن یوسف اور ابن تریہ۔

### میراث میں حصہ

سلفی طیوریات میں ذکر کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان ایک روز باہر نکلا تو راستے میں  
اسے ایک عورت ملی اور کہنے لگی اے بادشاہ! عبدالملک نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی میرا  
بھائی چھ صد دینار چھوڑ کر مر گیا ہے اور اس کی میراث سے مجھے صرف ایک دینار دیا جاتا ہے او  
ر کہتے ہیں کہ یہی تیرا حصہ ہے۔ عبدالملک کو اس بات کی سمجھ نہ آئی تو شععی سے پوچھا انہوں  
نے کہا اس کا اتنا ہی حصہ ہے کیونکہ متوفی دو بیٹیاں چھوڑ کر مرے۔ ان کو دو تہائی یعنی چار سو  
دینار ملیں گے۔ ایک اس کی ماں بھی ہے جس کا چھٹا حصہ یعنی سو دینار مل جائیں گے۔ اس کی  
ایک زوجہ بھی ہے جس کا آٹھواں حصہ یعنی پچھتر دینار ملیں گے اس کے بارہ بھائی بھی ہیں  
جنہیں چوبیس دینار ملیں گے اور باقی ماندہ ایک دینار اس کو ملے گا۔

### خدا کیلئے

ابن ابی شیبہ مصنف میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابوسفیان حمیری نے بیان کیا کہ خالد  
بن محمد قریشی کہتے ہیں۔ ایک دن عبدالملک بن مروان نے کہا جو شخص لذت نفس کیلئے لوٹڑی



خریدنا چاہتا ہے تو ملک بربر کی خریدے اور اگر وہ خدا کے واسطے خریدے تو چاہئے کہ وہ فارسی خریدے اور اگر خدمت کیلئے خریدنا چاہے تو رومی خریدے۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ جب اہطل نے عبد الملک کو اپنا قصیدہ سنایا جس کا ایک شعر یہ ہے:

شَمْسُ الْعَدَاوَةِ حَتَّى يُسْتَفَادَ لَهُمْ وَأَعْظَمُ النَّاسِ أَحْلَامًا إِذَا قَدَرُوا

ترجمہ: جب تک رعایا کیلئے فائدہ حاصل نہ کیا جائے تب تک وہ شدید العداوت رہتا ہے اور جب وہ دشمنوں پر غالب ہو جائے از حد حلیم و بردبار ہو جاتا ہے۔

یہ شعر سن کر اس نے کہا اے غلام اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جا اور جتنا مال یہ اٹھا سکے اسے دیدے۔ پھر کہنے لگا ہر قوم میں ایک شاعر ہوا کرتا ہے اور بنی امیہ کا شاعر اہطل ہے۔

### ابتداء لذت انتہاء درد

اصمعی کہتے ہیں۔ ایک روز اہطل عبد الملک کے پاس آیا تو اس نے کہا کچھ مستی کا حال تو بیان کر۔ اہطل کہنے لگا کہ ابتدا میں لذت ہوتی ہے اور انتہا میں درد۔ اور اس کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس کا لطف میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ عبد الملک نے کہا کچھ تو بیان کر۔ اہطل نے کہا اس وقت اے بادشاہ! آپ کا ملک میرے جوتے کے تسمے سے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھے:

إِذَا مَا نَدِينِمِيْ عَلَيْنِيْ ثُمَّ عَلَيْنِيْ نَلِكُ زُجَاجَاتٍ لَّهُنَّ هَدِيْرُ

ترجمہ: جبکہ میرا دوست پے در پے تین بھرے ہوئے شراب کے پیالے مجھے پلائے۔

خَبَرْتُ أَجْرَ الدَّيْلِ مِنِّيْ كَأَنِّيْ عَلَيْكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمِيرُ

ترجمہ: تو میں اپنے منہ کو کھینچتا ہوا ہوں۔ ایسے نکلتا ہوں گویا کہ میں تم پر امیر کا بھی امیر ہوں

ثعالبی کہتے ہیں۔ عبد الملک کہا کرتا تھا میں رمضان ہی میں پیدا ہوا ہوں اور رمضان میں

ہی میں نے دودھ چھوڑا ہے اور رمضان میں ہی میں نے قرآن مجید ختم کیا ہے اور رمضان میں ہی

میں بالغ ہوا ہوں اور رمضان میں ہی خلیفہ ہوا ہوں اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں رمضان میں ہی نہ

مر جاؤں۔ لیکن جب رمضان گزر گیا اور اسے اطمینان ہو گیا تو وہ سوال میں مر گیا۔

### اموات

عبد الملک کے زمانہ میں حسب ذیل مشاہیر امت فوت ہوئے:

ابن عمر، اسماء بنت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابوسعید بن معلی، ابوسعید خدری، رافع بن خدیج، سلمہ اکوع، عرباض بن ساریہ، جابر بن عبد اللہ، عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب، سائب بن زید، سلم مولا، عمر ابودریس خولانی، شریح قاضی، ابان بن عثمان بن عفان، آششی شاعر، ایوب بن قریہ (جو فصاحت میں ضرب المثل تھا) خالد بن یزید بن معاویہ، زین حبیش، وسان بن سلمہ بن محبت، سوید بن غفلہ، ابوداؤد طارق بن شہاب، محمد حنیفہ، عبد اللہ بن شداد بن الہاء، ابوعبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود، عمرو بن حرث، عمر بن سلمہ جرمی و دیگر حضرات رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔

## ولید بن عبد الملک

اس کا نام ولید بن عبد الملک تھا اور کنیت ابوالعباس تھی۔ شعی کہتے ہیں چونکہ یہ ناز و نعمت میں پایا تھا اس لیے ان پڑھ رہا۔ روح بن زبناہ کہتے ہیں میں ایک دن عبد الملک کے پاس گیا تو وہ کچھ نمکین سا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا وجہ ہے تو کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کس کو عرب کا حاکم بناؤں؟ میں نے کہا ولید سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا بات تو درست ہے مگر اس کو نچو نہیں آتی (اور وہ کلام صحیح نہیں کر سکتا) ولید نے بھی یہ بات سنی اور تمام نچویوں کو جمع کیا اور لگا تار چھ ماہ ان سے پڑھتا رہا۔ مگر پھر بھی ویسا ہی جاہل کا جاہل رہا۔

### ایک دن

ابوالزناد کہتے ہیں۔ ولید اعراب میں بہت غلطیاں کیا کرتا تھا چنانچہ ایک دن مسجد نبوی میں منبر پر کھڑا خطبہ پڑھ رہا تھا تو کہنے لگا یا اہل المدینۃ (یعنی اہل کی لام پر ضمہ پڑھا) حالانکہ نجوی قاعدے سے اس پر فتح آئی چاہئے۔

### منبر کے نیچے

ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ولید نے برسر منبر کھڑے ہو کر پڑھا یا ایہما کانت القاضیہ پڑھا اور منبر کے نیچے عمر بن عبدالعزیز اور سلیمان بن عبد الملک دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے کہا دو تہا واللہ۔

### حجاز اور مصر

ولید بڑا جبار اور ظالم تھا چنانچہ ابوالنعم حلیہ میں ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں عمر بن

عبدالعزیز کہا کرتے تھے ولید نے شام کی حجاج نے عراق کی عثمان بن جبارہ نے حجاز کی اور قرہ بن شریک نے مصر کی زمین کو ظلم سے بھر دیا۔

### فقیروں کی تنخواہیں

ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں ابراہیم بن زرعہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز ولید نے کہا کہ خلیفہ کا بھی حساب ہو۔ میں نے کہا اے مسلمانوں کے امیر! اللہ کے ہاں آپ کا رتبہ بڑا ہے یا داؤد علیہ السلام کا؟ کہنے لگا کہ ان کیلئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور خلافت کو جمع کیا تھا اور پھر قرآن مجید میں بھلائی کا وعدہ بھی ان سے کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے یا داؤد علیہ السلام؟ ولید باوجودیکہ ایسا ویسا تھا مگر اس نے اپنے زمانے میں جہاد کو جاری کیا اور بہت سے ملک اس کے عہد میں فتح ہوئے۔ تیموں کا ختمہ کر دیا کرتا تھا اور ان کے پڑھانے کے لیے معلم مقرر کر دیتا تھا۔ اباہجوں کے لیے خدمتگار مقرر کر دیا کرتا تھا اور نابینوں کے لیے ایسے شخص مقرر کر دیئے تھے جو انہیں جہاں وہ چاہتے لیے پھرتے تھے۔ مسجد نبوی کو وسیع کر کے ازسرنو تعمیر کیا۔ فقہوں، ضعیفوں اور فقیروں کی تنخواہیں مقرر کیں اور کہہ دیا کہ اب وہ کسی شخص سے سوال نہ کریں اور تمام باتوں کے ضابطے مقرر کر دیئے تھے۔

### چاندی کے پیالے

ابن ابی عیبلہ کہا کرتے تھے خدا تعالیٰ ولید پر رحم کرے۔ اس جیسا بادشاہ کہاں ہوگا؟ اس نے ہندو اندلس کو فتح کیا اور مسجد دمشق کو بنوایا۔ فقراء بیت المقدس میں چاندی کے پیالے تقسیم کیے۔

### قربانی کے روز

ولید اپنے باپ کی زندگی میں ہی شوال 86 ہجری میں تخت نشین ہوا اور 87 ہجری میں جامع دمشق کی تعمیر شروع کی اور مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کے لیے احکام جاری کیے۔ اسی سال بیکند، بخارا، سردانیہ، مٹمورہ، مقیم اور بحیرۃ الفرسان غلبتہ فتح ہوئے اور اسی سال عمر بن عبدالعزیز نے بحالت امارت مدینہ لوگوں کے ساتھ حج کیا اور قربانی کے روز غلطی سے ٹھہر گئے جس کا انہیں نہایت رنج ہوا۔

88 ہجری میں جرثومہ طوانہ فتح ہوئے۔

89 ہجری میں جزیرہ مطورہ اور میورق فتح ہوئے۔

91 ہجری میں سف، کش، مدائن اور بحر آذربجان سے کئی ایک قلعے فتح ہوئے۔

92 ہجری میں اقلیم اندلس مکمل طور پر فتح ہوئی اور علاوہ ازیں شہر رمانیل اور قتر بوں فتح ہوئے۔

93 ہجری میں دتیل وغیرہ فتح ہوئے اور بعد ازاں کرخ، یرہم، باج، بیضاء، خوارزم، سمرقند اور سعد فتح ہوئے۔

94 ہجری میں کامل، فرغانہ، شاش، سندرہ وغیرہ فتح ہوئے۔

95 ہجری میں موقان، مدینہ، الباب فتح ہوئے۔

96 ہجری میں طوس وغیرہ فتح ہوئے اور اسی سال میں ولید نصف جمادی الاخریٰ میں ہمر اکاؤن سال فوت ہوا۔

### ایسی فتوحات

ذہبی کہتے ہیں۔ ولید کے عہد میں جہاد جاری رہا اور ایسی فتوحات عظیمہ ہوئیں جیسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی تھیں۔

عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ جب میں نے ولید کو لحد میں رکھا تو وہ بار بار اپنے پاؤں زمین پر مارتا تھا۔ ولید کہا کرتا تھا کہ اگر قرآن پاک میں افعال قوم لوط کا ذکر نہ ہوتا تو مجھے گمان ہی رہتا کہ لوگ ایسا بھی کر لیا کرتے ہیں۔

### فوت شدگان

ولید کے عہد میں مندرجہ ذیل اعلام امت فوت ہوئے:

عتبہ بن عبد سلیمی، مقدم بن معدی کرب، عبد بن بشیر المازی، عبد اللہ بن ابی اوفی، ابوالعالیہ جابر بن زید، انس بن مالک، سہل بن سعد، سائب بن یزید، سائب بن خلاء، حبیب بن عبد اللہ بن زبیر، بلال بن ابی الدرداء، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن عبد الرحمن، ابو بکر بن عبد الرحمن، سعید بن جبیر (جو شہید ہوئے تھے) اور آپ کو حجاج علیہ الملعنت نے قتل کر دیا تھا۔ ابراہیم نخعی، مطرف، ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، حجاج شاعر و دیگر حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

## سلیمان بن عبد الملک

اس کا نام سلیمان بن عبد الملک تھا اور کنیت ابویوب تھی۔ شاہان بنی امیہ سے ہے۔ سب سے بڑا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے باپ نے ہی ولید کے بعد اسے ولی عہد مقرر کیا تھا۔ 96ء ہجری میں تخت پر بیٹھا۔ اس نے اپنے باپ اور عبد الرحمن بن ہبیرہ سے احادیث روایت کی ہیں اور اس سے اس کے بیٹے عبد الواحد اور زہری نے روایت کی ہے۔ نہایت فصیح و بلیغ، عدل کا حریص اور جہاد کا شائق تھا۔ اس کے محاسن کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ عمرو بن عبد العزیز جیسا آدمی اس کا وزیر تھا اور اسی کے مشورے پر چلا کرتا تھا۔ حجاج کے عاملوں کو موقوف کر دیا تھا اور عراق کے قید خانوں میں جتنے شخص قید تھے انہیں رہا کر دیا تھا۔ بنو امیہ سب کے سب نماز میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ مگر عبد الملک نے نماز کو اذل وقت میں پڑھنا شروع کیا۔

### درست وقت

ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے۔ خدا سلیمان پر رحم کرے کہ اس نے اپنی خلافت کی ابتدا نماز کو ٹھیک وقت پر پڑھنے سے کی ہے اور اس کا خاتمہ عمر بن عبد العزیز جیسے شخص کو خلیفہ بنانے میں کیا۔

### گانے سے منع

سلیمان راگ گانے سے منع کیا کرتا تھا اور ان لوگوں سے تھا جو بہت کھانے میں مشہور تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک ہی وقت سترانار اور بکری کا چھ مہینے کا بچہ اور چھ مرغ اور کئی سیر کشمش کھا گیا۔

### جوانی اور حسن و جمال

بچی غسانی کہتے ہیں۔ سلیمان نے ایک دن آئینہ دیکھا تو اپنی جوانی اور حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا آنحضرت ﷺ تھے اور ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور عثمان حیا دار تھے اور معاویہ حلیم تھے اور عبد الملک سیاست کرنے والا تھا اور ولید ظالم تھا اور میں جوان بادشاہ ہوں۔ اس بات کو ابھی ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ مر گیا۔ اس کی وفات بروز جمعہ 10 ماہ صفر 99 ہجری میں ہوئی۔

## انتقال کرنے والے

اس کے عہد خلافت میں جرجان، حصن المدینہ، سردا، شقا، طبرستان اور شہر سفالیہ فتح ہوئے اور مینا، ہیرامت سے قیس بن ابی حازم، محمود بن لبید، حسن بن حسین بن علی، کریم، عمویٰ ابن عباس، عبدالرحمن بن اسود، نخعی و دیگر حضرات نے انتقال کیا۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

## جہاد کے دوران

عبدالرحمن بن حسان کنعانی کہتے ہیں۔ سلیمان بمقام دابق جہاد کرتا ہوا فوت ہوا۔ جب بیمار ہوا تو رجاء بن حیوۃ کو کہنے لگا میرے بعد خلیفہ ہونا چاہئے۔ کیا میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا جاؤں۔ وہ کہنے لگا آپ کا بیٹا تو یہاں موجود نہیں۔ سلیمان نے کہا اپنے دوسرے بیٹے کو امیر کر جاؤں۔ رجاء بن حیوۃ کہنے لگے وہ تو ابھی چھوٹا ہے تو وہ بولا خلیفہ و امیر کسے مقرر کروں۔ رجاء نے کہا میرے نزدیک تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنانا چاہئے۔ سلیمان نے کہا مجھے خوف ہے میرے بھائی اس بات سے راضی نہیں ہوں گے۔ رجاء نے کہا ایسے کیجئے آپ عمر بن عبدالعزیز کو امیر بنائیں گے اور وصیت کر دیجئے کہ اس کے بعد یزید بن عبدالملک خلیفہ ہو اور اس مضمون کا ایک وصیت نامہ لکھ کر اس پر مہر لگا دیجئے اور لوگوں سے کہئے جو شخص اس میں اس کی بیعت کرے۔ سلیمان نے کہا یہ ات تم نے خوب سوچی ہے۔ پھر قلم دوات منگوا کر وصیت نامہ لکھا اور رجاء کو دیکر کہا باہر جا کر اس شخص کے لیے بیعت کر لو اس میں جس کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے باہر نکل کر کہا امیر المومنین کہتے ہیں جس کا اس میں نام ہے اس سے بیعت کر لو۔ لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ رجاء نے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کا نام امیر المومنین کے انتقال کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہم بیعت نہیں کرتے۔ رجاء نے آ کر سلیمان کو اس بات کی اطلاع دی۔ اس نے کہا کہ کو تو اہل اور سپاہیوں کو بلوا کر لوگوں سے بیعت لے لو جو شخص انکار کرے اس کی گردن اڑا دو۔ یہ بات سن کر لوگوں نے بیعت کر لی۔ رجاء کہتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھ سے ہشام نے کہا تم امیر المومنین کے بڑے مقرب ہو یہ بتاؤ کہ امیر المومنین نے یہ کیا کام کیا ہے؟ مجھے خوف ہے کہ کہیں انہوں نے مجھے محروم ہی نہ رکھا ہو۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھے بتلا دو حتیٰ کہ اس کا کچھ سدباب کیا جائے۔ میں نے کہا امیر المومنین نے اس امر کو پوشیدہ رکھنے کو کہا ہے۔ میں تمہیں کیسے بتلا دوں۔ پھر میں عمر بن عبدالعزیز سے ملا

تو انہوں نے مجھ سے کہا اے رجاہ میرے دل میں سلیمان سے بہت ہی خوف ہے۔ کہیں خلافت میرے حوالہ ہی نہ کر دی جائے، حالانکہ میں اس کے بارگراں اٹھانے کے قابل ہی نہیں اس لیے مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کا کچھ چارہ کروں۔ میں نے کہا امیر المومنین نے مجھے اس امر کے پوشیدہ رکھنے کو کہا ہے، میں اسے کیسے بتلا سکتا ہوں۔ غرضیکہ جب سلیمان کے انتقال کے بعد وہ وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر عبدالملک کے بیٹوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مگر جب اس کے پیچھے یزید بن عبدالملک کا نام سنا تو کچھ تسلی ہوئی اور امر خلافت عمر بن عبدالعزیز کے سپرد کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ آخر لوگوں نے ان کے بازو پکڑ کر منبر پر لا کر بٹھایا۔ وہاں بھی وہ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ رجاہ نے لوگوں کو کہا تم بیعت کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہو۔ اس پر لوگ بیعت کے لیے آگے بڑھے اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ پھر کھڑے ہو کر پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور پھر کہا اے لوگو! میں قاضی نہیں بلکہ میں تو احکام جاری کرنے والا ہوں اور نہ میں کسی چیز کا ایجاد کرنے والا ہوں بلکہ میں تو سلف صالحین کے تابع ہوں۔ اگر تمہارے ارد گرد کے لوگوں نے میری بیعت منظور کر لی تو میں تمہارا ولی اور حاکم ہوں اور اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر میں تمہارا حاکم نہیں۔ یہ کہہ کر آپ منبر پر سے اتر آئے۔

یقین ہو گیا

پھر داروغہ مصطلب نے بادشاہی سواری کا موڑا پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یہ شاہی گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ میرا اپنا ہی گھوڑا لے آؤ۔ پھر آپ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور دو ات اور قلم منگوا کر عمال بیرون جات کے نام خط لکھے۔ رجاہ کہتے ہیں مجھے خیال تھا یہ خلافت کو سنبھال نہ سکیں گے۔ مگر جب میں نے ان کی تحریر دیکھی تو مجھے ان کے قاضی ہونے کا یقین ہو گیا۔

منہ پر ہاتھ

مردی ہے کہ مروان بن عبدالملک اور سلیمان بن عبدالملک کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ سلیمان نے اسے سخت الفاظ کہے۔ مروان اس کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا میں تجھے خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں جواب

نہ دینا کیونکہ وہ بڑا بھائی اور تیرا بادشاہ ہے۔ مردان یہ سن کر چپ کر گیا اور عمر بن عبد العزیز نے کہا بخدا تم نے مجھے قتل کر دیا۔ تم نے میرے اندر کی آگ کو بھڑکا دیا، چنانچہ وہ اسی شب کو مر گیا۔

### نیک نامی

ابن ابی الدینا زیاد بن عثمان سے روایت کرتے ہیں۔ جب سلیمان کا بیٹا ایوب مر گیا تو میں ان کے پاس گیا اور کہا اے امیر عبدالرحمن بن ابی بکر فرمایا کرتے تھے جس شخص کی آرزو ہو کہ میرا نام تاقیامت زندہ رہے اسے چاہئے کہ اپنے آپ کو مصائب میں ڈالے۔ یعنی نیک نامی بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی۔

## عمر بن عبد العزیز

آپ کا نام عمر بن عبد العزیز بن مردان اور کنیت ابو حصص تھی۔ نہایت ہی نیک اور صالح خلیفہ ہوئے ہیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین سے پانچواں آپ کو شمار کرتے ہیں۔

### راشدین پانچ

سفیان ثوری کہا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین پانچ ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم (رواہ ابوداؤد فی سننہ)

عمر بن عبد العزیز 61 ہجری یا 63 ہجری میں مصر کے شہر حلوان میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں ان کے والد مصر کے حاکم تھے۔ آپ کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب تھیں۔ بچپن میں کسی چوٹ کے لگ جانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر داغ تھا۔ ان کے والد ان کے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے (جب چوٹ لگی تھی) اور کہتے جاتے تھے اگر تو بنی امیہ کا داغدار ہے تو سعادت مند ہے۔ (رواہ ابن عساکر)

### چہرے پر داغ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ میری اولاد سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر داغ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل سے پر کر دے گا۔ (رواہ ترمذی فی تاریخہ)



عدل سے پر

ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش! کہ میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔

ختم نہ ہوگی

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ہم کہا کرتے تھے دنیا اس وقت تک ختم ہوگی جب تک آل عمر رضی اللہ عنہم سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عمل کرنے والا پیدا نہ ہو۔ بلال بن عبد اللہ بن عمر کے چہرے پر بھی نشان تھا اس لیے لوگ خیال کرتے تھے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بشارت کے مصداق یہی ہوں گے، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔

ان کی روایت حدیث

عمر بن عبدالعزیز نے اپنے والد انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ابن قارظ، یوسف بن عبداللہ بن سلام، عامر بن سعد، سعید بن مسیب، عمرو بن زبیر، ابوبکر بن عبدالرحمن اور ربیع بن سمرہ وغیرہم سے روایت کی ہے اور ان سے زہری، محمد بن منکدر، یحییٰ بن سعید انصاری، مسلم بن عبدالملک، زجاج بن حیان وغیرہم بہت سے اشخاص نے روایت کی ہے۔

حاسد اور عیب جو

عمر بن عبدالعزیز نے قرآن مجید چھوٹی عمر میں ہی یاد کر لیا تھا۔ پھر پڑھنے کے لیے ان کے والد نے انہیں مدینہ بھیج دیا تھا اور وہاں عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس آتے جاتے رہے اور ان سے پڑھتے رہے اور جب ان کے والد فوت ہو گئے تو عبدالملک نے انہیں دمشق بلا لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ان کا عقد (نکاح) کر دیا۔ خلیفہ ہونے سے پہلے بھی آپ نہایت صالح تھے۔ مگر ذرانا زونعت میں رہنے کو پسند کیا کرتے تھے اور آپ کے حسادان میں یہی عیب نکالا کرتے تھے کہ یہ ناز و نعت کو بہت پسند کیا کرتے ہیں اور متکبرانہ چال سے چلتے ہیں۔

دیوار چین دو

جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا حاکم بنا دیا، چنانچہ آپ وہاں 86

ہجری سے 93 ہجری تک حاکم رہے۔ پھر معزول کر دیئے گئے تو شام میں چلے آئے۔ پھر ولید کی یہ خواہش ہوئی کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے۔ اس معاملہ میں بہت سے اشراف نے اس کی طوعاً و کرہاً اطاعت کی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کو نہ مانا اور کہا سلیمان کی بیعت ہماری گردنوں میں ہے۔ ولید نے یہ سن کر کہا کہ ان کے گرد یوار چن دو۔ مگر پھر کسی کی سفارش سے رہا ہو گئے۔ سلیمان نے ان کے اس احسان کو یاد رکھا اور اپنے بعد ان کے لیے خلافت کی وصیت کر دی۔

### قیام وقومہ

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ جس کی نماز اس جوان یعنی عمر بن عبدالعزیز کی نسبت رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز کے ساتھ زیادہ مشابہ ہو۔ زید بن اسلم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رکوع و سجود پوری طرح ادا فرمایا کرتے تھے اور قیام وقومہ میں زیادہ دیر نہ کیا کرتے تھے۔ (رواد ہیبتی)

محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے کسی نے عمر بن عبدالعزیز کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بنی امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت کے دن وہ بصورت امت واحدہ اٹھیں گے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ علماء اس طرح رہا کرتے تھے جیسا کہ استادوں کے ساتھ شاگرد ہوتے ہیں۔

### حضرت خضر

ابونعیم بسند صحیح ریح بن عبیدہ سے روایت کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ایک دن نماز پڑھنے آئے تو ایک بوڑھا آدمی آپ کے ہاتھ پر ٹیک دیئے چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ بڑھا سٹھیا گیا ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو میں نے مل کر عرض کیا۔ یا امیر المؤمنین! یہ بڑھا کون ہے جو آپ کے ہاتھ پر ٹیک دیئے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے ریح تو نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا تم صالح آدمی ہو اس لیے بتائے دیتا ہوں وہ میرے بھائی خضر تھے۔ مجھے بتا کر گئے کہ عنقریب ہی تم اس امت کے حاکم ہو گے اور اس میں عدل کرو گے۔

روپڑے

ابو نعیم ابی ہاشم سے راوی ہیں کہ ایک شخص عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر ﷺ آپ کے دائیں جانب تھے اور حضرت عمر ﷺ بائیں طرف تھے اور آپ آنحضرت ﷺ کے سامنے بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے عمر بن عبدالعزیز جب تو خلیفہ ہو تو حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ کے طریقوں پر چلنا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے کہا حلفیہ کہو کیا تم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس شخص نے حلف اٹھا کر کہا ہاں۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز روپڑے۔

اچھے اچھے طریقے

پہلے بیان گزر گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ماہ صفر میں خلیفہ ہوئے۔ مدت خلافت حضرت صدیق اکبر ﷺ کی خلافت کے مطابق کل دو سال پانچ ماہ ہوئی۔ اس دوران آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا اور بہت سے اچھے طریقے جاری فرمائے۔

اپنا ہی گھوڑا

کہتے ہیں جب خلیفہ سلیمان کا وضیت نامہ کھول کر پڑھا گیا تو آپ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے اور فرمانے لگے کہ واللہ میں نے کبھی اس امر کے لیے دعا نہیں کی پھر داروغہ اصطلبل خاص شاہی گھوڑا لیکر حاضر ہوا تو آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار فرما دیا اور فرمایا میرا اپنا گھوڑا ہی لے آؤ۔

جمع کر دو

حکم بن عمر کہتے ہیں۔ جب داروغہ اصطلبل گھوڑوں کی خوراک کے لیے خرچ وغیرہ مانگنے عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا ان سب گھوڑوں کو شام کے شہروں میں لے جاؤ اور جس قیمت پر بک سکیں بیچ کر ان کی قیمت بیت المال میں جمع کر دو۔ میرے لیے میرا گھوڑا ہی کافی ہے۔

حقدار کا حق

عمر بن عبدالعزیز سلیمان کے جنازے سے واپس تشریف لائے

تو آپ کے آزاد کردہ غلام نے عرض کیا آپ غمگین کیوں نظر آتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو شخص حاکم ہو، غم اس کے لیے لازم ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر حقدار کا حق میں اسے پہنچا دوں اور اسے طلب و کتابت کی نوبت ہی نہ آئے۔

عمر بن مہاجر وغیرہ سے مروی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو کھڑے ہو کر پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا اے لوگو! قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اور آقا علیہ الصلوٰۃ والہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، میں قاضی نہیں ہوں (کہ جس کا حکم لوگوں کو ماننا لازم ہوتا ہے) بلکہ میں تو احکام جاری کرنے والا ہوں اور نہ میں کوئی نئی چیز اختراع کرنے والا ہوں بلکہ میں تو متبع ہوں اور نہ میں تم سے کسی شخص سے بہتر ہوں بلکہ تمہاری نسبت مجھ پر زیادہ بوجھ ہے۔ جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے وہ ظالم اور نافرمان نہیں اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت واجب ہی ہے۔

### خدا تعالیٰ کے ہاں

زہری سے روایت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سالم بن عبداللہ سے پوچھ بھیجا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صدقات کے متعلق کیا روش تھی۔ انہوں نے اس کا جواب لکھ بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ بھیجا اگر تم ایسا ہی عمل کرو گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں کیا کرتے تھے تو خدا تعالیٰ کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مرتبہ پاؤ گے۔

### خدا کی مدد

حماد سے مروی ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو رو پڑے اور کہنے لگے مجھے بڑا ہی خوف آ رہا ہے۔ حماد نے کہا یہ تو بتلائیے آپ کو درہم و دینار سے کس حد تک محبت ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بالکل نہیں۔ حماد نے کہا پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ خدا تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔

### کیسے حلال ہو

مغیرہ کہتے ہیں۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے بنی مروان کو جمع کیا اور فرمایا رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس باغ فدک تھا جس کی آمدنی سے آپ بنو ہاشم کے بچوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے اور ان کی بیواؤں کے نکاح کر دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ

عنها نے اس باغ کو آپ سے مانگا تو آپ نے اس کے دینے سے انکار فرمایا اور پھر وہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی میں بھی اسی طرح رہا۔ لیکن پھر مروان نے اسے اپنی جاگیر میں داخل کر لیا اور اب وہ مجھے ورثہ میں پہنچا ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کو رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کو دینے سے اعراض فرمایا وہ مجھ پر کیسے حلال ہوگا۔ اب تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جیسے وہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ باسعادت میں تھا۔

### جاگیریں ضبط

لیٹ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو آپ نے اپنے خویش و اقرباء کے پاس جو جاگیریں تھیں ضبط کر لیں اور انہیں مالِ ظلم قرار دیا۔  
خوش عیش و تنگ عیش

اسماء بن عبید کہتے ہیں۔ عنبسہ بن سعید بن عاص، عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور کہا اے امیر المؤمنین! آپ سے پہلے خلفاء ہمیں انعام دیا کرتے تھے مگر آپ نے روک لیے۔ میں عیالدار (بال بچے دار) ہوں اور ایک جاگیر بھی میرے پاس ہے، کیا آپ اذن (اجازت) دیتے ہیں کہ میں اس سے اس قدر لے لیا کروں جو میرے عیال کو کافی ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تم سے اچھا وہی ہے جو اپنی مشقت اور تکلیف سے ہمیں بچالے۔ پھر فرمایا تم موت کو اکثر یاد کیا کرو کیونکہ اگر تم سختی میں ہو گے تو خوش عیش ہو جاؤ گے اور اگر فراخی میں ہو گے تو اس سے تنگ عیش ہو جاؤ گے۔

### میں تم اور ہیرا

فرات بن سائب کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک کو کہا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو۔ یا تو وہ بے مثل اور قیمتی جوہر جو تمہارے والد نے تمہیں دیا تھا، بیت المال میں دیدو یا مجھے اذن دو میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں کیونکہ مجھے یہ بات ناپسند ہے میں تم اور وہ ہیراتیوں ایک گھر میں رہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو یہی اختیار کرتی ہوں اور وہ کیا چیز ہے؟ اس سے دُگنی مالیت کی چیز آپ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ پھر اس جوہر کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبدالملک تخت پر بیٹھا تو اس

نے آپ کی اہلیہ محترمہ سے کہا اگر تم چاہو تو میں وہ ہیرا پھر تمہیں دیدوں۔ انہوں نے کہا میں نے اسے ان کی زندگی میں بخوشی حوالہ کر دیا تھا اب ان کی موت کے بعد میں اسے لیکر کیا کروں گی؟

دیوارِ عدل کھینچو

عبدالعزیز کہتے ہیں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے بعض عاملوں نے ان کی طرف لکھا ہمارا شہر خراب ہو گیا ہے۔ اگر امیر المؤمنین ہمیں کچھ مال عطا کریں تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھا جب تم میرا یہ خط پڑھو تو اس شہر کے گرد عدل کی دیوار کھینچ دو اور ظلم سے اس کے راستوں کو پاک و صاف کر، کیونکہ یہی اس کی مرمت ہے۔ والسلام۔

ابراہیم سکونی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے اس دن سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

قیس بن جبیر کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی مثال بنو امیہ میں مومن آل فرعون جیسی ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجنے کا عہد کرتا تھا اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کا بھی عہد کیا تھا۔

وہب بن منبہ کہتے ہیں۔ اگر اس امت میں کوئی مہدی ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے۔

محمد بن فضالہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ایک راہب کے پاس سے گزرے جو ایک جزیرے میں رہا کرتا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ وہ کسی کے پاس آیا نہیں کرتا تھا۔ پھر ان سے کہنے لگا تم جانتے ہو میں کیوں تمہارے پاس آیا ہوں؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا محض اس لیے کہ تم ایک امام عادل کے بیٹے ہو اور ہم انہیں آئمہ عادلین میں ایسا پاتے ہیں جیسا کہ عزت والے مہینوں میں رجب ہے۔ (مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے تینوں مہینے پے در پے آتے ہیں اسی طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی پے در پے خلیفہ ہوئے اور جیسے رجب اکیلا آتا ہے ایسا ہی عمر بن عبدالعزیز بھی ان کے بعد تنہا خلیفہ ہوئے۔)

### سر کی اصلاح

حسن قصاب کہتے ہیں۔ میں نے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں دیکھا کہ بھٹیڑے

بکریوں کے ساتھ جنگل میں پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ! یہ عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بکریوں کو ضرر نہیں پہنچا رہا۔ چرواہے نے میری یہ بات سن کر کہا جب سر کی اصلاح ہو جائے تو بدن بھی تندرست ہو جاتا ہے۔

### کون نیک بخت؟

مالک بن دینار کہتے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو چرواہے تعجب سے پوچھنے لگے اب کون نیک بخت خلیفہ ہوا ہے کہ بھیڑیے ہماری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔  
بھیڑیا آزاد ہوا

موسیٰ بن اعین کہتے ہیں۔ ہم عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں شہر کرمان کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے اور وہیں بھیڑیے بھی پھرا کرتے تھے۔ ایک رات بھیڑیا بکری اٹھا کر لے گیا۔ میں نے خیال کیا شاید خلیفہ صالح وفات پا گیا ہو۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا واقعی اسی رات عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے۔

### بیعت کر لینا

ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص جو خراسان کا باشندہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اسے کہہ رہا ہے۔ جب بنی امیہ کا داعی آدی خلیفہ ہو تو جو جا کر اس کی بیعت کر لینا کیونکہ امام عادل ہوگا۔ وہ شخص ہر خلیفہ کا حلیہ پوچھتا رہا یہاں تک کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو متواتر تین رات تک اسے وہی شخص کہتا رہا جا اب بیعت کر لے اس پر اس نے بیعت کر لی۔

### منع فرمایا

ابن عوف کہتے ہیں کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے طلاء (شراب کی ایک قسم) کے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا امام الہدیٰ یعنی عمر بن عبدالعزیز نے اس کے پینے سے منع فرمایا ہے۔

### کوئی مہدی نہ ہوگا

حسن کہتے ہیں اگر کوئی مہدی ہوگا تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہیں ورنہ عیسیٰ ابن مریم علیہا

السلام کے علاوہ کوئی مہدی نہ ہوگا۔

مالک بن دینار کہتے ہیں۔ لوگ مجھے زاہد کہتے ہیں حالانکہ زاہد عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے پاس دنیا آئی مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا۔

یونس بن ابی شیبہ کہتے ہیں۔ میں نے قبل از خلافت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ ان کے پا جاغے کا نیفہ فریبی کے باعث ان کے پیٹ میں گھسا جاتا تھا۔ لیکن خلافت کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ بے تکلف ان کی پسلیوں کی ہڈیاں شمار کی جاسکتی تھیں۔

عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے کہتے ہیں۔ مجھ سے ابو جعفر منصور نے پوچھا جب تمہارے والد خلیفہ ہوئے تو ان کی آمدنی کیا تھی۔ میں نے کہا چالیس ہزار دینار۔ پھر اس نے پوچھا جب انہوں نے انتقال کیا اس وقت کیا آمدن تھی؟ میں نے کہا کل چار سو دینار اور اگر کچھ اور زندہ رہتے تو اس سے بھی کم ہو جاتی۔

کرتہ ہی نہیں

مسلمہ بن عبدالملک کہتے ہیں۔ میں عمر بن عبدالعزیز کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ آپ ایک میلا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبدالملک سے کہا تم ان کا کرتا دھو کر کیوں نہیں دیتیں۔ انہوں نے کہا ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کرتا ہی نہیں ہے کہ اسے اتار کر یہ اس کو پہن لیں۔

زمین قبر

ابوامیہ خصی غلام عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ ایک روز میں نے اپنے آقا کے حرم (زوجہ) کی خدمت میں شکایت کی مسور کی دال کھاتے کھاتے ناک میں دم آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے آقا امیر المؤمنین کا بھی روز کا یہی کھانا ہے۔ ابوامیہ ہی کہتے ہیں۔ ایک روز عمر بن عبدالعزیز حمام میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے موئے زہار لگوا پنے ہاتھ سے دور کیا اور جب آپ قریب المرگ ہوئے تو مجھے ایک دینار دیکر اہل دیر کے پاس بھیجا کہ ان سے کہہ دو اگر تم مجھے مری قبر کی زمین بیچ کر دو تو بہتر ہو ورنہ میں اپنی قبر کسی اور جگہ کھدوادوں۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ کسی اور جگہ قبر کھدوادیں گے تو یہ بات کبھی بھی منظور نہ کرتے۔



## انگور کی خواہش

عون بن معمر کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک روز اپنے اہلیہ سے کہا تمہارے پاس کچھ درہم ہیں کہ میں ان کا انگور لیکر کھاؤں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوڑی نہیں۔ تم امیر المؤمنین ہو۔ کیا تمہارے پاس اتنا بھی نہیں کہ انگور لیکر کھا لو۔ آپ نے فرمایا انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے، بہ نسبت اس کے کہ کل کو دوزخ کی زنجیروں میں جکڑے جائیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ فرماتی ہیں۔ جب سے آپ خلیفہ ہوئے اس وقت سے مرتے دم تک مجھے معلوم نہیں آپ کو جنابت یا احتلام کے باعث نہانے کی ضرورت پڑی ہو۔

جب گھر آتے

سہل بن صدقہ کہتے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو آپ کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا آپ نے اپنی لونڈیوں سے فرما دیا ہے میرے سر پر ایک ایسا بوجھ آ پڑا ہے میں جس میں ہر وقت مشغول رہوں گا اس لیے تمہیں اختیار ہے جو آزاد ہونا چاہے میں اسے آزاد کرتا ہوں اور جو میرے پاس رہنا چاہے میں اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اگرچہ مجھے تم سے کسی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ یہ سن کر لونڈیاں رو رہی ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو اپنے آپ کو نماز پڑھنے کی جگہ میں ڈال دیتے اور روتے رہتے اور دعا کرتے رہتے اور اسی حالت میں سو جاتے۔ پھر کچھ دیر بعد بیدار ہو کر اسی طرح رونے لگتے۔

نہیں دیکھا

ولید بن ابی السائب کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔

سعید بن سوید کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو آپ کے کرتے کے سامنے اور پیچھے پوند لگے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین! خدا تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، پھر آپ کپڑے کیوں نہیں بنواتے۔ یہ بات سن کر آپ بہت دیر تک سر جھکائے کھڑے رہے۔ پھر فرمایا بحالت تو بگری میا نہ روی اور بحالت قدرت عنو بہت بڑی چیز ہے۔

## دنیاوی طمع

میمون بن مهران کہتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز فرما رہے تھے اگر میں پچاس برس بھی تم میں رہوں تو مراتب عدل کو تکمیل پر نہیں پہنچا سکتا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے دلوں سے طمع دنیاوی کو نکال ڈالوں، مگر تمہارے دل اس بات کے متحمل نہ ہو سکیں گے۔

ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک روز طاؤس سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز مہدی ہیں؟ تو اس نے کہا وہ بیشک مہدی ہیں۔ لیکن فرق صرف اس قدر ہے کہ ابھی تک ان سے عدل پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا۔

عمر بن اسد کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں لوگوں کے غصنی کا یہ حال تھا کوئی شخص ہمارے پاس بہت سامال لیکر آتا اور کہتا کہ جہاں تمہاری مرضی ہو اسے خرچ کر دو تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مال اسے واپس لے جاتا پڑا۔ کیونکہ کسی کو ضرورت نہ ہوتی۔

جو یہ کہتی ہیں۔ ہم فاطمہ بنت علی بن ابی طالب کے پاس گئے تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی بہت تعریف کی اور فرمایا اگر وہ زندہ رہتے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی۔

## سوال ہوگا

عطاء بن رباح کہتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں۔ بیعت لینے کے بعد جب آپ گھر میں تشریف لائے اور اپنے جائے نماز پر بیٹھے تو میں نے دیکھا آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر تھی تو میں نے حیران ہو کر پوچھا خیریت تو ہے۔ آپ نے فرمایا امت محمدیہ ﷺ کے تمام کاموں کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب میں فقیر بھوکے مریض، مظلوم بچے بوڑھے کم حیثیت عمال داروغہ غیر ہم کی حالت کے بارے فکرمند ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روزان کے بارے مجھ سے سوال کرے گا اور میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے جواب نہ بن سکے گا۔ اب میں اسی فکر میں رورہا ہوں۔

## ادنیٰ مسلمان

اوزاعی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے مکان مع اشراف بنی امیہ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کسی لشکر کا مالک بنا دوں۔

ایک شخص نے کہا آپ ہم پر وہ بات پیش ہی کیوں کرتے ہیں جسے آپ پورا کرنا نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم میرے اس فرش کو دیکھتے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ ملک فنا میں گرفتار ہونے والا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے پاؤں سے یہ ناپاک ہو۔ پس میں کس طرح تمہیں اپنے دین اور مسلمانوں کے اغراض کا مالک کر دوں۔ تمہاری حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہم آپ کے قریبی نہیں؟ کیا آپ پر ہمارا حق نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس معاملہ میں ایک ادنیٰ مسلمان اور تم برابر ہو۔

حمید کہتے ہیں۔ حسن نے میری معرفت ایک خط عمر بن عبدالعزیز کو لکھا اور اپنی حاجات اور کثرت عیال کی شکایت کی۔ آپ نے انہیں انعام دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اور اذاعی کہتے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز کسی شخص کو سزا دینا چاہتے تو پہلے احتیاطاً تین دن تک اسے قید رکھتے تاکہ غصہ اور جلدی میں اسے سزا نہ دے بیٹھیں۔

جویریہ بن اسماء کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میرا نفس بڑا حریص ہے۔ جب میں نے اس کی خواہش کے مطابق اسے کچھ دیا تو اس نے اس سے بھی زیادہ کی خواہش کی اور جب میں نے اس کو دنیا کی سب سے بہتر چیز (یعنی خلافت) دی تو اس نے اس سے بھی برتر چیز یعنی جنت کی خواہش کی۔

عمرو بن مہاجر کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا روزانہ خرچ دو درہم تھا۔ یوسف بن یعقوب کاہلی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رات کو پوٹین پہنا کرتے تھے اور آپ کا چراغدان تین لکڑیوں کا تھا اور اس پر مٹی رکھی ہوئی تھی۔

### شاہی باورچی خانہ

عطاء خراسانی کہتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام کو کہا پانی گرم کر لاؤ۔ وہ جا کر شاہی باورچی خانہ سے گرم کر لایا۔ آپ کو معلوم ہوا تو ایک درہم کی لکڑیاں باورچی خانہ میں بھجوا دیں۔

عمرو بن مہاجر کہتے ہیں۔ جب تک عمر بن عبدالعزیز سلطنت کے کاروبار میں مشغول رہتے اس وقت تک آپ کے سامنے شاہی لیپ جلایا جاتا اور جب فارغ ہو جاتے تو اسے بجا کر اپنا مٹی کا چراغ جلا لیتے۔

## جور ہنا چاہے

حکم بن عمر کہتے ہیں۔ خلیفہ کے لیے تین سو گنہبان اور تین سو کو تو اول مقرر تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے انہیں کہا میری حفاظت کے لیے قضا و قدر اور موت ہی کافی ہے تمہاری ضرورت نہیں۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی میرے پاس رہنا چاہے تو اسے دس دینار تنخواہ ملے گی اور اگر نہ رہنا چاہے تو اہل و عیال میں چلا جائے۔

## ادھر ہدیہ ادھر رشوت

عمرو بن مہاجر کہتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز کو سب کھانے کی خواہش ہوئی تو آپ کے اہل بیت سے کسی نے ہدیہ آپ کو ایک سیب بھیج دیا۔ آپ نے اسے لیکر کہا اس کی خوشبو کیسی عمدہ ہے اور کیسا خوبصورت ہے۔ اے غلام ہمیں پہنچ گیا اور ہم نے اسے بہت پسند کیا۔ میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! یہ تو آپ کے چچازاد بھائی اور قرہبی نے بھیجا ہے اور آنحضرت ﷺ بھی ہدیہ کو لے لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے وہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے تو ہدیہ تھا مگر یہ ہمارے لیے رشوت ہے۔

ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کے علاوہ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تھے کبھی کسی کو دزے نہیں لگوائے اور اسے بھی فقط تین دزے لگوائے تھے۔

## حق ایک جیسا

اوزاعی کہتے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اہل بیت کی خاص تنخواہیں بند کر دیں تو انہوں نے اس امر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا میرا مال بہت کم ہے۔ اس میں اتنی گنجائش نہیں اور یہ جو دوسرا مال ہے اس میں تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی دور دراز شہر میں رہنے والے کا ہے۔

## سخ احکام

ابو عمر کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج کے کئی ایک احکام جو نہایت سخت تھے منسوخ کر دیئے۔

یہی غسانی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے موصل کا حاکم بنا تو میں نے وہاں جا کر دیکھا۔ چوری اور نقب زنی وہاں اور سب ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو تحریراً اطلاع دی اور آپ سے پوچھا لوگوں کو کھنڈن تہمت کے شبہ پر سزا دیا کروں یا شہادت (گواہی) پر فیصلہ کیا کروں کیونکہ اگر حق ان کی اصلاح نہ کرے گا تو خدا تعالیٰ بھی ان کی اصلاح نہیں کرے گا۔ تو آپ نے جواباً خط ارسال فرمایا۔ یہی کہتے ہیں۔ میں نے ایسا ہی کیا جیسے آپ نے فرمایا تھا تو اس کی برکت سے موصل میں چوری کم ہی ہوا کرتی تھی۔

رجاء بن حیوۃ کہتے ہیں۔ ایک رات میں عمر بن عبدالعزیز کے ہاں مہمان تھا۔ چراغ گل ہو گیا اور وہیں آپ کا غلام بھی سو رہا تھا۔ میں نے کہا اسے بیدار نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا! نہ۔ پھر میں نے کہا میں خود اٹھ کر چراغ جلا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مہمان کو تکلیف دینا خلاف مروّت ہے۔ پھر آپ نے خود اٹھ کر تیل کا کوزہ اٹھایا اور چراغ میں تیل ڈال کر اسے روشن کیا اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھے اور فرمایا جب میں اٹھ کر لیپ جلانے کیلئے گیا تھا اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کثرت کلام سے فخر مجھے روکتا ہے۔

### اگر کہہ دوں

مکحول کہتے ہیں۔ اگر میں حلف اٹھا کر کہہ دوں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا تو میں حائث نہیں ہو گیا۔

سعید بن عمرو ب کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ہر رات فقہاء کو جمع کرتے تھے اور وہ موت و حیات کا ذکر کرتے اور پھر سب اس قدر روتے کہ گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔

### اصلاح کر لو

عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں۔ ایک دفعہ شام میں مٹی کے منبر پر کھڑے ہو کر ہمیں عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ سنایا اور کہا اے لوگو! اپنے باطنوں کی اصلاح کر لو تمہارا ظاہر بھی درست ہو جائے گا اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرو تو دنیا بھی تمہیں کافی ہو جائے گی۔ جان لو کہ موت سب کو آنے والی ہے۔ والسلام علیکم۔

دھیب بن ورد کہتے ہیں۔ ایک دفعہ بنو مروان عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر جمع

ہوئے اور آپ کے بیٹے عبدالملک کو کہنے لگے تیرے باپ نے ہمیں مال و دولت سے محروم کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو جا کر خبر دی تو آپ نے فرمایا انہیں کہہ دو میرا باپ کہتا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب قیامت سے خوف آتا ہے۔

جاننے والا

اوزاعی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا سلف صالحین کے قول پر عمل کیا کرو کیونکہ وہ تم سے زیادہ اچھے اور زیادہ جاننے والے تھے۔

اوزاعی کہتے ہیں۔ جریر شاعر دیر تک عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر مقیم رہے اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی تو انہوں نے عون بن عبداللہ کی طرف جو عمر بن عبدالعزیز کے خاص مصاحب تھے یہ شعر لکھے:

يَا أَيُّهَا الْقَارِي الْمُرْحَى عِمَامَتُهُ هَذَا زَمَانُكَ إِنِّي قَدْ مَضَى زَمَانِي  
ترجمہ: اے قاری جو اپنے عمامہ کو لٹکائے ہوئے ہے یہ تیرے مقرب کا زمانہ ہے اور ہمارا زمانہ گزر گیا۔

أَبْلَغَ خَلِيفَتِنَا إِنْ كُنْتَ لِاقِبِهِ إِنِّي لَدَى الْبَابِ كَالْمَصْفُودِ فِي قَرْنِ  
ترجمہ: اگر تو ہمارے خلیفہ سے ملے تو اسے کہہ دینا میں تمہارے دروازے پر قیدی کی طرح کھڑا ہوں۔

مبارک باد

جویریہ بن اسماء نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو بلال ابن ابی بردہ نے آ کر آپ کو مبارک باد دی اور کہا پہلے لوگوں کو خلافت نے زینت دی تھی مگر آپ نے اس کو زینت بخشی ہے اور آپ ایسے ہی ہیں جیسے مالک بن اسماء نے کہا ہے:

وَتَسْرِيْدِيْنِ طَيْبِ الطَّيْبِ طَيْبًا إِنْ تَمَسَّيْتَهُ أَيْنَ مِثْلِكَ أَيْنَا  
ترجمہ: اگر تو کسی کو ہاتھ سے چھوئے تو اس کی خوشبو کو زیادہ کر دیتی ہے۔ بس تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟

وَإِذَا السُّدْرُ زَانَ حُسْنٍ وَجُؤِهِ كَمَا لِلدَّرِّ حُسْنٌ وَجُؤِهِكَ زَيْنَا  
ترجمہ: موتی اگر چہ خوبصورتی زیادہ کرتا ہے لیکن تمہارے چہرے سے موتی کو زینت ملتی ہے۔

## تعریف کیوں؟

جونہ کہتے ہیں۔ جب عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز فوت ہوا تو عمران کی تعریف کرنے لگے تو اس پر مسلمہ نے کہا اے امیر! اگر وہ زندہ رہتے تو کیا آپ اس کو ولی عہد بنا دیتے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ مسلمہ نے کہا پھر آپ اس کی اس قدر تعریف کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس طور پر دیکھتا ہوں کہ میں اس کو بحیثیت بیٹا ہونے کے ہی اچھا سمجھتا ہوں یا وہ واقعی اچھا تھا اور دوسرے بھی اسے اچھا سمجھتے تھے۔

غسان قبیلہ اسد کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ اور اسے سب چیزوں سے زیادہ اختیار کر اس سے تیری سختی دور ہو جائے گی اور اس کا تجھے اچھا بدلہ ملے گا۔

## اپنی جگہ

ابو عمر بیان کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید کی صاحبزادی عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئیں تو آپ ان کے استقبال کیلئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کی ہر حاجت کو پورا کر دیا۔

## فکر قرآن میں

حجاج بن عمنہ کہتے ہیں۔ ایک دن بنو مروان نے جمع ہو کر کہا چلو آج مزاح مزاح میں امیر المؤمنین کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ یہ منسوبہ باندھ کر وہ سب آپ کے پاس آئے اور ایک شخص نے مزاح کوئی بات کہی اور جب عمر بن عبدالعزیز نے اس کی طرف دیکھا تو دوسرے نے بھی اس کی تائید کر دی اس پر آپ نے کہا کیا تم ایسی ذلیل باتوں کے لیے جمع ہو۔ ایسی باتیں جو کینہ پیدا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب کبھی جمع ہوا کرو تو قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرو اور اگر اس سے بھی آگے بڑھنا چاہو تو سنت رسول ﷺ میں غور و خوض کیا کرو اور اگر اس سے بھی آگے جانا چاہو تو حدیث کے معانی میں غور کیا کرو۔

## اوزار نہ ہوں

ایاس بن معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال ایک اعلیٰ درجہ کے صنایع کی سی ہے جس کے پاس اوزار نہ ہوں، یعنی ان کا کوئی معاون موجود نہیں ہے جو ان کا ہاتھ بٹائے۔

## بھلائی پر

عمر بن حفص کہتے ہیں۔ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب تم کبھی کسی مسلمان شخص سے بات سنو تو جب تک اسے بھلائی پر محمول کرنے کی طاقت اور محل ہو اسے کسی برائی پر محمول نہ کیا کرو۔

یحییٰ غسانی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز سلیمان بن عبدالملک کو خاریجیوں کے قتل کرنے سے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب تک وہ توبہ نہ کریں تب تک انہیں قید میں رکھو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک خارجی سلیمان کے پاس لایا گیا تو اس نے اس سے پوچھا اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا اے فاسق ابن فاسق میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو بلائیں۔ جب وہ آئے تو کہنے لگائیں یہ کیا کہتا ہے؟ خارجی نے پھر وہی الفاظ دہرائے تو سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو آپ خاموش رہے تو سلیمان نے کہا میں تمہیں قسم دلا کر پوچھتا ہوں بتلائیں اس کے ساتھ کیا عمل کیا جائے؟ تو آپ نے کہا میری رائے تو یہی ہے جیسی اس نے مجھے گالی دی ہے ویسی ہی آپ بھی اسے دے لو۔ سلیمان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس خارجی کے قتل کا حکم دیا اور عمر بن عبدالعزیز وہاں سے چلے آئے۔ پیچھے سے خالد کو تو ابھی آپ سے آ ملا اور کہنے لگا آپ نے تو عجیب ہی رائے دی تھی کہ جیسی اس نے دی ویسی گالی ہی اسے بھی دے لی جائے۔ مجھے تو امید تھی امیر اس کے ساتھ آپ کے قتل کا بھی حکم دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر وہ حکم کرتے تو تم مجھے قتل کر دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے اور آپ کے سامنے خالد اپنے مرتبہ و مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے خالد یہ تلوار رکھ دو اور پھر فرمایا۔ اے اللہ میں نے تیری رضامندی سے خالد کو برخواست کیا ہے تو کبھی اسے کسی مرتبہ پر نہ پہنچانا۔ پھر عمرو بن مہاجر انصاری کو بلا کر کہا اے عمرو تم جانتے ہو میرا تم سے کوئی رشتہ و قرابت نہیں، صرف قرابت اسلام ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ تم اکثر تلاوت قرآن کرتے رہتے ہو اور تم ایسی جگہ



نماز پڑھتے ہو جہاں تمہارا خیال تھا مجھے کوئی نہ دیکھے گا اور تم قبیلہ انصار سے ہو اس لیے یہ تلوار اٹھا لیجئے۔ میں نے آپ کو اپنا کوتوال مقرر کر لیا ہے۔

### اندیشہ ہے

شعیب کہتے ہیں۔ ایک روز عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے والد سے پوچھا اے امیر المؤمنین! جب قیامت کے دن آپ کو یہ سوال ہوگا کہ تم نے بدعت کی بیخ کنی اور احیائے سنت کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا اے بیٹا! خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ اس زمانہ کے لوگ موافق بدعت اور خلاف سنت کام کرنے پر متل گئے ہیں۔ اگر میں ان کی مخالفت کروں تو خونریزی کا اندیشہ ہے اور مجھے دنیا کا زوال اس بات سے بہت آسان ہے کہ ایک چلو بھر خون بھی بہایا جائے۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا باپ ہر روز بدعتوں کو مٹانے اور سنت کو جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

### راہ فلاح

معر کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے جو شخص لڑائی، جھگڑے اور غصے سے بچا رہا وہ فلاح پا گیا۔

### یہ بھی دعا ہے

ارقاۃ منذر کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز سے کہا گیا اگر آپ اپنے لیے کوئی محافظ مقرر کر لیں اور کھانے پینے میں احتیاط کریں تو بہتر ہو تو آپ نے فرمایا اے اللہ! اگر میں قیامت کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں تو مجھے اس خوف سے امن میں نہ رکھنا۔

عدی بن فضل کہتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز خطبہ فرما رہے تھے اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کیلئے مارے مارے نہ پھرو کیونکہ اگر تم میں سے کسی کا رزق پہاڑ کی چوٹی پر یا زمین کے نیچے دبا ہوا ہوگا تو وہ اسے پہنچ کر رہے گا۔

### پیوندگی قیص

ازہر کہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عمر بن عبدالعزیز خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی قیص میں کئی جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔

## کلماتِ خطبہ

عبداللہ بن علاء کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ہر جمعہ میں ایک ہی خطبہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے پہلے یہ سات کلمے کہا کرتے تھے۔ وہ کلمات مندرجہ ذیل ہیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا  
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ  
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ عَوَى -

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس سے ہی مدد چاہتے ہیں اور اس سے ہی ہم بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور جس کو اللہ راہ (صحیح راہ) دکھاتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نظر رحمت پھیرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ تنہا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کی۔ تحقیق اس نے درست راہ پائی اور جس نے اللہ اور اس کے رسول پاک ﷺ کی نافرمانی کی۔ تحقیق وہ گمراہ ہو گیا۔

(ترجمہ صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی ولد حضرت علامہ مولانا محمد۔ اصغر قادری سلطانی نور اللہ مرقدہ گاؤں کھوسر شریف منڈی بہاء الدین 593331-0456)

ان کلمات کے بعد آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور جو کچھ کہنا ہوتا وہ فرماتے اور خطبہ کے آخر میں یہ آیات پڑھتے یا عبادی الذین اسرفوا تمسک و تاخر

حاجب بن خلیفہ برجی کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز کے خطبہ پڑھنے کے دوران آیا تو آپ فرما رہے تھے۔ اے لوگو! جو کچھ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے دونوں اصحاب یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ تھا، ہم اسی کے ساتھ تمسک

(عمل) کریں گے اور ان کے علاوہ جو کسی کا طریقہ ہے اسے مؤخر کریں گے۔ (مذکورہ بالا تمام روایات کو ابو نعیم نے علیہ میں روایت کیا ہے۔)

مبارک و اچھا طریقہ

ابن عساکر ابراہیم بن ابی عیبلہ سے راوی ہیں۔ ہم عید کے روز عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے تو دیکھا لوگ آکر آپ کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ آپ انہی الفاظ سے انہیں جواب دیتے جاتے ہیں اور ذرا بھی کشیدہ خاطر (آزرہ) نہیں ہوتے تھے۔ میں (مصنف) کہتا ہوں کہ عید نئے سال یا مہینے کی مبارک باد کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔

### وسط میں رہنا

جونہ کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عمرو بن قیس سکونی کو صائفہ کا حاکم مقرر فرمایا اور بھیجتے وقت ان کو فرمایا وہاں کے نیک لوگوں کی بات سننا اور بروں سے تبادر کرنا اور ان کے آگے بڑھنے والوں سے ہونا کہ بزدل ہو جاؤ گے بلکہ ان کے وسط میں رہنا جہاں سے سب لوگ تمہیں دیکھیں اور تمہاری آواز سن سکیں۔

### عدل اور حق

سائب بن محمد سے مروی ہے۔ جراح بن عبداللہ نے عمر بن عبدالعزیز کی طرف لکھا خراسان کے لوگ بہت برے ہیں۔ اب وہ تلوار اور دڑے کے علاوہ درست نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ پسند کریں تو مجھے اس امر کی اجازت دیدیں۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا۔ مجھے تمہارا خط ملا۔ تم نے جو یہ لکھا ہے اہل خراسان تلوار اور دڑے کے علاوہ درست نہیں ہو سکتے غلط ہے بلکہ عدل و حق ان کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ان میں پھیلاؤ۔ والسلام۔

### زبان کے شر سے

امیہ بن زید قرشی سے مروی ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نہ سے خط لکھوانے لگتے تو کہتے اے اللہ! میں اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

## کتاب سابقہ

صالح بن جبیر سے مروی ہے۔ کبھی ایسا اتفاق ہوتا میں کوئی بات کہتا تو عمر بن عبدالعزیز مجھ سے خفا ہو جاتے تو پھر میں دل میں کہتا کتب سابقہ میں لکھا ہے جو ان بادشاہ کے غصے سے ڈرنا چاہئے اس لیے آپ سے نرمی سے باتیں کرتا ہوں اور جب غصہ فرو ہو جاتا تو مجھے فرماتے اے صالح حالت غصہ میں ہم سے بات چیت کرنے میں خوف نہ کیا کرو مگر جب وہ حق ہو۔

ذکر رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

عبدالکبیر بن محمد مخزومی سے مروی ہے۔ جریر بن حطیف عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو اس نے کچھ اشعار سننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری چاہی تو آپ نے اسے منع فرمادیا۔ اس نے کہا میں تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر سننے حاضر ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ نے اسے بلوایا تو اس نے یہ اشعار پڑھے۔

إِنَّ الَّذِي ابْتَعَتْ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا جَعَلَ الْخِلَافَةَ لِلْأَمِيرِ الْعَادِلِ  
ترجمہ: جس ذات نے محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے اس نے خلافت عادل امیر کے ہاتھ میں دی ہے۔

رَدَّ الْمَظَالِمَ حَقَّهَا بِبِقِينِهَا عَنْ جُورِهَا وَأَقَامَ مِثْلَ الْمَائِلِ  
ترجمہ: اس امیر نے مظالم اور جور کو خلافت حق کے ساتھ دور کر دیا ہے اور کج رو کی کجی کو سیدھا کر دیا ہے۔

إِنِّي لَأَرْجُو مِنْكَ خَيْرًا عَاجِلًا وَالنَّفْسُ مُغْرَمَةٌ بِحُبِّ الْعَاجِلِ  
ترجمہ: میں تجھ سے ایسا انعام چاہتا ہوں جو جلدی مل جائے کیونکہ انسان کا نفس جلدی مل جانے والی چیز پر مائل اور فریفتہ ہوا کرتا ہے۔

آپ نے یہ اشعار سن کر کہا کتاب اللہ میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا یا امیر المؤمنین یہ بات ٹھیک ہے مگر میں ابن السبیل ہوں۔ یہ سن کر آپ نے اسے اپنے خاص مال سے پچاس دینار انعام دیا۔

## مراد فقہ اکبر

طیوریات میں ہے۔ حریر بن عثمان رجبی مع اپنے والد کے عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں آیا تو آپ نے ان سے ان کے بیٹے کا حال پوچھا اور پھر فرمایا اسے فقہ اکبر سکھاؤ۔ انہوں نے پوچھا فقہ اکبر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قناعت کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔

## ایک درّہ تک

ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں محمد بن کعب قرظی سے روایت کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے بلا کر پوچھا عدل کی کیا تعریف ہے۔ میں نے کہا بہت خوب۔ آپ نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ عدل یہ ہے چھوٹوں سے باپ کی طرح اور بڑوں سے بیٹوں کی طرح اور اپنے جیسوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح اور عورتوں سے اس طرح سلوک کرنا اور لوگوں کو ان کے گناہ اور جرموں کے موافق سزا دینا۔ اپنے غصہ کے سبب کسی کو ایک درّہ تک نہ لگانا۔ بس ان باتوں کا نام عدل ہے۔

## بات چیت اعمال

عبدالرزاق زہری سے روایت کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ہر اس چیز کو کھانے سے وضو کرتے تھے جو آگ سے پئی ہوتی، حتیٰ کہ شکر کھانے سے بھی وضو کیا کرتے تھے۔ وہیب سے مروی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے جو شخص اپنے اعمال بات چیت کرنے کو خیال کرے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔

## دعا قبول ہوئی

ذہبی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ایک غیلان نامی شخص نے قدر کا انکار کیا۔ آپ نے اسے بلا کر توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا میں گمراہ تھا۔ آپ نے مجھے ہدایت کی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ! اگر یہ سچا ہے تو بہتر ورنہ اس کے ہاتھ پیر کٹ جائیں اور یہ سولی پر چڑھا دیا جائے چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ہشام بن عبدالملک کے دور میں اس نے پھر وہی عقیدہ پھیلا نا شروع کیا تو اس نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر اسے دمشق میں سولی پر چڑھایا۔

یہ آیت

مردی ہے۔ بنو امیہ خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی کیا کرتے مگر جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو آپ نے اس بات کو بند کر دیا اور اپنے تمام ناسین کے نام حکم لکھ بھیجا۔ ان خلاف ادب الفاظ کی بجائے یہ آیت پڑھی جایا کرے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ (پ 14 سورہ نحل آیت 90) ترجمہ: بیشک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا۔

(ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان: صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

پس اس آیت کا پڑھنا اب تک خطبوں میں جاری ہے۔

وفات سے قبل

قالی اپنے امالی میں لکھتے ہیں۔ احمد بن عبید سے مروی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی وفات سے قبل یہ اشعار کہے تھے:

## اشعار

اِنَّهُ الْفُؤَادُ عَنِ الصَّبَا      وَعَنِ الْقِيَادِ لِلْهُوَى

ترجمہ: اپنے دل کو فریفتگی سے منع کرو اور خواہشات نفسانی کی تابعداری سے اسے روک۔

فَلَعَمْرُ رَبِّكَ اِنَّ فِي      شَيْبِ الْمَفَارِقِ وَالْجَلَا

ترجمہ: تیرے رب کی عزت کی قسم ہے بے شک بڑھاپے بڑھاپے اور سر کی صفائی میں۔

لَكَ وَاِعْظَا لَوْ كُنْتَ      تَتَّعِظُ اِتِّعَاظَ ذَوِي النَّهْيِ

ترجمہ: اتر اگر تو صاحب عقل ہے تو تیرے لیے نصیحت ہے اور تو صاحب عقل وہوش کی

طرح نصیحت قبول کرے۔

حَتَّى مَتَى لَا تَسْرُعُو      وَالسَى مَتَى وَالسَى مَتَى

ترجمہ: اور تو کب تک باز نہ آئے گا۔ کب تک باز نہ آئے گا اور کب تک۔

مَا بَعْدَ اِنْ سُمِّيتَ كَهْلًا      وَاسْتَلْبِثْتَ اِسْمَ الْفَتَى

ترجمہ: جب تو بوڑھا ہو جائے گا تجھ سے ”جوان“ کا نام چھین لیا جائے گا۔

بَلَى الشَّبَابُ وَاَنْتَ اِنْ      عَمَرْتَ رَهْنَا لِلْبَلَا

ترجمہ: جوانی پھر واپس نہیں آئے گی اور تو اگر چہ بہت عرصہ تک زندہ رہے پھر مصیبت

میں پھنس جائے گا۔

وَكَفَىٰ بِذَٰلِكَ زَاجِرًا  
لِلْمُرءِ عَن غَيِّ كَفَىٰ

ترجمہ: آدمی کیلئے یہی تغیر و تبدل کافی ہے اور یہ لہو و لعب کی فرصت نہیں دیتا۔

فائدہ: معاہدہ لطف المعارف میں لکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مروان بن حکم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کہ یہ اصلع تھے۔ ان کے بعد کوئی خلیفہ اصلع نہیں ہوا۔

فائدہ: زبیر بن بکار کہتے ہیں۔ ایک شاعر نے فاطمہ بنت عبد الملک زوجہ عمر بن عبدالعزیز

کی شان میں کہا:

بِنْتُ الْخَلِيفَةِ وَالْخَلِيفَةُ جَدُّهَا  
أُخْتُ الْخَلِيفِ وَالْخَلِيفَةُ زَوْجُهَا

ترجمہ: وہ خلیفہ کی بیٹی ہے اور اس کا دادا بھی خلیفہ ہے اور وہ خلیفوں کی بہن ہے اور اس کا

خاندان بھی خلیفہ ہے۔

### مرض اور وفات

ایوب کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز سے کہا گیا آپ مدینہ میں ہوتے اور وہیں انتقال ہوتا تو آنحضرت ﷺ کے مزار مبارک کے قریب جو جگہ چوتھی قبر کی ہوتی، وہاں آپ کو دفنایا جاتا۔ آپ نے فرمایا عذاب دوزخ کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ سب عذاب مجھ پر ڈال دیتا تو میں اس بات سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس بات کے لائق سمجھوں۔

### ایسا نہ کرنا

ولید بن ہشام کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز سے بحالت بیماری کہا گیا آپ دوا کیوں نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا جس وقت مجھے زہر پلایا گیا تھا، اس وقت اگر کوئی مجھ سے اتنا بھی کہتا میں اپنے کان کو ہاتھ لگانے یا فالن خوشبو سونگھنے سے اچھا ہو جاؤں گا تو بھی ایسا نہ کرتا۔

عبید بن حسان کہتے ہیں۔ جب آپ قریب المرگ ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ، چنانچہ سب لوگ اٹھ گئے اور مسلمہ اور فاطمہ دونوں دروازے میں بیٹھ گئے تو انہوں نے سنا آپ نے فرمایا۔ مرحبا ہے ان صورتوں کیلئے جو نہ انسانوں کی ہیں اور نہ جنوں کی پھر یہ آیت پڑھی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ۔ (پ 20 سورة القصص آیت 83) ترجمہ: یہ

آخرت کا گھر۔ (ترجمہ و حوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد مہر سیالوی)  
اس کے بعد پھر آواز نہ آئی۔ جب اندر جا کر دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر گئی تھی۔  
دنیا کا بہتر •

ہشام کہتے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی وفات کی خبر پہنچی تو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج دنیا کا سب سے بہتر آدمی اٹھ گیا۔

خالد ربیع کہتے ہیں۔ ہم تو رات میں لکھا دیکھتے کہ عمر بن عبدالعزیز پر چالیس دن تک زمین و آسمان رونیں گے۔

یوسف بن مالک کہتے ہیں۔ جب ہم عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے تو ایک کاغذ آسمان سے گرا جس میں لکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ کی آگ سے نجات دی گئی ہے۔

### خلیفہ کی طرف

قائد کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بعد خلیفہ کی طرف اس طرح خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے بندے عمر سے یزید بن عبدالملک کی طرف تم پر سلام ہو۔ اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں یہ خط تمہیں نہایت ہی تکلیف کی حالت میں لکھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں مجھ سے میرے زمانہ حکومت کے بارے سوال ہونے والا ہے اور سوال بھی وہ کرے گا جو دنیا و آخرت کا مالک ہے۔ میں اس سے اپنی کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں ہمیشہ کی رسوائی سے فلاح پاؤں گا اور اگر ناراض ہو تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میں اس خدائے واحد سے دعا کرتا ہوں اپنے فضل و کرم سے مجھے آگ سے بچائے اور خوش ہو کر مجھے جنت نصیب کرے۔ تمہیں لازم ہے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رعیت کی رعایت کرو کیونکہ تم بھی میرے بعد تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہو گے۔ والسلام۔ (ان سب روایات کو ابونعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔)

### عدل کرنے پر

حضرت عمر بن عبدالعزیز دیر سمعان میں جو مضافات حمص سے ہے بتاریخ بیس یا پچیس ماہ جب 101 ہجری ہمر اتالیس سال فوت ہوئے۔ آپ کو بنو امیہ نے زہر دلوایا تھا کیونکہ



آپ نے ان پر سختی کی تھی اور جو کچھ انہوں نے بذریعہ غضب جمع کیا تھا وہ سب کچھ ان سے چھین لیا تھا چونکہ آپ نے اپنی حفاظت کرنی بالکل چھوڑ دی تھی اس لیے انہوں نے آپ کو آسانی سے زہر پلوا دیا تھا۔

### آزادی کا وعدہ

مجاہد کہتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے پوچھا لوگ میرے بارے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو کہتے ہیں آپ مسکور ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ پر جادو تو نہیں کیا گیا اور اس وقت کو بخوبی جانتا ہوں جس میں مجھے زہر پلایا گیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا افسوس ہے تجھے کس چیز نے مجھے زہر پلانے پر برا بیخیز کیا ہے۔ اس نے کہا ایک ہزار دینار دیئے گئے ہیں اور آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دیناروں کو لاؤ۔ جب وہ لایا تو آپ نے انہیں بیت المال میں رکھوا دیا اور اس غلام سے کہہ دیا یہاں سے ایسی جگہ بھاگ جاؤ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔

آپ کے عہد خلافت میں حسب ذیل علماء فوت ہوئے:

ابو امامہ، اسلم بن حنیف، خاحہ بن زید بن ثابت، سالم بن ابی جعد، بسر بن سعید، ابو عثمان نہدی، ابو النعمان۔

## یزید بن عبدالملک بن مروان

یزید بن عبدالملک بن مروان بن حکم ابو خالد اموی دمشق 71 ہجری میں پیدا ہوا اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد اپنے بھائی سلیمان کی وصیت کے مطابق تخت نشین ہوا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

عبدالرحمن بن یزید بن اسلم کہتے ہیں۔ جب یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز کے قدم بقدم چلو لیکن چند روز کے بعد چالیس سفید ریش لوگوں نے گواہی دی خلیفہ وقت جو چاہے کرے نہ اس سے حساب لیا جائے گا اور نہ اس کو عذاب ہوگا۔

ابن یاشون کہتے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تو یزید نے کہا عمر سے بڑھ کر میں اللہ کا محتاج ہوں۔ پھر وہ چالیس روز تک ان کے قدم بقدم چلا لیکن پھر اس طریقے کو چھوڑ دیا۔

## خدا تعالیٰ سے ڈرنا

سلیم بن بشر کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے وفات سے ذرا قبل یزید بن عبدالملک کی طرف خط لکھا۔ السلام علیک: اما بعد جو میرا حال ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ پس تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا تعالیٰ سے ڈرنا کیونکہ تو دنیا کو اس شخص کے حوالہ کرے گا جو تیری تعریف نہ کرے اور ایسے شخص کے پاس جائے گا جو تیرا عذر (دھوکہ) قبول نہ کرے گا۔

والسلام۔

## موضع عقیر

102 ہجری میں یزید بن مہلب خلیفہ سے باغی ہو گیا تو اس کی سرکوبی کے لیے مسلمہ بن عبدالملک بن مروان کو مقرر کیا جس نے یزید کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ یہ جنگ موضع عقیر میں ہوئی جو کربلا کے قریب ہے۔ کلبی کہتے ہیں۔ نیش لوگوں سے سنا کرتا تھا بنو امیہ نے کربلا میں بزرگان دین کو اور مقام عقیر میں کرم و احسان کو ذبح کر ڈالا۔

## ستاروں کے نام

یزید ماہ شعبان 105 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے عہد خلافت میں حسب ذیل علماء فوت ہوئے:

ضحاک بن مزاحم عدی بن ارطاة، ابوالتوکل ناجی، عطاء بن یسار، مجاہد یحییٰ بن وثاب، خالد بن معدان، شعیب جو عالم عراق تھے، عبدالرحمن بن حسان بن ثابت، ابوقلابہ جری، ابوردہ بن ابوموسیٰ اشعری وغیرہم رحمہم اللہ۔

## ہشام بن عبدالملک

ہشام بن عبدالملک ابوالولید 70 اور 80 ہجری کے درمیان پیدا ہوا اور اپنے بھائی یزید کی وصیت کے موافق خلیفہ ہوا۔

مصعب زہیر کہتے ہیں۔ عبدالملک نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں نے محراب میں چار مرتبہ پیشاب کیا ہے۔ صبح کو سعید بن مسیب سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا آپ کی اولاد سے چار بیٹے بادشاہ ہوں گے چنانچہ ہشام ان میں سے آخری تھا۔

## حق ادا کر دیا ہے

ہشام نہایت دانا اور زیرک تھا۔ بیت المال میں اس وقت تک مال داخل نہ کیا کرتا تھا جب تک چالیس شخص حلفیہ نہ کہہ دیا کرتے تھے یہ مال اپنے حق میں لیا ہے اور ہر ایک صاحب حق کا حق ادا بھی کر دیا ہے۔

## خلیفہ کی بات

اصمعی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ہشام سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا اپنے خلیفہ کی بات بھی تو سن لو اور ایک دفعہ ہشام سے ایک شخص پھر خفا ہوا تو کہا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کوڑا لگاؤں۔

## نہیں ملا

سبل بن محمد کہتے ہیں۔ میں نے ہشام سے بڑھ کر خوزیری کو مکروہ سمجھنے والا خلیفوں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہشام کہا کرتا تھا مجھے دنیا کی تمام لذتیں حاصل ہیں۔ مگر ایک ایسا بھائی کہ میرے اور اس کے درمیان جو سختی ہو اسے رفع کر دیتا، نہیں ملا۔

## ایک دن بھی

شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب ہشام نے قسریں میں ایک مکان بناوایا اور چاہا کہ اس مکان میں ایک دن اس طرح رہوں کہ مجھے کوئی فکر نہ ہو۔ ابھی آدھا دن گزرا تھا کہ کسی سرحد سے ایک خون میں رنگا ہوا ایک پر آیا اس نے دیکھ کر کہا افسوس! عمر میں ایک دن بھی ایسا نہ ملا۔

کہتے ہیں یہ ایک شعر ہشام کا ہے مزید اس کے شعر نہیں ملے:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهُوَى فَادَّكِ الْهُوَى    إِلْسِي بَعْضِ مَا فِيهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

ترجمہ: اگر تو خواہش نفسانی کی نافرمانی نہ کرے گا تو وہ تجھے ایسے امور کی طرف کھینچ کر

لے جائے گی جس میں لوگوں کو تجھ پر گفتگو کا موقع مل جائے گا۔

## انتقال ہشام

ہشام نے ماہ ربیع الآخری 125 ہجری میں انتقال کیا۔

107 ہجری میں قیصر یہ فتح ہوا اور 108 ہجری میں حجرہ فتح ہوا اور 112 ہجری میں

حرسنہ جو جزیرہ مالٹا میں ہے فتح ہوا۔ حسب ذیل علماء اس کے عہد میں فوت ہوئے:

سالم بن عبد اللہ بن عمر طاؤس، سلیمان بن یسار، عکرمہ مولا ابن عباس، قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم، کثیرہ غرہ شاعر، محمد بن کعب قرظی، حسن بصری، محمد بن سیرین، ابوالطفیل عامر بن وائل صحابی، جریر، فرزدق، عطیہ عوفی، معاویہ بن قرہ، مکحول، عطاء بن ابی ریح، ابوجعفر باقر، وہب بن منبہ، سکیبہ بنت حسین، اعراج، قتادہ، نافع مولا ابن عمر، ابن عامر، ابن شہاب زہری وغیرہم رحمہم اللہ۔

ناراض کیوں ہیں؟

ابن عساکر ابراہیم بن ابی عیملہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہشام نے چاہا مجھے خراج مصر کی تولیت پر مقرر کر دے۔ مگر میں نے انکار کیا تو وہ اس بات سے بہت غصے ہوا اور تیز تیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہا اس عہدہ کو منظور کر لو ورنہ زبردستی تمہیں منظور کرنا ہی پڑے گا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو رہا۔ جب اس کا غصہ فرو ہو تو میں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا ہاں کہو۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَيْنَ اَنْ يُحْمِلْنَهَا۔ (پ 22 سورۃ الاحزاب آیت 72) ترجمہ: بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی۔ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان، صاحبزادہ محمد بشیر سیالوی)

جب اس انکار سے خدا ان سے ناخوش نہیں ہوا تو آپ میرے انکار سے کیوں ناراض ہوتے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہنس پڑا اور مجھے معاف کر دیا۔

خالد بن صفوان سے مروی ہے۔ میں ہشام بن عبد الملک کے پاس بطور مہمان آیا تو اس نے مجھ سے کہا ابن صفوان! کوئی بات سناؤ۔ میں نے کہا ایک دفعہ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا قصر خورنق میں جا نکلا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ کا۔ پھر اس نے کہا جو کچھ میرے پاس ہے وہ کبھی کسی اور کے پاس بھی تم نے دیکھا ہے؟ ایک تجربہ کار اور داناشخص بھی ساتھ تھا اس نے کہا جب آپ نے ایک بات پوچھی ہے کیا آپ اس کا جواب دینے کا اذن (اجازت) دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا جو کچھ

سامان آپ کے پاس ہے ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا؟ یا یہ بطور میراث آپ کو ملا ہے؟ اور آپ کے بعد اسی طرح کسی دوسرے کو ملنا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میرے بعد کسی کے پاس چلا جائے گا اس شخص نے کہا پھر یہاں ایسی چیز پر کیا غرور کرتے ہیں؟ جو آپ کے پاس تھوڑا سا زمانہ رہے گی اور پھر ہمیشہ کیلئے چلی جائے گی۔ پھر آپ سے اس کا حساب ہوگا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہا پھر کیا کرنا چاہئے اور کس طرح بھاگنا چاہئے۔ اس شخص نے کہا پھر دو باتیں ہیں یا تو آپ اللہ کی تابعداری کریں اور اس کی رضامندی کے مطابق لوگوں میں حکم کریں۔ نہیں تو تخت و تاج کو چھوڑ کر پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں اور خدا تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بادشاہ نے کہا آج کی رات مجھے سوچ لینے دو۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ اس شخص کے پاس آیا اور کہا میں نے اس پہاڑ اور میدانوں کو عبادت کے لیے بہتر سمجھا ہے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ پس اگر تو میرا رفیق ہے تو میری مخالفت نہ کر بلکہ میرے ساتھ چل۔ یہ کہہ کر دونوں پہاڑ پر چلے گئے اور آخر وہیں فوت ہوئے۔ اسی میں عدی بن زید بن حمار نے یہ اشعار کہے ہیں:

أَيْهَا السَّامِثُ الْمَعِيرُ بِالذَّهْرِ      أَنْتَ الْمُعِيرُ الْمَوْفُورُ  
ترجمہ: اے دشمنوں کی مصیبت سے خوش ہونے والے زمانے کو عیب لگانے والے کیا تو عیب سے بری اور کامل ہے۔

أَمْ لَدَيْكَ الْعَهْدُ لَوَيْقٍ مِنَ الْإِيَّامِ      بَلْ أَنْتَ جَاهِلٌ مَغْرُورٌ  
ترجمہ: کیا تو نے زمانے سے مضبوط عہد لکھوا لیا ہے بلکہ تو جاہل اور مغرور ہے۔

مَنْ رَأَيْتَ الْمُنُونَ خَلَدْنَ أَمْ      مَنْ ذَا عَلَيْهِ أَنْ يُضَامَ خَفِيرٌ  
ترجمہ: جو ادب زمانہ کس کے لیے ہمیشہ رہے ہیں۔ اگر نگہبانوں پر ظلم کیا جائے تو اس کا کون ضامن ہے؟

أَيْنَ كِسْرَى كِسْرَى الْمُلُوكِ أَبُو      سَاسَانَ أَمْ أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُورُ  
ترجمہ: شہنشاہ کسریٰ ابو ساسان کہاں ہے؟ اور اس سے پہلے سابور کہاں ہے؟

وَبَسُوا لَا صَفَرَ الْكِرَامِ مُلُوكِ      الرُّومَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ مَذْكُورُ  
ترجمہ: اور اصراف کے بیٹے روم کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہا جس کا ذکر کیا جائے۔

وَأَخُو الْحَضْرَةِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ جَعَلَهُ تَجِبِي إِلَيْهِ وَالْحَابُورُ  
ترجمہ: اور حضر کو بنانے والا کہاں ہے؟ جس کے پاس سے دجلہ بہتا تھا۔ اور خابور کے  
بنانے والا کہاں ہے؟

شَادَةَ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كُلَّمَا فَلِلطَّيْرِ فِي ذَرَاهُ وَكُورُ  
ترجمہ: جسے سنگ مرمر سے تعمیر کروایا ہے اور اس کے اوپر کلس بنوایا تھا اور اب جانوروں  
نے اس میں گھونسلے بنائے ہوئے ہیں۔

لَمْ يَهَبْهُ رَبُّ الْمُنُونِ فَبَادَ التَّمْلِكُ عَنْهُ فَبَاءَهُ مَهْجُورُ  
ترجمہ: حوادثِ زمانہ نے اسے نہ چھوڑا اور اس کا ملک جاتا رہا اور اس کے دروازے پر  
کوئی آتا جاتا نہیں۔

وَتَذَكِّرُ رَبُّ الْخَوَورِ نَقِي إِذَا شَرَفَ يَوْمًا وَلِلْهُدَى تَذَكِيرُ  
ترجمہ: اور محلِ خورنق کے بنانے والوں کو یاد کر۔ جب اس دن اس نے ہدایت کے ساتھ  
شرف بخشایا دیا جائے۔

سَرْمَالُهُ وَكَثْرَةُ مَا يَمْلِكُ وَالْبَعْرُ مَعْرِضُ وَالسَّيْبِزُ  
ترجمہ: جس چیز کا وہ مالک تھا۔ یعنی اس کی کثرت اور اس کے مال نے اس کو مغرور بنا دیا  
اور اس کے پاس محل سے سمندر دریائے سدیر بہتا ہے۔

فَأَزَعَوِي قَلْبُهُ وَقَالَ وَمَا غَبَطَةُ حَبِي إِلَى الْمَمَاتِ يَصِيرُ  
ترجمہ: مگر پھر اس کا دل بھبر گیا اور کہنے لگا جس نے مرنا ہو وہ کیا خوش کر سکتا ہے۔

ثُمَّ بَعْدَ الْفَلَاحِ وَالْمُلْكِ وَالْأُمَّةِ وَأَزْنَهُمْ هُنَاكَ الْقُبُورُ  
ترجمہ: پھر وہ اس طرح ہو گئے جیسے کہ خشک پتہ ہوتا ہے اور اسے ہوا ادھر سے ادھر اڑائے  
پھرتی ہے۔

یہ اشعار سن کر ہشام رو پڑا حتیٰ کہ اس کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس نے اپنی  
لڑکیوں کو حکم دیا میرا بستر لپیٹ دو اور کئی روز تک محل سے باہر نہ نکلا۔ ارکانِ دولت اور نوکر چاکر  
خالد بن صفوان کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے کیا کیا؟ امیر کے آرام میں خلل انداز ہوئے۔  
اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے کہ جب کسی بادشاہ

کے پاس جاؤ نگا تو اس کو یاد خدا کی طرف متوجہ کرونگا۔

### ولید بن یزید بن عبد الملک

ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان بن حکم خلیفہ فاسق ابو العباس 90 ہجری میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ کی وفات کے وقت کم عم تھا اس لیے خلیفہ نہ بنایا گیا بلکہ اس کے باپ نے اپنے بھائی ہشام کو خلیفہ بنایا اور اس کے بعد اس کو (یعنی ولید) ولی عہد بنایا اور جب ہشام فوت ہوا تو ولید ربیع الاخری 125 ہجری میں خلیفہ ہوا۔ نہایت فاسق و فاجر شراب نوش اور منہیات کا ارتکاب کرنے والا تھا یہاں تک کہ اس نے اس ارادے سے حج کا قصد کیا کہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پیئے گا۔ لوگ جو اس کے فسق و فجور سے پہلے ہی اکتائے ہوئے تھے اس کے اس ارادے سے اور بھی برا فروختہ ہوئے اور جمادی الاخری 126 ہجری میں اسے قتل کر ڈالا۔

### ہم پیالہ ہم نوالہ

کہتے ہیں جب وہ محاسرہ میں آ گیا تو کہنے بولا تم مجھ پر یہ ظلم کیوں کرنے لگے ہو۔ کیونکہ میں نے تمہارے وظائف میں اضافہ نہیں کیا؟ کیا میں نے تم سے تختیوں کو ختم نہیں کر دیا؟ کیا تمہارے غرباء کی خبر گیری نہیں کی؟ لوگوں نے کہا یہ سب کچھ درست ہے مگر ہم تو تمہیں سے نوشی و محرمات سے نکاح کرنے اور حرام چیزوں کے حلال کرنے کے جرم میں قتل کرتے ہیں۔ لوگوں نے قتل کے بعد اس کا سر یزید ناقص کے پاس بھیج دیا اور اس کے سامنے اسے نیزے پر لٹکایا گیا۔ اس کے بھائی سلیمان بن یزید نے اسے دیکھ کر کہا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک چاہئے تھا کیونکہ یہ نہایت فاسق و فاجر اور شرابی تھا اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہم پیالہ و نوالہ کرنا چاہتا تھا۔

### مجموعہ

معانی جریری کہتے ہیں۔ میں نے ولید کے کچھ حالات قلمبند کیے تھے۔ اس کے تمام اشعار حماقت، بسکری اور الحاد و کفر کا مجموعہ تھے۔

### کفر و زندقہ

ذہبی کہتے ہیں۔ ولید کا کفر و زندقہ تو ثابت نہیں ہاں وہ مے نوشی اور لواطت میں مصروف

ہو گیا۔ اس لیے لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔

### اللہ کا خلیفہ ہو

ایک دفعہ مہدی کے پاس ولید کا ذکر ہوا تو کسی نے کہا وہ تو زندیق تھا۔ مہدی نے کہا، چپ رہو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہو کر زندیق ہو جائے۔

### اگر زندہ رہتے

مروان بن ابی حفصہ کہتے ہیں۔ ولید نہایت خوبصورت اور اعلیٰ درجے کا شاعر تھا۔ ابوالزناد کہتے ہیں۔ زہری ہشام کے پاس ہمیشہ ولید کی شکایت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اس کو ولی عہد کرنا کسی طرح جائز نہیں بلکہ اس سے خلع کرنا چاہئے۔ لیکن ہشام یہ نہ کر سکا۔ اگر زہری خلافت ولید تک زندہ رہتے تو ان پر سخت ظلم کیا جاتا۔ مگر وہ اس کی خلافت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔

### ولید کی نظم

نخاک بن عثمان کہتے ہیں۔ ہشام نے ولید کے خلع کا ارادہ کیا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے لڑکے کو ولی عہد بنائے۔ اس پر ولید نے یہ نظم لکھ کر بھیجی:

### نظم

كَفَرْتَ يَدَا مِنْ مُنْعِمٍ لَوْ شَكَرْتَهَا جَزَاكَ بِهِ الرَّحْمَنُ بِالْفَضْلِ وَالْمَنِّ  
ترجمہ: تو نے اپنے منعم کے احسان کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر تو اس کا شکر کرتا تو خدا تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں بزرگی عطا فرماتا۔

رَأَيْتَكَ تَبْنِي جَاهِدًا فِي قَطِيعَتِي وَلَوْ كُنْتَ ذَا حَزْمٍ لَهَدَمْتَ مَا تَبْنِي  
ترجمہ: میں دیکھ رہا ہوں میری جاگیر میں تو مکان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تو ہوشیار ہوتا تو اسے منہدم کرتا۔

أَرَاكَ عَلَى الْبَاقِيْنَ تَجْنِي ضَعِيفَةً فَيَا وَيَسْخَمُ أَنْ مِثَّ مِنْ شَرِّ مَا تَجْنِي  
ترجمہ: میں دیکھتا ہوں کہ تو باقی ماندوں پر کینہ کشی کرتا ہے۔ جب تو مر جائے گا تو اس کینہ سے ان پر خرابی آئے گی۔



كَانَسِيْ بِهِمْ يَوْمًا وَاكْثَرَ قِيْلَهُمْ اَلَا لَيْتَ اَنَا حَيْنَ يَأْتِيَتْ لَا تَغْنِيْ

ترجمہ: مجھے گویا ان کا وہ دن نظر آ رہا ہے جبکہ وہ یہ بات بار بار کہیں گے کاش میں حاکم نہ

بنایا جاتا۔

فکر نہ ہوا

حماد الروایت کہتے ہیں۔ ایک دن ولید کے پاس دو نجومی آئے اور کہا ہم نے بموجب حکم آپ کا زائچہ دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ سات سال مزید زندہ رہیں گے۔ حماد کہتے ہیں۔ ولید دھوکے ہی میں نہ رہے تو اس لیے میں نے کہا یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ مجھے بھی کئی طرح کے علوم آتے ہیں جن سے معلوم ہوا ہے آپ چالیس سال تک زندہ رہیں گے۔ ولید نے تھوڑی دیر تامل کرنے کے بعد کہا مجھے ان دونوں کے قول سے کچھ فکر پیدا نہیں ہوا اور تمہاری بات سے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی کیونکہ میں نہ تو مال کو اس شخص کی طرح جمع کرتا ہوں جسے زندہ رہنے کی امید ہو اور نہ ہی اس شخص کی طرح خرچ کرتا ہوں جسے کل ہی مرجانے کی امید ہو۔

فرعون سے بھی بڑھ کر

امام احمد اپنی مسند میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ اس امت میں ایک ولید نامی شخص ہوگا اور اپنی قوم کے لیے فرعون سے بھی بڑھ کر ہوگا۔

بے باک گنہگار

ابن فضل اللہ نے مسالک میں لکھا ہے۔ ولید بن یزید جبار کینہ ور جس ہنڈیا میں کھائے اسی میں چھید کرنے والا جھوٹے وعدے کرنے والا اس زمانے کا فرعون اپنے زمانے کو مصائب سے بھرنے والا فاسق و فاجر قاتل سفاک قرآن مجید کو نیزوں سے چھید کرنے والا اور گناہوں میں نہایت بے باک تھا۔

## قصیدہ میادہ

صولی سعید بن سلیم سے روایت کرتے ہیں۔ ابن میادہ نے ولید بن یزید کو اپنا وہ قصیدہ

سنایا جس میں کہتا ہے:

فَضَلْتُمْ قُرَيْشَ غَيْرَ اِلِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرَ بَنِي مَرْوَانَ اَهْلُ الْفَضَائِلِ

ترجمہ: آل محمد ﷺ کے اور ابن مروان اور اہل فضاائل کے علاوہ تم تمام قریش سے افضل ہو۔  
ولید نے اس شعر کو سن کر کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم نے آل محمد ﷺ کو ہم پر مقدم کر دیا ہے۔  
ابن میادہ نے کہا ہاں اس کے علاوہ اور کوئی بات جائز نہیں۔ اسی ابن میادہ نے اپنے ایک طویل  
قصیدے میں جو ولید کے بارے کہا لکھا ہے:

هَمَمْتُ بِقَوْلٍ صَادِقٍ أَنْ أَقُولَهُ      وَإِنِّي عَلَى رَغْمِ الْعُدَاةِ لِقَائِهِ  
ترجمہ: میں نے سچی بات کہنے کا قصد کر لیا ہے۔ میں اس کو کہہ ہی دوں گا اگرچہ دشمن اس  
سے راضی نہ ہو۔

رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدٍ مُبَارَكًا      شَدِيدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهِلُهُ  
ترجمہ: اور وہ بات یہ ہے میں نے ولید بن یزید کو بابرکت دیکھا ہے۔ خلافت کے بوجھ کو  
اٹھانے کے لائق۔ اس کے کندھے بہت سخت ہیں۔

## یزید الناقص ابو خالد بن ولید

یزید ناقص ابو خالد بن ولید بن عبد الملک چونکہ اس نے لشکر کی تنخواہیں کم کر دی تھیں اس  
لیے یزید ناقص کے لقب سے ملقب ہوا۔ اپنے چچا زاد بھائی ولید کو قتل کر کے تخت پر براجمان  
ہوا۔ اس کی والدہ شاہ فرزند بنت فیروز یزدجرد تھی اور فیروز کی والدہ شیرویہ بن کسریٰ کی بیٹی تھی  
اور شیرویہ کی والدہ ترکوں کے بادشاہ خاقان کی بیٹی تھی اور فیروز کی دادی قیصر روم کی بیٹی تھی اسی  
لیے یزید نے بطور فخر یہ شعر کہا ہے:

أَنَا ابْنُ كِسْرَى وَأَبِي مَرْوَانَ      وَقَيْصَرَ رُومِ وَجَدِّي خَاقَانَ

ترجمہ: میں کسریٰ کا بیٹا اور مروان کا باپ ہوں اور قیصر روم میرا دادا اور خاقان میرا نانا ہے۔

شعابی کہتے ہیں۔ یزید ناقص ملک و خلافت دونوں کے لحاظ سے عراقی تھا جبکہ یزید نے  
ولید کو قتل کیا۔

ورغلانے کیلئے

جب یزید نے ولید کو قتل کیا تو منبر پر کھڑے ہو کر کہا۔ واللہ میں مغرور نہیں ہوں اور نہ مجھے  
دنیا کی حرص ہے نہ ملک کی خواہش۔ اگر خدا تعالیٰ مجھ پر رحم نہ کرے تو میں سخت گنہگار ہوں۔

میں نے خلافت کا قصد محض خدمت دین اور قرآن شریف اور سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف لوگوں کو بلانے کیلئے کیا ہے کیونکہ ہدایت کے نشان مٹ گئے ہیں اور اہل تقویٰ کے نور بجھ گئے ہیں اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو بدعات اور ہوائے نفسانیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میں نے ایسا حال دیکھا تو مجھے تم پر رحم آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کثرت ذنوب اور قسادت قلبی سے تم پر اندھیرا چھا جائے جس کا دور کرنا مشکل ہو جائے اور ولید تمام کو اپنا ہم پیالہ وہم نوالہ ہی نہ بنائے۔ پس میں نے اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اجانب (یعنی بیگانے لوگ وغیرہ) کو اس میں مدد کے لیے بلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس بلا سے ہمیں آرام دیا۔ یہ خدا کی ہی بادشاہت ہے کسی کو بھی خدا کے علاوہ قوت و قدرت نہیں۔ اے لوگو! میں تمہارے اوپر اس لیے حاکم بنایا گیا ہوں تاکہ تمہاری ایک اینٹ اور ایک پتھر بھی ضائع نہ ہونے دوں۔

### لوگوں کو بنایا

میں کسی شے سے بھی مال نہ لوں گا، حتیٰ کہ سرحدی رخنہ بندی نہ ہو جائے اور مصالح امور نہ سوچ لوں اور سرحد کو مضبوط نہ کر لوں۔ اگر اس کے بعد مال بیچ رہا تو اس کو شہر کی صلاح و فلاح میں خرچ کر دوں گا اور تم سب اس میں برابر حصہ دار ہو گے۔ اگر تم ان باتوں پر مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا ضامن ہوں گا اور میں ان باتوں سے ذرا بھی پھروں تو تمہارے لیے بیعت کرنا لازم نہیں ہے اور اگر مجھ سے بہتر قوی تر اور کسی اعلیٰ شخص کو دیکھتے ہو تو سب سے پہلے میں اس کی بیعت کرتا ہوں۔ اب میں تمہارے اور اپنے لیے خدا تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔

### ہتھیار لگا کر

عثمان بن ابی عاتکہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ولید ہی ہتھیار لگا کر عیدین پڑھنے کے لیے نکلا، چنانچہ اس دن قلعہ کے دروازے سے لیکر مسجد کے دروازے تک دو رو یہ ہتھیار بند سوار کھڑے ہوتے تھے۔ تب یزید کی سواری نکلتی تھی۔

### گانے سے دور رہنا

ابو عثمان لیشی کہتے ہیں۔ یزید ناقص نے کہا اے بنی امیہ! خبردار گانے بجانے کے پاس بھی نہ پھٹکنا یہ حیا کو کم کرتا ہے اور شہوت کو زندہ کرتا ہے اور مردّت کو کم کرتا ہے اور یہ نمر

(شراب) کے قائم مقام ہے اور بدستوں کے سے کام کرواتا ہے۔ اگر تم نہ رہ سکو تو اس میں عورتوں کو نہ آنے دیا کرو کیونکہ غمی (گانا) زنا کی طرف بلایا کرتا ہے۔

### مرض طاعون سے

ابن عبدالحکیم کہتے ہیں۔ میں نے شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا ہے۔ جب ولید بن یزید خلیفہ ہوا تو اس نے عقیدہ قدریہ کی اشاعت اور لوگوں کو اس پر مستحکم کر دیا اور انہیں اپنا مقرب بنایا۔ یزید کو زیادہ سلطنت کرنا نصیب نہ ہوا بلکہ اسی سال 7 ذی الحجہ کو فوت ہوا اور صرف چھ ماہ خلافت کی۔ اس کی اس وقت 35 برس یا 46 برس کی عمر تھی۔ کہتے ہیں یہ طاعون کی مرض سے مرا تھا۔

## ابراہیم بن ولید بن عبد الملک

اس کا نام ابراہیم بن ولید بن عبد الملک تھا اور اس کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ اپنے بھائی یزید ناقص کے مرنے کے بعد خلیفہ ہوا۔ بعض کہتے ہیں اسے یزید نے ولی عہد بنایا تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں۔  
جعلی وصیت نامہ

برد بن سنان کہتے ہیں۔ میں یزید بن ولید کے پاس ایسے حال میں آیا وہ قریب المرگ تھا۔ اتنے میں قطن بھی وہاں آ پہنچے اور کہا میں ان سب لوگوں کی طرف سے جو آپ کے دروازے کے باہر ہیں اپنی بن کر آ رہا ہوں۔ وہ تمام خدا کے لیے یہ پوچھتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی ابراہیم کو خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ یہ سن کر یزید خفا ہوا اور کہا میں نے کب ابراہیم کو خلیفہ بنایا ہے۔ پھر کہا اے ابو العلماء تمہاری رائے میں کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا آپ اس میں دخل ہی نہ دیں۔ اس کے بعد اسے غش آ گیا اور ایسا خیال ہوا کہ مر گیا ہے۔ قطن نے وہیں بیٹھ کر یزید کی زبان سے ایک جعلی وصیت نامہ لکھا اور لوگوں کو بلا کر اس پر گواہ بنالیا اور حقیقت یہ تھی کہ یزید نے کوئی بھی وصیت نہ کی تھی۔ ابراہیم صرف ستتر دن تک خلیفہ رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے مروان بن محمد کی بیعت کر لی اور ابراہیم بھاگ گیا۔ مگر پھر آ کر اس نے خلافت سے دستبرداری کی اور اسے مروان کے حوالہ کیا اور اس کی بیعت کر لی۔ ابراہیم 132

ہجری تک زندہ رہا اور آخر واقعہ سفاح میں بنی امیہ کے ساتھ یہ بھی قتل ہوا۔

## ماں کی طرف سے

ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں۔ ابراہیم نے زہری سے احادیث سنیں اور اپنے چچا ہشام سے روایت کیں اور اس سے اس کے بیٹے یعقوب نے روایت کیں۔ اس کی ماں ام ولد تھی اور ماں کی طرف سے یہ مروان حمار کا بھائی تھا۔ اس نے بروز سوموار 24 صفر 127 ہجری میں سلطنت چھوڑی۔

مدائنی کہتے ہیں۔ ابراہیم کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ بعض تو کہتے ہیں وہ ولی عہد تھا اور بعض اس سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے:

تَبَايَعُ ابْرَاهِيمُ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ      اَلَا اِنَّ اَمْرًا اَنْتَ وَاَلَيْهِ ضَائِعُ  
ترجمہ: ابراہیم کی ہر جمعہ میں بیعت کی جاتی ہے۔ جس امر کا تو والی ہو گا وہ درست نہیں رہ سکتا بلکہ وہ ضائع ہو جائے گا۔

کہتے ہیں کہ ابراہیم کی انگوٹھی کا نقش ”ثیق باللہ“ تھا۔

## مروان الحمار

مروان حمار ابو عبد الملک بن محمد بن مروان بن حکم خلفائے بنی امیہ کا آخری خلیفہ ہے۔ لقب اس کا جعدی تھا کیونکہ یہ جعد بن درہم کا شاگرد تھا اس لیے اسی طرف منسوب ہوا۔ حمار کے ساتھ ملقب ہونے کی دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ دشمنوں کے مقابلہ کرنے میں اس کے گھوڑے کا خوگیر کبھی پسینہ سے نہیں سوکھا تھا بلکہ مدتوں ان کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ عرب میں مثل مشہور ہے ”فلاں شخص گدھے سے بھی زیادہ صابر ہے“ کیونکہ یہ جنگ کی سختی پر صبر کرتا رہا اس لیے اس لقب سے یاد کیا گیا۔

دوسری وجہ یہ بتلائی گئی ہے۔ اہل عرب کا دستور تھا ہر صدی کے بعد خاندان کے ورثاء میں سے ایک کا نام حمار رکھ دیا کرتے تھے کیونکہ اس زمانہ میں بنو امیہ کی سلطنت کے سو برس گزر چکے تھے اس لیے اس کا لقب حمار رکھ دیا گیا۔

## قبر سے سولی پر

مروان 72 ہجری میں جزیرہ میں جہاں اس کا باپ امیر تھا پیدا ہوا۔ اس کی ماں ام ولد تھی۔ تخت نشین ہونے سے قبل ولایات جلیلہ کا حکم رہا۔ 105 ہجری میں تو نہ یہ کوفت کیا۔ شاہسواری، مردانگی، ہوشیاری اور سختی برداشت کرنے میں معروف تھا۔ جب ولید قتل ہوا تو اس وقت یہ آرمینیا میں تھا۔ اس نے اس وقت اکثر مسلمانوں سے بیعت لی اور جب اسے یزید کے مرنے کی خبر ملی تو اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا اور لوگوں کو بے انتہا عطیے دیئے اور ابراہیم کو شکست دیکر خود تخت سنبھال لیا۔ 127 ہجری ماہ صفر میں لوگوں نے اس سے بیعت کی اور سب سے اول جو کام کیا وہ یہ تھا کہ یزید ناقص کی لاش کو اس جرم میں کہ اس نے خلیفہ ولید کو قتل کر لیا تھا، قبر سے نکلوا کر سولی پر چڑھا دیا۔ چونکہ ہر طرف سے دشمن اس پر چڑھ آئے تھے۔ اس لیے چین سے تخت پر نہ بیٹھا یہاں تک کہ 132 ہجری میں بنو عباس نے بسر کردگی عبداللہ بن علی (جو سفاح کا چچا تھا) اس پر چڑھائی کی اور موصل کے قریب دونوں لشکروں میں مٹ بھینٹ ہو گئی جس میں مروان کو شکست ہوئی اور وہ شام کی طرف بھاگ آیا۔

## قریبہ بوسیر

مگر عبداللہ نے اس کا تعاقب کیا اس لیے مروان وہاں سے بھاگ کر مضر چلا گیا۔ مگر وہاں بھی عبداللہ کے بھائی صالح نے اس کا تعاقب کیا اور قریبہ بوسیر کے قریب ان میں لڑائی ہوئی جس میں مروان قتل ہوا۔ یہ واقعہ ماہ ذی الحجہ میں ہوا۔

مروان حمار کے عہد خلافت میں حسب ذیل علماء فوت ہوئے:

سدی الکبیر مالک بن دینار، عاصم بن ابی الجعد، یزید بن ابی حبیب، شیبہ بن نصاح، محمد بن مکندر، ابو جعفر یزید بن قعقاع، ابو ایوب سختیانی، ابو الزناد، ہمام بن منہ، واصل بن عطاء، معتزلی۔

## بلی اور زبان

صولی محمد بن صالح سے روایت کرتے ہیں۔ جب مروان حمار قتل ہوا تو عبداللہ بن علی کی طرف اس کا سر بھیجا گیا۔ اس نے دیکھ کر علیحدہ رکھ دیا تو ایک بلی آ کر اس کی زبان کھانے لگی۔ اس پر عبداللہ نے کہا اگر ہم تمام عمر میں یہی عجیب بات دیکھتے کہ بلی مروان کی زبان کھا رہی ہے تو ہمارے لئے کافی تھا۔ (یعنی یہ نہایت ہی عجیب بات ہے۔)

## عباسیوں کی سلطنت

### خلیفہ سفاح

ابوالعباس سفاح عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ 108 یا 104 ہجری میں بلقاء کے مقام جمہد میں پیدا ہوا اور وہیں پرورش پائی۔ اس سے کوفہ میں بیعت کی گئی۔ اس کی والدہ رانطہ حارثیہ تھی۔ اپنے بھائی ابراہیم بن محمد سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے چچا عیسیٰ بن علی نے روایت کی ہے۔ اپنے بھائی منصور سے (ابوالعباس) چھوٹا تھا۔

### مٹھیاں بھر بھر

احمد رحمہ اللہ تعالیٰ مسند میں ابوسعید خدری سے راوی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اخیر زمانے میں جبکہ فتنے ظاہر ہوں گے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا اسے سفاح کہا جائے گا۔ وہ لوگوں کو مٹھیاں بھر بھر کر مال عطا کرے گا۔

### قاری قرآن

عبید اللہ شیبی کہتے ہیں۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے علماء سے سنا وہ کہتے تھے۔ بخدا اب سلطنت بنی عباس کو مل گئی ہے اور زمین بھر میں ان سے بڑھ کر کوئی قرآن کا قاری اور مجاہد نہیں۔

### آخر کار خلافت

ابن جریر طبری کہتے ہیں جس روز سے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا آخر کار خلافت تمہاری اولاد میں آ جائے گی۔ اس وقت سے بنو عباس خلافت کے امیدوار چلے آتے تھے۔

### ایک بات

رشید بن کریم کہتے ہیں۔ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حنیفہ شام کی طرف گئے تو انہیں

رستے میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ملے تو انہوں نے کہا آپ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں۔ مگر وہ کسی اور کونسل بتانی اور وہ یہ کہ یہ سلطنت جس کی خواہش کر رہے ہیں آخر آپ کو ہی ملے گی۔ محمد بن علی نے کہا یہ بات ہے تو آپ نے مجھے تو بتلا دی مگر کسی اور کو نہ بتلائیے گا۔

### متولی امر خلافت

مدائنی کئی لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ امام محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہمیں تین اوقات میں سلطنت کی امید تھی۔ ایک تو یزید بن معاویہ کے مرنے کے بعد اور دوسرے ان کے سو سال گزرنے کے بعد اور تیسرے افریقہ کی بد نظمی کے بعد اور یقین تھا کہ ان اوقات میں لوگ ہمیں بلائیں گے اور ہمارے مددگار بنیں گے۔ جب یزید بن مسلم افریقہ میں قتل ہوا تو محمد نے ایک شخص کو خراسان بھیج کر کہا اے بھیا تم لوگ محمد ﷺ کی طرف رجوع کرو۔ لیکن کسی کا نام نہ لیا۔ پھر ابو مسلم خراسانی وغیرہ کو خط دیکر وہاں کے امراء کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ لیکن یہ بات ابھی پختہ نہ ہونے پائی تھی کہ امام محمد نے انتقال کیا اور اپنے بیٹے ابراہیم ولی عہد کو قید کر دیا اور بعد ازاں قتل کر دیا۔ ان کے بعد ان کے بھائی عبداللہ سفاح سے لوگوں نے بتاریخ 3 ربيع الاول 132 ہجری میں کوفہ میں بیعت کی۔ انہوں نے لوگوں کو وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ فرمایا۔ سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اسلام کو اپنا دین منتخب فرمایا اور اس کو شرف و عظمت عطا کی اور ہمارے لیے اس کو پسند کیا اور ہم کو اس کی تائید کی توفیق دی اور ہم کو اس کا اہل اور اس کا قلعہ بنایا اور اس سے مکروہات کو دور کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آیات قرآنی سے اپنی قرابت ثابت کی اور پھر کہا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو اپنے پاس بلا یا تو امر خلافت کے صحابہ کرام متولی ہوئے۔

### نیکیاں مباح دشمن ہلاک

اور ان کے بعد بنو حرب و بنو مردان اٹھ کھڑے ہوئے اور ظلم پر کمر باندھ لی اور فتنے برپا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک ان کو مہلت دی۔ مگر انہوں نے خدا تعالیٰ کو شکستین کیا تو خدا نے ہمارے ہاتھوں سے ان سے انتقام لیا اور ہمیں ہمارا حق واپس دیا تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ان کے زمانہ میں ضعیف ہو چکے تھے۔ جس بات کو خدا تعالیٰ نے ہمارے ہی



خاندان میں شروع کیا اسے ہمارے ہی خاندان میں ختم کر دیا۔ ہم اہل بیت کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہی ہے اور اے اہل کوفہ تم لوگ ہماری محبت کا محل اور ہماری موڈت کی منزل ہو۔ اب تم اس سے پھر نہیں اور ظالموں کے ظلم کے باعث باز نہ رہو (یعنی پھر نہ جاؤ) کیونکہ تم ہمارے ساتھ تمام لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے والے اور ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میں نے تمہارے عطیات میں سوسو کی ترقی کر دی ہے۔ پس تم تیار ہو جاؤ۔ میں وہ سفاح ہوں جو نیکیوں کو مباح کرنے والا اور دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔

### مغرب اقصیٰ

عیسیٰ بن علی کہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے حمیہ سے نکل کر کوفہ کو جانے کا قصد کیا تو چودہ نہایت دلیر اور باہمت مردان کی حمایت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب مردان کو سفاح کی بیعت کی خبر ملی تو وہ بھی مقابلہ کے لیے نکلا مگر آخر قتل ہو گیا اور اس کے ساتھ بنو امیہ کے لاتعداد آدمی بھی قتل ہو گئے اور سفاح مغرب اقصیٰ تک تمام ممالک پر قابض ہو گیا۔

ذہبی کہتے ہیں۔ سفاح کی خلافت میں اتفاق کا شیرازہ کھم گیا اور تفرقہ پڑ گیا چنانچہ طاہرہ اور طہنہ سے لیکر بلاد سوڈان تک کا تمام علاقہ اس کے قبضہ سے نکل گیا اور اندلس بھی اس کے زیر حکومت نہ رہا۔ جو شخص غالب ہوتا تھا وہ ان ممالک پر قابض ہو جاتا تھا۔

### انباردار الخلفاء

سفاح نے بھاو ذی الحج 136 ہجری میں چچک کی مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کیا وہ اپنے بھائی ابو جعفر کو ولی عہد مقرر کر گیا تھا۔ 134 ہجری میں اس نے انبار کو دار الخلفاء بنایا تھا۔

### ہر حال میں بہتر

صولی کہتے ہیں۔ سفاح کہا کرتا تھا جب قدرت بڑھ جاتی ہے تو شہوت کم ہو جاتی ہے نیز کہا کرتا تھا کہ سب سے کمینے لوگ وہ ہیں جو بخل کو احتیاط اور حلم کو ذلت تصور کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کرتا تھا جب حلم مفسد ٹھہرے تو کوئی نقصان واقع نہ ہو اور بادشاہ کو ست نہ کر دے۔ آہستگی ہر حال میں بہتر ہے۔ مگر جب فرصت ملے اس وقت نہیں چاہئے۔

### خلاف نہ کرتا

صولی کہتے ہیں۔ سفاح نہایت ہی صحیح تھا۔ جب کسی سے وعدہ کر لیتا تو کبھی بھی اس کے

خلاف نہ کرتا اور جب تک اسے ادا نہ کر لیتا اپنی جگہ سے نہ ہلتا۔

### جاؤ لے جاؤ

ایک دفعہ عبداللہ بن حسن نے سفاح سے کہا میں نے ایک لاکھ درہم سن ہی رکھے ہیں کبھی دیکھے نہیں۔ سفاح نے اسی وقت ایک لاکھ درہم منگوا کر ان کے سامنے رکھوا دیئے اور حکم دیا جاؤ انہیں اپنے گھر لے جاؤ۔

### نقش خاتم سفاح

سفاح کا نقش ”خاتم اللہ ثقہ عبداللہ وہ یومن“ تھا۔ اس کے اشعار مشہور نہیں ہیں۔

### جنتا حق ہے

سعید بن مسلم باہلی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن حسن ایک دفعہ سفاح کے پاس آئے اور اس وقت مجلس بنی ہاشم اور امراء سے بھری تھی اور سفاح کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ انہوں نے آ کر کہا اے امیر المؤمنین! جو کچھ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے ہمارا حق مقرر کیا ہے وہ ہمیں دلائیے۔ سفاح نے کہا آپ کے پڑا دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھ سے بدرجہا بہتر اور عادل تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں حسن و حسین آپ کے دادوں کو جو تمام لوگوں سے بہتر تھے، تھوڑا سا دیا تھا اس لیے لازم ہے میں بھی آپ کو امانتی دوں زیادہ کہ آپ حقدار نہیں ہیں۔ وہ یہ جواب سن کر چلے گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ لوگ سفاح کی اس حاضر جوابی سے حیران رہ گئے۔

### عظیم الشان سلطنت

مورخین کا قول ہے۔ دولت بنی عباس میں اسلام کا شیرازہ بکھر گیا اور عربوں کا نام و فخر سے خارج ہو گیا اور ان کی بجائے ترکوں کو رکھا گیا یہاں تک کہ وہ دہلیم پر قابض ہو گئے اور ان کی ایک عظیم الشان سلطنت بن گئی اور ممالک کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر حصہ میں الگ بادشاہ مقرر ہو گیا جو لوگوں پر ظہر و ظلم کرتا تھا۔

### خوزیری میں

سفاح خوزیری میں بہت جلدی کیا کرتا تھا اور یہی حال اس کے عمال کا تھا لیکن باوجود اس کے نہایت صحیح تھا۔ اس کے دور میں حسب ذیل علماء فوت ہوئے:

زید بن مسلم، عبداللہ بن ابی بکر بن حزم، ربیعہ الرازی، فقیہ اہل مدینہ، عبدالملک بن عمر، یحییٰ بن ابی اسحاق حضرمی، عبدالحمید کا تب المشہور جو بصرہ میں مروان کے ساتھ ہی قتل کیا گیا، منصور بن متمر، ہام بن منبجہ۔

## منصور بن ابوجعفر عبداللہ

منصور ابوجعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ اس کی والدہ سلامہ بربر یہ ام ولد تھی۔ یہ 95 ہجری میں پیدا ہوا اور اپنے دادا کو دیکھا۔ مگر اس سے روایت نہیں کی بلکہ روایت اپنے باپ اور عطابن یسار سے کی۔ اس سے اس کے بیٹے مہدی نے روایت کی۔ اس کے بھائی کی وصیت کے مطابق اس سے بیعت کی گئی۔ بنی عباس کے تمام خلفاء میں سے از روئے بیعت و شجاعت رائے اور دبدبے کے لحاظ سے بڑھا ہوا تھا۔ مال جمع کرنے کا اسے بڑا شوق تھا اور کھیل کود کے پاس بھی نہ پھٹکتا تھا۔ کامل العقل اور ادب و فقہ میں اعلیٰ مرتبہ رکھتا تھا۔ بتکثروں کو قتل کر کے اپنا تسلط جمایا۔

### فتویٰ دینے پر

اس نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو عہدہ قضا سے انکار کرنے پر پڑوایا تھا۔ پھر انہیں قید کروایا جس کے بعد چند روز بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خروج کرنے کا فتویٰ دیدیا تھا اس لیے اس نے انہی زہر دلوادیا۔

### پانی پیسہ تک

منصور نہایت فصیح و بلیغ اور پُرگوٹھخص تھا، امارت کو پسند کرتا تھا اور نہایت حریص و بخیل تھا۔ چونکہ اپنے ملازموں سے پانی پیسہ تک کا حساب لے لیا کرتا اس لیے اسے ابوالدانیق کہتے تھے۔

### ہم میں سے

خطیب شحاک سے اور ابن عباس راوی ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہم میں سے ہی سفاہ ہوگا اور ہم میں سے ہی منصور مہدی ہوگا۔ (ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث منکر و منقطع ہے۔)

## ہم سے ہی منصور

خطیب ابن عساکر و ابن عباس وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہم سے ہی سفاح اور ہم سے ہی منصور مہدی ہوگا (اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں) ظلم و سخاوت

ابن عساکر سید اسحاق بن ابی اسرائیل ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے۔ ہم سے قائم اور ہم سے ہی منصور اور سفاح بھی ہم سے ہی ہوگا اور ہم سے ہی مہدی ہوگا اور قائم تو خونریزی کے بغیر خلیفہ ہوگا اور مشورہ کی رائے کبھی رد نہ کی جائے گی اور سفاح خونریزی بھی کرے گا اور سخاوت بھی اور مہدی زمین کو اسی طرح عدل سے پر کر دیگا جیسے وہ پہلے ظلم سے پر ہوگی۔

## وہاں رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام

منصور سے مروی ہے۔ میں نے ایک رات خواب دیکھا گویا میں حرم میں ہوں اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور اس کا دروازہ کھلا۔ یکا یک ایک شخص نے آواز دی عبد اللہ کہاں ہیں؟ اس پر میرا بھائی ابو العباس کھڑا ہوا اور سیڑھی پر چڑھ کر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا تو اس کے پاس ایک نیزہ تھا جس کے ساتھ سیاہ پھریرا تھا جو تقریباً چار ہاتھ لمبا تھا۔ اس کے بعد آواز آئی عبد اللہ کہاں ہیں؟ تو میں سیڑھی پر چڑھ کر اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہوں وہاں رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے آپ نے وعدہ لیا اور اپنی امت کے لیے وصیت فرمائی اور میرے سر پر عمامہ باندھا جس کے میرے سر پر تیس بیچ آئے۔ اس کے بعد فرمایا: اے خلفاء کے باپ یہ لیکر جا۔

## بیعت پر مائل

منصور آغا 137 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا اور سب سے قبل ابو مسلم خراسانی کو جس نے لوگوں کو بنو عباس کی بیعت پر مائل کیا تھا اور ان کی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، قتل کرا دیا۔

## اہل علم و عدل سے

138 ہجری میں عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان اموی اندلس پر قابض ہوا اور اس کے بعد اس کی اولاد قریباً چار سو برس تک وہاں بادشاہی کرتی رہی۔ یہ عبدالرحمن اہل علم و عدل سے تھا اور والدہ اس کی بربر یہ تھی۔

دنیا کے مالک

ابوالمظفر ایبوری کہتے ہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے بربریوں کے دونوں بیٹے یعنی منصور اور عبدالرحمن بن معاویہ دنیا کے مالک ہوئے ہیں۔

## بنیاد شہر بغداد

140 ہجری میں منصور نے شہر بغداد کی بنیاد ڈالی۔

## فرقہ ریوندیہ

141 ہجری میں فرقہ ریوندیہ ظاہر ہوا۔ یہ لوگ تباخ کے قائل تھے۔ پس منصور نے ان کو قتل کر ڈالا اور اسی سال طبرستان فتح ہوا۔

## زبانی تعلیم و تعلم

ذہبی لکھتے ہیں 143 ہجری میں علمائے اسلام نے تدوین علم حدیث، علم فقہ اور علم تفسیر کی تدوین شروع کی چنانچہ ابن جریج نے مکہ میں اور مالک نے مَدِیْنَةً مَدِیْنَةً اور اسی نے شام میں ابن عروبہ، حماد بن سلمہ وغیرہ نے بصرہ میں، معمر نے یمن میں اور سفیان ثوری نے کوفہ میں احادیث تصنیف کیں اور ابن اسحاق نے مغازی اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ پر کتابیں تصنیف کیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ہشیم عیث، ابن مبارک اور یحییٰ ابو یوسف، ابن وہب وغیرہ نے تصنیفیں کیں اور علم حدیث تدوین کی کثرت ہوئی اور کتب عربیہ لغت، تاریخ، رجال، سیر وغیرہ میں بے بہا کتابیں لکھی گئیں۔ اس سے پہلے علماء حفظ پڑھایا کرتے تھے یا مختلف لوگوں کے پاس غیر مرتب نسخے تھے جن سے تعلیم دیا کرتے تھے۔

## یہیں لازم نہیں

145 ہجری میں محمد ابراہیم نے منصور پر خروج کیا۔ منصور نے ان کو اور ان کے ساتھ بہت سے سیدوں کو قتل کر دیا۔ (انسا لله وانسا الیہ واجمعون) یہی پہلا شخص ہے جس نے عباسیوں اور علویوں کے درمیان فتنہ و فساد ڈالا۔ حالانکہ اس سے قبل یہ سب ایک ہی شمار ہوتے تھے۔ منصور نے ان علماء کو بھی سخت تکالیف دیں جو ان دونوں کے ساتھ تھے یا جنہوں نے اس کے مقابلہ کا فتویٰ دیدیا تھا۔ ان ہی میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، عبدالحمید بن جعفر اور ابن عجلان شامل تھے اور جن لوگوں نے محمد کے ساتھ ہو کر منصور کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا تھا، مالک بن انس بھی ان میں سے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ہماری گردنوں میں منصور کی بیعت ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ بیعت تم سے زبردستی لی گئی تھی اور مجبور کیے گئے پر یہیں لازم نہیں آتی۔

147 ہجری میں جنگ قبرس ہوئی۔

## خدمت کا صلہ

148 ہجری میں منصور نے اپنے چچا کے بیٹے عیسیٰ بن موسیٰ کو دلی عہدی سے معزول کر دیا۔ حالانکہ سفاح نے اس کو منصور کے بعد دلی عہد مقرر کیا تھا اور منصور کی طرف سے عیسیٰ بن موسیٰ نے ہی محمد اور ابراہیم کا مقابلہ کر کے ان پر فتح پائی تھی۔ لیکن اس کے باوجود منصور نے اس خدمت کے عوض کا صلہ یہ دیا کہ اس کو معزول کر کے اپنے بیٹے مہدی کو دلی عہد بنا دیا۔

## لفظ امیر پر ہی

148 ہجری میں تمام ممالک پر منصور کا قبضہ ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت بیٹھ گئی اور جزیرہ آندلس کے علاوہ اور کوئی ملک اس کے قبضہ سے باہر نہ رہا کیونکہ وہاں عبدالرحمن بن معاویہ اموی کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ہاں اس نے امیر المؤمنین کا لقب اختیار نہیں کیا بلکہ صرف لفظ امیر پر ہی اکتفا کیا۔

## تعمیر بغداد

149 ہجری میں بغداد کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی۔

## پہاڑوں میں پناہ

150 ہجری میں سپاہ خراسان نے اسنادیسس کی امارت کے ساتھ بغاوت کر دی اور خراسان کے بڑے حصہ پر قابض و متصرف ہو گئی اور سخت فتنہ و فساد برپا کیا۔ اس سے منصور کو بڑا فکر پیدا ہوا اور اس نے اٹھم مروزی کی سرکردگی میں تین ہزار جوان ان کے مقابلے کے لیے بھیجے۔ مگر اٹھم قتل ہوا اور اس کا لشکر تہ تیغ کر دیا گیا۔ اس پر منصور نے حازم بن خزیمہ کی کمان میں بہت بڑی فوج بھیجی۔ فریقین میں نہایت سخت لڑائی ہوئی۔ کہتے ہیں اس جنگ میں طرفین کے ستر ہزار آدمی قتل ہو گئے۔ آخر اسنادیسس کو شکست ہو گئی اور اس نے بھاگ کر پہاڑیوں میں پناہ لی۔ دوسرے سال امیر حازم کے حکم سے تمام قیدی قتل کر دیئے گئے جن کی تعداد چودہ ہزار تھی اور ایک مدت تک اسنادیسس کا محاصرہ رکھا۔ آخر تک آ کر اس نے خود اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ انہوں نے اسے قید کر لیا اور اس کے لشکر کو جو تیس ہزار کے قریب تھا رہا کر دیا۔

## شہر رصافہ

151 ہجری میں شہر رصافہ کی تعمیر ہوئی۔

153 ہجری میں منصور نے حکم جاری کیا سب لوگ لمبی ٹوپیاں پہنا کریں۔ یہ ٹوپیاں بانس کی تیلیوں اور پتوں سے بنائی جاتی تھیں اور انہیں جشی لوگ پہنا کرتے تھے۔ اس پر ابودلامہ شاعر نے یہ اشعار کہے:

وَكُنْنَا نُسْرَجِي مِنْ اِمَامٍ زِيَادَةٍ فَزَادَ اِلِمَامُ الْمُصْطَفَى فِي الْقَلَانِسِ

ترجمہ: ہمیں تو خلیفہ سے جو امام وقت ہے، کسی اور بات کی زیادتی کی امید تھی مگر اس نے زیادتی یہ کی کہ ٹوپیاں پہنا کرو۔

قَرَاهَا عَلَيَّ هَامَ الرِّجَالِ كَانَهَا ذَنَانٌ يَهُودٌ جَلَلْتُ بِالْبَرَانِسِ

ترجمہ: وہ لوگوں کے سروں پر ایسی دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ یہودیوں کے سروں پر منگے ہوتے ہیں اور ان پر بارانی کوٹ پہنا گیا ہوتا ہے۔

## حج کا موقع

158 ہجری میں منصور نے اپنے نائب مکہ کو حکم بھیجا کہ سفیان ثوری اور عباد بن کثیر کو

قید کر کے بھیج دو۔ اس پر وہ قید کر دیئے گئے۔ لوگوں کو سخت اندیشہ ہوا کہ کہیں منصور انہیں قتل ہی نہ کر دے۔ اسی اثنا میں حج کا موقع آ گیا اور خدا تعالیٰ نے اسے مکہ میں صحیح و سالم نہ پہنچایا بلکہ مریض ہو کر پہنچا اور مرض اسہال سے ذی الحجہ میں مر گیا اور حج اور بریموں کے درمیان دفن ہوا۔ سلم خاسر نے خوب کہا ہے:

قَفَلَ الْحَجَّاجُ وَخَلَّفُوا ابْنَ مُحَمَّدٍ رَهْنَا بِمَكَّةَ فِي الضَّرْبِ الْمَلْحَدِ

ترجمہ: حاجی واپس آئے اور ابن محمد یعنی اپنے امام کو قبر میں جو مکہ معظمہ میں ہیر بن کر آئے۔

شَهَدُوا الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَآمَنَهُمْ تَحْتَ الصَّفَائِحِ مُحْرَمًا لَمْ يَشْهَدِ

ترجمہ: اس کے رفیقوں نے حج کے تمام ارکان پورے کیے اور اس کو بحالت احرام

پتھروں کی سلوں کے نیچے دفن کر آئے۔

### سبب جمع مال

ابن عساکر روایت کرتے ہیں۔ قبل از خلافت جب منصور طلب علم میں ادھر ادھر پھرا کرتا تھا تو ایک دن وہ ایک منزل پر اترتا تو چونکہ کیدار نے اس سے دو درہم محصول کے مانگے۔ منصور نے کہا میں بنو ہاشم سے ہوں مجھے معاف کر دے وہ نہ مانا۔ منصور نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کے چچا کی اولاد سے ہوں۔ اس نے پھر بھی نہ سنا۔ آخر جب اس نے تنگ کیا تو منصور نے دو درہم دیدیئے اور اس روز سے مال جمع کرنے اور اس کیلئے کوشش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں تک کہ اس کا لقب ابوالدانیق پڑ گیا۔

### خلفاء اور بادشاہ

ربیع بن یوسف حاجب سے مروی ہے۔ منصور کہا کرتا تھا خلفاء چار ہی ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بادشاہ بھی چار ہی ہوئے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، عبدالملک، ہشام اور میں (یعنی منصور)۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ میں ابو جعفر منصور کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کون شخص افضل ہے؟ میں نے کہا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ منصور نے کہا تم نے سچ کہا میری بھی یہی رائے ہے۔



## نگہبان بنایا ہے

اسٹعلیل فہری سے مروی ہے کہ عرفہ کے روز منصور نے خطبہ میں کہا اے لوگو! خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی زمین کا بادشاہ بنایا ہے تاکہ اس کی توفیق اور ہدایت سے رعایا پروری کروں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے مال کا حافظ و نگہبان بنایا ہے تاکہ اسے اس کے ارادہ اور حکم کے موافق خرچ کروں اور خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے مال پر بمنزلہ قفل بنایا ہے۔ جب چاہتا ہے اسے بند کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اے تمہارے عطا کرنے کے لیے اسے کھول دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے بند کر دیتا ہے۔ پس اے لوگو! خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤ اور ایسے بزرگ دن میں جس میں اللہ نے اپنے فضل و کرم کا اظہار کر کے فرمایا۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا۔ (پ 6 سورۃ المائدہ آیت 2) ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ (ترجمہ و حوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ مبشر سیالوی)

## دعا سننے والا

خدا تعالیٰ سے سوال کرو تا کہ خدا تعالیٰ مجھے تمہارے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے ہاتھ سے عدل کے ساتھ تمہیں عطیات دلوائے۔ وہی دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

صولی نے بھی بعینہ یہی خطبہ درج کیا ہے۔ مگر اس کے شروع میں اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ منصور پر لوگ بخل کی تہمت لگاتے تھے اور خطبے کے آخر میں لکھا ہے اس کے بعد لوگوں نے کہا میرے مال خرچ ہونے سے بچانے کیلئے خدا کے حوالے کر دیا ہے۔

## ایسے ناصح پر

اصمعی وغیرہ سے مروی ہے۔ منصور ایک دن منبر پر چڑھا اور ابھی اس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَحْمَدُهُ وَ اَسْتَعِيْنُهُ وَ اُوْمِنُ بِهٖ وَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ حْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا

ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ تھا ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔  
الفاظ ہی کہے تھے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر ذکر خدا کے ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ  
تم کون ہو؟ منصور نے کہا مرحبا! تم نے خوب کہا اور ایک بڑی بات سے مجھے ڈرایا ہے۔ میں  
اس بات سے خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے بنوں کہ جب ان سے کہا جائے  
کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو تو وہ اور بھی منہیات پر جسارت کرنے لگتے ہیں پند و نصیحت ہم ہی سے  
شروع ہوئی ہے اور ہم ہی سے نکلی ہے اور اے فلاں! تم نے جو مجھے نصیحت کی ہے۔ تو محض  
خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں کی ہے بلکہ اس لیے کی ہے تاکہ لوگ تمہیں شاہنشاہ دیں اور  
کہیں کہ یہ شخص بادشاہوں کو بھی نصیحت کرنے سے نہیں ڈرتا اور اگر وہ اسے سزا دیں تو صبر  
کرتا ہے۔ پس ایسے ناصح پر نہایت افسوس ہے۔ جاؤ اب میں نے تمہیں معاف کیا۔ اے لوگو!  
تم ایسے اشخاص سے پرہیز کیا کرو۔ اس کے بعد منصور نے اپنا خطبہ وہیں سے شروع کیا جہاں  
سے چھوڑا تھا جیسے کہ وہ لکھا ہوا پڑھ رہا تھا۔

شکر بجالانا

کئی طرق سے مروی ہے۔ منصور نے اپنے بیٹے مہدی سے کہا اے ابا عبد اللہ خلیفہ کے  
لیے تقویٰ لازمی ہے۔ بادشاہ کے لیے اطاعت اور رعیت کے لیے عدل سب سے بہتر وہ شخص  
ہے جو باوجود قدرت ہونے کے درگزر کر دے اور بیوقوف ترین وہ شخص ہے جو اپنے سے کمزور  
پر ظلم کرے۔ جب تک کسی معاملہ میں اچھی طرح سے غور نہ کر لیا گیا ہو اس میں حکم نہیں صادر کرنا  
چاہئے کیونکہ غور و فکر ایک طرح کا آئینہ ہے جس میں حسن و قبح نظر آ جاتا ہے۔ اے میرے  
بیٹے! ہمیشہ نعمت کا شکر کرنا اور قدرت میں غفور کرنا اور تالیف قلوب کے ساتھ اطاعت کی امید  
رکھنا، فحشیاں کے بعد تواضع و رحمت اختیار کرنا۔

قیامت کے روز

مبارک بن فضالہ سے مروی ہے۔ ہم منصور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے ایک شخص  
کو بلایا اور پھر تلوار منگوائی۔ میں نے کہا اے امیر! حسن رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا ہے۔ وہ بیان  
کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے روز منادی کی جائے گی۔ جن لوگوں کا کوئی  
اجر خدا تعالیٰ پر ہو وہ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی شخص کھڑا نہ ہو گا مگر وہ جس کسی نے کسی کو معاف کیا

ہوگا وہ کھڑا ہو جائے۔ منصور نے یہ سن کر اسے معاف کر دیا۔

### عدل اور فضل

اصمعی کہتے ہیں۔ ایک شخص کو سزا دینے کیلئے منصور کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا اسے امیر انعام لینا عدل ہے اور تجاوز کرنا فضل ہے اور ہم امیر کو خدا تعالیٰ کی پناہ میں دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے ان سے کم حصہ اختیار کرے۔ یہ سن کر منصور نے اسے چھوڑ دیا۔

### جمع نہیں کیں

اصمعی کہتے ہیں۔ ملک شام میں منصور ایک اعرابی سے ملا تو اس سے کہنے لگا کہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو حاکم بنا کر تم سے طاعون کو دور کر دیا ہے۔ اعرابی نے جواب دیا طاعون اور تمہاری ولایت دونوں قبیح چیزیں ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر کبھی دو قبیح باتیں جمع نہیں کیں۔

### اگر حاجت ہو

محمد بن منصور بغدادی سے مروی ہے۔ منصور کے پاس ایک زاہد آیا اس نے کہا آپ کو خدا تعالیٰ نے تمام دنیا عطا کی ہے۔ اس سے خرچ کر کے اپنی آسائش بھی خرید لیں۔ اس رات کو یاد کیا کہ جب تو قبر میں جائے گا اور جیسی رات تو نے کبھی نہ دیکھی ہوگی اور وہ ایسی رات ہوگی، نہ کوئی دن آئے گا اور نہ کوئی رات۔ منصور یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور پھر اسے انعام دینے کا حکم دیا۔ اس نے کہا اگر مجھے آپ کے مال کی حاجت ہوتی تو تمہیں نصیحت نہ کرتا۔

### میں نہ مانگوں

عبداللہ بن سلام بن حرب سے مروی ہے۔ منصور نے عمرو بن عبید کو بلوایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہیں انعام دینے کا حکم دیا۔ لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ منصور نے کہا بخدا آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بخدا میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ مہدی نے کہا اب تو امیر نے قسم کھالی ہے اب آپ ضرور لے لیجئے۔ انہوں نے کہا میری نسبت قسم کا کفارہ دینا امیر کو زیادہ آسان ہے۔ منصور نے کہا کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا صرف اتنی حاجت ہے جب تک میں خود نہ آؤں مجھے بلایا نہ کرو اور جب تک میں خود نہ مانگوں دیا نہ کرو۔ پھر منصور نے کہا آپ کو معلوم ہے میں نے اس (یعنی مہدی) کو اپنا ولی عہد بنایا ہے۔

انہوں نے کہا جب یہ خلیفہ ہوگا تو تم اور باتوں میں مشغول ہو گے۔  
**بادشاہ سے اختلاف**

عبداللہ بن صالح سے مروی ہے کہ منصور نے بصرہ کے قاضی سوار بن عبداللہ کی طرف لکھا فلاں زمین کا مقدمہ جس میں فلاں تاجر اور فلاں فوجی افسر جھگڑ رہے ہیں وہ زمین فوجی افسر کو دلوائیے۔ قاضی نے لکھا کہ میرے نزدیک یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ زمین تاجر کی ہے اس لیے جب تک اس کے برخلاف کوئی گواہ نہ ہو اس سے کیسے چھین سکتا ہوں۔ منصور نے پھر لکھا کہ وہ زمین ضرور اس فوجی افسر کو دلوائیے۔ قاضی نے جواب لکھا کہ بخدا میں کسی طرح بھی اسے تاجر سے نہیں لے سکتا۔ جب یہ جواب منصور کو پہنچا تو کہنے لگا بخدا میں نے زمین کو عدل سے بھر دیا ہے یہاں تک کہ میرے قاضی بھی مجھ سے حق بات میں اختلاف کرتے ہیں۔  
**مجھ سے موافقت**

مروی ہے منصور سے کسی نے قاضی سوار کی شکایت کی۔ اس نے اسے بلا بھیجا۔ جب وہ منصور کے پاس آ بیٹھے تو اسے چھینک آئی۔ قاضی نے یرحمک اللہ نہ کہا۔ منصور نے کہا تو نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا۔ قاضی نے کہا کہ آپ نے الحمد للہ نہیں کہا۔ منصور نے کہا میں نے دل میں کہہ لیا تھا۔ قاضی نے کہا میں نے بھی یرحمک اللہ دل میں کہہ لیا تھا۔ منصور نے کہا کہ آپ اپنے مرتبہ پر بحال رہئے۔ جب حق کے خلاف آپ نے مجھ سے موافقت نہیں کی تو اور کسی معاملہ میں کب ہوگی؟

### انصاف اور دیانتداری

عمیر مدنی سے مروی ہے۔ ایک دفعہ منصور مدینہ میں آیا۔ اس وقت محمد بن عمران <sup>طلبی</sup> وہاں کے قاضی تھے اور میں ان کا مٹھی تھا۔ چند شتر بانوں نے کسی معاملہ میں قاضی مدینہ کے سامنے خلیفہ پر نالاش کردی۔ اس پر قاضی صاحب نے مجھے کہا بادشاہ کو یہاں حاضر ہونے کے لیے لکھو۔ میں نے کہا مجھے اس بات سے معاف رکھئے۔ لیکن انہوں نے کہا تمہیں لکھنا پڑے گا۔ آخر میں نے خط لکھا اور اس پر مہر لگا دی۔ پھر انہوں نے کہا یہ خط لے جانا بھی تمہیں ہی پڑے گا۔ میں خط لیکر ریحج کے پاس گیا اور انہوں نے اسے امیر کے سامنے پیش کیا اور پھر باہر آ کر لوگوں کو کہا امیر کہتا ہے مجھے کچھری میں جانا پڑ گیا ہے اس لیے میرے ساتھ کوئی نہ جائے۔ پھر

رتبہ اور خلیفہ دونوں وہاں آئے تو قاضی محمد ان کی تعظیم کے لیے بالکل نہ اٹھے بلکہ چادر پندلیوں کے گرد باندھ کر بیٹھ گئے اور پھر مدعیوں کو بلا کر خلیفہ پر ڈگری کر دی۔ جب مقدمہ سے فارغ ہوئے تو منصور نے کہا اس انصاف اور دینداری کے عوض اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ میں نے تمہیں دس ہزار دینار بطور انعام دیئے۔

### ابودلامہ شاعر

محمد بن حفص عجلی سے مروی ہے۔ ابی دلامہ شاعر کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس نے منصور کو خبر دی اور یہ شعر پڑھے:

لَوْ كَانَ يَنْقَعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَرَمٍ قَوْمٌ لَقَبِلَ أَقْعَدُوا يَا آلَ عَبَّاسٍ  
ترجمہ: اگر کوئی قوم کثرت عطا کے باعث آسمان پر بیٹھ سکتی ہے تو کہا جائے گا 'اے آل عباس تم بیٹھو۔

ثُمَّ ارْتَقَوْ فِي شُعَاعِ الشَّمْسِ كُلُّكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَاتُّمُّمُ الْكُرْمِ النَّاسِ  
اور اس کے بعد ترقی کر کے شعاع شمس میں جا بیٹھو کیونکہ تم تمام لوگوں سے زیادہ معزز ہو۔ پھر ابودلامہ نے ایک تھیلی نکالی۔ منصور نے کہا یہ کیا ہے۔ ابودلامہ نے کہا جو کچھ دینا ہو اس میں ڈال دیجئے۔ منصور نے کہا اچھا اسے درہموں سے پر کر دو۔ جب اسے پر کرنے لگے تو اس میں دو ہزار درہم آئے۔

### کس کا نام؟

محمد بن سلام جمحی سے روایت ہے۔ منصور سے کہا گیا کیا دنیا کی کوئی ایسی بھی تمنا ہے جو آپ کو نہ ملی ہو۔ کہنے لگا، صرف ایک خواہش باقی ہے اور وہ یہ کہ میں ایک مسند پر بیٹھوں اور میرے گرد حدیث مبارکہ پڑھنے والے طلباء بیٹھے ہوں اور حدیث لکھتے ہوں اور کہہ رہے ہوں ذرا کمر فرمائیے۔ آپ نے کس کا نام لیا؟ راوی کہتا ہے اگلے روز تمام وزراء اور ان کے بیٹے قلمیں دو اتیں اور کاغذ لیکر حاضر ہو گئے۔ منصور نے کہا تم وہ نہیں ہو بلکہ روایت حدیث ان کا کام ہوتا ہے جن کے کپڑے میلے کھیلے ہوں پاؤں برہنگی کے باعث پھٹ گئے ہوں بال بڑھے ہوئے ہوں۔

## یہی طریقہ ہے

عبد الصمد بن علی سے مروی ہے۔ انہوں نے منصور سے کہا آپ نے سزا دینے پر ایسی کمر باندھی ہے گویا غمو کا نام ہی آپ نے کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگا اب تک بنی مروان کا خون نہیں سوکھا اور آل ابی طالب کی تلواریں ابھی میان میں نہیں پہنچیں اور ہم ایسی قوم سے ہیں جن کو لوگوں نے کل کمینہ دیکھا تھا اور آج خلیفہ دیکھتے ہیں اس لیے ہماری ہیبت دلوں میں اسی طرح ہی بیٹھ سکتی ہے کہ ہم غمو کو بھلا دیں اور غموبت کو استعمال کریں۔

## غناء اور بلاغت

یونس بن حبیب سے مروی ہے۔ زیاد بن عبد اللہ حارثی نے منصور کو اپنے عطاء اور رزق کی زیادتی کے لیے لکھا اور عبارت اس کی نہایت فصیح لکھی۔ منصور نے جواب لکھا جب غناء و بلاغت کسی شخص میں جمع ہوتی ہیں تو اس میں تکبر پیدا کر دیتی ہیں اور میں اس سے ڈرتا ہوں اس لیے تمہیں بلاغت پر ہی اکتفا کرنا چاہئے۔

## ہرمہ شاعر کا شعر

محمد بن سلام سے مروی ہے۔ ایک لوٹری نے منصور کی قیص کو بیوند لگا ہوا دیکھا تو کہا سبحان اللہ خلیفہ کو قیص نہیں ملی۔ منصور نے یہ سن کر کہا تو نے ہرمہ کا یہ شعر نہیں سنا:

قَدْ يُدْرِكُ الشَّرْفَ الْفَتَىٰ وَرِدَاءُهُ خَلْقٌ وَجَيْبٌ قَمِيصُهُ مَرْقُوعٌ  
ترجمہ: کبھی ایسا شخص بھی بزرگی حاصل کر لیتا ہے جس کی چادر کہنہ ہوتی ہے اور اس کی قیص کا گر بیان بیوند لگا ہوتا ہے۔

## قریب تھا کہ؟

عسکری اوائل میں لکھتے ہیں۔ منصور عباسیوں میں ایسا بخیل تھا جیسا عبد الملک بنی امیہ میں تھا چنانچہ کسی نے بیوند لگی قیص منصور پر دیکھ کر کہا خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھو۔ اس نے منصور کو باوجود سلطنت کے مفلسی میں مبتلا رکھا ہے۔ سلم الجاوی نے اس مضمون کو گانے میں ادا کیا۔ منصور نے بھی سن لیا اور اس قدر خوش ہوا قریب تھا کہ خوشی کے مارے گھوڑے سے گر پڑے اور اس کو نصف درہم انعام دینے کا حکم دیا۔ سلم نے کہا میں نے ایک دفعہ ہشام کو شعر سنا ہے تو اس

نے مجھے دس ہزار درہم عطا کیے تھے۔ منصور نے کہا اس کو بیت المال سے اس قدر روپیہ دینے کا حق تو نہ تھا۔ اے ربیع کسی شخص کو مقرر کرو وہ درہم اس سے وصول کرے۔ لوگوں نے سفارش کی تو کہنے لگا اچھا آتے جاتے وقت یہ شعر مجھے بغیر انعام کے سنا دیا کرو۔

کیوں مانگتا ہے؟

عسکری اوائل میں لکھتے ہیں۔ ابن ہرمد شراب بہت پیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے منصور کے پاس آ کر یہ شعر پڑھے؟

لَهُ لِحَطَّاتٍ " مِنْ حَفَافِي سَرِيْرَةٍ إِذَا كَرَّهَا فِيْهَا عِقَابٌ " وَنَائِلٌ

ترجمہ: مدوح کیلئے تخت کی ہر دو جانب ایسی نظریں ہیں کہ جب انہیں مکرر کرتا ہے تو ان میں عذاب اور بخشش ہوتی ہے۔

فَأَمَّا الَّذِيْ أَمْنَتْ أَمْتُهُ الرَّدِيْ وَأَمَّا الَّذِيْ حَاوَلَتْ بِالْفُلْكِ نَائِلٌ

ترجمہ: جس شخص کو تو امن دے وہ ہلاکت سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جس کی ہلاکت کا تو قصد کر لے اس کی ماں بیٹے کے درد سے روئے گی۔

منصور کو یہ شعر بہت پسند آئے اور کہا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نے کہا میری صرف یہ خواہش ہے آپ عامل مدینہ کو لکھ بھیجے جب میں نشہ میں ہوں تو مجھے مزہ نہ دے۔ منصور نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ سزاؤں میں کچھ دخل دوں۔

### 80 کے بدلے 100

ابن ہرمد نے کہا پھر کوئی حیلہ کیجئے۔ منصور نے اپنے عامل کو لکھا کہ جو تمہارے پاس ابن ہرمد کو نشہ کی حالت میں پکڑ کر لائے تو اسے سو درے لگوانا اور ابن ہرمد کو اسی درے لگوانا۔ ابن عون جب اسے نشہ میں دیکھتے تو کہتے کس کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ اسی دروں کے عوض سو درے خریدے۔ کہتے ہیں اس مرتبہ منصور نے ابن ہرمد کو دس ہزار درہم بھی دیئے تھے اور کہا اے ابراہیم انہیں احتیاط سے رکھنا اور نہیں ملیں گے۔ اس نے کہا اِنِّيْ اَلْقَاكَ عَلَيَّ الصِّرَاطِ بِهَا بِخُتْمَةِ الْجَهَنَّمَ

یعنی میں تیرے لیے ان درہموں کے عوض ایک نقد قرآن کریم ختم کروں گا اور تجھ سے پل صراط پر ملاقات ہوگی۔) منصور شعر کم ہی کہا کرتا تھا۔ ذیل کے دو شعر اسی کے ہیں:

إِذَا كُنْتَ ذَارِي فَكُنْ ذَا عَزِيمَةٍ فَإِنَّ فَسَادَ الرَّايِ رَانَ يَسْرَ دَدًا  
 ترجمہ: اگر تو صاحب رائے ہے تو مضبوط ارادے والا بھی ہو کیونکہ رائے کا متروک ہونا ہے۔  
 وَلَا تَمَهَّلِ الْأَعْدَاءَ يَوْمًا بِقُدْرَةٍ وَبَادِرْهُمْ إِنْ يَمْلِكُوا مَعْلَهَا غَدًا  
 ترجمہ: اگر قدرت ہو تو دشمن کو ایک دن کی بھی مہلت نہ دے تاکہ کل وہ تم پر غالب  
 آجائے۔

### قریب ہے تمہارا رب

عبدالرحمن بن زیاد بن انعم افریقی کہتے ہیں۔ میں اور منصور ایک ہی جگہ پڑھا کرتے تھے۔  
 ایک روز منصور مجھے اپنی قیام گاہ پر لے گیا اور میرے سامنے کھانا لاکر رکھا اور اس میں گوشت نہ  
 تھا۔ پھر اپنی لونڈی سے کہا تمہارے پاس کچھ حلوہ ہے۔ اس نے کہا نہیں پھر کہا کھجور بھی نہیں اس  
 نے جواب دیا نہیں۔ یہ سن کر منصور لیٹ گیا اور یہ آیات پڑھیں فَسَالِ عَنِّي بُسْكُمُ أَنْ  
 يُفْهَيْكَ عَنْوَتَكُمْ۔ (پ 9 سورة الاعراف آیت 129) ترجمہ: کہا قریب ہے کہ تمہارا رب۔  
 تمہارے دشمن کو ہلاک کرے۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد بشیر سیالوی)  
 اگر برا ہو تو؟

جب وہ خلیفہ ہوا تو میں اسے ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگا تم بنی امیہ کے مقابلے میں میری  
 خلافت کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا ان کے زمانہ میں اتنا ظلم کبھی نہیں ہوتا تھا جتنا آپ کے  
 زمانے میں ہوتا ہے۔ کہنے لگا ہمیں مددگار نہیں ملتے۔ میں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے  
 تھے بادشاہ بمنزلہ بازار کے ہوتا ہے جس چیز کی زیادہ بکری ہو بازار میں وہی چیز آتی ہے۔ ایسے  
 ہی اگر بادشاہ نیک ہو تو اس کے پاس لوگ بھی نیک آتے ہیں اور اگر برا ہو تو اس کے پاس لوگ  
 بھی برے ہی آتے ہیں۔ یہ بات سن کر منصور نے اپنا سر نیچے کر لیا۔  
 تین کے علاوہ

منصور کہا کرتا تھا۔ بادشاہ تین باتوں کے سوا ہر بات کو برداشت کر لیتے ہیں۔ راز ظاہر  
 ہو جانا حرام میں تعرض (پردہ داری میں مداخلت) اور ملک میں خرابی ڈالنا (اسے صولی نے  
 بیان کیا ہے) نیز اس کا قول تھا کہ جب تیرا دشمن تیری طرف ہاتھ بڑھائے تو اگر تجھ میں طاقت  
 ہو اسے ختم کر دے ورنہ اسے چوم لے۔



## موقع نہ پاسکا

صولی یعقوب بن جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ منصور کی ذہانت اس سے معلوم ہوتی ہے ایک دفعہ وہ مدینہ میں آیا اور ربیع کو کہا ایک ایسا شخص مجھے لا دو جو لوگوں کے گھر مجھے بتاتا جائے۔ اس پر ربیع نے ایک شخص کو لا کر حاضر کیا۔ وہ منصور کو لوگوں کے گھر بتاتا رہا۔ جب وہ جانے لگا تو منصور نے اسے ایک ہزار درہم انعام دینے کا حکم فرمایا۔ اس نے جا کر ربیع سے مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے حکم نہیں ملا۔ امیر منصور ابھی سوار ہوگا جا کر پھر یاد دلانا۔ وہ امیر کے پاس جا پہنچا مگر گفتگو کرنے کا موقع نہ پاسکا۔ جب وہاں سے آنے لگا تو کہا اے امیر! یہ عاتکہ کا گھر ہے جس کی نسبت انہوں نے یہ شعر کہا ہے:

يَا بَيْتَ عَاتِكَةَ الَّذِي اتَّعَزَلُ حَذْرُ الْعِدَى وَبِكَ الْفَوَادُ الْمَوْكَلُ

ترجمہ: اے عاتکہ کے گھر جس سے میں دشمنوں کے خوف سے تکلف دور ہوتا ہوں! حالانکہ میرا دل تیرے ہی پاس رہے گا۔

خلیفہ کو اس کا یہ بے موقع شعر پڑھنا برا معلوم ہوا۔ اس نے جھٹ پٹ ایک قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا جس میں ایک شعر یہ بھی تھا:

وَأَرَاكَ تَفْعَلُ مَا تَقُولُ وَبَعْضُهُمْ مَذِقُ اللِّسَانِ يَقُولُ مَا لَا يَقْعَلُ

ترجمہ: میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ تو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور بعض غیر خالص زبان والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔

منصور یہ شعر سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا: اے ربیع معلوم ہوتا ہے تم نے اس کو ایک ہزار درہم نہیں دیئے۔ جاؤ ابھی دے دو۔

## عباسیوں میں سے

اسحاق موصلی کہتے ہیں۔ کھانے پینے اور گانا سننے کے وقت منصور اپنے ندماء (شراب جام کے ساتھی) کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتا تھا بلکہ اس کے اور ندماء کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا اور وہ پردے سے بیس گز کے فاصلے پر بیٹھا کرتے تھے اور منصور خود بھی اس پردے سے فاصلے پر بیٹھا کرتا تھا۔ عباسیوں میں سے سب سے پہلے ہدیٰ بنی اپنے ندماء کے ساتھ بیٹھا ہے۔

## قسم کے معنی

صولی یعقوب بن جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ منصور نے قسم بن عباس عبد اللہ بن عباس کو جو اس کی طرف سے یمامہ اور بحرین کا حاکم تھا، کہا کہ قسم کے معنی کیا ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ منصور نے کہا تیرا نام تو ہاشمی ہے مگر تو اس کے معنی نہیں جانتا۔ بخدا تو جاہل معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ بتادیں تو نہایت مہربانی ہوگی۔ منصور نے کہا قسم اس شخص کو کہتے ہیں جو کھانے کے بعد سخاوت کرے اور چیزوں کو از خود لوگوں کو دے ڈالے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ منصور کو کھیلوں نے بہت تنگ کیا۔ اس نے مقاتل بن سلیمان کو بلا کر پوچھا ان کھیلوں کو خدا تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ مقاتل نے کہا اس لیے تاکہ ظالموں کو ان کے ہاتھوں سے ذلیل کرے۔

## کلیلہ دمنہ اور اقلیدس

محمد بن علی خراسانی کہتے ہیں۔ منصور ہی سب سے پہلا خلیفہ ہے جس نے نجومیوں کو اپنا مقرب بنایا اور ان کے احکام پر عمل کیا اور سب سے پہلے اسی کے زمانے میں سریانی اور دیگر عجیب زبانوں سے کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، جیسا کہ کلیلہ دمنہ اور اقلیدس وغیرہ۔ سب سے پہلے اپنے غلاموں کو اسی نے حاکم بنایا، یہاں تک کہ اہل عرب پر بھی انہیں مقدم کیا اور اس کے بعد یہ رسم اس کثرت سے جاری ہو گئی اور عرب کی ریاست جاتی رہی۔

## روایات منصور

صولی کہتے ہیں۔ منصور اپنے زمانہ میں سب سے بڑا عالم حدیث اور نساب تھا اور اس نے علوم کے حاصل کرنے میں بڑی کوشش کی تھی۔

## دائیں ہاتھ مبارک میں

ابن عساکر تاریخ دمشق میں روایت در روایت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ دائیں ہاتھ میں انگلی پہنتا کرتے تھے۔

## سوار! نجات، پیچھے! ہلاک

صولی نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا

میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے جو اس میں سوار ہو گیا، نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا ہلاک ہوا۔

اس کے باوجود

صولی نے ہی روایت در روایت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ رسول پاک ﷺ نے فرمایا جب ہم نے کسی شخص کو امیر بنایا اور اس کی تنخواہ مقرر کی اور اس کے باوجود جو کچھ اس کے پاس آیا اس نے کھالیا تو وہ خائن ہے۔

قسم کھا کر کہتا ہے

یحییٰ بن حمزہ حضرمی اپنے باپ سے راوی ہے۔ مہدی نے مجھے قاضی بنایا اور کہا اجراء احکام میں سختی کرنا کیونکہ میں نے اپنے والد (منصور) سے سنا ہے رسول پاک ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے میں دنیا اور آخرت میں ظالم سے انتقام لوں گا اور اس سے بھی انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو دیکھا اور قدرت کے باوجود اس کی مدد نہ کی۔

سبب و نسب

صولی نے روایت کرتے کرتے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے علاوہ سبب و نسب قیامت کے دن قطع ہو جائینگے۔

سفر نہ کرو

صولی روایت در روایت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے چاند کی آخری تین راتوں میں اور چاند کے برج عقرب میں ہوتے وقت سفر نہ کیا کرو۔

حسب ذلین علماء خلافت منصور میں فوت ہوئے:

ابن مقفع، سہل بن ابی صالح، علاء بن عبدالرحمن، خالد بن یزید، مصری، فقیہہ، داؤد بن ابی ہند، ابو حازم، سلم بن دینار، اعرج، عطاء بن ابی مسلم، خراسانی، یونس بن عبید، سلیمان، احوں، موسیٰ بن عقبہ، صاحب مغازی، عمرو بن عبیدہ، معتزلی، یحییٰ بن سعید، انصاری، کلبی، ابن اسحاق، جعفر بن محمد، صادق، عثم، شہل بن عباد، محمد بن عجلان، مدنی، فقیہہ، محمد بن عبدالرحمن بن ابی الیاس، ابن جریج، ابو حنیفہ، حجاج بن ارطاة، حماد الراویہ، روبہ، شاعر، جریری، سلیمان، تہمی، عاصم، احوں، ابن شبرمہ، ضعی،

مقاتل بن حیان، مقاتل بن سلیمان، ہشام بن عروہ، ابو عمرو بن علاء، اشعب طماع، حمزہ بن حبیب، زیات، اوزاعی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

## مہدی ابو عبد اللہ محمد بن منصور

مہدی ابو عبد اللہ محمد بن منصور 127 یا 126 ہجری میں قصبہ ایذج میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں موسیٰ بنت منصور حمیر یہ تھی۔ مہدی نہایت تخی مدوح خاص و عام، خوبصورت، محبوب رعیت اور صادق الاعتقاد شخص تھا۔ زندیقیوں کے پیچھے ایسا پڑا کہ ان کو فناء کر کے چھوڑا۔ سب سے پہلے اسی نے زندیقیوں اور یخدوں کے خلاف کتاب الجدل فی الرد علی الزنادقۃ والملحدین لکھوائی۔

مہدی کی روایت حدیث

مہدی نے حدیث کی روایت اپنے باپ منصور اور مبارک بن فضالہ سے کی اور اس سے یحییٰ بن حمزہ، جعفر بن سیمان، نعیمی، محمد بن عبداللہ، قاشی، ابوسفیان، سعید بن یحییٰ حمیری نے کی۔ ذہنی کہتے ہیں۔ کسی شخص نے مہدی کی حدیث میں جرح و تعدیل نہیں کی اور ابن عدی عثمان سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ مہدی میرے چچا کا بیٹا ہے۔ اس سے محمد بن ولید مولیٰ ابن ہاشم اور وہ وضعی حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ ذہنی نے مرفوعاً روایت کی ہے اور یہ حدیث ابن مسعود نے بیان کی ہے۔ مہدی کا نام میرے نام کے ساتھ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ (اسے ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔)

آنکھوں میں آنسو

جب مہدی جوان ہو گیا تو اس کے باپ نے اسے طبرستان کا حاکم بنا دیا اور بہت سے علماء کی شاگردی کرائی اور پھر اسے اپنا ولی عہد بنایا۔ جب منصور مر گیا تو لوگوں نے اس سے بیعت کی۔ اس نے بغداد میں آ کر خطبہ پڑھا اور کہا امیر بھی تم جیسا ایک شخص تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے جواب دیا۔ اسے حکم کیا گیا تو اس نے اس کی اطاعت کی۔ یہ فقرہ کہنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا آئے اور اس نے کہا رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اپنے عزیزوں کے فراق میں روئے ہیں اور میں تو ایک بڑے شخص یعنی اپنے والد سے جدا ہوا ہوں اور ایک امر جسیم میری گردن میں ڈالا گیا ہے۔ پس میں اللہ تعالیٰ سے امیر کیلئے ثواب کی امید رکھتا ہوں اور

اسی سے مسلمانوں کی خلافت پر مدد چاہتا ہوں۔ اے لوگو! باطن و ظاہر میں ہماری اطاعت  
یکساں رکھو کہ ہم سے تمہیں آرام ملے گا اور تمہاری عاقبت اچھی ہوگی۔ جو شخص تم میں عدل  
پھیلانے اور نقل و گرائی تم سے دور کرے اور تم پر سلامتی کو بنائے اس کی اطاعت کے لیے  
کھڑے ہو جاؤ۔ بخدا میں اپنی تمام عمر بروں کو سزا دینے اور نیکیوں پر احسان کرنے پر خرچ  
کردوں گا۔

تقسیم کر دیا

لفظ یہ کہتے ہیں۔ جب خزانے مہدی کے قبضے میں آئے تو اس نے ان کو دو مظالم میں  
خرچ کر دیا اور بہت سے خزانوں کو ویسے ہی تقسیم کر دیا اور انہیں اپنے عزیز و اقرباء اور غلاموں کو  
عطا کیا۔

کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ابودلامہ نے مہدی کو خلافت کی مبارکباد دی اور اس کے  
باپ کی تعزیت کی اور یہ اشعار کہے:

عینای ما حدۃ تری مسرورۃ بامیرھا جلدلی و اخری تذر ف  
ترجمہ: میری آنکھیں عجیب نظارہ دیکھ رہی ہیں۔ ایک امیر حال کے باعث خوش ہے اور  
دوسری امیر سابق کی موت پر آنسو بہا رہی ہے۔

تبکنی و تضحک تارۃ و یسؤھا ما انکرت و یسرھا ما تعرف  
ترجمہ: ایک آنسو بہا رہی ہے اور دوسری ہنس رہی ہے۔ ایک کو امور ناپسندیدہ رنجیدہ  
کر رہے ہیں اور دوسری کو امور مرغوبہ خوش کر رہے ہیں۔

فیسؤھا موت الخلیفۃ محرما و یسرھا ان فقام هذا الاراف  
ترجمہ: ایک کو حالت احرام میں خلیفہ کا مرنا صدمہ پہنچا رہا ہے اور دوسری کو ایسے مہربان  
فائق مقام کا ہونا خوش کر رہا ہے۔

ما ان رایت کما رایت ولا ارای شہرا السرحہ و اخر یتف  
ترجمہ: میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا اور نہ دیکھوں گا آدھے بانوں و کنگھی کر رہا ہوں اور  
دوسرے بال نوچے جا رہے ہیں۔

ہلک الخلیفۃ بالذین محمد واتاکم من بعدہ من یخلف

ترجمہ: خلیفہ کا خاتمہ دین محمد ﷺ پر ہوا ہے اور اس کے بعد تم پر اس کا بیٹا مہدی خلیفہ ہوا ہے۔

اهدی لہذا للہ فضل خلافة ولذاک جنات النعیم تزخرف  
ترجمہ: خداوند تعالیٰ اس خلیفہ کو خلافت عطا فرمائے اور اس مرحوم کیلئے جنات نعیم آراستہ ہوں۔  
159 ہجری میں مہدی نے اپنے دونوں بیٹوں سے موسیٰ ہادی کو اپنے اور ہارون الرشید کو ہادی کا ولی عہد مقرر کیا اور 160 ہجری میں اربد غلبہ فتح ہوا۔ اسی سال مہدی نے حج کیا اور کعبہ کے دربانوں نے اسے خبر دی کہ پردوں کی کثرت سے خوف ہے کہیں کعبہ کی عمارت ہی نہ گر پڑے۔ اس پر مہدی نے حکم دیا تمام پردے اتار دیئے جائیں اور صرف ہمارا بھیجا ہوا پردہ رکھا جائے۔ اس موقع پر مہدی کے لیے مکہ شریف میں برف لائی گئی۔ ذہبی کہتے ہیں۔ مہدی کے سوا اور کسی بادشاہ کے لیے برف مکہ میں مہیا نہیں کی گئی۔  
مساجد میں مقصور

161 ہجری میں مہدی نے مکہ شریف کی سڑک سرائیں اور حوض بنانے کا حکم دیا۔ نیز حکم دیا جامع مسجدوں میں مقصورے نہ بنائے جائیں اور منبروں کو چھوٹا کرنے میں رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منبر کے موافق بنانے کا حکم دیا۔  
یمن سے دار الخلافہ تک

163 ہجری میں روم کا بہت سا حصہ فتح ہوا اور 166 ہجری میں مہدی قصر اسلام میں چلا آیا اور مدینہ شریف، مکہ شریف اور یمن سے لیکر دار الخلافہ تک نچروں اور اونٹوں کی ڈاک بٹھائی۔  
بحشیش کیس

ذہبی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مہدی نے ہی حجاز سے عراق تک گلہ ڈاک چلا یا تھا۔ اسی سال میں مہدی زندیقوں کے پیچھے پڑ گیا اور ان سے بحشیش کیس اور کوئی نہ کوئی تہمت لگا کر انہیں قتل کر کے نیست و نابود کیا۔

توسیع مسجد حرام

167 ہجری میں مسجد حرام میں بڑی توسیع کی اور اس کا رقبہ بڑھایا اور کئی گھر خرید کر اس

میں داخل کیے۔

## دروازے کی چوک

169 ہجری میں مہدی کا انتقال ہوا اور انتقال کے باعث یہ ہوا کہ ایک دن اس نے شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ شکار ایک پرانے مکان میں جا گھسا۔ گھوڑا بھی بے تحاشا اس کے پیچھے گیا۔ مکان میں داخل ہوتے وقت مہدی کی کمر میں دروازے کی چوک لگی تو اسی وقت مر گیا اور یہ حادثہ 22 محرم کو ہوا۔ بعض کہتے ہیں اسے زہر دیا گیا تھا۔

## مرثیہ مہدی

سلم خاسر نے مہدی کا مرثیہ ان اشعار میں کہا ہے:

وَبَاكِئَةٍ عَلَيَّ الْمَهْدِي عِبْرِي      كَانِ بَهَا وَمَا جَنَّتْ جُنُونَا  
ترجمہ: بہت سی عورتیں مہدی پر آنسو بہا رہی ہیں اور اس طرح رورہی ہیں گویا وہ دیوانی ہیں۔ مگر حقیقت میں دیوانی نہیں ہیں۔

وَقَدْ حَمَمْتُ مَحَابِسَهَا وَ أَبَدْتُ      غَدَا نَرَهَا فَاظْهَرَتِ الْقُرُونَا

ترجمہ: انہوں نے اپنے چہروں کو نوچ لیا ہے اور اپنے سروں اور سینڈیوں کو برہنہ کر دیا ہے۔

لَيْسَ بِلِيِّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عِزِّ      لَقَاءِ أَبْقَى مَسَاعِي مَا يَلِينَا  
ترجمہ: اگر خلیفہ مر گیا ہے تو اسکے عمدہ اور زریں کا تو نہیں مرے بلکہ وہ باقی ہیں جو ہم بیان کرتے رہیں گے۔

سَلَامُ اللَّهِ غُنَّةٌ كُلِّ يَوْمٍ      عَلَيَّ الْمَهْدِي حِينَ تَوَى رَهِينَا  
ترجمہ: جب تک مہدی قبر میں ہے اس پر دنوں کی تعداد کے موافق یعنی بے شمار اللہ کی رحمتیں و سلام ہوں۔

تَرَكْنَا الدِّينَ وَالدُّنْيَا جَمِينًا      بِحَيْثُ تَوَى امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  
ترجمہ: ہم نے دین و دنیا دونوں کو ایک جگہ چھوڑ دیا ہے جس جگہ امیر المؤمنین لئے ہوئے ہیں۔ صولی کہتے ہیں۔ جب مہدی نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا ولی عہد بنایا تو مروان بن حفصہ نے یہ شعر کہے:

عَقِدْتُ لِمُوسَى بِالرِّصَالَةِ بَيْعَةً      شَدَّ إِلَيْهِ بِهَا عُرَى الْإِسْلَامِ

ترجمہ: موسیٰ کیلئے موضع اضافہ میں بیعت لی گئی جس سے خدا نے اسلام کا قبضہ مضبوط کر لیا۔

مُوسَىٰ الَّذِي عَرَفْتَ قُرَيْشٌ فَضْلَهُ وَلَهَا فَضِيْلَتُهَا عَلَى الْأَقْوَامِ  
ترجمہ: موسیٰ وہ ہے جس کی فضیلت قریش کو معلوم ہے اور قریش کی فضیلت تمام قوموں پر۔  
بِمُحَمَّدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَيِّ الْحَلَالِ وَمَاتَ كُلُّ حَرَامٍ  
ترجمہ: (قریش کی فضیلت) آنحضرت ﷺ کے بعد خلیفہ محمد سے ہے جس نے حلال اشیاء کو مروج کیا اور حرام چیزوں کو بند کر دیا۔

مَهْدِيٌّ أُمَّةَ الَّذِي أَمَسَتْ بِهِ لِلذَّلِّ أُمَّتُهُ وَلِلْأَعْدَامِ  
ترجمہ: اور وہ خلیفہ آپ کی امت کا مہدی ہے جس کے باعث یہ امت ذلت اور دشمنوں سے بے خوف ہو گئی ہے۔

مُوسَىٰ أَوْلَىٰ عَصَا الْخِلَافَةِ بَعْدَهُ جَفَّتْ بِذَلِكَ مَوَاقِعُ الْأَقْلَامِ  
ترجمہ: اور اس کے بعد موسیٰ عصاء خلافت کا والی ہے اور یہ بات لکھ کر قلمیں خشک ہو گئی ہیں۔ (یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔)  
ایک اور نے کہا:

يَا ابْنَ الْخَلِيفَةِ إِنَّ أُمَّةَ أَحْمَدَ تَأَقَّتْ إِلَيْكَ بِطَاقَةٍ أَهْوَأَتْهَا  
ترجمہ: اے امیر کے فرزند ارجمند امت احمدیہ کی خواہشات تیری فرمانبرداری کا اشتیاق رکھتی ہیں۔

وَلَتَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا كَالَّذِي كَانَتْ تُحَدِّثُ أُمَّةَ عُلَمَاءِهَا  
ترجمہ: تمہیں چاہئے کہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دے جیسا کہ علماء امت بیان کرتے ہیں۔

حَتَّى تَمْنَىٰ لَوْ تَرَىٰ أَمْوَاتَهَا مِنْ عَدْلِ حُكْمِكَ مَا تَرَىٰ أَحْيَاءَهَا  
ترجمہ: حتیٰ کہ امت کے مردے تیرے عدل و انصاف کی زندوں کی طرح امید رکھیں۔  
فَعَلَىٰ أَبِيكَ الْيَوْمَ بَهْجَةٌ مُلْكُهَا وَعَدَا عَلَيْكَ إِزَارُهَا وَرَدَّأَتْهَا  
ترجمہ: پس آج کے دن تیرے والد مرحوم پر پورے ملک میں خوشیاں ہیں اور کل تجھ پر



راحت کی چادر اور تہ بند ہے۔

صولی بیان کرتے ہیں۔ ایک عورت نے مہدی کے پاس آ کر کہا یَا عَصْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْظِرْنِي حَاجَتِي (یعنی اے رسول پاک ﷺ کے وارث میری حاجت پر غور کر۔) مہدی نے یہ سن کر کہا میں نے یہ الفاظ کبھی کسی سے نہیں سنے جاؤ اس کی حاجت پوری کر دو اور دس ہزار درہم اسے بطور انعام دو۔

توبہ کرتا ہوں

قریش خشکی کہتے ہیں۔ صالح بن عبدالقدوس بصری حجرم زندقہ مہدی کے پاس لایا گیا مہدی نے اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا میں اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھے:

مَا يَبْلُغُ الْأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ مَا يَبْلُغُ الْجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ  
ترجمہ: دشمنوں کو جاہل سے اتنا ضرر نہیں پہنچتا جتنا جاہل کو اپنے نفس سے نقصان پہنچتا ہے۔  
وَالشَّيْخُ لَا يَتْرُكُ أَخْلَاقَهُ حَتَّى يَوَارِي فِي نَرِي رَمِيهِ  
ترجمہ: بوڑھا کو سوٹ اپنے عادات چھوڑتا ہے جب تک کہ وہ قبر میں نہ جا پڑے۔

موت تک

مہدی نے اسے معاف کر دیا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو اسے پھر واپس بلایا اور کہا تم نے یہ بات نہیں کہی۔ وَالشَّيْخُ لَا يَتْرُكُ أَخْلَاقَهُ (یعنی بوڑھا اپنی عادت نہیں چھوڑتا) اس نے کہا ہاں کہی ہے۔ مہدی نے کہا پھر تو بھی ایسا ہی ہے موت تک اپنے اخلاق سے دستبردار نہ ہوگا۔ پھر اس کے قتل کا حکم دیا۔  
جھوٹے ہو

زہیر کہتے ہیں۔ مہدی کے پاس دس محدث آئے۔ ان میں فرج بن فضالہ اور غیاث بن ابراہیم بھی تھے اور مہدی کو کبوتر بازی کا شوق تھا۔ جب غیاث مہدی کے پاس لائے گئے تو ان سے کہا گیا امیر کو کوئی حدیث سنائیے۔ انہوں نے کہا فلاں شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ سبقت یا گھوڑوں وغیرہ سم دار جانوروں میں ہوتی ہے اور یا تیروں میں یا پرندوں میں۔ مہدی نے یہ سن کر انہیں دس ہزار درہم دیئے۔ جب وہ چلنے لگے تو مہدی نے کہا تم

جھوٹے ہو اور یہ مال تم نے جلبہ سے لیا ہے۔ پھر حکم دیا سب کو ترمذی کیے جائیں۔  
بیٹوں کے ہو

کہتے ہیں شریک مہدی کے پاس آیا تو مہدی نے اسے کہا تین باتوں سے ایک اختیار کر لو یا تو قضا اختیار کر لو یا میرے لڑکے کو پڑھاؤ۔ یا آج میرے ہاں دعوت کھاؤ۔ شریک نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ ان تینوں باتوں میں کھانا کھانا آسان ہے۔ مہدی نے قسم قسم کے کھانے پکانے کا حکم دیا۔ طبخ (بادرچی) شاہی نے کہا بس اب تم یہیں کے ہو چکے چنانچہ ایسا ہی ہوا انہوں نے عہدہ قضا بھی منظور کیا اور مہدی کے بیٹوں کو تعلیم بھی دی۔

### طریقہ طلب علم

بغوی نے جعدیات میں حمدان اصفہانی سے روایت کی ہے۔ میں شریک کے پاس تھا اتنے میں مہدی کا بیٹا آ گیا اور نکلیہ لگا کر بیٹھ گیا اور کوئی حدیث دریافت کی۔ شریک نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس نے دوبارہ پوچھا مگر کچھ جواب نہ ملا۔ شہزادے نے کہا آپ خلفاء کے بیٹوں کی تحقیر کرتے ہیں۔ شریک نے کہا یہ بات نہیں بلکہ اہل علم کے نزدیک علم کی شہزادوں کی نسبت زیادہ قدر ہے اور وہ اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر مہدی کا بیٹا دوزانوں ہو کر بیٹھا اور پھر ان سے پوچھا۔ شریک نے کہا ہاں یہ طلب علم کا طریقہ ہے۔

ذیل میں مہدی کے اشعار ہیں:

مَا يَمِلُّ النَّاسُ مِنَّا	مَا يَكُفُّ النَّاسُ عَنَّا
يَنْبُشُوا قَدْ ذَفْنَا	إِنَّمَا هُمُتْهُمْ أَنْ
لَكَانُوا حَيْثُ كُنَّا	لَوْ سَكْنَا بَاطِنَ الْأَرْضِ
فِي الْهَوَىٰ يَوْمَ مَجْنَا	وَهُمْ إِنْ كَاشَفُونَا

ترجمہ: لوگ اپنے آپ کو ہم سے باز نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ ہم سے طول ہوتے ہیں۔ جب ان کا ارادہ اور محبت یہ ہے کہ ہمارے مردوں کو شفقت کی وجہ سے قبروں سے باہر نکالیں۔ اگر ہم زمین کے نیچے سکونت اختیار کریں تو وہ اس جگہ ضرور آئیں گے جہاں ہم ہوں یعنی وہ فریاد محبت کے سبب ضرور ہمارے رفیق ہوں۔

## پردہ ہی بہتر

اسحاق موصلی سے مروی ہے۔ ابتدائے خلافت میں مہدی بھی منصور کی طرح پردے میں بیٹھا کرتا تھا۔ مگر قریباً ایک سال کے بعد یہ طریقہ موقوف کر دیا۔ بعضوں نے مشورہ دیا پردہ ہی بہتر ہے۔ مہدی نے کہا لذت تو آخر مشاہدہ میں ہی ہوا کرتی ہے۔

مہدی بن سابق سے مروی ہے۔ مہدی ایک جلوس میں جا رہا تھا۔ اس دوران ایک شخص نے باواز بلند یہ اشعار پڑھے:

قُلْ لِلْخَلِيفَةِ حَاتِمٌ "لَكَ خَائِنٌ" فَخَفِ الْإِلَٰهَ وَاعْفُفْنَا مِنْ حَاتِمِ

ترجمہ: خلیفہ سے کہہ دو آپ کا حاتم خائن ہے۔ پس اللہ سے ڈرتے ہوئے اس ظالم کے ہاتھ سے مجھے رہا کرائے۔

إِنَّ السَّفِيْفَ إِذَا اسْتَعَانَ بِخَائِنٍ كَانَ الْعَفِيفُ شَرِيْكُهُ فِي الْمَأْتِمِ

ترجمہ: جب نیک کردار والا شخص خائن کی امداد کرے گا تو وہ بھی اس کے گناہ اور ظلم میں شریک ہوگا۔

مہدی نے یہ سن کر حکم دیا کہ عالوں سے جس شخص کا نام حاتم ہوا سے معزول کر دو۔ ابو عبیدہ سے مروی ہے۔ مہدی جب بصرہ میں آتا تو پانچوں وقت کی نماز جامع مسجد میں آ کر پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن نماز تیار تھی ایک اعرابی نے کہا میں چاہتا تھا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ لیکن میں نے ابھی تک وضو نہیں کیا تو مہدی نے حکم دیا اچھا اس کا انتظار کرو اور خود محراب میں داخل ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں نے بتایا وہ شخص وضو کر کے آ گیا ہے تب اس نے تکبیر تحریر یہ کہی۔ لوگ یہ دیکھ کر اس کی وسیع الاخلاقی سے حیران ہو گئے۔

## نام کون کر

ابراہیم بن نافع سے مروی ہے۔ بصرہ کے لوگوں میں ایک نہر پر تنازع ہو گیا اور وہ مہدی کے پاس آئے تو اس نے کہا یہ اللہ کی زمین جو ہمارے ہاتھوں میں ہے سب مسلمانوں کی ہے۔ اس لیے جب تک اسے کوئی خرید نہ لے اس کی قیمت تمام مسلمانوں پر تقسیم کی جائے۔ یا ان کی بہتری کے کاموں میں خرچ کی جائے۔ اس لیے اس کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا اس پر ہمارا قبضہ حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مطابق ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا ہے جو شخص کسی بنجر زمین کو آباد کرے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے اور یہ زمینیں بنجر تھیں۔ مہدی آنحضرت ﷺ کے نام کو سن کر تعظیماً ایسا جھکا کہ اس کا رخسارہ زمین پر لگ گیا اور کہا کہ میں نے رسول پاک ﷺ کے حکم کو مان لیا ہے اور اس کی اطاعت کی ہے لیکن اس کے چاروں طرف پانی ہے۔ ہاں اگر اس کے بنجر ہونے پر گواہ قائم ہو جائیں تو میں مان لیتا ہوں۔

اپنی ذات اور ملائکہ کو بھی

اصمعی سے مروی ہے۔ مہدی نے ایک دن بصرہ میں خطبہ پڑھا اور کہا خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا حکم دیا ہے جس میں اپنی ذات اور ملائکہ کو بھی شامل کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ (پ 22 سورة الاحزاب آیت 56) ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے نبی پر۔ (ترجمہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ بمشریالوی)

### امتوں پر فضیلت

جس طرح خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو فضیلت دی ہے اسی طرح تم میں آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرما کر تم کو اور امتوں پر فضیلت دی ہے۔

### وفات پر

جب مہدی نے وفات پائی تو ابوالعباس نے یہ شعر کہے:

رحن فی الموشی واصبحن علیہن المسوح

کل نکاح من الدهر له یوم نظرح

ترجمہ: انہوں نے پاکیزہ لباس میں شام کی اور صبح انہوں نے ٹائوں میں کی۔ زمانے کے ہر شخص کو وہ سخت پیش آنے والا ہے۔

لست بالباقی ولو عمرت ما عمر نوح

نح علی نفسک یا مسکین ان کنت نوح

ترجمہ: دنیا میں تجھے بقا نہیں۔ اگرچہ تجھے عمر نوح مل جائے۔ اگر تو گریہ و زاری کرتا ہے تو اے مسکین اپنے آپ پر گریہ و زاری کر۔

## روایات مہدی

صولی نے احمد بن محمد بن صالح تمار سے انہوں نے یحییٰ بن محمد قرشی سے اور انہوں نے محمد بن ہشام سے انہوں نے محمد بن عبدالرحمن بن مسلم مدائنی سے روایت کی ہے۔ مہدی نے ایک دن خطبہ میں کہا مجھے شعبہ نے حدیث سنائی اور انہیں علی بن زید نے انہیں ابو نضرہ نے اور وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں عصر سے لیکر غروب شمس تک خطبہ سنایا جسے بعضوں نے یاد رکھا اور بعضوں نے بھلا دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا اے لوگو! دنیا مٹھی اور سر سبز دکھائی دیتی ہے۔

## چھوٹا کرنا یہ ہے

صولی اسحاق بن ابراہیم قزاز سے روایت در روایت ابن حفظ خطابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مہدی کو کہتے سنا ہے مجھے میرے والد نے بسندہ حدیث بیان کی۔ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں عجیبوں کا ایک وفد آیا جن کی ڈاڑھیاں منڈھی ہوئی اور مونچھیں دراز تھیں۔ آپ نے صحابیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان کی مخالفت کیا کرو یعنی اپنی ڈاڑھیاں لمبی کیا کرو اور مونچھیں چھوٹی کیا کرو اور مونچھوں کا چھوٹا کرنا یہ ہے کہ ہونٹوں پر نہ گریں۔ پھر مہدی نے اپنا ہاتھ ہونٹ پر رکھ کر بتایا۔

## تحقیق اور احتیاط کر

منصور بن مزہم یحییٰ بن حمزہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مہدی نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا مجھ سے میرے والد نے بسندہ حدیث بیان کی۔ آنحضرت ﷺ نے نماز میں بسم اللہ با آواز بھی پڑھی ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث ہم آپ کے اعتبار سے روایت کریں گے۔ مہدی نے کہا کہ ہاں بیشک۔

## گھڑی ہوئی حدیثیں

ذہبی کہتے ہیں۔ اس حدیث کی اسناد متصل ہیں۔ لیکن احکام میں کسی شخص نے مہدی اور اس کے والد کی احادیث سے حجت نہیں پکڑی۔ صرف محمد بن ولید نے اسے روایت کیا ہے جس

کی بابت ابن عدی کہتے ہیں وہ حدیثیں وضعی بنالیا کرتا تھا۔

مہدی کے عہد خلافت میں درج ذیل علماء فوت ہوئے:

شعبہ ابن ذئب سفیان ثوری، ابراہیم بن ادہم، داؤد طائی، زاہد بشار بن برد، شاعر حماد بن سلم، ابراہیم بن طہمان، ظلیل بن احمد نحوی صاحب عروض۔

## ہادی ابو محمد موسیٰ بن مہدی

ہادی ابو محمد موسیٰ بن مہدی بن منصور اس کی والدہ ام ولد بربر یہ تھی جس کا نام خیزران تھا۔

147 ہجری میں رے میں پیدا ہوا اور اپنے والد کے بعد خلیفہ ہوا۔

### خواب اچھی طرح

خطیب کہتے ہیں۔ جس عمر میں یہ خلیفہ ہوا اس میں کوئی خلیفہ نہیں ہوا اور یہ صرف ایک سال چند ماہ تحت نشین رہا۔ اس کے والد نے اسے زندیقوں کے قتل کرنے کی وصیت کی تھی جسے اس نے خوب اچھی طرح پورا کیا اور ان میں سے لاتعداد آدمیوں کو قتل کیا۔

### موسیٰ الطبق

ہادی کو موسیٰ الطبق کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا اوپر کا ہونٹ اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ بچپن میں اس کے باپ نے ایک خادم اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ جب وہ اس کا منہ کھلا دیکھتا تو کہتا موسیٰ الطبق (یعنی اے موسیٰ اپنا منہ بند کر) اسی سے اس کا نام موسیٰ الطبق پڑ گیا۔

### قادر الکلام

ذہبی کہتے ہیں۔ ہادی شراب پیا کرتا تھا اور کھیل کود میں مشغول رہا کرتا تھا۔ گدھے پر سواری کیا کرتا تھا اور امور خلافت کو صحیح طرح انجام نہ دے سکتا تھا۔ مگر اس کے باوجود اعلیٰ درجہ کا فصیح اور قادر الکلام ادیب تھا اور صاحب رعب و بدبہ تھا۔ اور جبکہ بعض کہتے ہیں بڑا ظالم تھا۔

### جنگی اوزار

ہادی ہی سب سے پہلا خلیفہ ہے جس کے سامنے سوارنگی تلواریں اور نیزے اور چلوں میں تیر بھینچے ہوئے چلتے تھے۔ اسے دیکھ کر اس کے عمال نے بھی یہی انداز اختیار کیا۔ اس کے

زمانے میں جنگی اوزار بہت ہو گئے تھے۔  
بانس کی جڑ

ہادی نے ربیع الاخریٰ ۱۷۰ ہجری میں انتقال کیا۔ مؤرخین کا اس کی موت کے سبب میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس نے اپنے ایک ندیم کو دھکا دیا اور وہ پیٹ کے بل ایک کٹے ہوئے بانس کی جڑ پر گر پڑا اور گرتے ہوئے اس کا سہارا پکڑنے میں اسے بھی گرا دیا اور اس کے پیٹ میں اس کی ناک میں بانس گھس گیا اور دونوں مر کر رہ گئے۔ بعض کہتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں ایک پھوڑا تھا اور بعض کہتے ہیں جب اس نے رشید کو قتل کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی ماں خیزران نے اسے زہر دلوادیا تھا۔ بعض کہتے ہیں اس کی والدہ حاکمہ تھی اور سلطنت کے بڑے بڑے معاملات میں دخل دیا کرتی تھی۔ بہت سے امراء و وزراء صبح کو اس کے دروازے پر جایا کرتے تھے۔ ہادی نے منع کر دیا اور اپنی والدہ کو سخت سست باتیں کہیں اور کہا اگر آج کے بعد تمہارے دروازے پر کوئی امیر مجھے نظر آیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تیرا کام چرخہ کا تیا قرآن شریف پڑھنا ہے۔ خیزران سخت غصہ میں اٹھ کر چلی آئی۔

کپڑا ڈال کر

کہتے ہیں اسی روز ہادی نے اس کے پاس مسموم (زہریلا) کھانا بھیجا۔ وہ اس نے کتے کو ڈلوایا تو وہ مر گیا۔ اس پر ماں نے بیٹے کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک روز ہادی شدت بخار میں لیٹا ہوا تھا، خیزران کے اشارے سے اس کے منہ پر کپڑا ڈال کر سانس بند کر دیا گیا جس سے وہ مر گیا۔ اس نے اپنے پیچھے سات۔ بیٹے چھوڑے۔ ہادی اشعار بھی کہا کرتا تھا چنانچہ جب اس کے بھائی ہارون نے اپنے آپ کو معزول کرنے سے انکار کیا تو ہادی نے یہ اشعار کہے:

نَصَحْتُ لِهَارُونَ فَرَدَّ نَصِيحَتِي وَكُلَّ امْرَأَةٍ لَا يَقْبَلُ النَّصِيحَةَ نَادِمٌ  
 ترجمہ: میں نے ہارون کو نصیحت کی مگر اس نے میری نصیحت کو رد کر دیا لیکن جو نصیحت قبول

نہیں کرتا وہ شرمندہ ہوتا ہے۔

وَأَذَعُوهُ لِلْأَمْرِ الْمَوْلَفِ بَيْنَنَا فَيَنْعُدُ عَنْهُ وَهُوَ فِي ذَاكَ ظَالِمٌ

ترجمہ: اور میں اسے اس امر کیلئے جو ہمارے درمیان مجوز تھا بلایا مگر اس نے اس سے

اعراض کیا اور دور ہوا اور وہ اس اعراض کرنے میں ظلم کرنے والا ہے۔

وَلَوْ لَا اِنْتِظَارِي مِنْهُ يَوْمًا اِلَى عَدَدٍ لَعَادَ اِلَى مَا قُلْتُمْ وَاَوْرَاھِمُ  
ترجمہ: اگر میں اپنے کام میں ایک دن تاخیر نہ کرتا تو وہ ذلت و خواری سے میرا اس کام کو  
قبول کرتا۔

خطیب نے فضل سے روایت کی ہے۔ ہادی ایک شخص پر ناراض ہوا۔ پھر اس کی کسی نے  
سفارش کی تو وہ اس سے راضی ہو گیا۔ وہ شخص معذرت کرنے لگا تو ہادی نے کہا معذرت کی  
تکلیف کے عوض یہ رضامندی کافی ہے۔

### سخاوت و سیاست

عبداللہ بن مصعب سے مروی ہے۔ مروان بن حفصہ ہادی کے پاس آیا اور ایک قصیدہ  
مدحیہ پڑھ کر ستایا۔ جب اس شعر پر پہنچا:  
تَشَابَهَ يَوْمًا بَأْسُهُ وَنَوَالُهُ فَمَا اخَذَ يَدْرِي لَا يَهْمَا الْفَضْلُ  
ترجمہ: خلیفہ مہدی کی سخاوت و سیاست فی زمانہ ایسی متشابہ ہو گئی ہے، کوئی پتیاں نہیں سکتا  
کہ ان میں سے کون بہتر ہے۔

### دونوں رقیبیں

تو ہادی نے کہا دونوں باتوں سے کونسی پسند کرتے ہو؟ تمہیں ہزار فوراً وصول کر لینے کو یا  
ایک لاکھ خزانے سے وصول کرنے کو۔ مروان نے کہا تمہیں ہزار نقد مل جائیں اور لاکھ کا حکم نامہ  
لکھ دیا جائے۔ ہادی نے کہا اچھا تمہیں دونوں رقیبیں فوراً مل جائیں گی۔

### دو بادشاہِ خلافت

صولی کہتے ہیں۔ ہادی اور رشید کی والدہ خیزران اور ولید کی اور سلیمان کی والدہ بنت  
عباس عصبیہ اور ولید بن عبدالملک یزید ناقص اور ابراہیم کی والدہ شاہین بنت فیروز بن یزید جرد  
بن کسریٰ کے سوا اور کسی کے لطن سے دو بادشاہِ خلافت پیدا نہیں ہوئے۔ مصنف کہتے ہیں ان  
کے علاوہ اور ابھی ہیں۔ یعنی بانی خاتون متوکل اخیر کی کنیزک جس سے عباس و حمزہ پیدا ہوئے اور  
وہ دونوں تختِ خلافت پر بیٹھے اور اسی کی لوٹھی موسمہ کزل جس کے دو بیٹے داؤد اور سلیمان  
تخت کے والی ہوئے۔ اس کے بعد صولی لکھتے ہیں۔ جرجان سے لیکر بغداد تک ہادی کے عداوہ



کسی اور خلیفہ نے ڈاک کا نظام قائم نہیں کیا۔

ہادی کی مہر پر (اللہ ثقہ موسیٰ وہ یومن) کندہ تھا۔ صولی کہتے ہیں سلم خاسر نے ہادی کی مدح میں یہ اشعار کہے ہیں:

مُوسَى الْمَطْرُ غَيْثٌ بَكَرٌ      ثُمَّ انْهَمَرَ الْوَيْ الْمَرَزُ

ترجمہ: موسیٰ بادل ہے جو صبح کے وقت برسا، اس نے پھر بخشش کی اور کڑواہٹ کو مٹھاس بنا دیا۔

كَمْ اعْتَسَرُ وَكَمْ قَدَرُ      ثُمَّ غَفِرُ عَذَلِ السَّيْرِ

ترجمہ: بسا اوقات وہ دشمنوں پر دشوار ہو اور بہت غلبہ پایا مگر پھر معاف کر دیا۔ اس کے تمام افعال حلاوت و عدل کے ساتھ ہیں۔

بِاقِي الْأَثْرِ خَيْرٌ وَ شَرُّ      نَفْعٌ وَ ضَرُّ خَيْرٌ الْبَشْرِ

ترجمہ: اس کا نشان باقی رہا۔ بھلائی کا نشان دوستوں کیلئے اور برائی کا نشان دشمنوں کیلئے سب سے اچھا ہے۔

فَرْعٌ مُضْرٌ بَدْرٌ      لِمَنْ نَظَرُ هُوَ الْوَرَزُ

ترجمہ: وہ قبیلہ مضر سے ہے۔ چاند ہے اس کیلئے جس نے دیکھا وہ پناہ گاہ ہے۔

لِمَنْ حَضَرَ وَالْمُفْتَحُ      لِمَنْ عَبَّرُ

ترجمہ: ہمارے نزدیک وہ کسی کیلئے حاضر ہوئے ہیں اور گرے ہوؤں کیلئے فخر ہے۔

یہ قصیدہ بحر مستعلن پر ہے اور سلم خاسری اس کا موجد ہے۔ اس سے پہلے کسی شاعر نے اس وزن پر شعر نہیں کہا۔

### فضول شعر

صولی سعید بن سلم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے امید ہے خدا تعالیٰ اس ایک بات کے بدلے بخش دے گا جو میں نے اس سے سنی وہ یہ کہ ایک روز میں اس کے پاس گیا تو ابو الخطاب سعدی اپنا قصیدہ مدحیہ سے سنار ہاتھا۔ جب وہ اس شعر پر پہنچا۔

يَا خَيْرَ مَنْ عَقَدَتْ كَفَاهُ حَجْرَتُهُ      وَ خَيْرَ مَنْ قَلَدَتْهُ أَمْرَهَا مَضْرُ

ترجمہ: اے ان تمام لوگوں سے بہتر جنہوں نے ہاتھ کمر پر باندھے ہیں اور اے ان

لوگوں سے بہتر جن کے ہاتھوں مصر قبیلہ نے حکومت کی لگام دیدی ہے۔

ہادی نے کہا یہ تو تم نے بہت فضول شعر کہا ہے اور یہ اس واسطے کہا ہے کہ شاعر نے اپنے شعر میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا اے امیر اس کا مطلب زمانہ موجودہ کے لوگوں سے ہے۔ شاعر نے سوچ کر کہا:

إِلَّا النَّبِيَّ رَسُولٌ "أَنَّ لَكَ فَضْلاً وَأَنْتَ بِذَاكَ الْفَضْلِ تَفْتَحِرُ"  
ترجمہ: مگر رسول کریم ﷺ کیونکہ ان کی بزرگی تو ظاہر ہے اور آپ ان کی بزرگی سے ہی فخر کرتے ہیں۔

ہادی نے کہا اب تم نے خوب کہا ہے۔ پھر اسے پچاس ہزار درہم دینے کا حکم دیا۔

### یہ ثواب و رحمت

مدائنی کہتے ہیں۔ ہادی نے ایک شخص کے بیٹے کے مرنے پر اس کی تعزیت راضوس کرتے ہوئے کہا خدا نے تمہیں خوش کیا تھا اور وہ فتنہ اور بلا تھی اور تمہیں غمگن کی صورت حال پیش آئی ہے اور یہ ثواب و رحمت ہے۔

صولی کہتے ہیں سلم خاسر نے ہادی کے بارے ایسے اشعار کہے ہیں جو ماتم پرسی اور تہنیت (مبارکباد) کو جامع ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے:

### اشعار

لَقَدْ قَامَ مُوسَىٰ بِالْخَلْقَةِ وَالْهُدَىٰ وَمَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّدٌ

ترجمہ: موسیٰ خلافت و ہدایت پر قائم ہو گیا اور امیر المؤمنین محمد فوت ہو گیا۔

فَمَاتَ الَّذِي عَمَّ الْبَرِيَّةَ فَقَدَهُ وَقَامَ الَّذِي يَكْفِيكَ مَنْ يَفْقَدُ

ترجمہ: پس مراد وہ شخص جس کا معدوم ہونا تمام جہان کو شامل ہے اور اس کے قائم مقام وہ

شخص ہو جو اس معدوم کی جانب سے کفایت کرتا ہے۔

مروان بن ابی حفصہ نے بھی ایسے ہی شعر کہے ہیں:

لَقَدْ أَصْبَحَتْ تَخْتَالُ فِي كُلِّ بَلَدَةٍ بِقَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَقَابِرُ

وَلَوْ لَمْ تُسْكَنْ بِإِسْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمَّا بَرَحَتْ تَبْكِي عَلَيْهِ الْمَنَابِرُ

وَلَوْلَمْ يَقُمْ مُوسَىٰ عَلَيْهَا لَوَجَّعَتْ حَيْنِينَا كَمَا حَنَّ الصَّفَايَا الْعَشَائِرُ  
ترجمہ: ہر شہر کی قبریں امیر المؤمنین کی قبر پر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اگر امیر المؤمنین کی  
موت کے بعد منبروں کو اس کے بیٹوں سے تسکین نہ دی جاتی تو وہ ہمیشہ روتے ہی رہتے اور اگر  
موسیٰ ان منبروں پر نہ کھڑا ہوتا تو وہ احیاء و اقرباء کی طرح دردناک ہوتے۔  
**رنگِ فقی**

صولی نے محمد بن زکریا سے اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن کئی سے روایت کی ہے کہ ہم  
ہادی کے سامنے اس بات پر گواہ پیش ہوئے کہ فلاں شخص نے قریش کو سخت وست کہا ہے اور  
رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس پر ہادی نے ہمیں بٹھا کر فقہاء  
اور مدعا علیہ کو بلایا اور پھر ہم نے شہادت دی تو مہدی کا رنگِ فقی ہو گیا اور تھوڑی دیر سرنگوں رو  
کر سر اٹھایا اور کہا میں نے اپنے والد مہدی سے بسندہ سنا ہے عبد اللہ بن عباس نے فرمایا جس  
نے قریش کی اہانت کی خدا تعالیٰ اس کی اہانت کرے گا۔ پھر مدعا علیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا  
اے دشمن خدا تو نے قریش کی اہانت پر ہی بس نہیں کیا بلکہ آنحضرت ﷺ کی شان میں بھی  
گستاخی کی ہے۔ جاؤ اس کی گردن اڑادو۔ خطیب نے اسے بسندہ صولی سے روایت کیا ہے۔  
یہ حدیث ایک اور طریقے سے مرفوعاً بھی مروی ہے۔ ہادی کے زمانے میں نافع قاری اہل  
مدینہ وغیرہ کا انتقال ہوا۔

## ابو جعفر ہارون الرشید

ابو جعفر ہارون الرشید بن مہدی بن منصور عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس  
اپنے والد کی وصیت کے موافق اپنے بھائی ہادی کے بعد جنتہ کی رات 16 ربیع الاول 170  
ہجری میں خلیفہ ہوا۔ صولی کہتے ہیں اسی رات کو عبد اللہ مامون پیدا ہوا اور کبھی ایسا اتفاق نہیں ہو  
اگر ایک رات میں ایک خلیفہ مرے اور دوسرا تخت پر بیٹھے اور تیسرا پیدا ہو۔ پہلے اس کی کنیت  
ابوموسیٰ تھی بعد میں ابو جعفر ہوئی۔ اس نے اپنے باپ دادا اور مبارک بن فضالہ سے حدیث  
روایت کی ہے۔ اس سے اس کے بیٹے مامون وغیرہ نے روایت کی ہے۔ یہ ایک متمیز خلیفہ اور  
بادشاہان دنیا سے ایک بڑا بادشاہ اور بہت جنگ ورج کرنے والا گزرا ہے چنانچہ ابو العلاء اس کی

صفت میں کہتا ہے

فَمَنْ يَطْلُبُ لِقَائِكَ أَوْ يَرِدُهُ      فَبِالْحَرَمَيْنِ أَوْ أَقْصَى الشُّغُورِ  
فَفِي أَرْضِ الْعَدْوِ عَلَى طَمِيرٍ      فَفِي أَرْضِ الْبَسْرَةِ فَوْقَ كُحُورِ

ترجمہ: یعنی جو شخص آپ کے دیدار کی خواہش کرے تو اسے چاہئے کہ حرمین میں یا حدود  
بنگ میں آپ سے ملاقات کرے۔ دشمن کی زمین میں تو آپ کو تیز رفتار گھوڑے پر پائے گا اور  
زمین پاکیزہ (یعنی حرمین شریفین) میں اونٹ کی کوہان پر دیکھے گا۔

پیدائش ہارون الرشید

ہارون الرشید 148 ہجری میں بمقام رے اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا والد رے اور  
خراسان کا حاکم تھا۔ اس کی والدہ ام الولد تھی جس کا نام خیزران تھا۔ ہادی کی ماں بھی وہی تھی۔  
مروان بن ابی حفصہ اسی کی تعریف میں بیان کرتا ہے:

يَا خَيْرَ رَأَى هُنَاكَ ثُمَّ هُنَاكَ      أَمْسِي يُسْوِسُ الْعَالَمِينَ أَبْنَانِكَ

ترجمہ: خیزران تجھے مبارک ہو اور پھر مبارک ہو کہ تیرے بیٹے تمام جہان پر حکمرانی  
کر رہے ہیں۔

اگر قابو میں آجائے

ہارون الرشید گورا لبیا، خوبصورت، فصیح البیان عالم اور ادیب شخص تھا۔ اپنے زمانہ  
خلافت میں مرتے دم تک ہر روز سو رکعت نماز نفل پڑھا کرتا تھا اور بیماری کے علاوہ کبھی ناعد  
نہیں کرتا تھا۔ ہر روز اپنے موروثی مال سے ایک ہزار درہم خیرات کیا کرتا تھا۔ اہل علم اور علم  
کو دوست رکھتا تھا۔ حرمت اسلام کی عزت کرتا تھا۔ ریاکاروں اور ایسے کلام کا جو نفل کے خلاف  
ہو سخت دشمن تھا چنانچہ جب اسے اطلاع ملی کہ بشر مرہی خلق قرآن کا قائل ہے تو کہنے لگا۔ اگر  
وہ میرے قابو میں آجائے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ وعظ میں اپنے گناہوں اور اسراف کو  
یاد کر کے اکثر رویا کرتا تھا۔ اپنی مدح کو پسند کرتا تھا اور اس پر بہت انعام دیا کرتا تھا۔ خود بھی  
شاعر تھا۔ ایک دفعہ اس کے پاس مرہ بن سماک واعظ آیا تو اس نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی تو  
ابن سماک نے کہا بادشاہت میں آپ کی تواضع آپ کے شرف سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ابن  
سماک نے وعظ کیا اور ہارون رشید کو خوب رالایا۔

## بہت سخت مصائب

ہارون بنس نفیس فضیل بن عیاض کے ہاں آیا جایا کرتا تھا۔ عبدالرزاق کہتے ہیں ایک روز مکہ شریف میں فضیل بن عیاض کے پاس تھا۔ ہارون رشید پاس سے گزرا۔ فضیل بن عیاض نے کہا اے لوگو! تم اس شخص کو برا سمجھتے ہو حالانکہ یہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر یہ مر گیا تو تمہیں سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

## عجیب جان کر

ابومعاویہ ضریر کہتے ہیں۔ میں جب کبھی ہارون رشید کے سامنے آنحضرت ﷺ کا ذکر کرتا تو وہ کہتا صَلَّى اللهُ عَلَيَّ سَيِّدِي اور ایک دفعہ میں نے اس کو آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث سنائی کہ ”میں چاہتا ہوں کہ راہِ خدا میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔“ یہ سن کر ہارون زار و قطار رونے لگا پھر ایک دن میں نے اسے یہ حدیث سنائی حضرت موسیٰ اور آدم علیہما السلام کی بحث ہوئی اور اس وقت ہارون الرشید کے پاس قریش میں سے ایک معزز شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ ان کو کہاں ملے تھے؟ یہ سن کر ہارون رشید نہایت برا فرودختہ ہوا اور کہنے لگا تلوار اور درہ حاضر کرو۔ یہ شخص زندیق ہے۔ آنحضرت ﷺ کی حدیث میں طعن کرتا ہے۔ میں نے بہ مشکل تمام یہ کہہ کر کہ انہوں نے اسے عجیب بات سمجھ کر پوچھا ہے۔ خلیفہ کا غصہ فرو کیا۔

## ہاتھ دھلائے

ابومعاویہ سے ہی مروی ہے۔ ایک روز میں نے رشید کے ہاں کھانا کھایا۔ کسی شخص نے میرے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی ڈالا اور پھر رشید نے کہا تم جانتے ہو کس نے تمہارے ہاتھ دھلائے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ رشید نے کہا اکرامِ علم کی خاطر میں نے خود آپ کے ہاتھ دھلائے ہیں۔

## رونے والے

منصور بن عمار کہتے ہیں۔ ذکرِ خدا کے وقت تین شخصوں سے بڑھ کر رونے والا میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ ایک فضیل بن عیاض دوسرا ہارون الرشید اور تیسرا ایک اور شخص۔

## امت کی بابت

عبداللہ تو اریری کہتے ہیں۔ جب ہارون رشید فضیل کو ملا تو وہ کہنے لگا کہ اے نیک بخت تمہیں ہی قیامت کے روز جبکہ تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، اس امت کی بابت سوال ہوگا۔

## حکم تعزیت

ہارون رشید کے محاسن اخلاق کی یہ حالت تھی جب اسے ابن مبارک کی خبر مرگ ملی تو مجلس عزاء (تعزیت کی مجلس) میں بیٹھ گیا اور اپنے امراء کو ان کے افسوس کیلئے حکم دیا۔

## اتنا زیادہ انعام

نفظو یہ کہتے ہیں۔ رشید اپنے دادے ابو جعفر کے قدم بقدم چلتا تھا۔ مگر حریص نہ تھا بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی خلیفہ صحیح ہوا ہی نہیں، چنانچہ سفیان بن عیینہ کو ایک دفعہ اس نے ایک لاکھ روپے عطا کیے اور اسٹیج موصلی کو ایک دفعہ دو لاکھ روپے انعام میں دیئے اور مروان بن ابی حفصہ کو ایک قصیدہ پر پانچ ہزار دینار، ایک خلعت اور اپنی خاص سواری کے گھوڑوں سے ایک گھوڑا اور دس رومی غلام عطا کیے۔

## جب لوگ چلے گئے

اسماء کہتے ہیں۔ رشید نے ایک دفعہ مجھے کہا ہم سے غافل ہو کر ہم پر جفا کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا اے امیر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی جلدی میں، میں کسی شہر میں نہیں ٹھہرا۔ جب لوگ اٹھ کر چلے گئے تو میں نے یہ شعر پڑھا:

كَفَاكَ كَفًّا مَا تَلِيَقُ بِدِرْهِمٍ وَأَخْسَرَى تُعْطَى بِالسَّيْفِ الدِّمَاءُ  
ترجمہ: آپ کو ایسی ہتھیلی ہی کافی ہے جو ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھتی اور دوسری (یعنی ہتھیلی) تلوار سے دشمنوں کے خون کو بہاتی ہے۔

وہ اسے سن کر کہنے لگا تم نے خوب کہا ہے۔ اسی طرح ظاہر میں میری عزت کیا کرو اور خلوت میں مجھے پند و نصائح کیا کرو۔ پھر مجھے پانچ ہزار دینار دینے کا حکم دیا۔

## مسجد حرام سے

مسعودی مروج میں لکھتے ہیں۔ رشید نے بحیرہ روم اور بحر قزقم کے ملانے کا ارادہ کیا تھا۔

مگر یحییٰ بن خالد براہمی نے منع کیا اور کہا پھر کفار مسلمانوں کو مسجد حرام سے جھپٹ لے جایا کریں گے اور حجاز تک اپنے جہاز لے آئیں گے۔ یہ سن کر رشید نے اس ارادے کو فسخ کر دیا۔

### زبیدہ نیک عورت

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ جیسے آدمی ہارون رشید کو ملے تھے کسی کو نہیں ملے۔ خاندان براہمہ سے اس کے وزیر تھے اور ابو یوسف جیسا شخص اس کا قاضی تھا اور مردان بن ابی حفصہ جیسا شخص اس کا شاعر تھا اور عباس بن محمد جیسا شخص اس کا ندیم تھا اور فضل بن ربیع جیسا عظیم القدر شخص اس کا حاجب تھا اور ابراہیم موصلی جیسا گویا اس کا مغنی تھا اور زبیدہ جیسی نیک عورت اس کی بیوی تھی۔ بعضوں نے کہا ہے ہارون الرشید کا زمانہ ایک دلہن کی طرح تھا۔

### کئی دفتر

ذہبی کہتے ہیں۔ ہارون الرشید کے حالات لکھنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ اس کی نیکیاں بے شمار ہیں اور اس کے ساتھ اس کے لہو و لعب، حصول لذات ممنوعہ اور گانا سناؤ وغیرہ کے حالات کی بھی کمی نہیں۔ خدا اس کو معاف فرمائے۔

### وفات علمائے کرام

حسب ذیل علمائے امت نے اس کے عہد میں انتقال کیا۔

مالک بن انس کیٹ بن سعد، قاضی ابو یوسف، شاعر رشید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، قاسم بن معن، مسلم بن خالد زنجی، نوح الجامع، حافظ ابو عوانہ لشکری، ابراہیم بن سعد زہری، ابواسحاق فزاری، ابراہیم بن ابی یحییٰ، شیخ الشافعی، اسد کوئی جو اصحاب ابو حنیفہ سے تھے، اسمعیل بن عیاش، بشر بن مفضل، جریر بن عبد الحمید، زیاد بکائی، سلیم مرقی، صاحب حمزہ سیویہ، امام المرزبی، ضعیف زاہد، عبد اللہ عمری، زاہد عبد اللہ بن مبارک، عبد اللہ بن ادریس کوئی، عبد العزیز بن ابی حازم، درادودی، کسائی، شیخ القراء، والیقا، محمد بن حسن صاحب ابی حنیفہ، علی بن مسہر، غنی، یحییٰ بن یونس سجی، فضیل بن عیاض، ابن السہاک، واعظ، مردان بن ابی حفصہ، شاعر، معانی بن عمران موصلی، مستتر بن سلیمان، مفضل بن فضالہ، قاضی، عمر موی، کاظم موی، بن ربیعہ، ابوا حکم مصری، جو اولیاء سے تھے۔ نعمان بن عبد السلام، صفہانی، ہشیم، یحییٰ بن ابی زائدہ، زید بن ربیع، یونس بن حبیب، نحوی، یعقوب بن عبد الرحمن قاری، مدینہ، صفحہ بن سلام، عامر اندلس، عبد الرحمن بن قاسم، عباس بن

احف شاعر ابو بکر بن عیاش مقرئ یوسف بن بلشون وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔  
کانپتے ہوئے

175 ہجری میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن مصعب زہری نے یحییٰ بن عبداللہ بن حسن علوی پر خلیفہ کے معاملہ میں تہمت لگائی کہ اس نے مجھے رشید کے برخلاف بغاوت کرنے کے لیے کہا ہے۔ پس یحییٰ نے رشید کے سامنے اس سے مبالغہ کیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر کہا کہ ہواے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یحییٰ نے امیر کے برخلاف مجھے بغاوت کے لیے نہیں بلایا تو مجھے نیست و نابود کر دے۔ زہری نے ان کلمات کو بہت مشکل سے کانپتے ہوئے ادا کیا۔ پھر اسی طرح یحییٰ نے بھی کہا۔ پھر دونوں چلے آئے چنانچہ زہری اسی روز مر گیا۔

### چوٹی گر پڑی

176 ہجری میں امیر عبدالرحمن بن عبدالملک بن صالح عباسی نے شہر دسہ فتح کیا۔ 179 ہجری میں ماہ رمضان میں رشید نے عمرہ کیا اور پھر اسی احرام سے حج کیا اور مکہ شریف سے عرفات تک پاپیادہ (پیدل) سفر کیا۔ 180 ہجری میں سخت زلزلہ آیا جس سے اسکندریہ کے منارہ کی چوٹی گر پڑی۔ 181 ہجری میں قلعہ صفصاف غلبتہ فتح ہوا اور 183 ہجری میں اہل خرزج نے آرمینیا پر حملہ کیا اور بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو قید بھی کر لیا۔ جن کی تعداد قریباً ایک لاکھ تھی۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔

### رعب و دبدبہ

187 ہجری میں ہارون رشید کے پاس بادشاہ روم ابوقحور نامی کا خط آیا جس میں اس نے اس عہد نامہ کو توڑ دیا جو مسلمانوں اور مکہ زہبی کے مابین ہوا تھا۔ اس خط کی عبارت یہ تھی ”از جانب ابوقحور بادشاہ روم بنام ہارون الرشید بادشاہ عرب! واضح ہو جو ملکہ ہم سے پہلے گزری ہے، گو اس کی وہی حیثیت تھی جو شطرنج میں رخ کی ہوتی ہے لیکن آخراً ضعیف الرائے عورت تھی۔ بہت سال مال و اموال تمہارے سپرد کر کے بمنزلہ ایک ادنیٰ پیادے کے ہو گئی۔ اب تمہیں لازم ہے جو کچھ اس کے مال و اموال تمہیں ملے ہیں، وہ فوراً واپس کر دو ورنہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔“ جب رشید نے اس خط کو پڑھا تو ایسا آگ بگولا ہوا کسی کو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رہی اور وزراء اور امراء ڈر کے مارے اس کے



سامنے سے اٹھ گئے۔ ہارون رشید نے وہیں قلم دوات لے کر اسی خط کی پشت پر لکھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”از جانب امیر المومنین بنام الملقور سگ روم! اے کافرہ کے بیٹے میں نے تیرا خط پڑھا۔ اس کا جواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، سننے کی ضرورت نہیں۔“

پھر اسی روز ہارون رشید لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا اور ہرقل کے شہر پر پہنچ کر ایک خونریز جنگ کے بعد فتح پائی۔ بادشاہ روم نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی اور خراج دینا قبول کر لیا۔ ہارون رشید نے بھی اسے منظور کر لیا اور واپس چلا آیا۔ لیکن ابھی رقبہ ہی میں پہنچا تھا کہ کتے الملقور نے یہ خیال کر کے کہ اب سردیوں کے باعث رشید حملہ کی زحمت نہیں اٹھائے گا، عہد نامہ کو توڑ دیا اس خبر کو خلیفہ تک پہنچانے کی کسی کوجرات نہ ہوئی۔ آخر عبد اللہ تمیمی نے ان اشعار میں یہ خبر سنائی۔

نَقَضَ الَّذِیْ اَعْطٰیْهِ یَقْفُوْرُ فَعَلٰیْهِ دَائِرَةُ السَّوَارِ تَدُوْرُ

ترجمہ: الملقور نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے اور بس اب اس پر ہلاکت کی چکی گھومے گی۔

اَبٰیْشُرٌ اَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ فَاِنَّهُ غَنَمَ اَتَاکَ بِهٖ الْاَلَةُ کَبِیْرُ

ترجمہ: اے امیر المومنین! تو اس بات سے خوش ہو کیونکہ وہ لوٹ کا مال ہے جو تجھے خدا

نے عطا نہ کیا ہے۔

اور ابوالعتاہیہ نے بھی کچھ اشعار کہے تو ہارون رشید نے تعجب سے پوچھا کیا اس نے واقعی ایسا کر دیا ہے۔ آخر پھر سخت مشقت اٹھا کر روم میں پہنچا اور یقور کو تباہ کر کے چھوڑا۔ اسی فتح پر ابوالعتاہیہ نے یہ شعر کہے ہیں۔

اَلَا بَادِثٌ هَرَقْلُهُ بِالْحَرَابِ مِّنَ الْمَلِكِ الْمُؤَفَّقِ لِلصَّوَابِ

ترجمہ: بادشاہ ہرقل ہمارے بادشاہ کے فخر سے جسے صواب کی توفیق عطا کی گئی ہے ہلاک

ہو گیا۔

عَدَا هَارُوْنُ یُرْعَدُ بِالْمَنَايَا وَيُسْرِقُ بِالْمَذَكْرَةِ الْقِصَابِ

ترجمہ: ہارون دشمنوں کو موت سے ڈراتا ہے اور تیز شمشیر براں کو چمکاتا ہے۔

وَرَايَاتٍ يَحُلُّ النَّصْرُ فِيْهَا تَمُرٌ كَانَتْهَا قِطْعُ السَّحَابِ

ترجمہ: اور اس کے بہت سے ایسے جھنڈے ہیں جس سے فتح نپکتی ہے اور وہ اس تیزی سے گرجتے ہیں گویا وہ بادل کے ٹکڑے ہیں۔

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ظَفِرَتْ فَاسَلَّمَ وَأَبْشُرَ بِالْغَنِيمَةِ وَالْإِيَابِ  
اے امیر المؤمنین آپ نے فتح پالی ہے۔ پس غنیمت حاصل کرنے اور صحیح سالم واپس آنے سے خوش ہو جائیے۔

فدیہ دے کر

189 ہجری میں ہارون الرشید نے فدیہ دیکر تمام مسلمانوں کو روم سے بلا لیا حتیٰ کہ کوئی مسلمان بھی ان کے ملک میں نہ رہا۔

190 ہجری میں رشید نے اپنے لشکروں کو روم میں بھیجا جہاں شراحیل بن معن بن زائدہ نے قلعہ صفالیہ کو اور یزید بن مخلد نے فلقتونہ کو فتح کیا اور حمید بن معبوف نے جزیرہ قبرس کو لوٹا اور سولہ ہزار آدمی وہاں سے گرفتار کئے۔

192 ہجری میں رشید خراسان کی طرف متوجہ ہوا۔ محمد بن صباح طبری کہتے ہیں۔ میرے والد نہروان تک رشید کے ساتھ گئے۔ راستہ میں آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ گفتگو کے دوران میں رشید نے کہا اے صباح اس کے بعد تم مجھے نمل سکو گے۔ انہوں نے کہا خدا آپ کو صحیح و سالم واپس لائے۔ ہارون الرشید نے کہا شاید تمہیں حقیقت حال معلوم نہ ہو۔ میں نے کہا نہیں پھر رستے سے ذرا الگ ہو کر کہا میں تمہیں بتاتا ہوں مگر اسے کسی کو بتانا نہیں۔ پھر اپنے پیٹھ پر سے کپڑا اٹھا کر دکھایا اس پر ریشم کی ایک پیٹی لپٹی ہوئی تھی اور کہا میں اس مرض کو تمام لوگوں سے چھٹاتا رہا ہوں۔ میرے بیٹوں کی یہ حالت ہے ہر ایک کے ساتھ ایک نہ ایک حمایتی لگا ہوا ہے۔ چنانچہ مسرور مامون کا اور جبرئیل بن خنیشوع امین کا حمایتی بنا ہوا ہے اور تیسرے کا مجھے نام یاد نہیں رہا اور ان میں سے ہر ایک میرے دن گن رہا ہے چنانچہ اگر تو اس بات کے معلوم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں بھی برزون (ایک قسم ہے گھوڑوں کی) منگواتا ہوں۔ تو وہ اس کی خاطر کہ میری بیماری بڑھے ایک کمزور اور لاغر گھوڑے لے آئیں گے۔ پھر رشید نے برزون لانے کا حکم دیا تو واقعہً انہوں نے ایک لاغر سا گھوڑا لا حاضر کیا۔ پھر رشید نے مین طرف دیکھا اور اس پر سوار ہو کر جرجان کی طرف چلا گیا اور وہاں سے حالت علالت میں ہی طوس میں

آ گیا اور آخر وہیں فوت ہو گیا۔

### سب سے پہلی

175 ہجری میں رشید نے اپنی بیوی زبیدہ کی خاطر اپنے بیٹے محمد کو ولی عہد کر کے اس کا لقب امین رکھا حالانکہ اس کی عمر اس وقت صرف پانچ برس کی تھی۔ ذہبی کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ سب سے پہلی بات ہوئی جو اتنے چھوٹے بچے کو ولی عہد بنایا گیا۔

### رعایا کے سر پر

182 ہجری میں رشید نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مامون کا لقب دیکر امین کا ولی عہد بنایا اور اسے تمام ممالک خراسان کا حاکم بنا دیا۔ بعد ازاں 186 ہجری میں اپنے خردسال (چھوٹے بیٹے) قاسم کو مومن کا لقب عطا کر کے ان دونوں کے بعد ولی عہد مقرر کیا اور جزیرہ وغیرہ کا حاکم بنا دیا۔ جب اپنی سلطنت اس طرح اپنے تینوں بیٹوں میں تقسیم کر چکا تو بعض عقلاء نے کہا کہ اس نے اپنی اولاد میں عداوت کے سامان پیدا کر دیئے ہیں اور اس کی برائی رعایا کے سر پر برے گی۔ شعراء نے ان تینوں ولی عہدوں کی تقرری پر قصائد بھی لکھے۔ پھر رشید نے اس بیعت کے متعلق ایک دستاویز لکھوا کر خانہ کعبہ میں آویزاں کر دی چنانچہ ابراہیم موصلی اسی کے بارے میں کہتا ہے۔

خَيْرُ الْأُمُورِ مُقَبَّةٌ وَ أَحَقُّ أُمُورٍ بِالتَّمَامِ

ترجمہ: انجام اور پورا ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا امر وہ ہے۔

أَمْرٌ قَضَى أَحْكَامَهُ الرَّحْمَنُ فِي بَيْتِ الْحَرَامِ

ترجمہ: وہ امر ہے جس کا فیصلہ خدا تعالیٰ نے بیت الحرام میں کیا۔

عبدالملک بن صالح نے یہ اشعار کہے:

حُبُّ الْخَلِيفَةِ حُبٌّ لَا يَدِينُ لَهُ عَاصِ الْإِلَهِ وَ شَارِ يُلْقِحُ الْفِتْنَا

ترجمہ: خلیفہ کی محبت ہی کامل محبت ہے مگر خدا تعالیٰ نافرمان خارجی اس کی اطاعت نہیں

کرے گا بلکہ وہ فتنہ اٹھاتا رہے گا۔

اللَّهُ قَلَدٌ هَارُونَ سِيَاسَتَهُ لَمَّا اضْطَفَاهُ فَأَحَى الدِّينَ وَالسُّنَنَا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہارون کو برگزیدہ کیا اور اسے بادشاہ بنا دیا۔ پس اس نے دین اور سنت کو

زندہ کر دیا۔

وَقَلَّدَ الْأَرْضَ هَارُونَ لِرَأْفِيهِ بِنَا أَمِينًا وَمَا مُونًا وَمُؤَمِّنًا

ترجمہ: اور ہارون نے ہم پر مہربانی کرنے کیلئے امین اور مامون اور مؤتمن کو خلیفہ مقرر کر دیا۔

کہتے ہیں ہارون الرشید نے اپنے بیٹے معتمد کو اس لیے خلافت سے محروم رکھا کہ وہ ان پڑھ تھا۔ مگر خدا کی قدرت کہ خدا نے اسے بھی خلیفہ بنایا اور اس کے بعد سب خلفاء اسی کی اولاد سے ہوئے اور اس کے سوارشید کے اور بیٹوں کی نسل سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا۔

ولی عہد ہونے پر

سلم خاسر نے امین کے ولی عہد ہونے پر یہ اشعار کہے:

قُلْ لِلْمَنَازِلِ بِالْكَئِيبِ الْأَعْفَرِ اسْقَيْتَ غَادِيَةَ السَّحَابِ الْمُنْطَرِ

ترجمہ: ان گھروں کو جو ریت کے سرخ و سپید ٹیلے بنے ہوئے ہیں، کہہ دے کہ تم صبح کو آنے والا بادل خوب برسے۔

قَدْ بَايَعَ الشَّقْلَانِ مَهْدِيَّ الْهَدَى لِمُحَمَّدِ بْنِ زُبَيْدَةَ ابْنَةِ جَعْفَرِ

ترجمہ: تمام جن و انسانوں نے محمد بن زبیدہ سے جو جعفر کی لڑکی ہے بیعت کر لی ہے۔

قَدْ وَفَّقَ اللَّهُ الْخَلِيفَةَ اِذْ بَنَى بَيْتَ الْخِلَافَةِ لِلْهَجَانِ الْأَزْهَرِ

ترجمہ: خدا تعالیٰ نے ہی خلیفہ کو توفیق دی ہے کہ اس نے خلافت کو ایک بزرگزیادہ اور

روشن شخص کے لیے مقرر کیا۔

فَهُوَ الْخَلِيفَةُ عَنْ أَبِيهِ وَجَدِهِ شَهِدَا عَلَيْهِ بِمُنْظَرٍ وَبِمُخْبِرِ

ترجمہ: پس وہ اپنے باپ اور نانا کی طرف سے خلیفہ ہے اور اس بات کو سب لوگ جانتے ہیں۔

ہارون رشید کے دلچسپ واقعات

سفلی طویریات میں بسندہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں۔ جب رشید خلیفہ ہوا تو

اس کا دل مہدی کی ایک کنیز پر آگیا اور اسے طلب کیا مگر اس نے کہا میں آپ کے والد کی ہم

خواہ رہ چکی ہوں۔ اس لیے آپ کےائق نہیں۔ ہارون رشید نے ابو یوسف کے پاس کسی کو

بھیج کر بلوا بھیجا تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین یہ فرض کر لینا کہ ہر ایک لونڈی سچ بولتی ہے یہ

بات درست نہیں ہے۔ آپ اس کا کہنا سچ نہ مانیں کیونکہ وہ مامون نہیں ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا اس واقعہ میں کن کن باتوں پر تعجب کروں۔ آیا ایسے بادشاہ پر جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے جان و مال دیئے گئے ہیں اور وہ باپ کی حرمت کا لحاظ بھی نہیں کرتا یا اس کینیز پر جس نے بادشاہ تک سے کنارہ کیا یا اس فقیہ زمانہ وقاضی ممالک اسلامیہ پر جس نے بادشاہ کو مشورہ دیا تو یہی کرو اور گناہ میری گردن پر رکھ۔

### حیلہ بتائیے

سفلی عبد اللہ بن یوسف سے راوی ہیں۔ ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف سے کہا میں نے ایک لونڈی خریدی ہے اور استبراء سے پہلے اس سے ہم خواب ہونا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا حیلہ بتائیے۔ انہوں نے کہا اسے اپنے بیٹے کو بخش دیجئے اور پھر اس سے نکاح کر لیجئے۔

### دروازے بند تھے

اسحاق بن راہویہ سے مروی ہے۔ رشید نے ایک رات قاضی ابو یوسف کو بلایا۔ جب وہ آئے تو انہیں ایک لاکھ درہم دینے کا حکم دیا۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رقم اگر مجھے صبح سے پہلے پہلے مل جائے تو بہتر ہے۔ حاضرین سے بعض نے کہا زرا نچی اپنے گھر جا چکا ہے اور خزانہ کے دروازے بند ہیں۔ قاضی ابو یوسف نے کہا دروازے تو اس وقت بھی بند تھے جب میں آیا تھا۔

صولی یعقوب بن جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ جس سال رشید نے خلیفہ بنا تھا اس سال اس نے روم پر حملہ کیا اور شعبان میں واپس آ گیا اور پھر دوسرے سال حج کیا اور حرمین شریفین میں مال کثیر خرچ کیا۔ کہتے ہیں اس نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا اب خلافت تجھے ملنے والی ہے۔ جاؤ جہاد اور حج کرو اور اہل حرمین پر مال کثیر خرچ کرو چنانچہ اس نے ان سب باتوں کو پورا کیا۔

### آغاز میں حج

معاویہ بن صالح سے مروی ہے۔ سب سے پہلے شعر رشید نے اس وقت کہا تھا جبکہ اس نے خلافت کے سال کے آغاز میں حج کیا اور وہاں ایک مکان میں داخل ہوا تو اس کی دیوار پر یہ شعر لکھا تھا:

الْأَيُّسَاءُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَرَىٰ فَدَيْتُكَ هَجْرَانَ الْحَبِيبِ كَبِيرًا  
 ترجمہ: اے امیر المؤمنین میں آپ پر قربان جاؤں۔ کیا آپ دوست کے ہجر کو بڑا نہیں سمجھتے۔  
 بَلَىٰ وَالْهَدَايَا الْمَشْعُرَاتِ وَمَا مَنَىٰ بِمَكَّةَ مَرْفُوعِ الْأَطْلَالِ حَسِيرًا  
 ترجمہ: ہاں! ہے۔ ان شاندار قربانیوں کی اور اس کی جو مکہ کی طرف چلے اور ایسے حال  
 میں کہ تکان سے اپنے سموں کو اٹھا کر لنگڑا اتا ہوا چلتا ہے۔  
 علماء جیسا فہم

ابن سعد مسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ہارون رشید کا فہم علماء کی طرح تھا۔ چنانچہ ایک  
 دفعہ نعمانی نے گھوڑے کی صفت میں اسے یہ شعر سنایا:

كَانَ أَذِنُهُ إِذَا تَشَوَّقَا قَادِمَةً أَوْ قَلَمًا مَحْرَمًا  
 ترجمہ: گویا اس گھوڑے کے کان جبکہ وہ کسی چیز کے دیکھنے کو گردن بلند کرے بازوں کے  
 پروں کی طرح ہیں یا اس قلم کی طرح جس کا قلم ٹیڑھا ہو۔  
 رشید نے کہا مصرعہ اول میں کان اذنیہ کی جگہ تحال اذنیہ لکھوتا کہ شعر درست ہو جائے۔  
 راضی نہ کیا

عبداللہ بن عباس بن ربیع سے مروی ہے۔ ایک دفعہ رشید نے قسم کھائی کہ ایک کینزک  
 کے پاس زمانہ معینہ تک نہ جاؤں گا اور رشید اسے نہایت محبوب رکھتا تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر اس  
 کینز نے رشید کو راضی نہ کیا۔ اس پر رشید نے یہ اشعار کہے:

صَدَّ عَنِّي إِذْ رَأَيْتُنِي مُفْتَتِنًا وَأَطَالَ الصَّبْرَ لَمَّا إِنْ فَطَنُ  
 ترجمہ: جبکہ اس نے مجھے مفتون دیکھا تو مجھ سے اعراض کر لیا اور دیر تک صبر کیا۔

كَانَ مَمْلُوكِي فَأَضْحَىٰ مَالِكِي إِنْ هَذَا مِنْ أَعَا حَبِيبِ الزَّمَنِ  
 ترجمہ: وہ پہلے میری کینز تھی لیکن اب میری مالک ہو گئی ہے۔ یہ ایک نہایت عجیب بات ہے۔  
 پھر ابوالقاسم کو بلایا اور کہا ان اشعار کو پورا کرو۔ اس نے کہا:

عِزَّةُ الْحَبِيبِ أَرْتُهُ ذَلِيلِي فِي هَوَاهُ وَلَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ

ترجمہ: محبت کی عزت نے مجھے اس کی محبت میں ذلیل کر دیا اور اس کا چہرہ خوبصورت ہے۔

فَلِهَذَا صِرْتُ مَمْلُوكًا لَهُ وَلِهَذَا شَاعَ مَابِي وَعَلَنُ

اس لیے میں اس کا غلام بن گیا ہوں اور اسی لیے میرا عشق ظاہر ہو گیا۔

### ان جیسے نقاد

ابن عساکر نے ابن علیہ سے روایت کی ہے۔ ہارون الرشید نے ایک زندیق کو پکڑوایا اور اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ زندیق نے پوچھا آپ مجھے قتل کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا تاکہ لوگ تم سے آرام پائیں۔ اس نے کہا ان ہزار حدیثوں کو کیا کرو گے جو بالکل وضعی ہیں اور ان میں ایک حرف بھی رسول پاک علیہ السلام کا فرمودہ نہیں اور وہ لوگوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ ہارون نے کہا اے دشمن خدا تیرا کدھر خیال ہے۔ ابواسحاق فزاری اور عبد اللہ بن مبارک جیسے نقاد موجود ہیں، وہ ان کے ایک ایک حرف کو باہر نکال پھینکیں گے۔

### سابق الی الفضل

صولی اسحاق ہاشمی سے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز ہم رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگا، عام لوگ خیال کرتے ہیں میں علی بن ابی طالب ؑ کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، حالانکہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں ایسے اور کسی کو دوست نہیں رکھتا اور اصل بات یہ ہے ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ہم سے بغض ہے اور ہم پر الزام قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہماری سلطنت میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ محض اس لیے کہ میں نے انہیں بنی امیہ کی طرف مائل ہونے پر سزا نہیں دی اور حضرت علی ؑ کے صاحبزادے تو قوم کے بردار اور سابق الی الفضل ہیں، چنانچہ میرے والد مہدی نے بسندہ ابن عباس ؑ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے آنحضرت ؐ کو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرماتے سنا ہے جس نے ان دونوں کو دوست رکھا۔ گویا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا، اس نے گویا مجھ سے ہی بغض رکھا اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم کے علاوہ باقی سب عورتوں کی سردار ہوگی۔

### سلطنت کی قیمت

مروی ہے ابن سماک ایک دن رشید کے پاس آیا۔ اس وقت رشید پانی منگوا کر پینا ہی چاہتا تھا ابن سماک بولا ذرا ٹھہر جائے اور کہا آپ ایک کوزہ پانی کتنے میں خرید لیں گے؟ ہارون

رشید نے کہا نصف سلطنت دیکر۔ ابن سماک نے کہا کہ اب آپ پی لیجئے۔ جب پی چکا تو پھر ابن سماک نے پوچھا اگر یہی پانی آپ کے پیٹ سے نہ نکل سکے تو اس کے نکلوانے کے عوض میں آپ کیا خرچ کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا باقی تمام سلطنت دے ڈالوں گا۔ ابن سماک نے کہا بس یہی سمجھ لیں آپ کی سلطنت کی قیمت پانی کا گھونٹ اور ایک دفعہ پیشاب کرنا ہے۔ پس اس پر فرور نہ کیجئے۔ یہ سن کر ہارون بہت رویا۔

مگر آخر میں

ابن جوزی کہتے ہیں۔ ہارون رشید نے شیطان رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مصاحب ایسا ہو جو آپ کو خوف دلاتا رہے اور آخر آپ کو امن حاصل ہو جائے تو وہ اس ایسے مصاحب سے اچھا ہے جو آپ کو امن دلاتا رہے۔ مگر آپ کو آخر میں خوف لاحق ہو جائے۔ ہارون نے کہا ذرا وضاحت سے فرمائیے۔ انہوں نے کہا جو شخص آپ کو کہے کہ بروز قیامت رعایا کی بابت آپ کو سوال ہوگا اس لیے خدا سے ڈریئے تو وہ اس شخص کی نسبت آپ کا زیادہ خیر خواہ ہے جو یہ کہتا ہے آپ اہل بیت سے ہیں اور آپ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قریبی ہیں اس لیے آپ مغفور (بخشنے ہوئے) ہیں۔ یہ سن کر رشید اس قدر رویا کہ حاضرین کو اس پر رحم آ گیا۔

موصلی کے اشعار

کتاب الاوراق میں صولی بسندہ روایت کرتے ہیں۔ جب رشید خلیفہ بنا تو یحییٰ بن خالد کو اپنا وزیر بنایا اس پر ابراہیم موصلی نے یہ اشعار کہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ مَرِيضَةً فَلَمَّا أُنْسِيَ هَارُونَ أَشْرَقَ نُورُهَا  
ترجمہ: کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج مریض تھا مگر جب ہارون خلیفہ ہوا تو اس کا نور چمکنے لگا۔

تَلَبَّسَ الدُّنْيَا جَمَالًا بِمَالِكِهِمْ فَهَارُونَ وَالْيَهُمَاءُ وَيَحْيَىٰ وَذُرِّيُّوهُمَا  
ترجمہ: اور اس کی خلافت سے تمام دنیا نے خوبصورتی کا لباس پہن لیا۔ پس ہارون خلیفہ ہے اور یحییٰ اس کا وزیر ہے۔

رشید نے یہ سن کر اسے ایک لاکھ درہم عطا کیے اور یحییٰ نے بھی اسے پچاس ہزار درہم دیئے جبکہ داؤد بن رزین نے اس کی تعریف میں یہ اشعار کہے:



بِهَارُونَ لَاحِ النُّورِ فِي كُلِّ بَلَدَةٍ وَقَامَ بِهِ فِي عَدْلِ سِيرَتِهِ النَّهْجُ  
ترجمہ: ہارون کے خلیفہ ہونے سے ہر ایک شہر میں روشنی ہو گئی اور اس کے عدل سے تمام  
ملک وسیع رستہ بن گیا۔

إِمَامٌ بِذَاتِ اللَّهِ أَصْبَحَ شُغْلُهُ فَأَكْفَرَ مَا يَعْنِي بِهِ الْغَزْوُ وَالْحِجْ  
ترجمہ: وہ امام ہے اور اس کا شغل ذاتِ خدا کے ساتھ مشغول رہنا ہے اس لیے وہ اکثر  
جہاد اور حج کرتا رہتا ہے۔

تَضِيْقُ عِيُونُ الْخَلْقِ عَنْ نُورِ وَجْهِهِ إِذَا مَا بَدَأَ لِلنَّاسِ مَنَظِرُ الْبُلْجِ  
ترجمہ: لوگوں کی آنکھیں اتنی تنگ ہیں کہ جب وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کے چہرے کی  
درخشانی کو دیکھ نہیں سکتے۔

تَفَسَّحَتْ الْأَمْالُ فِي جُودِ كَفِّهِ فَأَعْطَى الَّذِي يَرْجُوهُ فَوْقَ الَّذِي يَرْجُو  
ترجمہ: اس کی بخشش کو دیکھ کر امیدیں کشادہ ہو گئیں اور وہ لوگوں کو امید سے بڑھ کر  
دیتا ہے۔

### سفیر طالب علمی

قاضی فاضل اپنے بعض رسائل میں لکھتے ہیں۔ دو بادشاہوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوا  
جس نے طلب علم کے لیے سفر گوارا کیا ہو۔ ایک تو ہارون الرشید اس نے اپنے بیٹوں امین اور  
مامون کو لے کر موطا امام مالک کی ساعت کے لیے سفر کیا چنانچہ جس موطا کے نسخے پر رشید نے  
پڑھا تھا وہ شاہان کے خزانہ میں محفوظ تھا اور دوسرا سلطان صلاح الدین بن ایوب تھا جو اسی موطا  
کے سننے کے لیے علی بن طاہر بن عوف کے پاس اسکندریہ گیا تھا۔

منصوب ترمذی رشید کی صفت میں کہتا ہے:

جَعَلَ الْقُرْآنَ إِمَامَهُ وَذَائِلَهُ لَمَّا تَخَيَّرَهُ الْقُرْآنُ ذِمَامًا  
ترجمہ: جس قرآن کو اپنا امام اور رہنما بنا لیا ہے تو قرآن نے بھی اسے ہمہ ذمہ کے روز  
اختیار کر لیا ہے۔

ایک اور قصیدہ میں یہ شعر کہا ہے:

إِنَّ الْمَكَارِمَ وَالْمَعْرُوفَ أَوْدِيَةَ أَحْلَكَ اللَّهُ مِنْهَا حَيْثُ تَجْتَمِعُ

ترجمہ: بزرگیاں اور احسان دریا ہیں۔ خدا آپ کو اس جگہ نازل کرے جہاں یہ ملتے ہیں۔  
کہتے ہیں اس قصیدے پر رشید نے منصور نمری کو ایک لاکھ درہم انعام دیا تھا۔

### اپنی تعریف سے

حسین بن فہم کہتے ہیں۔ رشید کہا کرتا تھا مجھے اپنی تعریف سے یہ شعر بہت پسند ہے:  
أَبُو أَيْمُنٍ وَمَأْمُونٌ وَمُؤْتَمِنٌ أَكْرَمَ بِهِ وَالِدًا بِرَأً وَمَا وَلَدًا  
ترجمہ: وہ امین، مامون اور مؤتمن کا باپ ہے۔ باپ بھی کیسا اچھا اور بیٹے بھی کیسے اچھے ہیں۔  
اسحاق موصلی کہتے ہیں میں نے رشید کو ایک دفعہ یہ شعر سنائے:

وَأَمْرَةٌ بِالْبَخْلِ قُلْتُ لَهَا أَفْصِرِي	فَذَلِكَ شَيْءٌ مَا إِلَيْهِ سَبِيلُ
أَرَى النَّاسَ خُلَاقَ الْجَوَادِ وَلَا أَرَى	بِخِيلًا لَهْ فِي الْعَالَمِينَ خَلِيلُ
وَأِنِّي رَأَيْتُ الْبَخْلَ يُدْرِي بِأَهْلِهِ	فَأَكْرَمَ نَفْسِي إِنْ يُقَالُ بِخِيلُ
وَمِنْ خَيْرِ حَالَاتِ الْفَتَى لَوْ عَلِمْتَهُ	إِذَا نَالَ شَيْئًا إِنْ يُكُونُ بَخِيلُ
عَطَائِي عَطَاءَ الْمُكْثَرِينَ تَكْرُمًا	وَمَالِي كَمَا قَدْ تَعْلَمِينَ قَلِيلُ
وَكَيْفَ أَنْحَافَ الْفُقَرَاءِ أَوْ أَحْرَمَ الْغَنَى	وَرَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَمِيلُ

ترجمہ: بہت سی عورتیں بخل کا حکم کرنے والی ہیں۔ مگر میں نے انہیں کہہ دیا ہے میں یہ کام نہیں کیا کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سخی کے ہی دوست ہوتے ہیں اور بخیل کا دونوں جہاں میں کوئی دوست نہیں دیکھتا ہوں۔ بخل اہل بخل کو معیوب کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے نفس کو بخیل کہے جانے سے بچاتا ہوں۔ اگر تو سمجھے تو آدمی کے تمام حالات سے بہتر یہ بات ہے جب اسے کوئی چیز ملے تو وہ اور کو دیدے۔ میں اس طرح بخشش کرتا ہوں جیسے کہ نہایت امیر بخشش کیا کرتے ہیں اور تو میری عادت جانتی ہی ہے اور میں محتاجی سے کیسے ڈرتا ہوں حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المؤمنین احسان کرنے والا ہے۔

اس پر رشید کہنے لگا یوں نہ کہو بلکہ کہو کہ اگر اللہ چاہے تو میں فقر سے نڈروں کا اور پھر کہا اے فضل اسے ایک لاکھ درہم دیدے۔ یہ اشعار کیسے عجیب ہیں اور ان کے الفاظ کیسے برجستہ ہیں۔ میں نے کہا اے امیر آپ کا کلام تو میرے شعر سے کئی درجہ بڑھ کر ہے۔ اس پر رشید نے کہا اسے ایک لاکھ درہم اور عطا کر دو۔

## کاش تم سے قبل

طوریات میں اسحق موصلی سے روایت ہے۔ ایک دفعہ ابوالعتاہیہ نے ابونواس کو کہا یہ شعر جس کے ساتھ تو نے رشید کی تعریف کی ہے، میں چاہتا ہوں کاش تم سے قبل یہ مضمون میں نے باندھا ہوتا۔

فَدُكُنْتُ بِخِفْتِكَ لَمَّ امِينِي مِنْ اَنْ اَخَافَكَ خَوْفَكَ اللهُ  
ترجمہ: میں تجھ سے ڈرتا ہوں مگر تیرے خدا سے ڈرنے نے مجھے تم سے ڈرنے سے بے خوف کر دیا ہے۔

محمد بن علی خراسانی کہتے ہیں۔ رشید سب سے پہلا خلیفہ ہوا ہے جو گیند بلے کے ساتھ کھیلا ہے اور تیرے نشانہ بازی سب سے پہلے اسی نے کی اور بنی عباس سے سب سے پہلے اسی خلیفہ نے شطرنج کھیلا۔ صولی کہتے ہیں سب سے پہلے اسی نے گویوں کے مراتب مقرر کیے۔  
رشید نے ایک دفعہ اپنی کنیز ہیلانہ کے مرثیہ میں یہ اشعار کہے:

فَاسَيْتُ اَوْجَاعًا وَاَجْرَنَا	لَمَّا اسْتَخَصَّ الْمَوْتُ هَيْلَانَا
فَارَقْتُ عَيْشِي حِينَ فَارَقْتُهَا	فَمَا اُبَالِي كَيْفَ مَا كَانَا
كَانَتْ هِيَ الدُّنْيَا فَلَمَّا ثَوْتُ	فِي قَبْرِهَا فَارَقْتُ دُنْيَانَا
قَدْ كَفَرَ النَّاسُ وَلِكَيْنِي	لَسْتُ اَرَى بَعْدَكَ اِنْسَانَا
وَاللّٰهُ لَا اِنْسَاكَ مَا حَرَكَتْ	رِيحٌ بِاَعْلَى بَسْحِدِ اَعْصَانَا

ترجمہ: جب موت نے ہیلانہ کو آدھا تو میں نہایت ہی غمگین اور دردمند ہوا۔ جب میں ہیلانہ سے جدا ہوا تو گویا میں اپنی زندگی سے جدا ہو گیا۔ اب مجھے کسی بات کی پروا نہیں کہ وہ کیسے ہوتی ہے۔ خواہ گڑے خواہ سنوارے۔ وہی میری دنیا تھی۔ پس جب وہ قبر میں چلی گئی تو میرے لئے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا۔ انسان تو بہت ہیں مگر تیرے بعد مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ بخدا جب تک ہوا نہیںوں کو ہلاتی رہے گی میں کبھی تجھ کو نہ بھولوں گا۔

صولی نے ذیل کے اشعار بھی رشید سے ہی نقل کیے ہیں:

يَا رَبِّةَ الْمَنْزُولِ بِالْفَرْكِ وَرَبِّةَ السُّلْطَانِ وَالْمُلْكِ

ترجمہ: اے گھر والی ابادشاہ اور اے ملک میں تفرقہ ڈالنے والی۔

تَرَفَقِي بِاللَّهِ فِي قَتْلِنَا  
لَسْنَا فِي الدُّنْيَا وَالتُّرْبِ  
ترجمہ: خدا کیلئے ہمارے قتل میں جلدی نہ کر کیونکہ ہم دنیلم اور ترک نہیں ہیں۔

### سفر آخرت

رشید نے جنگ کے موقع پر طوس میں انتقال کیا اور وہیں 3 جمادی الاولیٰ 193 ہجری میں دفن ہوا۔ اس نے کل پینتالیس سال عمر پائی۔ نماز جنازہ اس کے بیٹے صالح نے پڑھائی۔

### ترکہ کی قیمت

صولی کہتے ہیں۔ رشید نے دس کروڑ دینار نقد اور ان کے علاوہ اور اسباب جو اہرات گھوڑے۔۔۔ نیزہ جن کی قیمت دس کروڑ پندرہ ہزار دینار تھی اپنے پیچھے ترکہ چھوڑے۔

### کل تک مہلت

کہتے ہیں حکیم جبرئیل بن مغیث شوع نے رشید کے علاج میں غلطی کھائی اور یہی اس کی موت کا سبب بنی۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا اس کا ایک عضو کاٹ ڈالے۔ رشید نے کہا کل تک مجھے مہلت دے۔ کل ان سب باتوں سے تمہیں آرام مل جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی روز مر گیا۔

### چادر چھڑی اور مہر

کہتے ہیں رشید نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں طوس کا امام بن گیا۔ صبح اٹھ کر بہت رویا اور حکم دیا میرے لیے ایک قبر کھود ڈالو۔ جب قبر کھودی گئی تو خود پاکی میں سوار ہو کر اسے دیکھنے کے لیے گیا اور قبر کو دیکھ کر کہنے لگا اے ابن آدم تیرا یہ ٹھکانا ہے۔ پھر چند لوگوں کو اس کے اندر اتارا اور قرآن کا نغمہ کر دیا اور اتنی دیر تک خود پاکی میں قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے انتقال کے بعد لشکر نے بغداد میں امین سے بیعت کی۔ اس نے جمعہ کے روز خطبہ پڑھا اور اپنے آپ سے مرنے کی خبر سنائی اور اس روز بیعت عام ہوئی۔ رجاہ امام ہارون الرشید کی چادر چھڑی اور مہر لے کر بارہ دن تک عروسے بعد او پہنچا اور تینوں چیزیں امین کے سپرد کر دیں۔

### مرثیہ ہارون الرشید

ابو اٹھیں رشید کے مرثیہ میں کہتا ہے:

فَلَهَا عَيْبِي تَذْفِي

غَرَبْتُ فِي الشَّرْقِ شَمْسُ

ترجمہ:- سورج مشرق میں جا غروب ہوا۔ اسی کیلئے میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔  
 مَا رَأَيْنَا قَطُّ شُمْسًا غَرَبَتْ مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ  
 ترجمہ:- ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں سے سورج نکلے پھر وہیں غروب ہو جائے۔  
 ابونواس نے یہ شعر متضمن بہت نیت و تعزیت کہے ہیں:

## اشعار

جَرَتْ جَوَارِ بِالسَّعْدِ وَالنَّحْسِ      فَنَحْنُ فِي مَاتِمٍ وَفِي عِرَاسِ  
 الْقَلْبُ يَبْكِي وَالْعَيْنُ ضَاحِكَةٌ      فَنَحْنُ فِي وَحْشَةٍ وَفِي أَنَسِ  
 يُضْحِكُنَا الْقَائِمُ الْأَمِينُ      وَيُيَكِينُنَا وَفَاتُ الْأَمَامِ بِالْأَمْسِ  
 بَلَدْرَانِ بَلَدْرٌ أَضْحَى بِبَعْدَادَ      فِي الْخُلْدِ وَبَنَدْرٍ بِطُوسَ فِي الرَّسِ

ترجمہ: ادنیائاں اچھی اور بری خبر لیکر چلیں۔ ہم آج ماتم میں بھی ہیں اور خوشی میں بھی۔  
 دل رو رہا ہے اور آنکھ ہنس رہی ہے۔ ہم وحشت میں بھی ہیں اور انس میں بھی ہیں۔ امین کا  
 بادشاہ ہونا ہمیں ہنساتا ہے اور امیر المومنین کی وفات ہمیں رلاتی ہے۔ ایک چاند تو بغداد میں  
 نکل آیا ہے اور ایک طوس میں مٹی کے نیچے دفن ہو گیا۔

## حدیث کی روایت

ان احادیث میں سے جنہیں رشید نے روایت کیا ہے ایک حدیث یہ ہے جسے صولی نے  
 بسند سلمان رضی سے روایت کیا ہے کہ رشید نے ایک روز خطبہ میں کہا مجھے مبارک بن فضالہ نے  
 حدیث سنائی ہے اور وہ حسن رضی سے اور وہ انس رضی سے روایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ  
 الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”دوزخ کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے سے  
 ہو۔“ اس کے بعد محمد بن علی نے مجھے حدیث سنائی اور وہ سعید بن جبیر سے اور وہ ابن عباس سے  
 اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا  
 ”اپنے منہ پاک و صاف رکھا کرو کیونکہ وہ قرآن کا راستہ ہے۔“

## امین محمد ابو عبد اللہ

امین محمد ابو عبد اللہ بن رشید کو اس کے باپ نے ہی ولی عہد مقرر کیا تھا چنانچہ اس کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا۔ رنگ کا گورا، قد کا لمبا اور نہایت خوبصورت جو امر دُ صاحب قوت و شجاعت اور دلیر شخص تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ سے شیر مار دیا۔ نہایت فصیح و بلیغ، ادیب اور صاحب فضیلت شخص تھا۔ مگر صاحب تدبیر نہ تھا۔ نہایت فضول خرچ، ضعیف الرائے اور احمق تھا اور کسی طرح خلافت کی قابلیت نہ رکھتا تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے دوسرے دن ہی قصر منصور کے قریب چوگان کھیلنے کے لیے میدان بنانے کا حکم دیا۔

### امین کو نصیحت

194 ہجری میں اپنے بھائی قاسم کو ولی عہدی سے معزول کر دیا اور اپنے بھائی مامون سے بگاڑ بیٹھا۔ کہتے ہیں فضل بن ربیع کو خوف تھا اگر خلافت مامون کو مل گئی تو اس کی نہ چلے گی لہذا اس نے امین کو اس سے معزول کر۔ نے پر آمادہ کیا اور کہا اپنے بعد اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنائیے۔ جب مامون کو اپنے بھائی کے معزول ہونے کی خبر پہنچی تو اس نے امین سے قطع تعلق اختیار کر لی اور اس کا نام فرامین اور سکوں سے نکلوا دیا۔ پھر امین نے مامون کو لکھا کہ اس نے اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد مقرر کر لیا ہے اور اس کا نام ناطق بالحق رکھا ہے اور تم کو اس کا ولی عہد بنایا ہے۔ مامون نے اس حکم سے قطعی انکار کر دیا۔ امین کے ایلچی نے پوشیدہ طور پر مامون سے بیعت کر لی اور اس کے ساتھ شراب پی اور واپس جا کر دار الخلافہ سے وہاں کے حالات سے اس کو باخبر کرتا رہا اور اس کو عراق کے متعلق رائیں دیتا رہا۔ جب قاصد نے امین کو مامون کی حالت بتائی تو اس نے فوراً اس کا نام ولی عہدی سے نکال ڈالا اور اس نے دستاویز کو جسے رشید نے کعبہ میں آدیزاں کیا تھا منگو کر پھاڑ ڈالا۔ اس سے آپس کی مخالفت اور بھی بڑھی۔ اکثر اہل الرائے نے امین کو نصیحتیں کیں چنانچہ حازم بن حمزیمہ نے کہا اے امیر! جو آپ سے جھوٹ بولے گا وہ کبھی آپ کی خیر خواہی نہیں کرے گا اور جو شخص آپ سے سچ بولے گا وہ کبھی دھوکا نہ دے گا۔ آپ خلع نہ کیجئے ورنہ خلافت سے قطعی جاتے رہیں گے اور نقض عہد نہ کیجئے ورنہ لوگ آپ کی بیعت توڑ دیں گے۔ یاد رکھئے غدر کرنے والے سے لوگ دشمنی کرنے لگتے ہیں اور

تقاضی عہد سے اوگ یکسو ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن امین نے ایک نہ مانی اور سرداران لشکر کو داد و بخش سے اپنی طرف مائل کرتا رہا اور اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد مقرر کر کے اس کا لقب الناطق بالحق رکھا حالانکہ وہ اس وقت شیر خوار بچہ تھا۔ پس بعض شعراء نے اس پر یہ اشعار کہے:

أَضَاعَ الْخِلَافَةَ غَشُّ الْوَزِيرِ	وَفَسَقُ الْأَمِيرِ وَجَهْلُ الْمَشِيرِ
فَفَضَّلَ "أَمِيرٌ" وَ "بَكْرٌ" مَشِيرٌ	يُرِيدُ أَنْ مَا فِيهِ حَتْفُ الْأَمِيرِ
لِوَأَطِ الْخَلِيفَةَ أَعْجُوبَةٌ	وَأَعْجَبُ مِنْهُ خَلِيقُ الْوَزِيرِ
فَهَذَا يَدُوسُ وَ هَذَا يَدَاسُ	كَذَاكَ لِعَمْرِي خِلَافُ الْأُمُورِ
فَلَوْ سَتَعَفَانِ هَذَا بَذَاكَ	لَكُنَّا بِعَرُضَةِ أَمْرٍ سَتِيرِ
وَأَعْجَبُ مِنْ ذَا وَ ذَا إِنْنَا	نَبَايِعُ لِلطُّفْلِ فِينَا الصَّغِيرِ
وَمَنْ لَيْسَ يَحْسُنُ غُسْلَ اسْتِهِ	وَلَمْ يَجْعَلْ عَنْ بَوْلِهِ حِجْرًا ظَمِيرِ
وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِفَضْلِ وَبَكْرٍ	يُرِيدَانِ طَمَسَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ
وَمَا ذَانِ لَوْلَا انْقِلَابُ الزَّمَانِ	أَفَى الْعَبِيرِ هَذَا أَنْ أَمْ فِي النَّصِيرِ

ترجمہ: وزیر کے دھوکے، امیر کے فسق اور مشیر کے جاہل ہونے نے خلافت کو ضائع

کر دیا ہے۔ فضل وزیر ہے، بکر مشیر ہے اور یہ دونوں وہی بات کرتے ہیں جس میں امیر کی جان پر بن جائے۔ خلیفہ کا لواطت کرنا عجیب بات ہے اور وزیر کو انبیا کی عادت ہونا اس سے بھی عجیب بات ہے۔ وہ کرتا ہے یہ کراتا ہے۔ بخدا یہ بات تو امور طبعی کے خلاف ہے۔ اگر وہ ان افعال کو چھوڑ دیتے تو شاید ان کی برائیاں چھپ سکتیں اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم ایک شیر خوار بچے کی بیعت کر رہے ہیں اور جو اپنی سرینوں کو (بھی) اچھی صرح نہیں دھو سکتا اور جس کو دایہ پیشاب اور پاخانہ سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ سب باتیں فضل و بکر کی عنایت سے ہیں۔ وہ قرآن شریف کے احکام پر پانی پھیر دینا چاہتے ہیں۔ اگر زمانہ کا انقلاب نہ ہوتا تو معلوم بھی نہ ہوتا کہ یہ لوگ جیسے رہ جانے والے ہیں یا آگے آنے والے ہیں۔

### کچھ مچھلیاں

جب مامون کو اپنے خلع کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنا خطاب امام المومنین مقرر کیا اور فرامین وغیرہ پر لکھوا دیا۔ امین نے خبر پا کر 195 ہجری میں علی بن عیسیٰ بن ہامان کو ہمدان و

نہاوند و قوم و اصفہان کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تمام شہر مامون کی جاگیر تھے۔ علی بن عیسیٰ نہایت شان و شوکت سے چالیس ہزار فوج اور ایک چاندی کی بیڑی مامون کو قید کرنے کے لیے لیکر نکلا۔ مامون نے اپنی طرف سے طاہر بن حسین کو چار ہزار فوج سے بھی کم دیکر روانہ کیا۔ آخر علی بن عیسیٰ قتل ہوا اور اس کا لشکر بھاگ نکلا۔ علی کا سر مامون کے پاس لایا گیا اور پھر اس کے حکم سے خراسان میں پھرایا گیا۔ اس واقعہ کی خبر امین کو ایسے حال میں پہنچی جبکہ وہ مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ قاصد سے کہنے لگا کجخت مجھے اتنی مہلت تو دی ہوتی میں کچھ مچھلیاں شکار کر لیتا کیونکہ حوض میں مچھلیاں بہت ہونگی ہیں۔

### ترقی اور تنزلی

عبداللہ بن صالح جبری کہتے ہیں۔ جب علی بن عیسیٰ قتل ہوا تو خاص بغداد میں سخت فتنہ و فساد برپا ہو گیا اور امین اپنے بھائی کے معزول کرنے پر بہت بچھتا یا۔ غرض امین اور مامون کے مابین برابر جنگ جاری رہی اور امین کا ادبار (پیچھے ہٹنا) روز بروز بڑھتا گیا کیونکہ وہ کھیل کود میں مشغول رہنے والا آدمی تھا اور مامون دن بدن ترقی کرتا گیا، حتیٰ کہ اہل حریمین اور اکثر اہل بلاد عراق نے اس سے بیعت کر لی اور امین کا حال بگڑتا گیا اور اس کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور خزانے ختم ہوتے چلے گئے۔ رعایا سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ اور فساد و شر بڑھ گیا۔ جدال و قتال سے شہر خراب ہو گیا۔ عمارتیں گر پڑیں۔ منجیق اور روغن نطف نے اور بھی مصیبت ڈھائی، یہاں تک کہ بغداد کی خوبصورتی برباد ہو گئی اور شعراء نے اس کے مرعبے کہے۔ مختصر یہ کہ ان مرثیوں کے جو بغداد میں ہیں، دو شعر یہ بھی ہیں:

بَكَيْتُ ذَمًّا عَلَيَّ بَعْدَ إِذْ لَمَّا      فَقَدْتُ عَصَاةَ الْعَيْشِ الْآيِنِي

ترجمہ: جب خوشی کی زندگی رخصت ہو گئی تو بغداد پر خون رویا

أَصَابَتْهَا مِنَ الْحَسَادِ عَيْنٌ      فَأَفْنَتْ أَهْلَهَا بِالْمُنْجَبِي

ترجمہ: اس کو حسادوں کی نظر لگ گئی۔ پس اس کے رہنے والے منجیق سے فنا ہو گئے۔

### وجہ تنگدستی

پندرہ ماہ تک بغداد کا محاصرہ رہا اور اکثر عباسی اور ارکان دولت مامون کے لشکر میں آ کر مل گئے اور بغداد کے کینے لوگوں کے سوا کوئی بھی امین کا ہمراہی نہ رہا یہاں تک کہ 198 ہجری



کے شروع میں طاہر بن حسین بزرگوار بغداد میں داخل ہوا اور امین اپنی والدہ اور اہل و عیال کو لے کر شہر منصور میں چلا گیا اور اس کا تمام لشکر پراگندہ ہو گیا اور اس کے غلام اس سے علیحدہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ پانی اور روزی سے تنگ آ گیا۔

### اب چاندنی عجیب

محمد بن راشد کہتے ہیں۔ ابراہیم بن مہدی نے مجھ سے بیان کیا میں مدینہ منورہ میں امین کے ساتھ تھا۔ ایک رات مجھے بلایا۔ جب میں گیا تو کہنے لگا یہ رات کیسی عجیب ہے اور چاندنی کیسی عجیب چاندنی ہے؟ اور اس کی روشنی پانی میں کیا بھلی معلوم ہوتی ہے۔ کیا تم اس وقت شراب پیو گے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی۔ پھر ہم نے شراب کو پیا۔ بعد ازاں ایک کینز کو بلایا جس کا نام ضعف تھا تو اس نے یہ اشعار پڑھے:

كَلْبٌ لِّعُمْرِي كَانَ أَكْثَرَ نَاصِرًا      وَأَيْسَرَ ذَنْبًا مِنْكَ ضَرْحٌ بِاللِّدَمِ  
ترجمہ:- مجھے اپنی عمر کی قسم ہے کہ کلب سب سے بڑھ کر مددگار تھا اور اس کا گناہ تم سے کم تھا۔ مگر اسے قتل کر دیا گیا۔

أَبْكَى فِرَاقَهُمْ عَيْنِي فَارْقَهَا      إِنَّ التَّفَرُّقَ لِلْأَحْبَابِ بَغَاءٌ  
ترجمہ: ان کے فراق نے مجھے رلایا اور بے خواب کر دیا اور دوستوں کے جدا ہونے سے رونا آیا ہی کرتا ہے۔

وَمَا زَالَ يَغْدُو عَلَيْهِمْ دَهْرُهُمْ      حَتَّى تَفَانُوا وَرَيْبُ الدَّهْرِ أَغْدَاءُ  
ترجمہ: زمانہ ان پر ہمیشہ ظلم کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ فنا ہو گئے اور حوادثِ زمانہ آدمی کے سخت دشمن ہیں۔

فَالْيَوْمَ أَبْكِيهِمْ جُهْدِي وَأَنْدُبُهُمْ      حَتَّى أَوْزُبَ وَمَا فِي مُقَلَّتِي مَاءٌ  
ترجمہ: پس میں آج اپنی وسعت کے موافق گریہ وزاری کروں گی۔ یہاں تک کہ جس وقت رجوع کروں، یعنی خاموشی اختیار کروں تو میری آنکھوں میں (آنسوؤں سے) ایک قطرہ بھی پانی نہ ہو۔

امین نے کہا لعنت ہو تم پر۔ اس کے سوا تجھے کوئی اور اشعار ہی نہیں آتے۔ اس نے کہا مجھے خیال ہے کہ آپ اس طرح کے شعر پسند کرتے ہیں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے:

أَمَّا وَرَبِّ السَّكُونِ وَالْحَرَكِ إِنَّ الْمُنَايَا كَثِيرَةٌ الشَّرِكِ  
ترجمہ: اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں (قبضہ میں) حرکت و سکون ہے کہ اموات  
نہایت ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔

مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا ذَارَتْ نُجُومَ السَّمَاءِ وَالْفُلُكِ  
ترجمہ: راتیں دن ستارے اور آسمان نہیں بدلیں گے۔  
إِلَّا لِنَقْلِ السُّلْطَانِ عَنْ مُلْكِكَ قَدْ زَالَ سُلْطَانُهُ إِلَىٰ مُلْكِكَ  
ترجمہ: مگر صرف اس لیے کہ بادشاہ کو ملک سے نکال باہر کریں یعنی ایک ملک سے  
دوسرے ملک بھگا دیں۔

وَمُلْكُ ذِي الْعَرْشِ ذَائِمٌ أَبَدًا لَيْسَ بِفَنٍ وَلَا بِمُشْتَرِكٍ  
ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ مالک عرش ہمیشہ رہے۔ وہ فنا نہیں ہوگا اور اس میں کوئی شریک نہیں  
ہوگا۔

### چادر اور مصلیٰ

امین نے کہا خدا تم پر لعنت کرے، دفع ہو جاؤ۔ جب وہ اٹھی تو اس کی ٹھوک سے ایک قیمتی  
بلوری گاس ٹوٹ گیا۔ امین نے کہا کچھ دیکھ رہے ہو؟ معلوم ایسا ہوتا ہے میرا وقت آن پہنچا  
ہے۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کا ملک قائم رکھے۔ ابھی میں اور کچھ  
کہنے ہی والا تھا کہ دجلہ کی طرف سے آواز آئی جس امر کو تم پوچھا کرتے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا۔  
اس پر امین غمگین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ایک دو روز بعد پکڑا گیا اور قید ہو گیا اور کچھ عجمی  
لوگوں نے قید خانے میں گھس کر اس کو رات کے وقت قتل کر ڈالا اور اس کے سر کو طاہر کے پاس  
لے گئے۔ اس نے اسے باغ کی دیوار پر لٹکا دیا اور منادی کرادی یہ سر امین معزول کا ہے۔ پھر  
اس کے جسم کو پہاڑ پر پھینک دیا۔ پھر طاہر نے امین کا سر چادر چھڑی اور مصلیٰ جو کھجور کے پتوں کا  
بنا ہوا تھا مامون کے پاس بھجوادیا۔ مامون کو اپنے بھائی کے قتل کا سخت صدمہ ہوا کیونکہ وہ چاہتا  
تھا کہ امین زندہ میرے پاس لایا جائے۔ اس لیے مامون طاہر پر سخت خفا ہوا اور اسے بالکل نسیا  
منسیا کر دیا۔ اور وہ اسی طرح گمنامی میں کہیں مر گیا اور امین کی بات درست نکلی کہ اس نے طاہر  
بن حسین کی طرف ایک رقعہ لکھا تھا کہ اے طاہر جس نے ہم پر ظلم کیا یا حق تلفی کی اس کا سر تلوار

سے اتار دیا گیا ہے۔ پس تو بھی اس کا منتظر رہ۔ ابراہیم بن مہدی نے امین کے قتل پر یہ اشعار کہے ہیں:

عَوَجًا بِمَعْنَى طَلَلٌ ذَاتِئِرٍ بِالْخُلْدِ ذَاتِ الصَّخْرِ وَالْأَجْرِ  
ترجمہ: اے میرے دونوں دوستو! اس گھر پر آؤ جو موضع خلد میں ہے اور وہ بالکل حیران  
ہو گیا ہے اور اس میں اینٹیں اور پتھر کھرے پڑے ہیں۔

وَالْمَزْمَرُ الْمَسْنُونُ يَطْلُبِي بِهِ وَالْبَابِ بَابِ الذَّهَبِ النَّاضِرِ  
ترجمہ: اور سنگ مرمر کی صاف و شفاف سلیں پڑی ہیں اور نہایت تازہ اور چمکدار سونے  
کے دروازے پڑے ہیں۔

وَأَبْلَغًا عَنِّي مَقَالًا إِلَى الْمَوْلَى عَنِ الْمَأْمُورِ وَالْأَمْرِ  
ترجمہ: وہاں جا کر میرے مالک کو خادمانہ عرض پہنچاؤ جو وہاں امر و مامور کا والی ہے۔  
قَوْلًا لَهُ يَا ابْنَ وَلِيِّ الْهُدَى طَهَّرَ بِلَادَ اللَّهِ مِنْ طَاهِرٍ  
ترجمہ: اور اسے کہو اے والی ہدی کے بیٹے اب زمین طاہر سے پاک ہوگئی ہے۔  
لَمْ يَكْفِهِ أَنْ حَزَّ أَوْ دَاجَهُ ذُبِحَ الْهَدَايَا بِمُدَى الْجَازِرِ  
ترجمہ: اور اس کی رگیں کاٹ دی گئی ہیں جیسے ذبح کیے جانے والے اونٹوں کی رگیں  
کھول دی جاتی ہیں۔

حَتَّى إِذَا يُسْحَبُ أَوْصَالُهُ فِي شَطْنٍ يَعْنِي بِهِ الشَّائِرِ  
ترجمہ: یہاں تک کہ پھر اس کی ہڈیاں ایک بڑے رے میں باندھ کر کھینچی گئیں۔  
قَدْ يَرِدُ الْمَوْتُ عَلَى جَعْفِهِ فَطَرَفُهُ مُنْكَسِرُ النَّاطِرِ  
ترجمہ: اور موت نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا اور اس کی آنکھ منکسر الناظر ہے یعنی  
جاسوس کو کم دیکھنے والی ہے۔

ایک اور شاعر نے اس کے قتل میں یہ ذیل کے اشعار کہے:

لَمْ نَبْكِيكَ لِمَاذَا لِلطَّرْبِ يَا أَبَا مُوسَى وَتَرَوِيحَ اللَّيْبِ  
ترجمہ: اے ابو موسیٰ ہم تم پر اس واسطے نہیں روتے کہ تو کھیل کود میں لگا رہتا تھا۔  
وَلِتَرْكِ الْخَمْسِ فِي أَوْقَاتِهَا حِرْصًا مِتَّكَ عَلَى مَاءِ الْغَيْبِ

ترجمہ: اور پانچوں وقت کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا اور نہ ہم تم پر اس واسطے روتے ہیں کہ تو انار کے پانی پر حریص تھا یعنی شراب پیتا تھا۔

وَسَيِّفٍ اِنَّا لَا اَبِيْكَى لَهٗ وَعَلَى كَوْنِهِ لَا اَخْشَى الْعُطْبُ

ترجمہ: اور نہ اس لئے روتے ہیں کہ تو شیف و کوثر پر فریفتہ تھا اور تو اپنی ہلاکت سے ڈرا نہیں۔

لَمْ تَصْلُحْ لِلْمُلْكِ وَلَا تُعْطِكَ الطَّاعَةَ بِالْمُلْكِ الْعَرَبِ

ترجمہ: تو خلافت کے لائق نہ تھا اسی لیے اہل عرب نے تیری اطاعت نہیں کی

لَمْ يَكِيْكَ لِمَا عَرَضْنَا لِلْمَجَانِيْقِ وَطَوْرًا لِلْسَلْبِ

ترجمہ: اور ہم تم پر اس لئے نہیں روتے کہ تو نے ہمیں مجنیتوں اور لوٹ کے سامنے کر دیا۔

خزیمہ بن حسن نے زبیدہ کی زبان سے ایک قصیدہ نقل کیا ہے جس میں یہ اشعار بھی تھے:

شعر

اَتَى طَاهِرٍ " لَا طَهَّرَ اللهُ طَاهِرًا فَمَا طَاهِرٍ " فِيمَا اَتَى بِمُطَهَّرٍ

ترجمہ: خدا طاہر کو پاک نہ کرے اور نہ وہ طاہر ہے نہ مطہر ہے۔

فَاخْرَجْنِيْ مَكْشُوْفَةً الْوَجْهَ حَاسِرًا وَاَنْهَبَ اَمْوَالِيْ وَاخْرَبَ اَذْوَرِ

ترجمہ: اس نے مجھے کھلے بال اور کھلے منہ گھر سے نکالا اور میرے مال اور گھر کو خراب کیا۔

يَعِزُّ عَلَيَّ هَارُوْنُ مَا قَدْ لَقِيْتُهُ وَمَا مَرِيْبِيْ مِنْ نَاقِصِ الْاَخْلُقِ اَعْوَدِ

ترجمہ: میرا یہ حال اگر ہارون دیکھ لیتا تو یہ بات اس پر گراں گزرتی۔ اس کی زندگی میں

میرے پاس سے کوئی ناقص الخلق تک آدمی نہیں گزرا کرتا تھا۔

تَذَكَّرُ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قِرَابَتِيْ فَذَيْتُكَ مِنْ ذِي حُرْمَةٍ مُتَذَكِّرِ

ترجمہ: اے امیر المؤمنین میری قربت کو یاد کریں کہ میں نے تجھ پر ذی حرمت شخص کو

قربان کر دیا۔

ضائع کر دیا

ابن جریر لکھتے ہیں۔ جب امین بادشاہ ہوا تو اس نے حصیوں کو بڑی بڑی قیمت میں خریدا

اور ان سے خلوت اختیار کی اور اپنی کینروں اور بیویوں کو چھوڑ دیا اور بعض لکھتے ہیں جب امین

بادشاہ ہوا تو اس نے تمام اطراف میں آدمی بھیج کر کھیلنے کو دئے والوں کو طلب کیا اور ان کی بڑی

بڑی تنخواہیں مقرر کیں اور وحشیوں، دزدوں اور پرندوں کا ذخیرہ کیا اور اپنے اہل بیت اور امراء سے پردہ کرنا شروع کیا اور جواہرات اور نفیس چیزوں کو ضائع کر دیا اور مختلف مقامات میں کھیلنے کیلئے محل بنائے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے یہ شعر گایا:

مَهْجُرْتُكَ حَتَّى لَا يَعْرِفَ الْهُوَى      وَرُزْتُكَ حَتَّى قُلْتَ لَيْسَ لَهْ صَبْرٌ  
ترجمہ: میں نے تم سے جدا اختیار کی۔ یہاں تک کہ تمہیں خیال ہوا کہ یہ محبت کو جانتا ہی نہیں اور پھر میں نے ایسے آنا جانا شروع کیا۔ تم نے کہا اسے صبر ہی نہیں۔

### پانچ کشتیاں

اس پر امین نے اس کو ایک سونے سے بھری ہوئی کشتی عطا کی۔ امین نے پانچ کشتیاں بنوائی تھیں جن سے ایک شیر کی سی تھی اور دوسری کی شکل ہاتھی کی، تیسری کی عقاب کی سی، چوتھی سانپ کی شکل کی طرح اور پانچویں گھوڑے کی شکل جیسی تھی اور ان کے بنوانے میں اس نے بہت سامان خرچ کیا۔ اس پر ابو نواس نے یہ اشعار کہے:

سَخَّرَ اللَّهُ لِلْأَمِينِ مَطَايَا      لَمْ تَسَخَّرْ لِصَاحِبِ الْمَخْرَابِ  
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے امین کیلئے سواریاں ایسی مطیع کی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے بھی ایسی مطیع نہ کی تھیں۔

فَإِذَا مَارَ كَابَهُ سِرُنَ بَرًّا      سَارَ فِي الْمَاءِ رَاكِبًا لَيْتَ غَابَ  
ترجمہ: پس جب وہ ان پر سوار نہیں ہوتا تو وہ جنگل میں چلتی ہیں اور جب وہ شیر پر سوار ہوتا ہے تو وہ پانی میں چلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔

أَسَدًا بِأَسْطَا ذُرَاعَيْهِ يَهُوَى      أَهْرَةَ الشُّدُقِ كَالْحِ الْآنِيَابِ  
ترجمہ: شیر نے اپنے چہرے کے سامنے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے منہ کی بانٹھیں ان سے آواز آ رہی ہوتی ہے ترش رو کی کچلیوں کی طرح۔

صولی کہتے ہیں ابو العیناء بسندہ محمد بن عمرو رومی سے روایت کرتے ہیں۔ امین کانوکر کوثر لڑائی دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو ایک پتھر آ کر اس کے منہ پر لگا۔ امین اس کے چہرے سے خون پونچھتا تھا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا:

صَرَبُوا قُرَّةَ عَيْنِي      وَمِنْ أَجْلِي صَرَبُوهُ

ترجمہ: انہوں نے میرے قرۃ العین کو محض میرے سبب سے مارا۔

أَخَذَ اللَّهُ لِقَلْبِي      مِنْ أَنَسِ أَحْرَقُوهُ

ترجمہ: میرا خدا ان لوگوں سے بدلہ لے جنہوں نے اس کا منہ جھلس دیا۔

آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ عبداللہ بن تمیمی شاعر سامنے آ گیا تو وہ اسے کہنے لگا ان دو شعروں پر

کچھ اور اشعار زائد کرو تو اس نے کہا:

مَا لِمَنْ أَهْوَى شَيْئُهُ      فِيهِ الدُّنْيَا تَبِيئُهُ

ترجمہ: میرے معشوق کا کوئی ہم شکل نہیں۔ پس دنیا اسے دیکھ کر حیران ہے۔

وَصَلُّهُ خُلُوٌّ وَلَكِنْ      هَجْرُهُ مُرٌّ كَرِيهُ

ترجمہ: اس کا وصل شیریں ہے اور اس کا ہجر سخت تلخ ہے۔

مَنْ رَأَى النَّاسَ لَهُ      الْفَضْلُ عَلَيْهِمْ حَسَنُوهُ

ترجمہ: لوگوں کا قاعدہ ہے جس کو اپنے سے بزرگ دیکھتے ہیں اس پر حسد کرتے ہیں۔

مِثْلُ مَا قَدْ حَسَدَ الْقَائِمِ      بِالْمَلِكِ أَخُوهُ

ترجمہ: جیسا کہ ایک بادشاہ پر اس کے بھائی نے حسد کیا۔

امین نے اسے تین خچریں درہموں کی انعام دیں۔ جب امین قتل ہوا تو تمیمی مامون کے

پاس آیا اور اس کی مدح کی مگر باریابی نہ پائی۔ آخر فضل بن اہل سے التجا کی۔ اس نے اسے

درگاہ میں لے جا کر حاضر کیا۔ اس نے سلام کیا تو مامون نے کہا کیا یہ شعر تم نے ہی کہا ہے:

مِثْلُ مَا قَدْ حَسَدَ الْقَائِمِ      بِالْمَلِكِ أَخُوهُ

ترجمہ: جیسا ایک بادشاہ پر اس کے بھائی نے حسد کیا۔

اس پر تمہی نے یہ اشعار پڑھے:

نَصَرَ الْمَأْمُونُ عَبْدًا      اللَّهُ لَمَّا ظَلَمُوهُ

ترجمہ: مامون نے جب لوگوں نے ظلم کیا تو اس نے عبداللہ پر فتح پائی۔

نَقَضَ الْعَهْدَ الَّذِي قَدْ      كَانَ قَدْ مَا أَكْذَبُوهُ

ترجمہ: انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا جو مدت سے موکد ہو چکا تھا۔

لَمْ يُعَامِلْهُ أَخُوهُ      بِالَّذِي أَوْصَى أَبُوهُ

ترجمہ : اس کے بھائی نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہ کیا۔

اس پر مامون نے اسے دس ہزار درہم انعام دینے کا حکم دیا اور اس کی خطا معاف کر دی۔ کہتے ہیں سلیمان بن منصور نے ایک دن امین کو کہا ابونواس نے میری بھو (توہین) کی ہے۔ اس پر امین نے کہا سے قتل کر دیجئے کیونکہ اسی نے تو یہ اشعار کہے ہیں:

أَهْدَى السَّنَاءِ إِنَّ الْأَمِينَ مُحَمَّدٌ  
مَا بَعْدَهُ بِتَجَارَةٍ مُتَرَبِّصٌ

ترجمہ: حقیقت میں خلیفہ اور امین۔ یہی تعریف کے لائق ہیں اور اس کے بعد آنے والے تجارت کے منتظر ہیں۔

صَدَقَ السَّنَاءُ عَلَى الْأَمِينِ مُحَمَّدٍ  
وَمِنَ السَّنَاءِ تَكْذُوبٌ وَتَخْرُصٌ

ترجمہ: بعض تعریفیں جھوٹی اور انکل پچھوتی ہیں مگر خلیفہ امین کی شائستگی اور درست ہے۔

فَدَى يَنْقُصُ بَدْرُ الْمُنِيرِ إِذَا اسْتَوَى  
وَأَلْهَاءُ نُورِ مُحَمَّدٍ مَا يَنْقُصُ

ترجمہ: جب پورا چاند روشن ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے۔ مگر خلیفہ محمد امین کا نور اور تازگی اور رونق کبھی کم نہ ہوگی۔

وَإِذَا بَنُو الْمَنْصُورِ عُدَّ حِصَالَهُمْ  
فَمُحَمَّدٌ يَأْفُوتُهَا الْمُتَخَلِّصُ

ترجمہ: جب منصور کے بیٹوں کی خصلتیں شمار کی جائیں تو محمد خالص یا قوت کی طرح نکلے گا۔

### ہاشمی خلیفہ

احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ امید ہے خدا تعالیٰ امین کو صرف اس واسطے بخش دے گا کہ اس نے اسلمعیل بن علیہ کو جبکہ وہ اس کے پاس لایا گیا کہا اے حرامزادے تم ہی کہتے ہو کلام اللہ مخلوق ہے۔ مسعودی کہتے ہیں۔ اب تک کوئی ہاشمی خلیفہ بطن ہاشمیہ سے علی بن ابی طالب اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور امین کے علاوہ تخت خلافت پر نہیں بیٹھا۔ امین کی والدہ زبیدہ بنت جعفر بن ابوجعفر منصور تھی اور نام اس کا امۃ العزیز تھا اور زبیدہ اس کا لقب تھا۔

### سخاوت اور بخل

اخلاق موصلی کہتے ہیں۔ امین میں بعض خصلتیں ایسی تھیں جو کسی اور خلیفہ میں نہ تھیں۔ وہ نہایت حسین اور اعلیٰ درجہ کا صحیح تھا اور والدین کی طرف سے شریف تھا اور اعلیٰ درجہ کا ادیب اور شعر کا عالم تھا۔ لیکن اس پر لہو و لعب غالب آ گیا تھا اور اس کے باوجود کہ وہ مال لٹانے میں

بڑا سخی تھا۔ لیکن کھانا کھلانے میں بڑا بخیل تھا۔

## ذکی

ابوالحسن احر کہتے ہیں۔ مجھے بسا اوقات وہ شعر جو نحوی مسائل کے لیے شاہد لایا جاتا ہے یاد نہ رہتا تو امین مجھے بتلا دیا کرتا تھا۔ خلفاء کی اولاد میں سے امین اور مامون سے بڑھ کر ذکی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔

## امین کی وفات

امین محرم 198 ہجری میں قتل ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال کی تھی۔ اس کے عہد خلافت میں اسمعیل بن علیہ غندر، شقیق البلیخی، زاہد ابومعاویہ زریج، مورخ سدوی، عبداللہ بن کثیر مرقی، ابونواس شاعر، عبداللہ بن وہب صاحب مالک، ورش مرقی اور کعب وغیرہ علماء فوت ہوئے۔

## برسر منبر

علی بن محمد زوفی وغیرہ کہتے ہیں۔ سفاح، منصور، مہدی، ہادی اور رشید میں سے کوئی بھی برسر منبر اوصاف کے ساتھ نہیں بلایا گیا اور نہ ہی ان کا نام القاب کے ساتھ خطوط میں لکھا گیا۔ جب امین تخت خلافت پر بیٹھا تو منبر پر اوصاف کے ساتھ بلایا گیا اور خطوط میں اس طرح لکھا گیا:

”من جانب عبداللہ محمد امین امیر المؤمنین وغیرہ وغیرہ۔“

## توہین میں اشعار

عسکری اوائل میں لکھتے ہیں۔ پہلے پہل امین کو ہی منبر پر لقب کے ساتھ پکارا گیا۔ جب امین کو معلوم ہوا کہ اس کا بھائی مامون اس کے عیب شمار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس پر فضیلت دیتا ہے تو اس نے اس کی ہجو میں یہ اشعار کہے:

لَا تَفْخَرْنَ عَلَيْكَ بَعْدَ بَقِيَّةِ وَالْفَخْرُ يَكْمَلُ لِلْفَتَى الْمُتَكَاوِلِ

ترجمہ: تو اپنے آپ پر فخر نہ کر کیونکہ ابھی فخر کرنے والے بہت سے لوگ باقی ہیں اور فخر وہی شخص کر سکتا ہے جو ہمہ وجوہ کامل ہو۔

وَإِذَا تَطَاوَلَتِ الرَّجَالُ بِفَضْلِهَا فَارْبَعُ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِالْمُطَاوِلِ



ترجمہ: جب لوگ اپنے فخر کے اظہار کیلئے گردنیں لمبی کریں تو آرام سے بیٹھ کیونکہ تو اس لائق نہیں کہ گردن لمبی کرے۔

أَعْطَاكَ جَدُّكَ مَا هَوَيْتَ وَإِنَّمَا تَلْقَىٰ خِلَافَ هَوَاكَ عِنْدَ مَرَاةٍ  
ترجمہ: تو اپنے والد کی طرف فخر کر سکتا ہے مگر اپنی والدہ مراہل جو لونڈی تھی اسے دیکھنے سے تو وہ فخر بھول جائے گا۔

تَعْلَمُوا الْمَنَا بِرُكُلِ يَوْمٍ أَيْلًا مَا لَسْتُ مِنْ بَعْدَىٰ إِلَيْهِ بِوَاصِلٍ  
ترجمہ: تو ہر روز منبروں پر اس امید پر چڑھتا ہے تاکہ میرے بعد خلافت تجھے ملے حالانکہ یہ بات نہیں ہوگی۔

فَتَعِيبُ مَنْ يَنْعَلُو عَلَيْكَ بِفَضْلِهِ وَتَعِيبُ فِي حَقِّي مَقَالَ الْبَاطِلِ  
ترجمہ: جو شخص تم سے افضل ہے تو اسے عیب لگاتا ہے اور میرے حق میں تو ایسی باتیں کرتا ہے جیسے جاہل اور جھوٹے شخص کرتے ہیں۔

(مصنف) میں کہتا ہوں یہ شعر نہایت اعلیٰ ہیں۔ اگر یہ فی الحقیقت امین کے ہی ہیں تو اس کے بھائی اور باپ سے اس کے اشعار بہت اعلیٰ ہیں۔

### اشعار تعریف

صولی کہتے ہیں۔ امین نے جو اشعار اپنے خادم کوثر کی صفت میں کہے ہیں جبکہ امین لیٹا ہوا تھا اور وہ اسے شراب پلا رہا تھا اور ادھر چاند بھی طلوع کیے ہوئے تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ اشعار اس نے حسین بن ضحاک خلیج کی صفت میں کہے تھے جو اس کا ندیم تھا اور کسی وقت اس سے علیحدہ نہیں ہوتا تھا:

وَصَفَ الْبَدْرُ حُسْنَ وَجْهَكَ حَتَّىٰ خَلَّتْ أَيْبِي أَرَاكَ وَمَا أَرَاكَ  
ترجمہ: چاند نے بھی تیری خوبصورتی کی تعریف کی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا میں تجھے دیکھ رہا ہوں حالانکہ حقیقت میں دیکھ نہیں رہا تھا۔

وَإِذَا مَا تَسْفَسُ النَّرْجَسُ الْفُضَّ تَوَهَّمْتَهُ نَسِيمَ سَنَاكَ  
ترجمہ: جب تروتازہ نرگس کھلتا ہے تو میں خیال کرتا ہوں تیری روشنی کی باد نسیم آگئی ہے۔  
خَذَعٌ لِّلْسُنِي تَعَلَّلْنِي لِيُكِّ بِأَسْرَاقٍ ذَا وَنَكْهَتُهُ ذَاكَ

ترجمہ: نرگس کی خوشبو اور چاند کا چمکنا مجھے بار بار تیری رغبت دلاتا ہے۔

لَا قَيْمَنَ مَا حَيِّتْ عَلَيَّ الشُّكْرَ لِهَذَا وَذَاكَ إِذْ حَكَيْتَا كَمَا

ترجمہ: جب تک میں زندہ رہوں ان دونوں (یعنی نرگس اور چاند) کا شکر یہ ادا کرتا رہوں گا کیونکہ وہ دونوں تیرے مشابہ ہیں۔

ذیل کے اشعار بھی اس نے اپنے خادم کوثر ہی کی تعریف میں کہے ہیں:

مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنْ صَبِّ بَمَنْ يَهْوَى كَيْبِبَ

ترجمہ: لوگ اس عاشق سے کیا طلب کرتے ہیں جو اپنے معشوق کے غم میں غمگین ہے۔

كُوْثَرِ دِينِي وَ دُنْيَائِي وَمُقَمِّي وَ طَبِيْبِي

ترجمہ: کوثر خادم ہی میرا دین ہے اور میری دنیا ہے اور وہی میری بیماری اور وہی میرا

طیب ہے۔

أَعَجَزَ النَّاسُ الَّذِي يُلْحِي مَحَبًّا فِي حَبِيْبِي

ترجمہ: سب سے عاجز وہ شخص ہے جو عاشق کو معشوق کے معاملہ میں ملامت کرتا ہے۔

جب امین کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور طاہر اس پر غالب ہو گیا تو اس نے یہ اشعار کہے:

يَا نَفْسُ قَدْ حَقَّ الْحَدْرُ أَيْنَ الْمَفْرُومِ الْقَدْرُ

ترجمہ: اے نفس! خوف ثابت اور یقینی ہو گیا اب قضاء و قدر سے کہاں بھاگ سکتے ہیں۔

كُلُّ امْرَأٍ مِمَّا يَخَافُ وَيَرْتَجِيهِ عَلَيَّ خَطْرُ

ترجمہ: ہر شخص جس بات سے ڈرتا ہے یا جس کی وہ امید رکھتا ہے خطرے میں ہے۔

وَيَرْشُفُ صَفْوَ الزَّمَانِ بَعْضُ يَوْمًا بِالْحَدْرُ

ترجمہ: اور جو شخص زمانہ کی اچھی چیزیں چکھتا ہے وہ کسی نہ کسی دن اس کی برائی کو بھی چکھے گا۔

### طشت از بام

صولی کہتے ہیں۔ ایک دن امین نے اپنے کاتب کو کہا عبد اللہ محمد امیر المؤمنین کی طرف سے طاہر بن حسین کی طرف لکھو "السلام علیکم۔ اما بعد! واضح ہو میرے اور میرے بھائی کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ طشت از بام ہو چکا ہے اور ممکن ہے کہ ہمارا دشمن ہماری اس نا اتفاقی سے فائدہ اٹھائے۔ میں اس بات پر رضامند ہوں اگر تم مجھے امن دو تو میں اپنے بھائی کے پاس

جاؤں۔ اگر وہ مجھے معاف کر دے تو وہ اس کے لائق ہے اور اگر مجھے قتل کر دے تو بھی خیر کیونکہ پتھر پتھر کو اور تلوار تلوار توڑا کرتی ہے۔ اگر مجھے کوئی درندہ پھاڑ کھائے تو اس بات سے بہتر ہے ایک کتاب مجھ پر بھونکے۔ ظاہر نے اس بات کو نہ مانا۔

### فصاحت کیلئے

اسلمیل بن محمد یزیدی کہتے ہیں۔ میرے والد امین اور مامون سے گفتگو کیا کرتے تھے تو وہ اسے نہایت فصیح کلام میں جواب دیا کرتے تھے تو میرے والد کہا کرتے تھے خلفائے بنی امیہ کے لڑکے بدویوں میں فصیح عربی سیکھنے کیلئے بھیجے جاتے تھے تب جا کر وہ فصیح بنتے تھے۔ مگر تم تو ان سے بھی بڑھ کر فصیح ہو۔

### قیامت کے دن

جسولی کہتے ہیں۔ امین سے ایک حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث مروی نہیں چنانچہ مغیرہ بن محمد مہلبی کہتے ہیں ایک دن حسین بن ضحاک کے پاس کئی ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں بعض متوکل کی اولاد میں سے بھی تھے۔ کسی نے امین کے بارے سوال کیا کہ ادب میں اس کی حالت کیسی تھی؟ حسین بن ضحاک نے کہا وہ کامل ادیب تھا۔ پھر کسی نے پوچھا وہ فقہ میں کیسا تھا؟ انہوں نے کہا مامون اس سے بڑھ کر تھا۔ پھر کسی نے کہا حدیث میں کیسا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس سے صرف ایک ہی حدیث سنی ہے جب اسے اپنے غلام کے مرنے کی خبر پہنچی جو حج کو گیا ہوا تھا تو اس نے اپنے والد سے بسندہ روایت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص حالت احرام میں ہی مر جائے وہ قیامت کے دن تکبیر کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔“

### اگر بال کھولے

شعالبی لطائف المعارف میں لکھتے ہیں۔ ابو یعلینا کہا کرتے تھے اگر زبیدہ اپنے بال کھولے تو اس کی ہر ایک لٹ میں ایک نہ ایک خلیفہ یا ولی عہد لٹکتا نظر آئے کیونکہ منصور اس کا دادا تھا اور سفاح اس کے دادے کا بھائی اور مہدی اس کا چچا رشید اس کا شوہر امین اس کا لڑکا مامون اور معتصم اس کے سوتیلے بیٹے اور واثق دستوکل سوتیلے بیٹوں کے بیٹے اور ولی عہد تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کی نظیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو بنی امیہ میں عاتکہ بنت یزید بن معاویہ تھی۔ یزید اس کا باپ تھا معاویہ دادا معاویہ بن یزید اس کا بھائی مروان بن حکم اس کا پورا عبدالملک اس کا

شوہر یزید اس کا بیٹا، ولید اس کا پوتا، ولید ہشام اور سلیمان اس کے سوتیلے بیٹے اور یزید اور ابراہیم اس کے سوتیلے پوتے تھے۔

## مامون عبد اللہ ابو العباس

مامون عبد اللہ ابو العباس بن رشید بروز جمعرات نصف ربیع الاول 170 ہجری میں پیدا ہوا۔ اسی رات ہادی فوت ہوا تھا۔ اس کے والد نے اسے ولی عہد کیا تھا۔ اس کی والدہ ام ولد تھی جس کا نام مراجل تھا اور چلہ میں ہی مر گئی تھی۔

### تحصیل علم

مامون نے بچپن میں ہی تحصیل علم کی۔ حدیث اپنے باپ، مشہیم، عباد بن عوام، یوسف بن عطیہ، ابو معاویہ، ضریہ، اسلمیل بن علیہ اور حجاج اعمور سے سنی۔ یزید اس کے ادب کے استاذ تھے۔ فقہاء کو دور سے بلا بلا کر جمع کیا اور نفع، علم عربیت اور تاریخ میں ماہر ہوا تو فلسفہ اور علوم الاوائل کی طرف مائل ہوا اور ان میں کمال پیدا کیا۔ مگر ان کے پڑھنے سے وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ اس سے اس کے بیٹے اور بیٹی بن اکثم، جعفر بن ابی عثمان طلیاسی، امیر عبد اللہ بن طاہر، احمد بن حارث، شیبی، و عبل خزاعی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

### مسئلہ قرآن

مامون بنی عباس کے تمام لوگوں سے دانائی، ارادے، علم، علم رائے، زیر کی، ہیبت، شجاعت، سرداری اور بخشش میں بڑھ کر تھا۔ اگر مسئلہ قرآن میں اس قدر سختی نہ کرتا تو اپنی نظیر نہ رکھتا۔ بہر حال اس سے بڑھ کر بنو عباس میں سے کوئی عالم تخت نشین نہیں ہوا۔ نہایت فصیح و بلیغ اور پرگو شخص تھا۔ کہا کرتا تھا معاویہ کو عمر کی اور عبد الملک کو حجاج کی ضرورت تھی مگر مجھے اپنے نفس کے سوا کسی کی حاجت نہیں۔

### فاتحہ واسطہ اور خاتمہ

کہتے ہیں۔ بنی عباس کے تین خلیفے ہوئے ہیں۔ ایک فاتحہ دوسرا واسطہ تیسرا خاتمہ تھا، فاتحہ سفاح تھا۔ واسطہ مامون اور خاتمہ معتضد تھا۔

## ختم قرآن

کہتے ہیں مامون نے بعض رمضانوں میں تینتیس مرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔ مشہور ہے مامون شیعہ تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے بھائی موتمن کو ولی عہدی سے معزول کر دیا تھا اور علی رضا کو خلیفہ مقرر کیا۔

## فقیہ النفس

ابو معشر خنم کہتے ہیں۔ مامون ہمیشہ عدل میں کوشش کرتا اور فقیہ النفس تھا اور بڑے بڑے علماء کرام میں سے شمار ہوتا تھا۔ رشید کہا کرتا تھا مامون میں منصور سی ہوشیاری مہدی سی عبادت ہادی سی عزت دیکھتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو اسے اپنے نفس کی طرف بھی منسوب کر سکتا ہوں۔ امین کو میں نے اس پر مقدم تو کر دیا ہے مگر میں جانتا ہوں اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا اور فضول خرچ ہوگا لوٹڈیوں اور عورتوں کے ساتھ مشغول رہے گا۔ اگر ام جعفر اور بنی ہاشم کی خواہش نہ ہوتی تو مامون کو امین پر مقدم کرتا۔

## ابو جعفر کنیت

مامون اپنے بھائی کے قتل کے بعد 199 ہجری میں مستقل خلیفہ ہوا اور وہ اس وقت خراسان میں تھا اور کنیت اپنی ابو جعفر رکھی۔

## کنیت کی قدر

صولی کہتے ہیں۔ خلفاء اس کنیت کو پسند کیا کرتا تھے کیونکہ یہ منصور کی کنیت تھی اور اس کنیت کی ان کے دلوں میں بڑی قدر تھی اور کہا کرتے تھے جس شخص کی یہ (یعنی ابو جعفر) کنیت ہو وہ منصور اور رشید کی طرح دیر تک زندہ رہتا ہے۔

## سیاہ اور سبز؟

201 ہجری میں مامون نے اپنے بھائی موتمن کو ولی عہدی سے معزول کر لیا اور اپنے بعد علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق کو ولی عہد مقرر کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سخت شیعہ ہو گیا تھا۔ اور یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ خود خلافت چھوڑ کر علی رضا کو خلیفہ بنانے لگا تھا۔ اسی کو رضا کا لقب دیا تھا اور ان کے نام کا سکہ جاری کر دیا اور اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی اور تمام

اطراف ملک میں اس بات کا اعلان کر دیا، سیاہ کپڑے پہننے کی ممانعت کر دی اور سبز کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ بنی عباس پر یہ باتیں گراں گزریں اور انہوں نے عزل کر دیا اور ابراہیم مہدی کو مبارک کا خطاب دیا اور اس کی بیعت کر لی۔ مامون نے اس سے جنگ کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا اور جدال و قتال ہوتا رہا اور مامون عراق کی طرف گیا اور علی رضانے 203 ہجری میں انتقال کیا۔ مامون نے اہل بغداد کو اس امر کی خبر پہنچائی اور لکھا تم مجھ پر علی رضانے کی بیعت کرنے سے ناراض ہوئے تھے۔ سو وہ توباب رہے ہی نہیں۔ انہوں نے اس کا نہایت سخت الفاظ میں جواب دیا۔ مامون اسے سن کر بہت ہی دل تنگ ہوا۔ بعد ازاں ابراہیم بن مہدی سے لوگ پوشیدہ طور پر علیحدہ ہونا شروع ہوئے اس لیے وہ روپوش ہو گیا اور مسلسل آٹھ برس تک پوشیدہ رہا۔ اس کی خلافت تقریباً دو برس رہی۔

### توقف کیا

ماہ صفر 204 ہجری میں مامون بغداد میں آیا تو عباسیوں وغیرہم نے اس سے سیاہ لباس پہننے اور سبز لباس چھوڑنے کے بارے میں گفت و شنید کی۔ پہلے تو مامون نے اس بات میں توقف کیا، مگر بعد ازاں مان گیا۔

### حاکم بنائے

صوفی بسندہ روایت کرتے ہیں۔ مامون کے بعض گھر والوں نے کہا تیرا مقصود تو اولاد علی بن ابی طالب کے ساتھ نیکی کرنا ہے تو تو اس امر پر اس وقت تک زیادہ قادر ہے جب تک سلطنت و خلافت تیرے ہاتھ میں ہو۔ اس کے برعکس اس کے امر خلافت تیرے ہاتھ سے نکل کر ان کے ہاتھ میں چلا جائے۔ مامون نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی بنی ہاشم سے کسی کو کسی عہدہ پر مقرر نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے بھی ایسا ہی کیا۔ مگر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا عبید اللہ کو یمن کا معبد کو مکہ اور قسطنطنیہ کو بحرین کا حاکم بنایا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک نہ ایک عہدہ پر مقرر کر دیا۔ یہ امر اب تک ہمارے ذمہ چلا آتا تھا۔ میں نے ان کا بدلہ ان کی اولاد کو دیا۔

210 ہجری میں مامون نے بوران بنت حسن بن سہل سے نکاح کیا۔ جسے باپ کی

طرف سے کئی لاکھ کا جہیز ملا۔ حسن بن سہل نے بارات کی سترہ دن تک دعوتیں کیں اور پھر بہت سے رقعے لکھے جن میں کسی نہ کسی جاگیر کا نام لکھا تھا۔ پھر انہیں عباسیوں اور فوج کے جرنلون پر پھینک دیا۔ جو رقعہ جس کے ہاتھ آیا وہی جاگیر اس کو مل گئی اور وہ اس کا مالک ہو گیا اور شب زفاف کے روز مامون کے ہاتھ میں دو صدیاں زرو جو اہرات سے بھری ہوئی لوگوں پر لٹا دیں۔

عقیدہ خلق قرآن

212 ہجری میں مامون نے اپنے عقیدہ خلق قرآن کی اشاعت کی اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل تھے۔ اس وجہ سے لوگ اس سے سخت نفرت کرنے لگے اور قریب تھا کہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے۔ آخر اس کو 218 ہجری تک ان عقائد کی تبلیغ و اشاعت سے صبر کرنا پڑا۔

### دمشق واپسی

215 ہجری میں مامون جنگ روم کے لیے روانہ ہوا اور قلعہ قرہ اور ماجد کو فتح کر کے پھر دمشق کی طرف واپس چلا آیا۔ پھر دوبارہ 216 ہجری میں روم کی طرف چلا گیا اور کئی قلعوں کو فتح کرنے کے بعد پھر واپس دمشق چلا آیا۔ اس کے بعد مصر کی طرف گیا۔ (اور عباسیوں کا پہلا حاکم ہے جو مصر پہنچا) اور پھر 217 ہجری میں دمشق اور روم کی طرف واپس آیا۔

### لوگوں کا امتحان

218 ہجری میں اس نے مسئلہ خلق قرآن میں لوگوں کا امتحان لیا اور اسحاق بن ابراہیم خزاعی جو بغداد پر اس کی طرف سے حاکم تھا اس مضمون میں ایک خط لکھا کہ ”امیر المؤمنین کو معلوم ہوا ہے عوام الناس سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل جاہل ہیں اور ان کے دلوں میں علم کی روشنی نہیں ہے۔ وہ اللہ سے جاہل ہیں اور دین متین کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور اس بات سے قاصر ہیں کہ اللہ عز و جل کو اس کی عظمت و شان خداوندی کے مطابق جان سکیں۔ اس کی معرفت کی کہہ تک نہیں پہنچ سکتے اور خدا اور اس کی خلقت میں فرق نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کی خلقت قرآن مجید کو مساوی بنا دیا ہے۔ ان کا خیال ہے قرآن مجید قدیم ہے۔ اللہ نے اس کو باقی مخلوق کی طرح پیدا نہیں کیا اور نہ اسے اختراع کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ (پ 25 سورہ زہر آیت 2)

(ہم نے عربی قرآن اتارا۔) تو جب خدا نے اسے بنایا تو گویا اسے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ۔ (پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 1) ترجمہ: اور اندھیرا یا روشنی پیدا کی۔) اور ایک جگہ یہ بیان کیا ہے كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ (پ 16 سورہ طہ آیت 99) ترجمہ: ہم ایسے ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں۔ (ترجمہ وحوالہ کنز الایمان، صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان امور کے بعد پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ اُحْكِمْتُ اِيَاتَهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ (پ 12 سورہ ہود آیت 1) جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ (ترجمہ وحوالہ کنز الایمان، صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی) اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو مضبوط کرنے والا اور اس کی تفصیل فرمانے والا ہے۔ پس وہ اس کا خالق ٹھہرا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت وجماعت کا لقب دیا اور اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہنے لگے اور اس دعویٰ کے ساتھ گردن بلند کی اور جاہلوں کو فریب دیا اور اس جماعت کو دیکھ کر بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل حق شمار کرتے، حالانکہ حقیقت میں وہ کاذب ہیں، ان کے ساتھ مل گئے اور اپنے باطل کے ساتھ حق کو چھپا دیا۔ اور خدا کے علاوہ معتمد علیہ مقرر کیا۔ امیر المؤمنین کا خیال ہے کہ یہ لوگ بدترین امت ہیں کیونکہ توحید کے درجہ کو کم کر رہے ہیں اور یہ جہالت کے برتن ہیں اور کذب کے جھنڈے ہیں اور ابلیس کی زبان میں جو دوستوں کے لباس میں بول رہے ہیں اور اپنے دشمنوں (یعنی اہل دین) کو خوف دلاتا ہے۔ جو شخص راہ راست سے گمراہ ہو جائے اور ایمان بالتحید کو چھوڑ دے تو وہ اس لائق ہے کہ اسے سچا نہ سمجھا جائے اور اس کی شہادت قبول نہ کی جائے اور نہ ہی اس پر اعتبار کیا جائے کیونکہ وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ سب لوگوں سے جھوٹا وہ شخص ہے جو خدا اور اس کی وحی پر افتراء باندھے، انکل بچو سے باتیں کرے اور خدا تعالیٰ کو جیسے پہچانا چاہئے نہ پہچانے۔ اب سب قاضیوں کو جمع کر کے انہیں ہمارا یہ خط سناؤ اور ان کا امتحان لو کہ قرآن مجید کے مخلوق اور حادث ہونے میں ان کی کیا رائے ہے اور انہیں بتلا دو کہ ہم نے ان شخصوں سے اپنے عمل میں مدد لینی ہے اور نہ ہی ان پر اعتماد کرنا ہے جو اپنے دین پر قائم اور مضبوط نہ ہوں۔ پس جو اس کا اقرار کر لیں ان سے کہہ دو کہ وہ ان لوگوں کی جو اس کے مخلوق ہونے کا اقرار نہ کریں، گواہی قبول کریں اور جو کچھ وہ



لوگ اس مسئلہ کا جواب دیں وہ بھی قلمبند کر کے ہماری طرف لکھو۔ نیز ان آٹھ شخصوں کو ہماری طرف روانہ کر دو۔ یعنی محمد بن سعد کا تب و اقدی، یحییٰ بن معین، ابو جیثمہ، ابو مسلم مستملی، یزید بن ہارون، اسلمیل بن داؤد اسلمیل بن ابی مسعود اور احمد بن ابراہیم دورتی۔

### بزور شمشیر

جب یہ آٹھوں آدمی اس کے پاس آئے تو مامون نے خلق قرآن میں ان کا امتحان لیا اور جب تک انہوں نے قرآن شریف کے مخلوق ہونے کا اقرار نہ کر لیا، ان کو رقد سے بغداد میں نہ آنے دیا۔ پہلے تو ان تمام نے اس مسئلہ میں توقف کیا، مگر آخر تقیہ کر کے قائل ہو گئے۔ مامون نے پھر اسحاق بن ابراہیم کو لکھا کہ فقہاء اور مشائخ حدیث کو بلا کر اطلاع دیدو کہ مسئلہ بالا لوگوں نے خلق قرآن کو مان لیا ہے۔ اسحاق بن ابراہیم نے حکم شاہی کی تعمیل کی جس پر بعضوں نے مان لیا، مگر بعضوں نے نہ مانا اور یحییٰ بن معین نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے تلوار کے زور سے مانا ہے۔

### نہ اقرار نہ انکار

مامون نے اسحاق بن ابراہیم کو حکم بھیجا جو لوگ خلق قرآن کے انکاری ہیں ان کو طلب کرو۔ اسحاق نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، بشر بن ولید کندی، ابو حسان زیادی، علی بن مقاتل، فضل بن عالم عبید اللہ بن عمر قوریری، علی بن جعد، سجادہ ذیال بن تبسم، عقیبہ بن سعد، سعدیہ سطلی، اسحاق بن اسرارئیل، ابن ہرس، ابن علیہ اکبر، محمد بن نوح عجل، یحییٰ بن عبدالرحمن عمری، ابو نصر تمار، ابو عمر قطععی، محمد بن حاتم بن میمون وغیرہم کو بلایا اور مامون کا خط سنایا۔ ان تمام نے سرگوشیاں اور اشارے اور کنایہ کر کے اس مسئلہ کا نہ اقرار کیا اور نہ انکار۔ آخر اسحاق نے بشر بن ولید سے دریافت کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو امیر المؤمنین کا یہ عقیدہ مدت سے معلوم ہے۔ اسحاق نے کہا اب تو امیر المؤمنین نے تجھ دیکھی ہے اور ان کے خط کی تعمیل لازمی ہے۔ انہوں نے کہا میرا تو یہ قول ہے کہ قرآن کلام خدا ہے۔ اسحاق نے کہا میں یہ نہیں پوچھتا بلکہ یہ فرمائیے کہ آپ اسے مخلوق مانتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ میں کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا اور امیر سے عہد کر چکا ہوں کہ میں اس مسئلہ میں کلام نہ کروں گا۔ پھر اسحاق نے علی بن مقاتل سے دریافت کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا عقیدہ ہے قرآن شریف کلام خدا ہے۔ اگر

امیر کچھ اور کہے تو ہم اس کے ماننے اور سننے کو تیار ہیں۔ ابوحسان زیادی نے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر احمد بن حنبل سے پوچھا تو انہوں نے کہا قرآن شریف کلام خدا ہے۔ اسحق نے کہا وہ مخلوق ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا۔ ابن بکار اکبر نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید بتایا گیا ہے اور محدث ہے کیونکہ اس پر بعض وارد ہے۔ اسحق نے کہا جو چیز بتائی جائے وہ تو مخلوق ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اسحق بولا پھر تو قرآن مجید مخلوق ہوا۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا۔ غرض اسحق نے ان سب بیانات کو لکھ کر خلیفہ کے پاس بھجوادیا۔

جواب کی تفصیل

مامون نے ان کے جواب میں لکھا: تکلف اہل قبلہ بننے والوں کے جواب ہماری نظر سے گزرے۔ جو لوگ قرآن مجید کو مخلوق نہیں مانتے، ان کو فتویٰ، روایت حدیث اور تدریس قرآن مجید سے منع کر دو۔ بشر نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ امیر اور اس کے مابین کوئی عہد نہیں ہوا۔ میں نے اسے صرف اپنے اعتقاد سے مطلع کیا تھا۔ اب ان کو پھر طلب کر دو اور پوچھو۔ اگر وہ اپنے عقیدے سے توبہ کریں تو اس کا اعلان کر دو اور اگر اپنے شرک پر اصرار کریں اور قرآن کے مخلوق ہونے کو نہ مانتیں تو ان کو قتل کر دو۔ اور ان کے سر ہمارے پاس بھیج دو۔ اور ایسا ہی ابراہیم بن مہدی کا بھی امتحان لو۔ اگر بات کو قبول کرے تو بہتر ورنہ اسے بھی قتل۔ کے اور علی بن مقاتل سے کہو تم نے امیر کے سامنے تحلیل و تحریم کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ اور اب قرآن کے مخلوق ہونے میں احتیاط کرتے ہو اور ذیال سے کہہ دو کہ تم کو شہر انبار سے غلہ چرانے کا شغل ہی کافی ہے۔ اس مسئلہ میں کیوں دخل دیتے ہو اور احمد بن یزید بن عوام نے جو یہ کہا ہے کہ میں اس سے اچھا قرآن مجید کے بارے میں جواب نہیں دے سکتا تو ان سے کہہ دو کہ تم گو عمر میں بوڑھے ہو، مگر عقل میں بچے اور جاہل ہو۔ جب آدمی لکھا پڑھا ہو تو اسے ٹھیک جواب دینا چاہئے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو تلوار ان کا علاج ہے۔ احمد بن حنبل سے کہہ دو امیر کو تمہارا بیان معلوم ہوا۔ ان کا جواب ان کی جہالت اور آذنت پر دلالت کرتا ہے۔ فضیل بن غانم سے کہہ دو تم امیر المؤمنین سے بھی نہیں ڈرے اور مصر میں بحالت قاضی ایک سال سے کم مدت ولاء کا دعویٰ کیا تھا۔ مگر ابوحسان نے زیاد بن ابیہ کے مولیٰ ہونے سے انکار کر دیا۔ زیاد کی کسی اور باعث سے کہتے ہیں۔ ابونصر ہمارے کہہ دو کہ امیر نے تمہاری کم عقلی اور خساست معلوم کر لی ہے اور

ابن نوح اور ابن حاتم سے کہہ کہ تم بوجہ سود کھانے کے توحید پر قائم نہ رہ سکتے۔ اگر امیر محض ان کے سود لینے کی خاطر اس سبب سے کہ قرآن کی آیات ان جیسے کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کے خون کو حلال سمجھتا تو کافی تھا۔ چہ جائیکہ انہوں نے سود کے ساتھ شرک جمع کیا اور نصرانیوں کے مشابہ ہو گئے۔ ابن شجاع سے کہو کہ میں تمہارے اس مال میں شریک ہوں جس کو جو تم نے امیر علی بن ہشام کے مال سے حلال سمجھ کر لیا تھا اور سعید واسطی سے کہہ دو خدا اس آدمی کا برا کرے جو قنص حدیث اور حرص علی الریاست میں اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ امتحان و آزمائش کے وقت کی خواہش کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شیخ و امام امتحان کے وقت کسی سے نہیں ڈرتا اور اپنی بات پر قائم رہتا ہے اور اس ذریعہ سے شہرت پاتا ہے۔ سجادہ نے جو یہ کہا کہ میں نے قرآن کا مخلوق ہونا کسی عالم سے نہیں سنا۔ اس سے کہہ دو جو محض علی بن یحییٰ وغیرہ کی امانتیں کھا گیا اس کو توحید سے کوئی واسطہ نہیں اور تواریری سے کہہ دو کہ تمہارا مذہب اور برا طریقہ سخافت عقل رشوت لینے دینے سے ہی معلوم ہو رہے ہیں اور یحییٰ عمری اگر اولاد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے تو اس کا جواب معروف ہے۔ محمد بن حسن بن علی بن عاصم اگر سلف کا مقتدی ہے تو جو اس نے کہا ہے جھوٹ نہیں کہا ہے اور ابھی وہ بچہ ہے اس کو تعلیم کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس امیر نے ابی مسہر روانہ کیا ہے۔ ہم نے اس کا خلق قرآن کے بارے میں امتحان لیا ہے۔ پہلے تو وہ رنگناتار ہا اور بات صاف نہ کی مگر جب قتل کی دھمکی دی تو مان گیا۔ اب اسے پھر بلا کر دریافت کرو۔ اگر وہ اس بات پر قائم ہے تو اس کا اعلان کر دو۔ نیز جن لوگوں کا ہم نے نام لیا، اگر وہ اپنے شرک سے باز نہ آئیں تو انہیں قید کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ ہم ان سے پوچھیں گے، اگر وہ باز نہ آئیں گے تو انہیں قتل کیا جائے گا۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ

کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل، سجادہ، محمد بن نوح اور تواریری کے علاوہ یہ حکم سن کر سب نے خلق قرآن کا اقرار کر لیا۔ اسلح نے ان چاروں کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور اگلے روز پھر ان سے دریافت کیا۔ سجادہ اور تواریری تو ڈر کر مان گئے، مگر امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح نہ مانے اس لیے ان کو روم کی طرف روانہ کر دیا۔ مگر مامون کو معلوم ہوا کہ جس نے اس بات کو مانا ہے محض جان کے خوف سے ہے۔ اس پر وہ سخت ناراض ہوا اور سب کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب

لوگ خلیفہ کے پاس روانہ کر دیئے گئے۔ لیکن ابھی یہ پہنچنے نہ پائے تھے کہ مامون کے مرنے کی خبر ان کو ملی اور خدا نے ان کی مشکلات آسان کر دیں۔ مامون روم میں بیمار ہوا۔ جب مرض شدید ہوا تو اپنے بیٹے عباس کو بلا بھیجا مگر مامون کو خیال ہوا کہ عباس کے پہنچنے سے قبل ہی مر جاؤں گا۔ لیکن عباس اس کی حالت نزع کے وقت پہنچ گیا۔ مگر اس کے آنے سے پیشتر ہی تمام شہروں کی جانب خطر روانہ کر دیئے گئے تھے۔ جن میں لکھا تھا کہ یہ مامون اور اس کے بھائی کی طرف سے ہے جو بعد میں خلیفہ ہونے والا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ خطوط مامون کے حکم سے لکھے گئے تھے۔ مگر بعض کہتے ہیں کہ اس کی غشی کی حالت میں ان کا اجرا ہوا۔

### مامون کی موت

مامون نے بروز جمعرات بتاریخ 18 رجب 218 ہجری میں بمقام بندنون جو اراض روم میں واقع ہے انتقال کیا اور وہاں سے طرس میں نذر فرما دیا گیا۔

### چمکدار مچھلی

مسعودی لکھتے ہیں۔ مامون نے بندنون کے ایک چشمہ پر خیمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کی خنکی صفائی اور سرسبزی کو بہت ہی پسند کیا تھا۔ اتفاقاً چشمے میں سے ایک ایسی چمکدار مچھلی نظر آئی جیسے چاندی ہوتی ہے۔ اسے پکڑنے کا حکم دیا۔ مگر پانی کی خنکی کے باعث کسی نے چشمے میں اترنے کی جرأت نہیں کی۔ آخر مامون نے کہا کہ جو شخص اسے پکڑے گا میں اسے اپنی تلوار انعام دوں گا۔ اس پر فرماش چشمے میں اتر گیا اور اسے پکڑ لایا۔ باہر آ کر مچھلی پھڑ پھڑائی اور پھر پانی میں چلی گئی۔ مامون کے سینے اور گردن پر اس کی تھپتھپائیں پڑیں اور کپڑے بھی تر ہو گئے۔ فرماش پھر چشمہ میں اتر اور پھر پکڑ لایا۔ مامون نے حکم دیا کہ اسے ابھی بھونا جائے۔ اس کے بعد اسے لڑھکا طاری ہو گیا۔ ہزار لاف اڑھے مگر لڑھکا میں کمی نہ ہوئی۔ آخر پھر ارد گرد آگ جلائی گئی اور مچھلی کے کباب بھی لائے گئے۔ مگر مامون چونکہ بیہوش تھا اسے بالکل نہ چکھا۔ پھر جب ذرا ہوش آیا تو اس نے مکان کے معنی پوچھے تو کسی نے کہا کہ اس کے معنی پیر پھیلاؤ ہے۔ مامون نے اس سے بدفالی لی۔ پھر اس جگہ کا نام پوچھا تو کسی نے کہا اسے رقتہ کہتے ہیں۔ پیدائش کے وقت جو زانچہ بنایا گیا تھا اس سے معلوم ہوا تھا کہ وہ رقتہ میں مرے گا اس لیے جینے سے مایوس ہو گیا اور کہا ”اے خدا جس کا ملک کبھی زائل نہ ہوگا اس بندے پر رحم کر جس کا ملک زائل ہونے والا ہے۔“

جب اس کی وفات کی خبر بغداد میں پہنچی تو ابوسعید خزومی نے یہ اشعار کہے۔

هَلْ رَأَيْتَ النُّجُومَ أَغْنَتْ عَنِ الْمَأْمُونِ      أَوْ عَنْ مُلْكِهِ الْمَأْسُوسِ

ترجمہ: کیا تو نے دیکھا نجوم نے اس کے ملک سے موت کو دفع نہیں کیا

خَلْفُوهُ بَعْرُضَتِي طَرَطُوسِ      مِثْلَ مَا خَلَفُوا أَبَاهُ بِطُوسِ

ترجمہ: بلکہ لوگوں نے اسے سرزمین طرطوس میں دفن کیا جیسے کہ اس کے والد کو طوس میں

دفن کیا تھا۔

بعد المشرقین

معالی کہتے ہیں۔ خلفاء میں سے کسی باپ بیٹے کی قبروں میں اتنا بعد نہیں جتنا رشید اور مامون کی قبروں میں ہے اور اسی طرح نبی عباس سے پانچ اور ایسے شخص ہیں جن کی قبروں میں بعد المشرقین ہے۔ چنانچہ عبداللہ کی قبر طائف میں ہے اور عبید اللہ کی مدینہ میں اور فضل کی شام میں اور قثم کی سمرقند اور معبد کی افریقہ میں ہے۔

مختصر حالات مامون

نفظو یہ نے لکھا ہے۔ حامد بن عباس بن وزیر کہتا ہے ہم مامون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے چھینک آئی۔ ہم نے ریحک اللہ نہ کہا، مامون نے کہا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ہم نے کہا کہ آپ کے جلال کی وجہ سے۔ مامون نے کہا میں ایسے بادشاہوں سے نہیں ہوں جو دعا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔

ابن عساکر ابو محمد زید سے راوی ہیں۔ میں مامون کو پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ میں نے نوکر کے ہاتھ اپنے آنے کی اطلاع اندر کرائی۔ مگر وہ نہ آیا۔ دوسری مرتبہ اطلاع پر بھی نہ آیا۔ میں نے کہا یہ لڑکا اپنے اوقات فضول ضائع کر رہا ہے۔ خادموں نے کہا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جب آپ چلے جاتے ہیں تو اپنے خادموں کو مارتا پینٹتا ہے اور بہت ستاتا ہے۔ آج ذرا اس کی گوشالی کیجئے۔ جب مامون باہر نکلا تو میں نے اسے پکڑ مٹگوا یا اور اس کے سات بیدیں ماریں۔ ابھی وہ روہی رہا تھا کہ کسی نے کہا جعفر بن یحییٰ آیا ہے۔ یہ سن کر مامون نے رومال لے کر آنسو پونچھے اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا اور کہا جعفر بن یحییٰ کو کہو کہ اندر آ جائے۔ جب وہ اندر آیا تو میں اٹھ کر باہر چلا گیا اور ڈرتا رہا یہ کہیں جعفر سے میری

شکایت نہ کر دے۔ جعفر اس سے بات چیت کر کے چلا گیا۔ میں اندر آیا اور مامون سے کہا میں تو ڈر رہا تھا کہیں تم جعفر سے میری شکایت نہ کر دو۔ اس نے کہا اے ابو محمد! یہ تو جعفر ہے۔ میں اس بات کا تذکرہ اپنے باپ رشید سے بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس مار میں میرا ہی فائدہ ہے۔

### سفر نہ کیا

عبداللہ بن محمد تمیمی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے سفر میں جانے کا ارادہ کیا اور لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور کہا میں ایک ہفتہ کے بعد سفر کو روانہ ہونے والا ہوں۔ لیکن ہفتہ گزر گیا اور رشید سفر کو نہ گیا۔ لوگ مامون کے پاس حاضر ہوئے اور کہا آپ دریافت کر دیں۔ مامون نے یہ اشعار لکھ کر رشید کے پاس بھیجے:

يَا خَيْرَ مَنْ ذَبَّتِ الْمَطِيُّ بِهِ وَمَنْ تَقَدَّى بِسَرِّهِ فَرَسٌ  
ترجمہ: اے بہترین ان لوگوں کے جنہیں سواریاں لیکر چلی ہیں اور جن کے گھوڑے پر  
ہیشہ زین کسار ہے۔

هَلْ غَايَةٌ فِي الْمَسِيرِ نَعْرِفُهَا أَمْ أَمْرُنَا فِي الْمَسِيرِ مَلْتَبَسُ  
ترجمہ: کیا سفر میں جانے کا دن ہمیں معلوم ہو گا یا یہ دن پوشیدہ ہی رہے گا۔  
مَا عَلِمُ هَذَا إِلَّا إِلَى مَلِكٍ مِنْ نُورِهِ فِي الظُّلَامِ نَقْتَبَسُ  
ترجمہ: اس کا علم بادشاہ کے علاوہ کسی کو نہیں جس کے نور سے ہم اندھیرے میں روشنی  
ڈھونڈتے ہیں۔

إِنْ سِرْتُ سَارَ الرَّشِيدُ مُتَّبِعٌ وَإِنْ تَقِفْ فَالرَّشَادُ مَحْتَسِبُ  
ترجمہ: اگر آپ سفر پر جائیں تو اقبال آپ کے ساتھ ہوگا اور اگر آپ اقامت کریں تو  
بھی اقبال آپ کے ساتھ وہیں مقیم ہوگا۔

ہارون کو یہ معلوم نہ تھا کہ مامون شعر بھی کہا کرتا ہے۔ اس کی یہ نظم دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا بیٹا! تمہیں شاعری کیا کرنی ہے؟ شعر حقیر اور کمینہ لوگوں کیلئے زیادتی مرتبہ کا سبب ہے۔ مگر امراء کے لیے کی مرتبہ کا باعث ہے۔

اصمعی کہتے ہیں کہ مامون کا نقش خاتم (عبداللہ بن عبداللہ) تھا۔

محمد بن عباد کہتے ہیں۔ خلفاء میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور مامون کے علاوہ کوئی

کیوں نہ ادا کیا جو تمہارے چچا نے ولید کی شان میں کہا تھا:

فَلَا هُوَ فِي الدُّنْيَا مُضِيعٌ نَصِيْبُهُ وَلَا عَرَضُ الدُّنْيَا عَنِ الدِّينِ شَاغِلُهُ

ترجمہ: وہ اپنا دنیا کا حصہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور نہ دنیا کا مال و اسباب اسے دینی

مشغل سے باز رکھتا ہے۔

### درستی اور راستی

ابن عساکر روایت در روایت زبیر بن بکار سے روایت کرتے ہیں کہ نصر بن شمیم نے کہا میں بمقام مرو میں مامون سے ملنے گیا تو اس وقت میں ایک پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ مامون نے مجھے دیکھ کر کہا اے نصر تم امیر کے پاس ایسے کپڑے پہن کر آتے ہو۔ میں نے کہا کیا کروں مرو کی گرمی کا یہی علاج ہے۔ مامون نے کہا یہ بات نہیں بلکہ تم نے خود ایسی وضع اختیار کی ہے۔ پھر ہم نے حدیث میں کلام شروع کیا تو مامون نے کہا مجھ سے ہشیم بن بشیر نے حدیث بیان کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جب کوئی آدمی کسی عورت سے اس کے دین و جمال کے باعث نکاح کرے تو گویا اس نے مفلسی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا ہشیم سے آپ کی روایت درست ہے۔ چنانچہ مجھ سے عوف اعرابی نے حدیث بیان کی اور اسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت سے بوجہ اس کے دین و جمال کے نکاح کرے تو اس کو قوت لایموت مل جائے گی۔ مامون تکیہ لگائے بیٹھا تھا کہنے لگا تم نے جو لفظ سدا بکسر پڑھا ہے غلط ہے۔ میں نے درست کہا ہے اور غلطی ہشیم نے ہی کی ہے اور وہ اکثر غلطیاں کیا کرتا تھا۔ مامون نے کہا اچھا پھر سدا اور سدا میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا سدا درستی اور راستی کردار کو کہتے ہیں اور سدا اس کو کہتے ہیں جس سے رختہ کو بند کیا جائے اور اس سے رفع احتیاج ہو جائے۔ مامون نے کہا کیا عرب یہی فرق کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ عزی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے کہتا ہے:

أَصَاغُونِي رَأَيْتِي أَصَاغُوا لِيَوْمِ كَسْرِهِمْ وَسَدَادِ شَفَرِ

ترجمہ: میری قوم نے مجھے ضائع کر دیا اور ایک معمولی آدمی کو ضائع نہیں کیا بلکہ ایسے

نوجوان کو ضائع کیا جو جنگ اور سرحدوں کی رختہ اندازی کے دن ان کے کام آیا کرتا تھا۔

یہ سن کر مامون نے بہت دیر تک سر نیچے کیے رکھا۔ پھر کہا جو شخص علوم ادیبیہ سے واقف نہ ہو خدا اس کا برا کرے۔ پھر مجھے کہا اے نفر مجھے عرب کا کوئی نہایت ہی فریفتہ کرنے والا شعر سناؤ۔ میں نے کہا ابن بیض کا قول ہے جو حکم بن مروان کی شان میں کہتا ہے:

## اشعار

تَقُولُ لِي وَالْعِيُونُ هَاجِعَةٌ      أَقِمْ عَلَيْنَا يَوْمًا فَلَمْ أَقِمِ  
ترجمہ: جب تمام لوگ سوسلا رہے تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی۔ آج یہیں اقامت کر لیکن  
میں نے اقامت نہ کی۔

أَيُّ وَجُوهِهِ انْتَجَعْتَ قُلْتُ لَهَا      لَا يَ وَجْهِهِ إِلَّا أَلْسِي الْحَكَمِ  
ترجمہ: پھر اس نے کہا اچھا یہ تو بناؤ کو طلب منفعت کیلئے کس کے پاس جاؤ گے۔ میں نے  
کہا مروان کے علاوہ کسی کے پاس جاؤں گا۔

مَتَى يَقُلُ حَاجِبًا سُرَادِقِهِ      هَذَا ابْنُ بَيْضٍ بِالْبَابِ يَتَسَمَّ  
ترجمہ: جب اس کے دربان مراد پر وہ اطلاع دیتے ہیں کہ ابن بیض حاضر ہے تو وہ ہنستا ہے۔  
قَدْ كُنْتُ اسَلَمْتُ فِيكَ مُقْتَبِلًا      هَيْهَاتَ اذْخُلْ اعْطِنِي سَلْمِي  
ترجمہ: میں نے آتے وقت تجھ سے بیچ مسلم کی تھی۔ اب میں آ گیا ہوں۔ میری سلم مجھے  
عطا کر۔

پھر مجھے کہا اچھا عرب کا کوئی نہایت منصفانہ شعر سناؤ۔ میں نے کہا ابن ابی عمرو بدنی کہتا ہے:

إِنِّي وَإِنْ كَانَ ابْنُ عَمِي عَاتِبًا      لَمَزَاجِمُ مِنْ خَلْفِهِ وَرَائِهِ  
ترجمہ: اگرچہ میرا چچا زاد بھائی مجھے عتاب کرتا رہتا ہے۔ مگر میں اس کی غیر حاضری میں  
اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔

وَمُفِيدُهُ نَصْرِي وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً      مُتَزَحِّزِحًا فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ  
ترجمہ: اگرچہ وہ مستقل ارادہ شخص نہیں۔ کبھی کبھی کہتا ہے اور کبھی کبھی میری مدد اس کو مفید  
ہے۔ اس کی زمین میں اور اس کے آسمان میں بھی۔



وَأَكُونُ وَاللَّي سِرِّهِ وَأَصُونُهُ حَتَّى يَحْنُ إِلَى وَقْتِ آذَانِهِ  
ترجمہ: اور میں اس کے راز کی حفاظت کرتا ہوں اور اس کو بچاتا ہوں اور وہ بھی جب  
مجھے راز بتلاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے۔

وَإِذَا الْحَوَادِثُ أَحْبَبْتُ بِسَوَامِهِ قَرَنْتُ صَاحِبِ حُسْنِنَا إِلَى جَرُبَانِهِ  
ترجمہ: جب حوادثِ زمانہ اس کے اونٹوں کو ہلاک و نابود کر دیتے ہیں تو ہمارے تندرست  
اونٹ اس کے خارشئی اونٹوں کے ساتھ ملا دیئے جاتے ہیں۔

وَإِذَا دَعَى بِإِسْمِي لِيُرْكَبُ مَرْكَبًا صَغَبًا فَعَدْتُ لَهُ عَلَى سَيْسَانِهِ  
ترجمہ: اور جب وہ مجھے کسی سخت کام میں سوار ہونے کیلئے بلاتا ہے تو میں اس کے آگے  
آگے چلتا ہوں۔

وَإِذَا أَسَى مِنْ وَجْهِهِ بِطَرِيقِهِ لَمْ أَطْلَعُ فِيمَا وَرَاءَ خَبَائِهِ  
ترجمہ: جب وہ کسی سفر میں جاتا ہے تو اس کے گھر جا کر نہیں دیکھتا کہ وہ وہاں پہنچے کیا  
چھوڑ گیا ہے۔

وَإِذَا أَرْتَدَى نَوْبًا جَمِيلًا لَمْ أَقُلْ يَأْتِيَتْ إِنْ عَلَى حُسْنُ رِدَائِهِ  
ترجمہ: اور جب وہ کسی دن اچھے کپڑے پہنتا ہے تو میں یہ خواہش نہیں کرتا کہ کاش یہ  
چادر مجھے مل جائے۔

مامون نے کہا اب مجھے عرب کے قانع ترین اشعار سنائو۔ تو میں نے ابن عبدل کے یہ  
اشعار پڑھ کر سنائے: اشعار

إِنِّي أَمْرٌ أَسْمُ أَرْلُ وَذَاكَ مِنَ اللَّهِ أَدِيًّا أَعْلَمُ الْأَدْبَاءِ  
ترجمہ: خدا کا فضل ہے میں ہمیشہ ادیب رہا ہوں اور ادیبوں کو پڑھاتا رہا ہوں۔

أَقُمُ بِالدَّارِ مَا أطمَنُّ بِسِي الدَّارِ وَإِنْ كُنْتُ نَارَ حَاطِطِ سَا  
ترجمہ: جب تک کوئی مکان میرے ساتھ موافق رہتا ہے اس وقت تک میں اس میں رہتا  
ہوں۔ اگرچہ (اس سے) میں دور اور غمگین ہی کیوں نہ ہوں۔

لَا أَحْتَوِي حَمَلَةَ الصِّدِّيقِ وَلَا وَلَا أَتَّبِعُ نَفْسِي شَيْئًا إِذَا ذَهَبَا  
ترجمہ: میں اپنے دوست کے مال و اسباب کو نہیں لیتا اور نہ اس چیز کے پیچھے جاتا ہوں

جو چلی جائے۔

أَطْلُبُ مَا يَطْلُبُ الْكَرِيمُ مِنَ الرِّزْقِ بِنَفْسِي وَأَجْمَلُ الطَّلَبَا

ترجمہ: میں اپنے لیے ویسا ہی رزق طلب کرتا ہوں جیسا کہ نبی آدمی طلب کرتا ہے اور طلب بھی نہایت اچھی طرح کرتا ہے۔

إِنِّي رَأَيْتُ الْفَتَى الْكَرِيمُ إِذَا رَغِبَتْهُ فِي ضِعْفِهِ رَغْبَا

ترجمہ: نبی جو امر دکان کا قاعدہ ہے کہ جب تم اسے کسی کام کرنے کی رغبت دلاؤ تو وہ اس میں راغب ہو جاتا ہے

وَالْعَبْدُ لَا يَسْطَلِبُ الْعُلَاءَ وَلَا يُعْطِيكَ شَيْئًا إِلَّا إِذَا رَهَبَا

ترجمہ: اور مکینہ شخص بلندی طلب نہیں کرتا اور جب تک اسے دھمکایا نہ جائے کوئی چیز بھی نہیں دیتا۔

مَثَلُ الْحِمَارِ الْمَوْقِعِ لِلْسُّوءِ لَا يَحْسُنُ شَيْئًا إِلَّا إِذَا ضَرَبَا

ترجمہ: بد بخت گدھے کی طرح ہے کہ جب تک مار نہ پڑے کوئی کام اچھی طرح نہیں کرتا۔

وَلَمْ أَجِدْ عُسْرَةَ الْعَلَّاقِي إِلَّا الَّذِينَ كَمَا اخْتَبَرْتُ فَالْحَسْبَا

ترجمہ: اور میں نے نہیں پایا جیسا کہ تو نے آزا مالیا ہے تمام علاقے کا کنڈ اور دستہ دین ہے۔

وَقَدْ يُرْزَقُ الْخَافِضُ الْمُفِيمُ وَمَا شَدَّ بَعِيسٍ رَحْلًا وَلَا قَتَبَا

ترجمہ: کبھی تو ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ مکینہ اور متیم شخص ہی رزق حاصل کر لیتا ہے حالانکہ نہ اس نے اونٹ پر کجاوہ باندھا ہے اور نہ پالان رکھا ہے۔

وَيَحْرُمُ الرِّزْقُ ذُو الْمِطْيَةِ وَ السَّرْحَلِ وَمَنْ لَا يَزَالُ مُغْتَرَبَا

ترجمہ: اور جو شخص ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہے اور اونٹ بھی اس کے پاس ہیں وہ رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔

اعراب کی غلطی

مامون نے یہ اشعار سن کر کہا۔ اے نفر تم نے بہت خوب کہا۔ پھر کاغذ کا ایک ورق لیکر اس پر کچھ لکھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کیا لکھا۔ پھر مجھے کہنے لگا لفظ تراب سے فعل کا وزن کیسے بنے گا؟ میں نے کہا تراب۔ پھر پوچھا طین سے کیسے بنے گا؟ میں نے کہا طن۔ پھر پوچھا جب کہنا

ہو' اس خط پر مٹی ڈالی گئی ہے' تو کیا کہو گے؟ میں نے کہا مترب مطین۔ بولا یہ پہلے سے اچھا کہا ہے۔ پھر مجھے پچاس ہزار درہم انعام دینے کا حکم دیا اور خادم کو حکم دیا کہ مجھے فضل بن سہل کے پاس پہنچا دو۔ میں اس کے ساتھ گیا اور جب اس نے خط کو پڑھا تو کہنے لگا۔ اے نقر تم نے امیر کی طرف غلطی اعراب منسوب کی ہے۔ میں نے کہا معاذ اللہ۔ میں نے تو کہا تھا ہشیم غلطی کیا کرتا ہے اور امیر نے اس کے کلام کو نقل کیا ہے۔ اس پر فضل نے اپنے پاس سے مجھے تیس ہزار درہم بطور انعام دیئے۔ پس میں اسی ہزار درہم لے کر اپنے گھر واپس آیا۔

### با ادب

خطیب محمد بن یاد اعرابی سے روایت کرتے ہیں۔ مامون نے مجھے بلایا۔ جب میں گیا' اس وقت مامون یحییٰ بن اکثم کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا اور وہ دونوں میری طرف پشت کیے ہوئے جا رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آتے وقت انہوں نے میری طرف منہ کیا تو میں کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ مامون نے یحییٰ سے کہا اے ابا محمد یہ شخص کیسا با ادب ہے؟ جب تک ہماری اس کی طرف پشت تھی بیچارہ ہا اور جب ہمیں آتے دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ پھر مجھے پوچھا کہ ہند بنت عتبہ نے جو کہا ہے:

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقٍ      نَمَشِي عَلَى النَّمَارِقِ

مَشِي قَطَا الْمَهَارِقِ

ترجمہ: ہم ستاروں کی لڑکیاں ہیں۔ گدیوں پر اسی طرح سے چلتی ہیں جیسے کے جانور قطا صاف جنگل میں چلتا ہے۔

تو اس میں طارق کون شخص ہے۔ نسب میں غور کرنے سے معلوم ہوا اس کے بزرگوں سے کسی کا نام طارق نہیں ہوا۔ میں نے کہا اے امیر اس کے آباؤ اجداد سے تو واقعی اس کے نام کا کوئی شخص نہیں گزرا۔ مامون نے کہا اس نے طارق سے مراد ستارے لیے ہیں اور بوجہ اپنے جیسے حسن و جمال کے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ۔ (پ 30 سورہ طارق آیت نمبر 1) ترجمہ: آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی) میں نے کہا آپ کی یہ توجیہ واقعی ٹھیک ہے۔ مامون نے کہا لو لوگوں کی اس مشکل کو میں نے پہلے حل کیا۔ پھر میری طرف عنبر کا ٹکڑا جو اس کے ہاتھ میں تھا پھینکا جسے میں

نے پانچ ہزار درجہ ہم میں فروخت کیا۔

ابن ابی عبادہ کہتے ہیں کہ مامون شاہان دنیا سے یگانہ شخص گزرا ہے اور وہ فی الحقیقت اس نام کے قابل تھا۔

ابوداؤد کہتے ہیں۔ مامون کے پاس ایک حاجی آیا تو مامون نے اسے کہا کہ ہمارے خلاف پرتھہیں کس بات نے برا ہیجھتے کیا۔ اس نے کہا قرآن کی اس آیت نے وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (پ 6 سورۃ المائدہ آیت 44) اور جو اللہ کے اتارے پر حکم (فیصلہ) نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں۔

(ترجمہ و حوالہ از کنز الایمان صاحبزادہ محمد مبشر سیالوی)

### اجماع پر راضی

مامون نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ مامون نے کہا کونسی دلیل ہے؟ اس نے کہا اجماع امت سے۔ مامون نے کہا جیسے اجماع امت پر راضی ہوا ایسے ہی ان کے اجماع علی التاویل پر بھی راضی ہو جاؤ۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔

### اپنے سے برتر

ابن عساکر محمد بن منصور سے روایت کرتے ہیں۔ مامون کہا کرتا تھا شریف کی یہ علامت ہے۔ اپنے سے برتر پر ظلم کرے اور اپنے سے کم درجے والے کا ظلم برداشت کرے۔ سعید بن مسلم کہتے ہیں مامون کہا کرتا تھا میں چاہتا ہوں عفو کے بارے میں جو کچھ میری رائے ہے وہ مجرموں کو معلوم ہو جائے تاکہ ان کا ڈر جاتا رہے اور وہ خوش ہو جائیں۔

### ہزار درجہ بہتر

ابراہیم بن سعید جوہری کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مجرم مامون کے سامنے کھڑا ہوا تو مامون نے کہا بخدا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا اے امیر ذرا تحمل کو کام میں لائیں کہ یہ بھی نصف عفو ہے۔ مامون نے کہا اب تو میں قسم کھا چکا ہوں۔ وہ بولا اگر آپ خدا کے سامنے بحیثیت حائث (گنہگار) پیش ہوں تو اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آپ بحیثیت ایک خوبی کے پیش ہوں۔ یہ سن کر مامون نے اس کا خون معاف کر دیا۔

## بے اعتنائی

خطیب ابی صلت عبدالسلام بن صالح سے روایت کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ رات کو خلیفہ مامون کے ہاں سویا۔ چراغ گل ہونے لگا اور مشعل چلی اس وقت سو رہا تھا۔ مامون نے خود اٹھ کر چراغ کو درست کیا اور کہنے لگا اکثر ایسا ہوتا ہے میں غسل خانہ میں ہوتا ہوں اور خدمتگار مجھے گالیاں نکالتے ہیں اور مجھ پر طرح طرح کی ہتکتیں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے سنا نہیں اور میں ہمیشہ ہی انہیں معاف کر دیتا ہوں اور کبھی جھلاتا بھی نہیں جبکہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔

## حیلہ گر

صولی عبداللہ بن ایوب سے راوی ہیں۔ مامون ایسی باتوں پر حلم کیا کرتا تھا جنہیں سن کر ہمیں غصہ آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ دجلہ کے کنارے پر بیٹھا صواک کر رہا تھا اور اس کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا اور ہم سب اس کے پاس کھڑے تھے اور اتنے میں ایک ملاح اس کے سامنے سے گزرا اور کہا کیا تمہارا خیال ہے؟ اس مامون کی آنکھوں میں کچھ قدر ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہو۔ اس کی میری نگاہوں میں کچھ قدر نہیں ہے۔ مامون اس بات کے سننے سے ذرا بھی خفا نہ ہوا بلکہ ہنس کر کہا بھائی کوئی حیلہ بناؤ اس جلیل القدر شخص کی نظر میں میری قدر ہو جائے۔

## بلند کرداری

خطیب یحییٰ بن اکتھم سے روایت کرتے ہیں۔ مامون سے بڑھ کر میں نے بزرگ شخص نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے میں اس کے ہاں سویا ہوا تھا اس کو کھانسی آئی تو اس نے اس خیال سے کہ میں بیدار ہو جاؤں اپنے منہ کو آستین سے بند کر لیا نیز کہا کرتا تھا عدل کی ابتداء اپنے اندرونی دوست سے کرنی چاہئے اور بعد ازاں ان سے جو اس سے ذرا کم درجے والے ہوں اور اسی ترتیب درجہ ستمی تک پہنچنا چاہئے۔

## غنیمت

ابن عساکر یحییٰ بن خالد براءکی سے روایت کرتے ہیں۔ مجھے مامون نے کہا اے یحییٰ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا غنیمت سمجھو کیونکہ آسمان بہت گردش کرنے والا اور زمانہ بہت ظلم کرنے والا ہے۔ یہ کسی کو ایک حالت اور نعمت پر نہیں چھوڑتے۔

## مقام محبت

عبداللہ بن محمد زہری کہتے ہیں۔ مامون کہا کرتا تھا مجھے غلبہ قدرت سے غلبہ حجت زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ غلبہ قدرت زوال قدرت سے زائل ہو جاتا ہے اور غلبہ حجت کو کوئی چیز زائل نہیں کرتی۔

## ناشکری

تھی کہتے ہیں۔ میں نے مامون سے سنا ہے جو شخص تمہاری نیک نیتی کی تعریف نہ کرے گا وہ تمہاری نیکی کا بھی ممنون نہ ہوگا۔

## بری باتیں

ابو عالیہ کہتے ہیں۔ مامون کہا کرتا تھا بادشاہ کا خوشامد پسند ہونا بہت برا ہے اور اس سے برا قاضیوں کا معاملہ سمجھنے سے پہلے متکدل ہونا ہے اور اس سے بدتر فقہیوں کی معاملات دین میں کم عقلی ہونا ہے اور اس سے بڑھ کر بری بات امیروں کا بخیل ہونا اور بوڑھے آدمیوں کا مذاق کرنا اور جوانوں کا سستی کرنا اور سپاہیوں کا بزدلی کرنا۔

## ظالم

علی بن عبدالرحیم سے مروی ہے۔ مامون نے ایک دفعہ کہا سب لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو اس شخص کے قریب ہوتا ہے جو اس سے دور ہوتا ہے اور اس شخص سے تواضع کرتا ہے جو اس کی عزت نہیں کرتا اور ایسے شخص کی تعریف پر خوش ہوتا ہے جو اسے جانتا ہی نہیں۔

## جستجوئے رفیق

مخارق مغنی کہتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ مامون کو ابو العتہیبہ کا یہ شعر سنایا:

وَإِنِّي لَمُحْتَاجٌ إِلَىٰ ظِلِّ صَاحِبِ يَرْوُفٍ وَيَصْفُوَانِ كَدْرُثٍ عَلَيْهِ

ترجمہ: میں ایسے دوست کا محتاج ہوں جب میں اس پر خفا ہو جاؤں اور مجھے اس سے کدورت پیدا ہو جائے تو وہ مجھ پر عنایت و شفقت کرے۔

تو کہنے لگا اسے پھر پڑھ۔ پس میں نے اسے سات دفعہ پڑھا تو مجھے کہنے لگا اے مخارق

مجھ سے تمام سلطنت لے لے اور مجھے ایسا ایک دوست لادے۔

### نا محتاج

ہدیہ بن خالد کہتے ہیں۔ ایک روز میں صبح کے کھانے میں مامون کے ساتھ شریک تھا۔ جب دسترخوان اٹھایا گیا تو فرش پر سے کھانے کے ریزے چن کر کھانے لگا۔ مامون نے دیکھ کر پوچھا کیا تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ میں نے کہا پیٹ بھر گیا ہے، مگر مجھے حماد بن سلم نے بسندہ حدیث سنائی ہے کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے سے ریزے اٹھا کر کھاتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ سن کر مامون نے مجھے ایک ہزار دینار عطا کیے۔

### عقیدت

حسن بن عبدوس صفا کہتے ہیں۔ جب مامون نے بوران بنت حسن بن سعد سے نکاح کیا تو لوگوں نے حسن کو بہت سے تحائف دیئے۔ ایک فقیر نے دو توشہ دان تحفہ بھیجے۔ ایک میں نمک تھا اور دوسرے میں اشان گھاس اور اس کے ساتھ اس مضمون کا رقعہ لکھ بھیجا۔

میں آپ پر نندا کیا جاؤں۔ سرمایہ کی کمی نے میری علوہت کو کم کر دیا۔ لیکن یہ بات مجھے اچھی نہ لگی ایسے نیکی کے صحیفہ میں میرا نام نہ ہو۔ بایں غرض میں نے خدمت اقدس میں نمک برکت کے لیے اور اشان صفائی اور خوشبو کے لیے بھیجا ہے۔

حسن یہ توشہ دان لے کر مامون کی خدمت میں گیا۔ اس کو یہ تحریر بہت اچھی لگی۔ حکم دیا دونوں توشہ دانوں کو خالی کر کے دیناروں سے بھر کر واپس کیا جائے۔

صولی محمد بن قاسم سے روایت کرتے ہیں۔ مامون کہا کرتا تھا مجھے درگزر میں اس قدر مزا آتا ہے جس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے شاید مجھے اس کا ثواب ہی نہ ملے۔ اور اگر مجرموں کو عفو سے میری محبت کی مقدار معلوم ہو جائے تو گناہوں پر نہایت ہی دلیر ہو جائیں۔

### فراست

خطیب منصور برکی سے روایت کرتے ہیں۔ رشید کی ایک کینز تھی جس پر مامون عاشق تھا۔ ایک روز وہ لوٹا ہاتھ میں لے کر رشید کو وضو کرارہی تھی اور مامون ہارون الرشید کے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ لونڈی نے آنکھ کے اشارے سے منع کیا اور اس میں اسے پانی ڈالنے میں ذرا دیر لگ گئی۔ ہارون رشید نے اس کی طرف دیکھ کر کہا یہ کیا معاملہ

ہے۔ وہ ذرا لیت و لعل کرنے لگی۔ رشید نے کہا اگر سچ نہ بتاؤ گی تو تمہیں ابھی قتل کرادوں گا۔ اس نے کہہ دیا کہ عبد اللہ مامون نے مجھے بوسہ دینے کا اشارہ کیا تھا۔ رشید نے مژک مامون کی طرف دیکھا تو حیا و رعب کے باعث اس کی حالت قابل رحم بن گئی تھی۔ فوراً اسے گلے سے لگالیا اور پوچھا تم اسے چاہتے ہو۔ مامون نے کہا ہاں۔ رشید نے کہا جاؤ اسے لے جاؤ۔ پھر جب اس سے ملاقات ہوئی تو ہارون نے کہا اس واقعہ کے بارے میں کچھ اشعار تو پڑھو تو مامون نے یہ اشعار پڑھے۔

ظَبْنِي " كُنَيْتُ بِطَرْفِي عَنِ الضُّمَيْرِ إِلَيْهِ

ترجمہ: ایک ہرن (یعنی معشوق) کو میں نے دل کی آنکھ سے اشارہ کیا۔

قَبْلُهُ مِنْ بَعِيدٍ فَأَعْتَلُ مِنْ شَفْتَيْهِ

ترجمہ: اور دور سے ہی اس سے بوسہ مانگا مگر اس نے اپنے ہونٹوں سے ٹالا۔

وَرَدًا أَحْسَنَ مِنْ رَدِّ بِالْكَسْرِ مِنْ حَاجِبِيهِ

ترجمہ: اور اپنے بھروسے سے سوال کو رد کر دیا اور اس کا میرے سوال کو رد کرنے کا کتنا اچھا

طریقہ ہے۔

فَمَا بَرَحْتُ مَكَانِي حَتَّى قَدَرْتُ عَلَيْهِ

ترجمہ: ابھی میں اپنی جگہ سے نہیں ہلاتھا کہ مجھے اس پر قابو مل گیا۔

علم دوستی

ابن عساکر ابوخلیفہ فضل بن حباب سے روایت کرتے ہیں۔ ایک بردہ فروش نے مجھ سے بیان کیا ایک دفعہ مامون کے پاس ایک لوٹری لایا جو اعلیٰ درجہ کی شاعرہ، فصیحہ، ادب دان اور شطرنج کھیلنے والی تھی۔ میں نے اس کی دو ہزار دینار قیمت لگائی۔ مامون نے کہا میں ایک شعر کہتا ہوں۔ اگر یہ اس کے وزن پر دوسرا شعر بنا دے تو جو کچھ تم مانگتے ہو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ پھر مامون نے یہ شعر پڑھا:

مَاذَا تَقُولِينَ فِيمَا شَفَّهَ أَرِقٍ مِنْ جَهْدِ حُبِّكَ حَتَّى صَارَ خَيْرَ آنَا

ترجمہ: تو اس شخص کے بارے کیا کہتی ہے جو تیرے عشق کی تکلیف سے بیدار رہ کر لاغر

ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بالکل حیران ہے۔



اس لوٹڈی نے فوراً یہ شعر پڑھا:

إِنَّا وَحَدْنَا مُحِبًّا قَدْ أَضْرَبَهُ ذَا الصَّبَابَةِ أَوْلَيْنَا إِحْسَانًا

جب کبھی کسی عاشق کو بیماری عشق زیادہ تکلیف زدہ دیکھتے ہیں تو اس پر احسان کرتے ہیں۔

صولی حسین خلج سے روایت کرتے ہیں۔ جب مامون مجھ سے مخفا ہوا اور میرا وظیفہ بند

کر دیا تو میں نے اس کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا جس کے اشعار میں یہ ذیل کے اشعار بھی تھے:

أَجْرُنِي فَإِنِّي قَدْ ظَمِثْتُ إِلَى الْوَعْدِ مَتَى تَنْجِزُ الْوَعْدَ الْمُؤَكَّدَ بِالْعَهْدِ

ترجمہ: مجھے انعام دیجئے کیونکہ میں ادائیگی وغیرہ کا پیاسا ہوں۔ آپ وہ قسموں سے

مؤکد عہد کب پورا کریں گے۔

أَعَيْدُكَ مِنْ خَلْفِ الْمُلُوكِ وَقَدْ تَرَى تَفْطَعُ الْقَائِسِي عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْدِ

ترجمہ: میں آپ کو بادشاہوں کی وعدہ خلافی سے سمجھتا ہوں حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں

میری سانس وجد سے ٹوٹ رہی ہیں۔

أَيَسْخُلُ فَرْدَ الْحَسَنِ عَيْنِي بِنَائِلِ قَلِيلٍ وَقَدْ أَفْرَدْتَهُ بِهَوَايَ فَرْدِ

ترجمہ: کیا جس میں یگانہ روزگار مجھ سے عطیہ قلیل کا بجل کرے گا حالانکہ میں نے اسے

بنانے میں یگانہ کیا ہے۔

رَأَى اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ خَيْرَ عِبَادِهِ فَمَلَّكَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْعَبْدِ

ترجمہ: خدا نے عبد اللہ کو بہترین خلقت سمجھ کر بادشاہ بنایا اور وہ اپنے بندوں کے حال

سے خوب آگاہ ہے۔

أَلَا إِنَّمَا الْمَأْمُونُ لِلنَّاسِ عِصْمَةٌ مُفَرِّقَةٌ بَيْنَ الضَّلَالَةِ وَالرُّشْدِ

ترجمہ: خبردار کہ خلیفہ مامون لوگوں کیلئے بچاؤ ہے اور گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنے

والا ہے۔

مامون نے کہا اس نے بہت خوب کہا ہے لیکن یہ اشعار بھی تو اس کے ہیں:

أَعْيَسَايَ جُودًا وَأَبْجَالِي مُحَمَّدًا وَلَا تَذَخِرْ دَمْعًا عَلَيْهِ وَاسْعَدْ

ترجمہ: اے میں میری دونوں آنکھوں! بخشش کرو اور خلیفہ محمد امین پر رود و اور آنسوؤں کا

ذخیرہ کرو بلکہ رونے میں مجھے خوب مدد دو۔

فَلَا تَمَّتِ الْأَشْيَاءُ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَلَا زَالَ شَمْلُ الْمُلْكِ فِيهِ مَبْدَأٌ

ترجمہ: خدا کرے محمد کے بعد کوئی چیز پوری نہ ہو اور ملک کی پراگندگی بھی کبھی دور نہ ہو۔

فَلَا فَبِرَحِّ الْمَأْمُونِ بِالْمُلْكِ بَعْدَهُ وَلَا زَالَ فِي الدُّنْيَا طَرِيدًا مُشْرَدًا

ترجمہ: اور اس کے بعد مامون کبھی چین سے بادشاہی نہ کرے۔

پس یہ شعر ان کے عوض میں ہوئے اور ہمارے پاس اس کے لیے کچھ انعام نہیں۔

حاجب نے کہا حضور کی عفو کی عادت کہاں گئی۔ کہنے لگا ہاں یہ بات ہے۔ اچھا جاؤ اسے انعام بھی دے دو اور اس کا وظیفہ بھی جاری کر دو۔

حماد بن اسحاق سے مروی ہے۔ جب مامون بغداد میں آیا تو ہر اتوار کو صبح سے ظہر تک

کچھری لگایا کرتا تھا اور لوگوں کا انصاف کیا کرتا تھا۔

منتظم اعلیٰ

محمد بن عباس کہتے ہیں۔ مامون شطرنج کھیلنے کا بہت شوق رکھتا تھا۔ کہا کرتا تھا اس سے

ذہن تیز ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں اس نے شطرنج میں ایجاد کی تھیں۔ کہا کرتا تھا مجھے کوئی شخص یہ

نہ کہے آؤ شطرنج کھیلیں بلکہ کہے آؤ مزا دلت کریں یا سستی اور قتل کو دور کریں۔ مامون خود اچھی

طرح نہیں کھیل سکتا تھا اور کہا کرتا تھا میں بساط دنیا کا انتظام کر سکتا ہوں مگر اس دو مربع بالشت

بساط پر مجھے دسترس حاصل نہیں۔

اہانت

ابن سعید کہتے ہیں۔ وعمل نے مامون کی ان اشعار سے جو کی:

إِنْسِي مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ سُوِفُهُمْ قَلْتُ أَخَاكَ وَشَرَفِيكَ بِمَقْعَدِ

ترجمہ: میں نے ان لوگوں سے جنگ کی جن کی تلواروں نے تیرے بھائی کو قتل کیا اور

تجہ تخت پر بیٹھنے کی عزت عطا کی۔

أَشَادُوا بِذِكْرِكَ نَعْدَ طُولِ حَمُولِهِ وَاسْتَنْفَلُوكَ مِنَ الْخَيْضِ الْآ وَهَدِ

اور انہوں نے ہی تیرے ذکر کو بلند کیا، حالانکہ اس سے قبل تو گنہگار تھا اور انہوں نے ہی

تجہ پستی کے گڑھے سے باہر نکالا۔

## خلفاء کی گود

مامون نے ان اشعار کو سن کر صرف یہی کہا کہ وہ عمیل بے حیا ہے۔ میں کب گناہ تھا، میں تو خلفاء کی گود میں پایا ہوں اور اسے کوئی سزا نہ دی۔  
طریق عدیدہ سے مروی ہے کہ مامون نیند پیا کرتا تھا۔

## یکساں رنگ

حافظ سے مروی ہے۔ مامون کے دوست کہا کرتے تھے مامون کے چہرے اور تمام جسم کا رنگ یکساں ہے۔ لیکن اس کی پنڈلیاں ایسی زرد ہیں گویا زعفران سے رنگی گئی ہیں۔

## غلط ہے

اسحاق موصلی سے مروی ہے۔ مامون کہا کرتا تھا گانا وہی اچھا ہوتا ہے جس سے سامع کو لطف آ جائے خواہ صحیح ہو یا غلط۔

علی بن حسین سے مروی ہے۔ ایک دفعہ محمد بن حامد مامون کے پیچھے کھڑا تھا اور مامون اس وقت نیند پی رہا تھا کہ اس کی ایک کینز غریب نامی نے نابغہ جعدی کا یہ شعر پڑھا۔ شعر

كحاشية البرد اليماني المسهم

ترجمہ: دھاری داری چادر کے کنارے کی طرح ہے۔

مامون کو یہ بے محل گانا بہت برا معلوم ہوا۔ اس نے کہا اگر مجھے اس گانے کی وجہ معلوم نہ ہوئی تو میں رشید کا بیٹا ہی نہیں، اگر میں اس پر سخت سزا نہ دوں اور اگر کوئی سچ بتلا دے تو میں اس سچ بولنے والے کی حاجت بھی پوری کر دوں گا اور اسے معاف بھی کر دوں گا۔ محمد بن حامد نے کہا کہ یہ قصو مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ میں نے اس سے اشارہ میں بوسہ مانگا تھا۔ مامون نے کہا اب سچی بات معلوم ہوئی۔ کیا تم چاہتے ہو میں تمہارا اس سے نکاح کر دوں۔ محمد بن حامد نے کہا ہاں۔ مامون نے کہا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت بھیجے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل اولاد پر) میں نے اپنی کینز کا نکاح محمد بن حامد سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق

بعوض مہر چار سو درہم نکاح کر دیا۔ جا اب اسے لے جا۔ مقتسم دہلیز تک ساتھ گیا اور کہا کہ اجرت دلائی دلو اوڈ۔ محمد بن حامد نے کہا کہ لے لیجئے۔

### شوکت اسلام

ابن ابی داؤد سے مروی ہے کہ شاہِ روم نے مامون کو دو سو رطل مشک اور دو سو سو رطل (مثل لومڑی جانور سرخ مائل سیاہی جس کی کھال کی پوستین بنتی ہے) ہدیہ بھیجے۔ مامون نے کہا اس کے عوض اسے اس سے دگنا مال روانہ کر دو تا کہ اس پر شوکت اسلام واضح ہو جائے۔

### اعتراف

ابراہیم بن حسین سے مروی ہے۔ ایک دفعہ مدائنی نے مامون کو کہا معاویہ نے کہا تھا بنو ہاشم شجاع، تیر فہم اور گویا ہوتے ہیں اور ہم میں سے سردار زیادہ ہوتے ہیں۔ مامون نے کہا اس قول میں انہوں نے ایک بات کا اقرار کیا ہے اور ایک کا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ میں تو وہ خصم (جھگڑے میں غالب) ہیں اور اقرار میں منصور (جھگڑے میں مغلوب) ہیں۔

### ثریدی اور خمیصی

اسامہ سے مروی ہے۔ احمد بن ابو خالد ایک روز مامون کے سامنے کوئی تحریر پڑھنے لگا اور شروع میں ہی کہا فلاں ثریدی جو یزیدی ہے تو مامون ہنسنے لگا اور کہا انوکرا! ابو العباس کے لیے کھانا لاؤ ابھی یہ بھوکے معلوم ہوتے ہیں۔ احمد بہت شرمایا اور کہنے لگا میں بھوکا تو نہیں، کم بخت لکھنے والے نے ہی اس پر تین نقطے لگا کر می کوٹ بنا دیا ہے۔ مامون نے کہا اچھا کھانا تو کھا لو۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو پھر تحریریں پڑھنے لگا تو بجائے خمیصی کے خمیصی کہہ گیا۔ مامون پھر ہنسا اور کہا ان کے لیے خمیص (جو حلو کی ایک قسم ہے) لے آؤ۔ احمد بولا جب لکھنے والا ہی احمق ہے تو میں کیا کروں۔ اس نے در کھول رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے ب ہے۔ مامون ہنس کر کہنے لگا کہ اگر وہ بیوقوف نہ ہوتا تو تم آج بھوکے رہ جاتے۔

ابو عباد کہا کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا مامون سے بڑھ کر شریف بزرگ اور خنی خدا تعالیٰ

نے کسی کو پیدا کیا ہو۔

## حرص کی آگ

مامون کو معلوم ہوا احمد بن ابو خالد بہت حریص ہے اور اس کا بھی یہ حال تھا جب کوئی ضرورت معلوم ہوتی تو بن بلائے آ موجود ہوتا۔ ایک روز آ کر کہنے لگا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری کچھ تنخواہ مقرر کر دیں، کیونکہ میں محتاجوں کو کھانا کھلاتا رہتا ہوں۔ مامون نے اس کے روزانہ خرچ کے لیے ایک ہزار درہم مقرر کر دیا۔ لیکن وہ باوجود اس کے دوسروں کی بانڈیاں چاٹتا پھرا کرتا تھا۔ اسی کے بارے میں وعل نے یہ اشعار کہے:

شَكَرْنَا الْخَلِيفَةَ اجْرَانِهِ عَلِيَّ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ نَزْلَهُ

ترجمہ: ہم ابن خالد کی تنخواہ مقرر کرنے پر خلیفہ کا شکر یہ ادا کرتے ہیں

فَكَفَّ اَذَاهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَصَيَّرَنِي بَيْتِهِ شَغْلَهُ

ترجمہ: اور مسلمانوں سے اس کی تکلیف کو بند کر دیا ہے یعنی اب وہ مسلمانوں کو ستاتا نہیں

اور اسے اپنے گھر میں ہی بند کر دیا ہے۔

## معافی علاج ہے

ابوداؤد کہتے ہیں۔ میں نے سنا مامون ایک شخص کو کہہ رہا تھا چاہے یہ عذر ہو یا برکت میں نے تجھے بخش دیا تو یا گناہ کرتا رہے گا۔ میں احسان کرتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا حتیٰ کہ درگزر رہی تیرا علاج ہوگا۔

حافظ سے مروی ہے۔ تمامہ بن اشرس کہا کرتا تھا۔ جعفر بن یحییٰ برکی اور مامون سے زیادہ مبلغ شخص کوئی نہیں دیکھا۔

## حبشی اور مامون

سلفی طیوریات میں حفص مدائنی سے روایت کرتے ہیں۔ مامون کے پاس ایک حبشی کو پکڑ کر لائے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہتا تھا میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ مامون نے اسے کہا موسیٰ بن عمران تو یہ بیضا کا معجزہ دکھلاتے تھے۔ تم بھی وہ معجزہ دکھاؤ۔ اس نے کہا موسیٰ نے یہ معجزہ اس وقت دکھلایا تھا جب فرعون نے ربو بیت کا دعویٰ کیا تھا۔ تم بھی ذرا خدائی کا دعویٰ کرو۔ میں تمہیں یہ بیضا دکھا دوں گا۔

## نقصان کا سبب

مامون کہا کرتا تھا اختلاف جنگ اور نقصان عظیم کا سبب نوکروں کا ظلم ہی ہو کرتا ہے۔

## مصالح کی خاطر

ابن عساکر یحییٰ بن اکثم سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مامون نے فقہ کے متعلق بحث کرنے کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جس نے اپنے کپڑے سیٹے ہوئے تھے اور جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، مجلس کی ایک طرف آکھڑا ہوا اور کہا السلام علیکم۔ مامون نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا یہ مجلس کیسی ہے؟ کیا یہ اجتماع امت کے لیے قائم کی گئی ہے یا محض قہر اور غلبہ کے لیے۔ مامون نے کہا ان دونوں باتوں میں سے کسی کے لیے بھی قائم نہیں کی گئی بلکہ خلیفہ سابق نے ہم دونوں کو ولی عہد بنایا تھا اور جب میں اس طریقہ سے خلیفہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ مشرق و مغرب کے مسلمانوں کی رضا کا محتاج ہوں وہ میری خلافت پر راضی ہو جائیں۔ لیکن میں نے سوچا اگر اس رضا کے حصول تک ترک خلافت کرتا ہوں تو فساد و اختلاف برپا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے تمام مصالح معطل ہو جاتے ہیں اس لیے جب تک کہ مسلمان کسی پر اتفاق کریں۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے میں نے اسے قبول کر لیا۔ اس شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور پھر چلا گیا۔

## کمال حافظہ

محمد بن منذر کندی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ رشید حج کرنے کے بعد کوفہ میں گیا اور وہاں کے محدثین کو بلا بھیجا۔ سب حاضر ہو گئے مگر عبد اللہ بن ادریس اور عیسیٰ بن یونس نہ آئے۔ رشید نے ان دونوں کے پاس امین اور مامون کو بھیجا۔ ابن ادریس نے ان دونوں کو سوا حدیث سنائیں۔ مامون نے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں کو میں زبانی سنا دوں؟ ابن ادریس نے کہا اچھا سناؤ۔ مامون نے وہ تمام حدیثیں از بر سنا دیں۔ ابن ادریس اس کی قوت حافظہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ فلسفہ یونانی کی بہت سی کتب جزیرہ قبرس سے ملی تھیں۔

## قسم آدم

مامون کہا کرتا تھا لوگوں کی عقول کو دیکھنے سے بڑھ کر اور کوئی فرحت بخش امر نہیں ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے ٹالنے کا حیلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کا لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیز اس کا قول ہے سب سے بہتر وہ مجلس ہوتی ہے جس میں لوگوں کی حالت پر غور کیا جائے۔ اور آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم تو بمنزلہ غذا کے ہوتے ہیں جن کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے اور دوسری قسم کے لوگ بمنزلہ دوا کے ہوتے ہیں کہ ان کی ضرورت حالت مرض میں ہوتی ہے اور تیسری قسم کے لوگ بمنزلہ بیماری کے ہوتے ہیں جو ہر حال میں مکروہ ہیں۔

## آپ سچے میں جھوٹا

ایک روز مامون نے کہا میں کسی کے جواب میں ایسا بند نہیں ہوا جیسا اہل کوفہ کے ایک شخص کے جواب سے میں عاجز ہو گیا جس کو انہوں نے میرے عامل (گورنر) کی شکایت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹے ہو۔ بیشک آپ سچ فرماتے ہیں اور میں جھوٹا ہوں۔ مگر اس کے عدل کے ساتھ ہمارے ہی اس شہر کو کیوں خاص کیا ہے۔ آپ اسے کسی اور شہر کا بھی حاکم بنا سکتے تھے کہ ہماری طرح وہ بھی اس کے عدل و انصاف سے بہرہ ور ہوں۔ میں نے کہا جا خدا تیری حفاظت نہ کرنے میں نے اسے معزول کر دیا۔

ذیل میں مامون کے اشعار ہیں:

لِسَانِي كَتُمْتُ "لَا سِرَّ اِذْ كُنْتُ" وَ دَمْعِي نُمُومٌ "لِسِرِّي مُذْبِعٌ"

ترجمہ: میری زبان تمہارے رازوں کو چھپائے ہوئے ہے مگر میرے آنسو میرے راز کو

ظاہر کر رہے ہیں۔

فَلَوْلَا دُمُوعِي كَتَمْتُ الْهَوَىٰ وَلَوْلَا الْهَوَىٰ لَمْ يَكُنْ لِي دُمُوعٌ

ترجمہ: اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو میں عشق کو چھپاتا اور اگر عشق نہ ہوتا تو میرے آنسو ہی نہ

ہوتے۔

ذیل میں مامون نے شطرنج کی تعریف میں اشعار کہے:

أَرْضٌ مُّرتَعَةٌ حَمْرَاءُ مِنْ أَدَمَ مَا بَيْنَ الْفَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِالْكَرَمِ  
ترجمہ: وہ ایک مربع زمین ہے جو سرخ رنگ کی اودھوڑی سے بنی ہوئی ہے اور دونہایت  
ہی مہربان دوستوں کے درمیان سمجھی ہوئی ہے۔

تَذَاكِرًا الْحَرْبِ فَاخْتَالَ لَهَا حِيْلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتِمَا فِيهَا بِسَفْكِ دَمِ  
ترجمہ: جب وہ دونوں لڑائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کیلئے بہانے ڈھونڈتے ہیں لیکن  
خونریزی کر کے گنہگار نہیں ہوتے۔

هَذَا يُغَيِّرُ عَلِيَّ هَذَا وَذَاكَ عَلِيٌّ هَذَا يُغَيِّرُ وَعَيْنُ الْحَزْمِ لَمْ تَسْمُ  
ترجمہ: یہ اس پر غارت کرتا ہے اور وہ اس پر مگر ہوشیاری اور احتیاط کی آنکھ بیدار ہوتی  
ہے۔ سوئی ہوئی نہیں ہوتی۔

فَانظُرْ إِلَى فَطْنٍ جَالَتْ بِمَعْرِفَةٍ فِي عَسْكَرَيْنِ بِلَا طَبْلِ وَلَا عِلْمِ  
ترجمہ: پس اس دانا کو دیکھو، بغیر طبل (ڈھول) اور علم کے دو لشکروں کو لڑا دینا۔

### فضیلت نہ دینا

صولی محمد بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ احرم بن حمید مامون کے پاس آیا اور اس وقت  
وہاں معتم بھی موجود تھا۔ مامون نے کہا میری اور میرے بھائی کی تعریف کرو۔ مگر کسی کو ایک  
دوسرے پر فضیلت نہ دینا۔ اس نے تھوڑی سی دیر سوچ کر یہ اشعار پڑھے:

رَأَيْتُ سَفِينَةَ تَجْرِي بِبَحْرِ إِلَى بَحْرَيْنِ ذُوْنَهُمَا الْبُحُورُ  
ترجمہ: میں نے ایک کشتی کو ایک سمندر میں تیرتے دیکھا اور وہ ایسے دو سمندروں کی  
طرف جارہی تھی جن سے تمام سمندر کم ہیں۔

إِلَى مَلِكَيْنِ ضَوْءُهُمَا جَمِيْعًا سَوَاءٌ حَارَ ذُوْنَهُمَا الْبَصِيرُ  
ترجمہ: وہ ایسے دو بادشاہوں کی طرف جارہی ہے جن کی روشنی برابر ہے اور جن کو دیکھ کر  
عقلند حیران ہیں۔

كَلَّا الْمَلِكَيْنِ يُشْبَهُ ذَاكَ هَذَا وَذَا هَذَا وَذَاكَ وَذَا أَمِيرُ  
ترجمہ: دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ یہ اس کے اور وہ اس کے مشابہ ہے۔

فَسَانِ يَكُ ذَاكَ ذَا وَذَاكَ هَذَا فَلِي فِي ذَا وَذَاكَ مَعَا سَرُورُ



ترجمہ: اور اگر یہ وہ اور وہ یہ ہو جائے تو کوئی ڈر نہیں کیونکہ مجھے ان دونوں سے خوشی ہے۔

رَوَاقِ الْمَجْدِ مَمْدُودٌ عَلَيَّ ذَا وَهَذَا وَجْهَهُ بَدْرٌ مُنِيرٌ

ترجمہ: ان سے ایک پر تو بزرگی کے سر پر وہ لکھے ہوئے ہے اور دوسرے کا چچا بدر منیر کی

طرح ہے۔

### روایت حدیث از مامون

بیہقی روایت کرتے ہیں۔ میں نے عرفہ کے دن رصافہ کے مقام میں مامون کے پیچھے

نماز پڑھی۔ جب مامون نے سلام پھیرا تو لوگوں نے تکبیر کہی۔ مامون نے کہا، چپ رہو، چپ

رہو۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت مبارک کل ہوگی۔ جب عید الضحیٰ کا دن ہوا تو میں

بھی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ مامون نے منبر پر چڑھ کر پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر اللہ اَكْبَرُ

كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا۔ (اللہ بہت بڑا ہے اور تمام

تعریف کثرت کے ساتھ اللہ کیلئے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ صبح کے وقت سے۔ عصر و

مغرب کے درمیانی وقت سے) ابو بردہ بن دینار سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جس نے قربانی نماز سے پہلے کرنی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے استعمال کے لیے

گوشت بنالیا اور جس نے عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد قربانی کی تو اس نے سنت کے مطابق

عمل کیا۔ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا الٰہی مجھے

صلاحیت عطا فرما اور مجھ سے طلب صلاحیت ہو اور مجھے صلاحیت پہنچا۔ حاکم کہتے ہیں۔ اس

حدیث کو ہم نے احمد کے علاوہ اور کسی سے نہیں لکھا اور ہمارے نزدیک وہ ثقہ ہیں۔ میرے دل

میں اس حدیث سے متعلق کھٹکا لگا رہا، حتیٰ کہ میں نے دارقطنی سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا

یہ روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے اور جعفر سے مروی ہے۔ میں نے کہا شیخ ابوالاحمد کا کوئی اور

بھی معاون ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ مجھ سے وزیر ابوالفضل جعفر بن فرات نے اور

انہوں نے ابوالحسن محمد بن عبدالرحمن رودباری سے اور انہوں نے محمد بن عبدالملک تاریخی سے

روایت کی ہے اور یہ سب کے سب ثقہ ہیں اور عبدالملک جعفر طرابلسی سے اور وہ یحییٰ بن معین

سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مامون کو خطبے میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ پھر اس نے یہی

حدیث بیان کی۔

## علم حدیث اور مامون

یحییٰ بن معین سے صولی نے روایت کی ہے۔ مامون نے ایک دفعہ جمعہ کے روز اور وہی عرفہ کا بھی دن تھا، خطبہ پڑھا۔ جب نماز جمعہ پڑھا کر اس نے سلام پھیرا تو لوگوں نے تکبیر کہی۔ مامون نے مقصورہ کی لکڑی کو پکڑ کر باہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ شور کیوں مچاتے ہو؟ مجھ سے ہشیم نے روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ عقبہ تک تلبیہ کہا کرتے تھے اور دوسرے روز انقضائے تلبیہ کے بعد ظہر کے وقت سے تکبیر کہا کرتے تھے۔

صولی بروایت احمد بن ابراہیم موصلی روایت کرتے ہیں۔ ہم مامون کے پاس بیٹھے تھے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر! رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خلقت خدا کے عیال ہیں۔ بندگان خدا سے محبوب ترین وہ ہیں جو اس کو بہت نفع پہنچاتے ہیں۔ یہ سن کر مامون نے بلند آواز سے کہا چپ رہو۔ حدیث کا عالم میں تم سے زیادہ ہوں۔ مجھ سے یوسف بن عطیہ نے بروایت ثابت انس بن مالک بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت خدا کے عیال ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے محبوب ترین شخص وہ ہوگا جو اس کے عیال کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔

(رواہ ابن عساکر بتلک الطریق ورواہ ابو یعلیٰ فی مسندہ عن یوسف بن عطیہ)

صولی عبد الجبار بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مامون نے خطبہ میں حیا کا ذکر کیا اور اس کی بہت تعریف کی اور پھر کہا ہم سے ابو بکر و عمر ان بن حصین سے ہشیم نے روایت بیان کی ہے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، حیا ایمان کی علامت ہے اور مومن جنت میں داخل ہوگا اور فحش و بیہودہ بکنا جفا ہے اور جفا کرنے والا دوزخ میں داخل ہوگا۔ (رواہ ابن عساکر بروایت یحییٰ بن اکثم مامون۔)

## حلاوت نہیں دیکھی

حاکم قاضی یحییٰ بن اکثم سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دن مجھے مامون نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ حدیث بیان کروں۔ میں نے کہا آپ سے بڑھ کر اس امر کے کون موڑوں ہو سکتا

ہے؟ مامون نے منبر رکھوایا اور سب سے پہلے یہ حدیث بیان کی۔ کہا ہم سے ہشیم نے حدیث بیان کی اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں شعراء کا علم بردار امراء القیس ہوگا۔ اسی طرح تم میں حدیثیں اور بیان کر کے منبر سے اتر آیا اور مجھ سے کہا اے یحییٰ تمہیں ہماری اس مجلس کا رنگ کیسے لگا؟ میں نے کہا اے امیر! یہ اعلیٰ درجے کی مجلس تھی۔ اس سے خواص و عوام نے فائدہ اٹھایا۔ مامون نے کہا تیری جان کی قسم میں نے لوگوں میں حلاوت نہیں دیکھی۔ یہ مجلس تو قلم دوات لیے ہوئے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کے لیے موزوں ہے۔

### احساس نیکی

خطیب ابراہیم بن سعید جو ہری سے بیان کرتے ہیں۔ جب مامون نے مصر کو فتح کیا تو ایک شخص نے کہا خدا کا شکر ہے۔ اس نے آپ کے ہاتھ سے آپ کے دشمن کی سرکوبی کرائی اور عراقین اور شام و مصر کو آپ کا مطیع فرمان کیا اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے ہیں۔ مامون نے کہا یہ سب تو کچھ ٹھیک ہے۔ مگر ایک خصلت باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوں اور یحییٰ لکھ رہے ہوں اور مجھ سے پوچھیں خدا آپ سے راضی ہو۔ آپ نے کس صحابی کا نام لیا۔ پس میں کہوں کہ مجھ سے حماد نے حدیث بیان کی ہے کہ حماد بن سلم اور حماد بن یزید نے ثابت بنانی سے روایت کی ہے اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے دو یا تین بیٹیوں کو دو یا تین بہنوں کی پرورش کی، حتیٰ کہ وہ مر گئیں یا یہ شخص ان کے سامنے مر گیا، تو وہ شخص جنت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا جیسے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں۔

### ولادت مامون و انتقال حماد

خطیب لکھتے ہیں کہ یہ روایت غلط فاحش ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے مامون نے کسی اور شخص سے روایت کی ہو اور اس نے حماد بن سلمہ سے روایت کی ہو کیونکہ مامون 170 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور حماد بن سلمہ 167 ہجری میں فوت ہو گیا تھا۔ یعنی مامون سے تین برس قبل اور حماد بن یزید نے 179 ہجری میں انتقال کیا ہے۔

## اک صاحب حدیث اور مامون

حاکم محمد بن سہل بن عسکر روایت کرتے ہیں۔ ایک دن مامون اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا اور ہم اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک مسافر آدی دوات لیے آیا اور کہا امیر المؤمنین! میں صاحب حدیث ہوں اور زوراہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے رفقاء سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ مامون نے کہا اچھا فلاں باب کی تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ وہ شخص خاموش رہا اور کچھ بیان نہ کیا۔ مامون نے حدیثیں بیان کرنا شروع کیں اور کہا مجھ سے ہشیم نے حدیث بیان کی۔ حجاج نے حدیث بیان کی۔ یہاں تک کہ اس باب کی سب حدیثیں بیان کر دیں۔ پھر اس شخص سے پوچھا اچھا اس باب کی حدیثیں بیان کرو۔ وہ شخص پھر خاموش رہا تو مامون نے اپنے ہمراہیوں کی طرف دیکھ کر کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر کوئی تین حدیثیں پڑھ لیتا ہے تو سمجھ لیتا ہے میں محدث بن گیا ہوں! سے تین درہم دیدو۔

## سید القوم خادمہم

ابن عساکر علی بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن اکثم نے بیان کیا۔ میں ایک رات مامون کے ہاں سویا۔ رات کو مجھے پیاس لگی تو میں کڑوٹیس بدلنے لگا۔ مامون نے کہا یحییٰ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے تو یہ سن کر جھٹ اپنے بستر سے اٹھ کر پانی کا کوزہ لے آیا۔ میں نے کہا آپ نے کسی نوکر یا غلام کو بلا لیا ہوتا۔ خود کیوں تکلیف کی۔ مامون کہنے لگا میں نے یہ حدیث مبارک عقبہ بن عامر سے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قوم کا سرداران کا خادم ہوتا ہے۔“

خطیب نے اسی حدیث کو سلیمان بن فضل یحییٰ بن اکثم سے روایت کیا ہے اور اس میں اس طرح مذکور ہے۔ مامون نے کہا مجھ سے رشید نے حدیث بیان کی منصور نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور یہ روایت عکرمہ ابن عباس اور جریر بن عبد اللہ سے آئی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”قوم کا سرداران کا خادم ہوا کرتا ہے۔“

## قوم کا سردار

ابن عساکر بسندہ محمد بن قدامہ بن اسلمیل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے ابو حذیفہ

بخاری نے حدیث بیان کی کہ میں نے امیر المؤمنین سے سنا۔ وہ بسندہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قوم کامولی اور ان کا سرداران سے ہی ہوا کرتا ہے۔ محمد بن قدامہ کہتے ہیں مامون کو بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ ابوحنیفہ نے یہ حدیث اس سے روایت کی ہے۔ اس نے اسے دس ہزار درہم انعام دیا۔

### دورِ مامون میں عباسی

مامون کے عہد خلافت میں عباسیوں کی مردم شماری ہوئی تو ان کی تعداد 33 ہزار نکلی اور یہ واقعہ 200 ہجری کا ہے۔

مامون کے عہد میں علمائے ذیل نے انتقال کیا:

سفیان عینی، امام شافعی، عبدالرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید قطان، یونس بن بکر راوی مغازی، ابومطیع بلخی صاحب ابوحنیفہ، معروف کرنی زاہد اسحاق بن بشیر مصنف کتاب المبتدأ، اسحاق بن فرات قاضی مصر جو امام مالک کے جلیل القدر شاگردوں سے تھا ابو عمرو شیبانی لغوی، اشہب صاحب امام مالک، حسن بن زیاد نووی صاحب ابوحنیفہ، حماد بن اسامہ حافظ روح بن عبادہ زید بن حباب، ابوداؤد طیالسی، غازی بن قیس صاحب امام مالک، ابوسلمان دارانی زاہد مشہور، علی رضا بن موسیٰ کاظم، فراء امام العربیہ، قتیبہ بن مہران صاحب امالہ قطرب نحوی، واقدی، ابو عبیدہ معمر، ابن شیبہ، نصر بن شمیم، سیدہ نفیسہ، ہشام جو کوفہ کے ثخویوں سے تھا، یزیدی، یزید بن ہارون، یعقوب بن اسحاق، حضری قاری بصرہ، عبدالرزاق، ابوالعتاہیہ شاعر، اسدالسننہ، ابوعاصم نبیل، فریانی، عبدالملک بن مثنون، عبداللہ بن حکم، ابوزید انصاری صاحب العربیہ، اصمعی وغیرہم رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔

### معتصم باللہ ابواسحاق محمد بن رشید

یہ 180 ہجری میں پیدا ہوا۔ ذہبی نے ایسا ہی تحریر کیا ہے۔ مگر صولی کہتے ہیں۔ یہ شعبان 178 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ام ولد تھی۔ کوفہ کی رہنے والی تھی اور اس کا نام مارده تھا۔ رشید کے ہاں اس کی بڑی وقعت تھی۔ اس نے اپنے بھائی مامون اور اپنے والد سے روایات حدیث کی ہیں اور اس سے اسحاق موصلی، میمون بن اسمعیل وغیرہم روایت کرتے ہیں۔ معتصم

نہایت شجاع اور صاحب قوت و ہمت شخص تھا۔ لیکن علم سے خالی تھا۔

### مفروضہ مکتب

صولی محمد بن سعید سے اور وہ ابراہیم بن ہاشمی سے روایت کرتے ہیں۔ معتمم کے ساتھ مکتب میں ایک غلام بھی پڑھا کرتا تھا۔ قضا سے وہ مر گیا۔ رشید نے کہا اے محمد تیرا غلام تو مر گیا۔ کہنے لگا ہاں قبلہ مر گیا ہے اور مکتب کی بلا سے بھی چھوٹ گیا ہے۔ رشید نے کہا تم مکتب سے اس قدر تنگ ہو اچھا بتاؤ اسے چھوڑ دو اور جاؤ اور پھر کہنے لگا کہ اسے پڑھنے پر مجبور نہ کرو۔ کہتے ہیں معتمم لکھ سکتا تھا اور تھوڑا بہت پڑھ بھی سکتا تھا۔

ذہبی کہتے ہیں۔ معتمم اگر علماء کو خلق قرآن سے نہ آزما تا تو وہ سب سے بڑھ کر باہیت اور صاحب وقار خلیفہ شمار ہوتا۔

### معتمم اور ”۸“

نفظو یہ اور صولی لکھتے ہیں۔ معتمم کے بہت سے مناقب ہیں۔ اسے دشمن بھی کہا کرتے تھے کیونکہ یہ بنی عباس سے آٹھواں خلیفہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آنھویں پشت سے تھا۔ رشید کی اولاد سے آٹھویں درجہ پر تھا۔ 218 ہجری میں تخت پر بیٹھا اور آٹھ سال آٹھ ماہ اور آٹھ دن تک حکومت کی۔ 178 ہجری میں پیدا ہوا اڑتالیس سال زندہ رہا۔ طالع اس کا عقرب تھا جو آٹھواں برج ہے۔ آٹھ فتوحات کیں اور آٹھ دشمنوں کو قتل کیا اور آٹھ بچے چھوڑے۔ ماہ ربیع الاول کے آٹھ دن باقی تھے کہ فوت ہو گیا۔ اس کی بہت سی خوبیاں اور کلمات فصیحہ ہیں۔ معمولی درجے کے شعر بھی ہیں۔ ایک اور بات کہ جب اسے غصہ آتا تھا تو پھر نہیں دیکھتا تھا کہ کس کو قتل کیا ہے۔

### قوت برداشت

ابن ابی داؤد کہتے ہیں۔ معتمم اپنی کلائی کو برہنہ کر کے مجھے کہا کرتا تھا اے ابو عبد اللہ اپنی ساری قوت مجتمع کر کے اسے کاٹو۔ میں اس خیال سے کہ تکلیف نہ ہو مگر وہ کہتا تھا مجھے اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ تم کاٹو۔ جب میں کاٹنا تو واقعی اس کے گوشت میں بالکل اثر نہ ہوتا اور نہ اسے کوئی تکلیف ہوتی۔

لفظو یہ کہتے ہیں۔ معتمم بڑا ہی قوی شخص تھا۔ اکثر آدمی کے پیچھے کی ہڈی کو وہ انگلیوں سے دبا کر توڑ ڈالتا تھا۔

بعض علماء لکھتے ہیں۔ معتمم نے سب سے پہلے ترکوں کو کچھری میں نوکر رکھا۔ بادشاہان عجم سے بہت ملتا جلتا تھا اور ان کی طرح چلتا تھا۔ اس کے صرف ترک غلام ہی دس ہزار سے زیادہ تھے۔

ابن یونس کہتے ہیں کہ وہ عمل نے معتمم کی توہین میں اشعار لکھے مگر پھر ڈر کے مارے مصر بھاگ گیا اور وہاں سے اندلس میں جا پہنچا۔ وہ اشعار ذیل میں ہیں:

مُلُوكُ بَنِي الْعَبَّاسِ فِي الْكُتُبِ سَبْعَةٌ      وَلَمْ يَأْتِنَا فِي نَامِنٍ مِنْهُمْ الْكُتُبُ  
ترجمہ: اصل میں عباسیوں کے بادشاہ سات ہی ہوئے ہیں اور آٹھویں کا کتابوں میں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔

كَذَلِكَ أَهْلُ الْكَهْفِ فِي الْكَهْفِ سَبْعَةٌ      غَدَاةٌ لُؤُوا فِيهَا وَثَامِنُهُمْ كَلْبُ  
ترجمہ: اسی طرح اصحاب کہف بھی سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہی ہے۔

وَإِنِّي لَأَرْهَى كَلْبُهُمْ عَنْكَ رَغْبَةً      لِأَنَّكَ كُذُؤَنْبٌ وَإِنِّي لَهْ ذَنْبٌ  
ترجمہ: اور میں تو اصحاب کہف کے کتے کا مرتبہ تم سے بڑا جانتا ہوں کیونکہ تم تو گناہ کرتے رہتے ہو اور وہ بے چارہ بے گناہ ہے۔

لَقَدْ ضَاعَ أَمْرُ النَّاسِ حَيْثُ يُسْؤُسُهُمْ      وَصَيْفٌ وَأَشْنَسٌ وَقَدْ عَظَّمَ الْحَطَبُ  
ترجمہ: جہاں وصیف اور اشناس لوگوں پر حکمرانی کریں وہاں تباہی ہی آئے گی۔

وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَسْرَى مِنْ مُغِيْبِهَا      مَطَالِعُ شَمْسٍ قَدْ يُغْضُ بِهَا الشَّرْبُ  
ترجمہ: ان حالات کو دیکھ کر میں امید کرتا ہوں کہ عنقریب ہی سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور سب اکل و شرب کدر ہو جائیں گے۔

وَهَمُّكَ تُرْكِي عَلَيْهِ مَهَابَةٌ      فَاَنْتَ لَهْ اَمِ وَاَنْتَ لَهْ اَبِ  
ترجمہ: تیرا قصد ایک ترکی ہے تو ہی اس کی ماں ہے اور تو ہی اس کا باپ ہے۔

مسئلہ خلق قرآن اور معتمم

معتمم ماہِ رجب 218 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا تو مامون کے قدم بقدم چلا۔ تمام

عمر لوگوں کا مسئلہ خلق قرآن میں امتحان لیتے ہی گزار دی اور تمام معلموں کو حکم دیدیا کہ بچوں کو اس مسئلہ کی تعلیم دیا کریں۔ لوگوں نے اس مسئلہ میں اسلے سے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور بہت سے علماء قتل کیے گئے۔ 220 ہجری میں امام احمد بن حنبل کو ستایا اور مارا اور اسی سال بغداد کو چھوڑ کر سرمن رائے کو دار الخلافہ مقرر کیا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ترکوں کو جمع کرنا شروع کیا تھا اور سمرقند، فرغانہ کے گرد و نواح میں آدمی بھیج کر بہت سے ترکوں کو خرید منگوا یا تھا اور انہیں طرح طرح کے سنہرے کپڑے اور ریشمی کمر بند پہنائے تھے۔ یہ غلام بغداد میں گھوما کرتے تھے اور لوگوں کو سخت تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ لوگوں نے جنگ آ کر معصم سے کہا اگر اپنے اس لشکر کو باہر نہیں نکالو گے تو ہم تم سے ٹکرا جائیں گے۔ معصم نے کہا تم مجھ سے کیسے جنگ کرو گے؟ انہوں نے کہا جا دو کے تیروں سے۔ کہنے لگا ان کے مقابلے میں مجھ میں طاقت نہیں اور اس لیے بغداد کو چھوڑ کر سرمن رائے کو دار الخلافہ بنایا۔

### منحوس طالع

223 ہجری میں معصم نے روم پر فوج کشی کی اور ان کو ایسی تکلیفیں دیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی جمیعت کو پریشان کیا اور ان کے ملک کو تباہ کر دیا اور عموریہ کو بزدل شمشیر فتح کیا اور وہاں تیس ہزار آدمیوں کو تہ تیغ کیا اور اسی قدر گرفتار کر لایا۔ جب معصم اس جنگ کے لیے روانہ ہوا تھا تو نجومیوں نے کہا تھا کہ یہ طالع منحوس ہے اس میں شکست ہوگی، مگر وہاں اسے فتح و نصرت نصیب ہوئی اور فتح بھی ایسی جو مشہور ہے۔ ابو تمام شاعر اپنے ایک قصیدہ میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءٍ مِنَ الْكُتُبِ      فِي حَدِيثِهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدِّ وَاللَّعِبِ  
ترجمہ: تلوار کتابوں سے زیادہ سچی خبر دینے والی ہے۔ اس کی تیز لمبی اور حقیقی بات میں فرق کر دیتی ہے۔

وَالْعِلْمُ فِي شُهْبِ الْأَرْمَاحِ لَا مِعَّةَ      بَيْنَ الْخَمْسِينَ لَا فِي السَّبْعَةِ الشُّهُبِ  
ترجمہ: علم نیزوں کے ستاروں یعنی لوگوں میں چمک رہا ہے۔ وہ بھی سب سے سیارہ میں نہیں بلکہ لشکر میں۔

أَيْنَ السَّرْوَايَةِ أَمْ أَيْنَ النُّجُومِ وَمَا      صَاغُوهُ مِنْ زُخْرُفٍ فِيهَا وَمَنْ كَذِبِ



ترجمہ: وہ روایت کہاں گئی اور ستارے کہاں گئے اور فضول بکواس جو انہوں نے گھڑی تھی

اسے کیا ہوا؟

تَخْرُصًا وَأَحَادِيثًا مُلَغَقَةً لَيْسَتْ بِعَبْجِيمٍ إِذَا عُدَّتْ وَلَا عَرَبٍ

ترجمہ: اور وہ انکل چچو کی باتیں کہاں گئیں جو نہ عجم میں شمار ہوتی ہیں اور نہ عرب میں۔

## معتمد کی وفات

معتمد بروز جمعرات 19 ربیع الاول 227 ہجری میں فوت ہوا۔ اس وقت وہ قرب و

جوار کے دشمنوں پر تاخت و تاراج کر رہا تھا۔ کہتے ہیں مرض الموت میں اس نے یہ آیت پڑھی

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (پ 7 سورة الانعام

آیت 44) ترجمہ: یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں

پکڑ لیا۔ اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ (ترجمہ و حوالہ از تفسیر کنز الایمان، صاحبزادہ محمد

مشرسیالوی) نزع کے وقت کہتا تھا اب تمام حیلے جاتے رہے۔ کوئی حیلہ باقی نہیں رہا۔ بعض

کہتے ہیں حالت نزع میں کہتا تھا مجھے ان لوگوں سے نکال لے چلو اور بعض کہتے ہیں کہتا تھا

اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں اپنی طرف سے ڈرتا ہوں (میں نے گناہ کیے ہیں) اور تیری

طرف سے مجھے کوئی خوف نہیں (کہ بغیر گناہ کے مواخذہ کرے گا اور مجھے اپنی طرف سے امید

نہیں) کیونکہ میں گناہوں سے آلودہ ہوں۔)

ذیل میں معتمد کے دو شعر ہیں:

قَرِيبَ النَّحَامِ وَأَعَجَلَ يَأْ غَلَامَ وَأَطْرَحَ السَّرْجَ عَلَيْهِ وَاللِّجَامَ

ترجمہ: اے لڑکے گھوڑے کے قریب کر اور جلدی سے اس پر زین کس اور لگام دے۔

أَعْلَمِ أَلَا تَرَ أَكْ إِنِّي خَائِضٌ " لُجَّةَ الْمَوْتِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ

ترجمہ: اور ترکوں کو بتلا دے کہ میں اب موت کی موج میں گھس رہا ہوں۔ اب جو چاہے

میرے پیچھے قائم ہو۔

## بنی امیہ بادشاہ

معتمد کا ارادہ تھا کہ مغرب اقصیٰ یعنی اندلس کو بھی جو اب تک امویوں کے قبضہ میں چلا

آتا تھا، اپنے قبضہ تصرف میں لائے، چنانچہ صولی احمد بن حنظلہ سے روایت کرتے ہیں۔ مجھے معصم نے کہا جب تک بنی امیہ بادشاہ رہے تب تک ہمیں سلطنت نصیب نہ ہو سکی اور جب ہم بادشاہ ہو گئے تب ہی ان کی سلطنت زائل ہوئی۔ پھر اس نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا مگر موت نے مہلت نہ دی اور بیمار ہو کر مر گیا۔

### دروازے پر

مغیرہ بن محمد کہا کرتے تھے جتنے بادشاہ معصم کے دروازے پر جمع ہوئے، کسی بادشاہ کے وقت میں جمع نہ ہوئے تھے۔ نہ معصم جیسی کسی نے فتوحات حاصل کیں۔ اس نے بادشاہان آذربائیجان، طبرستان، اسیماں، اشیا صح، فرغانہ، طخارستان، صفہ اور کابل کے بادشاہ کو قید کر لیا۔ صولی ہی بیان کرتے ہیں معصم کی انگوٹھی پر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، 'کنندہ تھا۔

### بدشگون

صولی لکھتے ہیں۔ محمد بن یزید نے بیان کیا۔ جب میدان میں معصم کا محل بن چکا تو وہ اس میں جا کر بیٹھا۔ لوگ سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ اسحاق موصلی نے اس موقع پر ایک قصیدہ سنایا کہ اس جیسا عجیب قصیدہ آج تک کسی نے نہیں سنا۔ مگر اس کو اس شعر سے شروع کیا تھا:

يَا ذَا رُغَيْرِكَ الْبَلَاءُ وَمَحَاكِبِ يَأْتِيَتْ شِعْرِيْ بِالَّذِيْ اَبْلَاكَ

ترجمہ: اے گھر تجھے بلانے متغیر کر دیا اور مٹا دیا۔ کاش مجھے وہ بات معلوم ہو جائے جس نے تجھے بوسیدہ کر دیا۔

معصم نے اس شعر سے بدفالی لی اور لوگوں نے بھی اور انہوں نے آپس میں اشارے و کنائے کیے اور تعجب کیا۔ اسحاق جیسے عالم، تجربہ کار اور بادشاہوں کی صحبت میں رہنے والے نے ایسی فاش غلطی کیوں کی؟ آخر معصم نے اس قصر کو منہدم کر دیا۔

### مقولات معصم

ابراہیم بن عباس کہتے ہیں۔ معصم کلام کرتا تو تمام بلاغت ختم کر دیتا تھا۔ اسی کے وقت میں باورچی خانہ کے خرچ میں اس قدر ترقی ہوئی کہ ہزار دینار روزانہ خرچ ہونے لگا۔

## سبب بطلان رائے

ابو عیناء کہتے ہیں۔ معصم کہا کرتا تھا جب عشق غلب کرتا ہے تو رائے باطل ہو جاتی ہے۔  
اسحاق کہتے ہیں۔ معصم کہا کرتا تھا کہ جو اپنے مال کے ساتھ طالب حق ہو اس نے حق کو  
ضرور پایا۔

## غلام عجیب

محمد بن عمروی کہتے ہیں۔ معصم کا ایک غلام تھا جسے عجیب کہتے تھے۔ لوگوں نے اس  
جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معصم اس پر فریفتہ تھا۔ اس کی صفت میں چند اشعار بنائے اور  
مجھے بلا کر کہا تم جانتے ہو میں اپنے بھائیوں میں سے کھیل کود کی طرف مائل ہونے کے وجہ سے  
پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں نے یہ شعر بنائے ہیں۔ اگر اچھے ہوں تو بہتر درنہ میں انہیں پوشیدہ  
رکھوں پھر یہ اشعار پڑھے:

لَقَدْ زَايْتُ عَجِيْبًا      يَحْكِي الْغِزَالَ الرَّبِيْبَا

ترجمہ: میں عجیب کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پروردہ ہرن کی طرح ہے۔

الْوَجْهَ مِنْهُ كَبْدِرٍ      وَالْقَدْ يَحْكِي الْقَضِيْبَا

ترجمہ: اس کا چہرہ چاند جیسا ہے اور قد نہنی کے مشابہ ہے۔

وَإِنْ تَنَاوَلَ سَيْفًا      زَايْتُ لَيْفَا حَرِيْبَا

ترجمہ: اگر وہ تلوار کو ہاتھ میں لیتا ہے تو میں اسے جنگجو شیر دیکھتا ہوں

وَإِنْ رَمَى بِسَهَامٍ      كَانَ الْمَجِيْدَ الْمَصِيْبَا

ترجمہ: اور اگر تیر چلاتا ہے تو شانے پر جا کر لگتا ہے۔

طَيْيْبٌ "مَا بِي مِنَ الْحُبِّ      فَلَا عِدْمَتُ الطَّيْبِيْبَا

ترجمہ: محبت کے باعث جو مجھے بیماری ہے وہ اس کا طیب ہے۔ خدا کرے یہ طیب

کبھی معدوم نہ ہو۔

إِنِّي هُوَيْتُ عَجِيْبًا      هُوَى أَرَاهُ مُجِيْبَا

ترجمہ: میں عجیب سے نہایت محبت کرتا ہوں اور وہ بھی میرا کہا مانتا ہے۔

میں نے اشعار سن کر سخت خلافت کی قسم کھا کر کہا یہ ان خلفاء کے اشعار سے جو شاعر نہیں

ہزار درجہ بہتر ہیں۔ وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور مجھے پچھتر ہزار درہم انعام دیئے۔

### بے خوبی

صولی لکھتے ہیں۔ عبدالواحد بن عباس ریاشی نے ہم سے بیان کیا کہ بادشاہ روم نے معتم کو تہدی (یعنی دھمکی آمیز) ایک خط لکھا، جب وہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو معتم نے مٹی سے کہا کہ لکھو:

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَمَا بَعْدًا مِثْنِ تِيرَاخَطِ بَرِّهَا وَتِيرَاخَطِ سِنَا سِنَا“  
کا جواب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سننے کی حاجت نہ ہوگی۔ کفار کو عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا اچھی عاقبت کے نصیب ہوتی ہے۔

### آرائے شعراء اور معتم

صولی فضل بن یزید سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ معتم کے دروازے پر جو شعراء تھے ان کو کہلا بھیجا کہ تم سے کون ہے؟ جو ہماری تعریف میں ایسے اچھے اشعار کہے جیسے منصور نری نے رشید کی تعریف میں کہے تھے۔ وہ اشعار یہ ہیں:

إِنَّ الْمَكَارِمَ وَالْمَعْرُوفَ أَوْدِيَةٌ      أَحَلَّكَ اللَّهُ مِنْهَا حَيْثُ تَجْتَمِعُ  
ترجمہ: بزرگیاں اور احسان دریا ہیں۔ خدا آپ کو وہاں نازل کرے جہاں وہ ملتے ہیں۔  
مَنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمِينِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا      فَلَيْسَ بِالصَّلَوةِ الْخُمْسِ يَنْتَفِعُ  
ترجمہ: جو شخص امین اللہ کو مضبوط نہ پکڑے اسے ہجکا نہ نماز پڑھنے کوئی فائدہ نہیں۔  
إِنْ اخْلَفَ الْقَطْرَ لَمْ تَخْلُفْ فَوَاضِلُهُ      أَوْ ضَاقَ أَمْرٌ ذَكَرْنَا هَ فَيُتَسَّعُ  
ترجمہ: اگر بارش منقطع ہو جائے تو ہو جائے مگر اس کے انعامات منقطع نہیں ہوتے اور تنگی آجائے اور ہم اسے یاد کریں تو وہ (تنگی) دور ہو جاتی ہے۔

ان اشعار کے سننے پر وہیب نے معتم کے بھیجے ہوئے سے کہلا بھیجا۔ ہم میں ایسے بھی شعراء ہیں جو ان اشعار سے بہتر اشعار کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ اشعار پڑھے:

ثَلَاثَةٌ تَشْرُقُ الدُّنْيَا بِبُهْجَتِهَا      شَمْسُ الضُّحَى وَأَبُو اسْحَقَ وَالْقَمَرُ  
ترجمہ: تین چیزیں ایسی ہیں جن کی خوبی سے دنیا روشن ہے۔ ایک شمس الضحیٰ، دوسرا

ابو اسحاق تیسرا چاند۔

نَحْكِي أَعْيُلُهُ فِي كُلِّ نَابِيَةٍ أَلَيْتُ وَالْعَيْتُ وَالصُّمَامَةُ الذَّكْرُ

ترجمہ: اس کے تمام کام ہر مصیبت کے وقت بہر شیر بادل اور تلوار کے مشابہ ہوتے ہیں۔

جب معتمد فوت ہوا تو اس کے وزیر محمد بن عبد الملک نے غزا و ہنا کا جامع مرثیہ لکھا:

قَدْ قُلْتُ إِذْ غَيَّبُوكَ وَأَضَلَّفَقْتُ عَلَيْكَ أَيْدٍ بِالتَّرْبِ وَالطَّيْنِ

ترجمہ: جب لوگوں نے تجھے زمین کے نیچے دفن کر دیا اور ہاتھوں سے تم پر مٹی ڈال دی تو

میں نے کہا۔

إِذْ هَبَّ فَيَنْعَمَ الْحَفِيظُ كُنْتُ عَلَى الدُّنْيَا وَنِعَمَ الظَّهِيرُ لِلدِّينِ

ترجمہ: جا تو دنیا میں نہایت مہربان اور نگہبان تھا اور دین کا حامی اور مددگار تھا۔

مَا يُجْبِرُ اللَّهُ أُمَّةً فَفَدَتْ مِثْلَكَ إِلَّا بِمِثْلِ هَارُونَ

ترجمہ: جس امت سے تیرے جیسا شخص مفقود ہو گیا، اس کی تلافی ہارون جیسے کے ساتھ

ہی ہو سکتی ہے۔

معتمد سے مروی احادیث

صولی کہتے ہیں۔ معتمد نے اپنے باپ ہارون سے روایت کی ہے۔ حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے لوگوں کو دیکھا مکبرانہ

چال چل رہے ہیں۔ آپ کے چہرہ مبارک سے غصہ کے آثار معلوم ہونے لگے۔ پھر آپ نے

فرمایا شجر ملعونہ کا ذکر بھی قرآن میں ہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیک الصلوٰۃ

والسلام وہ کونسا درخت ہے؟ تاکہ ہم اس سے پرہیز کریں۔ آپ نے فرمایا وہ درخت نباتات

سے نہیں ہے بلکہ وہ درخت بنو امیہ ہی ہیں کہ جب بادشاہ ہوں گے تو ظلم کریں گے اور امانت

میں خیانت کریں گے۔ پھر آپ نے اپنے چچا کی پٹھ پر ہاتھ مار کر فرمایا چچا جان آپ کی اولاد

سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے بنی امیہ ہلاک ہوں گے۔ “مصنف کہتے ہیں کہ یہ

حدیث موضوع (گھڑی ہوئی) ہے اور علانی نے اسے اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کی ہے۔

بروز جمعرات

ابن عساکر بسندہ اسحاق بن یحییٰ بن معاذ سے روایت کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ معتمد

کی عیادت کے لیے گیا۔ میں نے کہا اب تو آپ کو آرام معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگا یہ بات کیسے

ہو سکتی ہے؟ جبکہ میں نے اپنے سے سنا ہے۔ انہوں نے بسندہ ابن عباس سے رواہ کیا ہے جو شخص جمعرات کے روز چھپنے لگوائے اور پھر اسی روز بیمار ہو جائے تو وہ اسی دن مرے گا۔

عہد معصوم میں درج ذیل علماء کا انتقال ہوا:

حمیدی بخاری کے استاذ، ابو نعیم، فضل بن ذکین، ابو عثمان نہدی، قاری قالون، قاری الاذ، آدم بن ابی ایاس، عفان، قعنی، عبدان مروزی، عبد اللہ بن صالح کاتب لیث، ابراہیم بن مہدی، سلیمان بن حرب، علی بن محمد مدائنی، ابو عبید قاسم بن سلام، قرہ بن حبیب، عارم، محمد بن سلا، بیکندی، سبہ، سعید بن کثیر، عفر، محمد بن عیسیٰ طباطبائی، حافظ اصغ، بن فرج، فقیہ سعدیہ، وسطی، ابو عمر جری نحوی، یحییٰ بن یحییٰ تمیمی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

## الواثق باللہ بارون

الواثق باللہ بارون ابو نعیم ابو القاسم بن معصوم بن رشید، اس کی والدہ ام ولد رومیہ تھی۔ بس کا نام قرآن میں تھا۔ الواثق باللہ بارون 20 شعبان 196 ہجری میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ نے بعد 19 ربیع الاول 227 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا اور 228 ہجری میں شہنشاہ بنی ایک ترکی شخص کو نائب السلطنت مقرر کیا۔ بیرون سے مزین تاج اس کے سر پر رکھا۔ دربار جواہرات کے اسکے گلے میں ڈالے۔ مصنف کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی خلیفہ نے نائب السلطنت مقرر کیا ہے اور ترک تو اس کے باپ کے وقت ہی زیادہ ہو گئے تھے۔

ہیر پھیر سے قتل

231 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو حکم بھیجا کہ آئمہ اور مؤذنون سے خلق قرآن کے مسئلہ میں امتحان لے۔ یہ خط اسے اپنے باپ سے درشتہ ملا تھا۔ مگر آخر عمر میں وہ باز آ گیا تھا۔ اسی سال اس نے احمد بن خزاعی کو قتل کیا۔ یہ بڑے محدث اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم تھے۔ انہیں بغداد سے قید کر کے سرمن رائے میں بلایا اور خلق قرآن سے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا مخلوق نہیں ہے۔ پھر رویت فی القیامت کے بارے پوچھا۔ انہوں نے کہا احادیث میں ایسے ہی آیا ہے۔ پھر ایک حدیث بھی پڑھ کر سنا لی تو اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ نے فرمایا میں تو جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ واثق نے کہا انہوں نے کیا خدا

مجسم و محدود دکھائی دے سکتا ہے۔ کیا وہ کسی احاطہ میں آ سکتا ہے۔ جس رب کی ایسی صفات ہوں، میں تو اسے نہیں مانتا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔ اس کے بارے تم مجھے کیا رائے دیتے ہو؟ فقہائے معتزلہ حبشہ نے کہا اس کا قتل کرنا حلال ہے۔ واثق نے تلوار منگوائی اور کہا جب میں اس کے قتل کرنے کے لیے اٹھوں تو میرے ساتھ کوئی نہ جائے کیونکہ اس کا فرکو مارنے کیلئے چلنا داخل ثواب ہے کیونکہ یہ ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جس کی ہم عبادت نہیں کرتے اور نہ ہم اسے ان صفات سے جو اس نے بیان کی ہیں جانتے ہیں۔

### منہ قبلہ رو ہو جاتا

اس کے بعد احمد بن نصر طوق وزنجیر پہنائے ہوئے نطع پر بٹھائے گئے اور خلیفہ امیر واثق نے ان کو قتل کر دیا اور کہا ان کا سر بغداد بھیج دیا جائے اور اسے وہاں سولی دیا جائے اور جسم کو سر من رائے میں سولی دیا جائے۔ ان کا سر اور جسم برابر چھ سال تک اسی طرح رہا۔ جب متوکل بادشاہ ہوا تو اس نے اتروا کر دفن کرادیے۔ ان کے کان میں ایک پرچہ لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا کہ یہ احمد بن نصر بن مالک کا سر ہے جس کو خلیفہ ہارون واثق باللہ نے خلق قرآن اور نفی تشبیہ کی طرف بلایا۔ مگر انہوں نے انکار کیا۔ ان کے سر کے لیے ایک چوکیدار مقرر کر دیا تھا جو قبلہ کی طرف ان کا منہ پھیرتا رہتا تھا۔ اسی شخص نے ایک روز متوکل سے بیان کیا کئی دفعہ رات کو قبلہ کی طرف منہ کر لیتا ہے اور نہایت خوش الحانی سے سورہ یسین کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ حکایت کئی اور طریقوں سے بھی مروی ہے۔ اسی سال ایک ہزار چھ سو مسلمان قیدی روم سے چھڑائے گئے۔ ابن ابی داؤد نے (خدا اس کا بر کرے) کہا کہ ان میں سے جو خلق قرآن کا قائل ہو جائے اسے چھوڑ دو اور دود بنا رید و اور جو شخص قائل نہ ہو اسے قید میں ہی رہنے دو۔

خطیب لکھتے ہیں۔ مختصر ان قیدیوں سے ایک شخص جو واثق نے پکڑا منگوائے تھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا یہ عقیدہ جس کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو اس کی طرف نہیں بلایا۔ یا آپ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا؟ ابن ابی داؤد بھی وہیں تھا، اس نے کہا معلوم تھا۔ قیدی نے کہا تو پھر جب آپ نے لوگوں کو اس کی طرف نہیں بلایا تو تم کیوں بلا رہے ہو؟ کہتے ہیں اس کی یہ بات سن کر تمام حیران رہ گئے اور واثق ہنس پڑا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے گھر چلا گیا اور لیٹ رہا اور بار بار کہتا تھا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں خاموش رہے تو ہمیں اس میں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر حکم دیا اس شخص کو تین سو دینار انعام دے کر رہا کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے کسی کا امتحان نہیں لیا اور اسی دن سے ابن ابی داؤد پر سخت ناراض ہو گیا۔

یہ قیدی ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن محمد ازدی ابوداؤد اور نسائی کا استاد تھا۔

ابن ابی الدنیا کہتے ہیں۔ واثق گورے رنگ کا تھا جس پر زردی غالب تھی اور اس کی

آنکھوں میں خال تھا۔

### محتاج نہ رہے

یحییٰ بن اکتوم کہتے ہیں۔ جیسا احسان آل ابی طالب پر واثق نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔

جب وہ فوت ہوا تو ان میں کوئی شخص بھی مفلس محتاج نہ تھا۔

### واثق اور مصری غلام

کہتے ہیں واثق بزاز دیب اور اعلیٰ درجہ کا شاعر تھا۔ وہ اپنے ایک نوکر پر عاشق تھا جو اسے

مصر سے ہدیہ ملا تھا۔ ایک دن واثق نے اسے خفا کر دیا تو وہ ایک اور نوکر سے کہنے لگا امیر

چاہتا ہے میں اس سے کل کلام کروں۔ مگر میں ہرگز نہیں کروں گا۔ واثق نے اس کی بات سن

کر یہ اشعار کہے: اشعار

يَا ذَالِدِي لِعَدَابِي ظَلُّ مُفْتَجِرًا      مَا أَنْتَ إِلَّا مَلِيكَ جَارٍ إِذْ قَدَرَا

ترجمہ: اے وہ شخص جو مجھے ستانے میں نخر کر رہا ہے اب تیری قدر ہوگی تو تو ظلم کرنے لگا۔

لَوْلَا الْهَوَى لَسَجَرْنَا عَلَيَّ قَدِيرٌ      وَإِنْ أَفْسَقَ مِنْهُ يَوْمًا مَا فَسَوْفَ تَرَى

ترجمہ: اگر عشق نہ ہوتا تو پھر ہم مرتبہ میں برابری کرتے اور اب بھی اگر مجھے کسی دن عشق

سے افاقہ ہو گیا تو دیکھ لے گا۔

ذیل کے اشعار بھی واثق نے اپنے اس خادم کے بارے میں ہی کہے:

مَهْجَ يَمَلِكُ الْمَهْجِ      بِسَبْحِ اللَّحْظِ وَالذَّعْجِ

ترجمہ: مہج (نام غلام) خوابیدہ پلکوں اور سیاہ آنکھوں سے جانوں کا مالک ہو گیا ہے۔

حُسْنُ الْقَبْدِ مُخْتَطِفٌ      ذُو دَلَالٍ وَ ذُو غَنْجِ



ترجمہ: سرود ہے دلر با ہے اور ناز و کرشمہ والا ہے۔

لَيْسَ لِلْعَيْنِ اِنْ بَدَاءَ عَنْهُ بِاللَّحْظِ مُنْعَوَجٍ

ترجمہ: اگر وہ ظاہر ہوتا ہے تو آنکھیں اس کو دیکھنے سے سیر نہیں ہوتیں۔

### عالم اور شاعر

صولی کہتے ہیں علم و ادب کے باعث لوگ واثق کو مامون اصغر کہا کرتے تھے۔ مامون بھی اس کی قدر کیا کرتا تھا اور اپنے تمام لڑکوں سے اسے عزیز سمجھتا تھا۔ اپنے زمانے کے لوگوں سے بڑھ کر عالم تھا۔ اعلیٰ درجے کا شاعر بھی تھا اور تمام خلفاء میں بڑھ کر موسیقی کا واقف تھا۔ قریباً سوئی سریں اس نے ایجاد کی تھیں۔ سارنگی بجانے میں استاد تھا۔ بہت سے اشعار زبانی یاد تھے۔

### ماہر علم عرب

فضل یزیدی لکھتے ہیں۔ خلفائے بنی عباس میں سے واثق سے بڑھ کر شعروں کو روایت کرنے والا اور کوئی نہیں ہوا ہے اور کسی نے کہا مامون سے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے کہا ہاں مامون تو علم عرب کے ساتھ نجوم طلب اور منطق بھی جانتا تھا۔ مگر واثق صرف علوم عرب میں ہی ماہر تھا۔

### سونے کے برتن

یزید مہلسی کہتے ہیں۔ واثق بہت کھایا کرتا تھا۔ ابن فہم کہتے ہیں واثق کا ایک سونے کا خوان تھا جس کے چار ٹکڑے تھے اور ہر ایک ٹکڑے کو میں آدی اٹھایا کرتے تھے اور خوان پر جو برتن تھے وہ بھی سونے کے تھے۔ ابن ابی داؤد نے کہا ان برتنوں میں کھانا منع ہے۔ واثق نے ان تمام برتنوں کو تروا کر بیت المال میں داخل کروا دیا۔

### مرت کا مطلب

حسین بن یحییٰ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ واثق نے خواب دیکھا وہ خدا سے جنت کی آرزو کر رہا ہے۔ اتنے میں کسی شخص نے کہا خدا اس شخص کے علاوہ جس کا دل مرت (بیابان) جیسا ہو کسی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ صبح اس نے جلیسوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ کسی کو اس کا مطلب و مراد معلوم نہ تھی۔ واثق نے ابو محلم کو بلا کر قصہ بیان کیا اور مرت کے معنی پوچھے۔ انہوں نے کہا

مرت ایسے بیابان کو کہتے ہیں جس میں گھاس بھی نہ لگتی ہو اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ صرف اس شخص کو دوزخ میں ڈالے گا جس کا دل ایمان سے خالی ہوگا جیسا کہ بیابان گھاس پات سے خالی ہوتا ہے۔ واثق نے مرت کے معنی کے لیے کسی شاعر کی سند مانگی۔ حاضرین میں سے کسی نے بنی اسد کا یہ شعر سنایا:

وَمَوْتٌ "مَوْتَات" يُجَارِبُهَا الْقَطَا وَنُصْبِحُ دُوْعُلْمَ بِهَا وَهُوَ كَجَاهِلٍ

ترجمہ: بہت سے ایسے بے آب و گیاہ جنگل ہیں جن میں قضا بھی حیران رہ جاتا ہے اور رعالم اور تجربہ کار شخص جاہل مطلق بن جاتا ہے۔

علی بن جہم نے ان اشعار میں واثق کی تعریف کی:

وَنَقَتِ بِالْمَلِكِ الْوَاتِقِ      بِاللَّهِ الْنَفُوسِ  
مَلِكٌ يَشْقَى بِهِ الْمَالِ      وَلَا يَشْقَى الْجَلِيسِ  
اسد يَضْحَكُ عَنْ سَدَنِهِ      الْحَسْرَبُ الْعَبُوسِ  
انْسِ السِّيفِ بِهِ وَاسْتَوْحَشِ      الطَّلِقِ الْنَفِيسِ  
يَابْنِي الْعَبَّاسِ يَا بِي اللَّه      الْاِن تَرْوَسُوا

ترجمہ: اللہ کی قسم! لوگوں کی جانیں بادشاہ واثق پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاتھ سے مال تو تباہ ہوتا ہے مگر اس کا ہم نشین تباہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک شیر ہے جس کی سختی کے باعث ترشروڑائی ہنستی ہے۔ تلووار اس سے مانوس ہے اور درہم اس سے بھاگتے ہیں۔ اے بنی عباس اللہ تعالیٰ کو تمہارا سردار بننا ہی منظور ہے۔

واثق سرمن رائے میں بتاریخ 24 ذی الحجہ 232 ہجری میں بروز بدھ فوت ہوا۔ کہتے

ہیں وہ جب مرنے کے قریب تھا تو بار بار یہ اشعار پڑھتا تھا:

الْمَوْتُ فِيهِ جَمِيعُ الْخَلْقِ مُشْتَرِكٌ      لَا سُوقَةَ مِنْهُمْ يَبْقَى وَلَا مَلِكٌ

ترجمہ: موت میں تمام مخلوق مشترک ہے نہ اس سے بازاری لوگ بچتے ہیں اور نہ بادشاہ۔

مَا ضَرَّ أَهْلَ قَلِيلٍ فِي تَفَارِقِهِمْ      وَلَيْسَ يُغْنِي عَنِ الْأَمْلَاقِ مَا مَلَكَوْا

ترجمہ: کسی کے اہل و عیال کی کمی نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ بادشاہوں کو ان

۔ باقی مافی الیحد نے کچھ فائدہ دیا۔

## سوسمار (گوہ سمانڈ)

کہتے ہیں واثق مر گیا تو لوگ اسے تنہا چھوڑ کر متوکل سے بیعت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پیچھے سوسمار آ کر اس کی آنکھیں نکال کر لے گیا۔  
واثق کے عہد خلافت میں ذیل کے علماء فوت ہوئے۔

مسدد بن ابن ہشام، بزار قاری، اسمعیل بن سعید شاطی، شیخ اہل طبرستان، محمد بن سعد کاتب و اقد، ابوتمام طائی شاعر، محمد بن زیاد بن اعرابی بغوی، بو یسی صاحب شافعی، علی بن مغیر اثرم لغوی۔

## گلاب اور زنگس

صولی بسند جعفر بن علی بن رشید سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن واثق نے صبح کے وقت شراب پی تو اس کے خادم مچ نے اسے گلاب اور زنگس کے پھول دیئے۔ واثق نے دوسرے روز یہ اشعار کہے: شعر:

حَيَّاكَ بِالنَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ مُعْتَدِلُ الْقَامَتِ وَالْقَدِّ  
ترجمہ: ایک معتدل قامت و قد والے شخص نے تجھے زنگس اور گلاب کا پھول دیکر بقائے ملک کی دعا دی ہے۔

فَالْهَيْتُ عَيْنَاهُ نَارًا الْهَوَىٰ وَزَادَ فِي السُّوْعَةِ وَالْوَجْدِ  
ترجمہ: پس اس کی دونوں آنکھیں عشق کی آگ سے بھڑک اٹھیں اور سوزش دلی اور وجد زیادہ ہو گیا۔

أَمَلْتُ بِالْمَلِكِ لَهُ قُرْبَةً فَصَارَ مُلْكِي سَبَبُ الْبُعْدِ  
ترجمہ: میں نے ملک کے باعث اس سے نزدیک ہونے کی کوشش کی تھی۔ مگر میرا ملک بے اور ہی کا سبب بن گیا۔

وَرَدَّ نَحْوَهُ سَكْرَاتُ الْهَوَىٰ فَمَالَ بِالْوَصْلِ إِلَى الصِّدِّ  
ترجمہ: عشق کے نشہ نے اسے ست کر دیا ہے۔ اس لیے وہ وصل سے اعراض کی طرف مائل ہو گیا۔

إِنْ سَمِلَ الْبَدَلُ لِنَسِي عَظْفُهُ وَأَسْبَلَ الدَّمْعُ عَلَيَّ الْخَبْدِ

ترجمہ: اگر اس سے خرچ (یعنی وصل) کا سوال کیا جائے تو وہ اپنے پہلو موڑتا ہے اور رخساروں پر آنسو بہانے لگتا ہے۔

عَرِبَ مَا تَجْنِبُهُ الْحَاظِبُ لَا يَعْرِفُ الْأَنْجَارَ لِلْوَعْدِ

ترجمہ: وہ اپنے نظر کے گناہ سے جاہل ہے اور وعدہ وفا کی تو جانتا ہی نہیں۔

مَوْلَى يَشْتَكِي الظُّلْمَ مِنْ عَبْدِهِ فَأَنْصَفُوا الْمَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ

ترجمہ: مالک اپنے غلام کے ظلم کی شکایت کر رہا ہے۔ اے لوگو! اس غلام سے مالک کا

انصاف لینا۔

### پیارے غلام

علماء کا اتفاق ہے ان فصیح و بلیغ شعروں جیسے اشعار اور کسی خلیفہ نے بھی نہیں کہے۔ صوفی عبداللہ بن معتمر سے روایت کرتے ہیں کہ واثق دو غلاموں کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتا تھا اور ہر ایک کی خدمت کے لیے ایک ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ یہ ذیل کے اشعار انہی کے بارے میں کہے ہیں:

قَلْبِي قَسِيمٌ "بَيْنَ نَفْسَيْنِ فَمَنْ رَأَى رُوحًا بَيْنَ جِسْمَيْنِ

ترجمہ: میرا دل دونوں نفسوں میں منقسم ہے۔ پس کس نے ایک روح کو دو جسموں میں دیکھا ہے۔

يَغْضَبُ ذَا إِنْ جَادَ ذَا بِالرُّضَى فَالْقَلْبُ مَشْغُولٌ "بِشَجَرَيْنِ

ترجمہ: اگر ایک راضی ہوتا ہے تو دوسرا غضبناک۔ پس میرا دل دونوں میں مبتلا ہے۔

خرنبل کہتے ہیں واثق کی مجلس میں ایک دن اظہل کا یہ شعر گایا گیا:

وَسَادَنَ مَرْبِحٍ بِالنَّكَاسِ نَادِمُنِي لَا بِالسُّحُورِ وَلَا لِهَيْهَا بِسَوَابِ

ترجمہ: بہت سے ایسے ہرنوں نے مجھ سے ہم نشینی کی۔ وہ ہرن جو شراب کے پیار سے نفع

پہنچاتے ہیں نودہ بخیل ونگدل تھے اور نہ تکلیف دینے والے تھے۔

تو واثق نے ابن اعرابی سے کسی شخص کو بھیج کر اس کے معانی پوچھے۔ اس نے کہا کہ سوا

اور سواد دونوں طرح سے روایت کیا گیا ہے اور پھر دونوں کے معانی بتلائے۔ اس پر واثق نے

اسے تیس ہزار درہم انعام دیا۔

## کون بڑا شاعر؟

احمد بن حسین کہتے ہیں۔ ایک دن واثق کے سامنے حسین بن ضحاک اور مختار مغنی کی بحث ہو گئی کہ ابونواس اور ابوالغائبہ میں سے کون بڑھ کر شاعر ہے؟ واثق نے کہا کوئی شرط بھی مقرر کر دو چنانچہ دوسو دینار شرط مقرر ہوئی۔ پھر واثق نے کہا علماء میں سے کون شخص یہاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا ابوالمخلم یہاں موجود ہیں۔ واثق نے ان کو بلایا اور پوچھا ابونواس بڑا شاعر تھا یا ابوالغائبہ؟ انہوں نے کہا ابونواس بہت بڑا شاعر ہے اور اصنافِ سخن پر قادر ہے۔ واثق نے اس فیصلہ پر حسین کو شرط دلوادی۔

## المتوکل علی اللہ جعفر

متوکل علی اللہ جعفر ابوالفضل بن متعمم بن رشید ماں اس کی ام ولد تھی جس کا نام شجاع تھا۔ 205 ہجری میں پیدا ہوا اور ماہ ذالحجہ 233 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس نے تخت پر بیٹھے ہی اپنا میلان احنیائے سنت کی خاطر ظاہر کیا اور محمد ثین کی مدد کی۔ 234 ہجری میں تمام محمد ثین کو سامر کے مقام میں جمع کیا اور ان کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور کہا کہ صفات و رویت الہی کے متعلق حدیثیں بیان کریں۔ چنانچہ اس عرض کیلئے ابوبکر بن ابی شیبہ اور ان کے بھائی جامع منصور میں بیٹھے۔ ان کے پاس تقریباً تیس ہزار شخص جمع ہوتے تھے۔ اس فعل سے تمام لوگ متوکل کے شیفہ ہو گئے اور اس کے حق میں دعائیں کرنے لگے، حتیٰ کہ بعضوں نے کہا کہ خلفاء تین ہی ہوئے ہیں۔ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے مرتدین کو قتل کیا تھا۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے ظلم دنیا سے اٹھا دیا۔ تیسرا متوکل علی اللہ جس نے مردہ سنتوں کو زندہ کر دیا۔ ابوبکر بن خبازہ نے اس بارے میں شعر کہے:

وَبَعْدَ فَنَاءِ السَّنَةِ الْيَوْمِ أَمْبَحَتْ مُعَرَّرَةً كَمَا كَانَ لَمْ تَذَلُّ  
ترجمہ: سنت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام آج سے ایسے زندہ ہو گئی ہے گویا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔

تَسْوُلٌ وَتَسْطُوًا ذَا قِيمٍ مَنَارَهَا وَحَطَّ مَنَارًا لِأَفْكَ وَالزُّورِ مِنْ غَلِّ  
ترجمہ: چونکہ اس کی بنیادیں قائم ہو گئی ہیں اس لیے حملے کرتی ہیں اور جھوٹ اور بہتان کو

اوپر سے نیچے پھینک دیا ہے۔

وَوَلَّىٰ اٰخُوًا الْاَبْدَاعِ فِي الدِّينِ هَارِبًا اِلَى النَّارِ يَهُوٰى مُدْبِرًا غَيْرَ مُقْبِلٍ  
ترجمہ: جو دین میں بدعتیں نکالتا تھا وہ دوزخ میں گرنے کیلئے پیٹھ پھیر کر بھاگا کہ پھر کبھی  
واپس نہیں آئے گا۔

شَفَىٰ اللّٰهُ مِنْهُمْ بِالْخَلِيفَةِ جَعْفَرٍ خَلِيفَةَ ذِي السَّنَةِ الْمُتَوَكَّلِ  
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے خلیفہ جعفر کے باعث لوگوں کو ان سے آرام دیا اور وہ خلیفہ صاحب  
احیائے سنت متوکل ہے۔

خَلِيفَةُ رَبِّي وَاِبْنُ عَمِّ نَبِيِّهِ وَخَيْرُ بَنِي الْعَبَّاسِ مِنْهُمْ وَلِي  
ترجمہ: وہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اس کے نبی کے چچا کا بیٹا ہے اور بنی عباس کے تمام  
خلفاء سے بہتر ہے۔

وَجَامِعُ شَمَلِ الدِّينِ بَعْدَ تَشْتِيتِ وَنَارِي رُوَسَ الْحَارِقِينَ بِمُتَّصِلِ  
ترجمہ: یہ خلیفہ متوکل اللہ کی جمعیت کو پراگندگی کے بعد پھر جمع کرنے والا ہے اور سرکشوں  
کے سروں کو گرز سے توڑنے والا ہے۔

اَطَالَ لَنَا رَبُّ الْعِبَادِ بِقَائِهِ سَلِيمًا مِنَ الْاَهْوَالِ غَيْرَ مُبَدِّلِ  
ترجمہ: اس کی زندگی ہمارے لیے دراز فرما اور اسے تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھ۔  
اس کو تغیر کیے بغیر۔

وَبَسُوَاةٍ بِالنَّصْرِ لِلدِّينِ جَنَّةٍ يُجَاوِزُ فِي رَوْضَاتِهَا خَيْرُ مَرْسَلِ  
ترجمہ: اور اس دین کی مدد کے باعث اسے جنت میں جگہ دے اور اسے انبیاء کے سردار  
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ہمسایہ بنا۔

بادِ سَمُومِ

اسی سال ابن ابی داؤد پر ایسا فاج لگا کہ وہ ایک پتھر بن گیا۔ خدا سے اجر شد دے اسی  
سال ایسی بادِ سموم چلی جس سے کوفہ بصرہ، عراق اور بغداد کی کھیتیاں جل گئیں اور کئی مسافر  
مر گئے اور مسلسل پچاس روز یہ زہریلی ہوا چلتی رہی اور ہمدان تک جا پہنچی اور وہاں لوگوں کو چلنے  
پھرنے سے بند کر دیا۔ بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس سے ایک سال قبل دمشق میں اتنا

شدید زلزلہ آیا اس سے ہزاروں مکان گر کر تباہ گئے اور موصل سے پانچ ہزار پینتیس آدمی دہک کر مر گئے۔ اسی سال متوکل نے نصاریٰ کو گلوں میں زنجیریں ڈالنے کیلئے کہا۔ (اور یہ بات امتیاز کے لیے تھی۔)

### مسجدوں اور دیواروں پر

236 ہجری میں متوکل نے مزار امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اردگرد کے مکان مسامر کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس جگہ کھیت بنائے جائیں اور لوگوں کو اس کی زیارت سے منع کر دیا۔ مدتوں تک وہ مزار جنگل بنا رہا۔ متوکل کو لوگ ناصبی یعنی دشمن اہل بیت کہا کرتے تھے۔ اس لیے اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کو بہت رنج ہوا۔ اہل بغداد نے اسے گالیاں لکھ کر دیوار اور مسجدوں پر لگا دیں۔ شعراء نے اس کی ہجو کی۔ المختصر اس میں ذیل کے اشعار بھی تھے:

بِاللَّهِ اِنْ كَانَتْ اُمِّيَّةٌ قَدْ اَتَتْ قُلَّ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّهَا مَظْلُومًا  
ترجمہ: خدا کی قسم اگر بنی امیہ نے خدا کے نبی کے دوہتے کو مظلوم قتل کیا ہے۔

فَلَقَدْ اَتَاهُ بَنُو اَيْمِهِ بِمِثْلِهِ هَذَا الْعُمَرِيُّ قَبْرَهُ مَعْدُومًا  
ترجمہ: تو آپ کے چچا کی اولاد بھی ان کی مثل لائی۔ وہ یہ کہ انہوں نے آپ (یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ) کی قبر کو ہی معدوم کر دیا۔

اَسْفُوًا عَلَيَّ اَنْ لَا يَكُونُوا اَشَارِكُوا فِي قَتْلِهِ فَتَبِعُوهُ رَمِيمًا  
ترجمہ: شاید انہیں افسوس ہے کیونکہ ان کے قتل میں شریک نہیں ہوئے۔ اب ان کی پوشیدہ ہڈیاں نکالنے لگے ہیں۔

### عسقلان میں آگ

237 ہجری میں متوکل نے نائب مصر کے نام حکم بھیجا کہ مصر کے قاضی القضاة ابو بکر محمد بن ابی اللیث کی ڈاڑھی موٹہ حاکر اس کو کوڑے لگوائے جائیں اور یہ شخص واقعی اس بات کے لائق تھا کیونکہ یہ بڑا ظالم اور جہمیہ کا سردار تھا۔ اس کے عوض حارث بن مسکین کو جو امام مالک کے شاگرد تھے وہاں کا قاضی مقرر کر دیا گیا اور کہا کہ قاضی معزول کو روزانہ 20 درے لگائے جائیں۔ اسی سال عسقلان میں آگ لگی جس سے کئی مکان اور غلہ کے انبار جل گئے۔ یہ آگ

تہائی رات تک لگی رہی اور پھر خود بخود بجھ گئی۔ اسی سال میں متوکل نے امام احمد بن حنبل کو بلا بھیجا لیکن وہ اس کے سامنے نہ پہنچ سکے بلکہ اس کے بیٹے معتز کے پاس حاضر ہوئے۔  
238 ہجری میں روم نے دمیاط پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ لوگوں کو لولونا شہر کو آگ لگادی اور چھ سو عورتیں گرفتار کر کے لے گئے اور سمندر کے راستے سے واپس چلے گئے۔

### انڈوں برابر اولے

240 ہجری میں اہل حلاط نے آسمان سے ایک سخت تندو تیز آواز سنی جس سے بہت سے آدمی مر گئے۔ عراق میں مرغی کے انڈے کے برابر اولے پڑے اور مغرب میں تیرہ گاؤں زمین میں دھنس گئے۔

### ستارے ٹوٹے

241 ہجری میں بہت سے ستارے ٹوٹے اور رات کے بڑے حصہ تک آسمان میں ستارے ٹڈیوں کی طرح ٹوٹتے رہے۔ جس سے لوگوں کو بہت ڈر گئے۔

### پہاڑوں کی حرکت

242 ہجری میں تیونس، ری، خراسان، خیشاپور، طبرستان اور اصفہان میں سخت زلزلہ آیا اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور زمین اکثر جگہ سے اتنی پھٹ گئی کہ اس میں آدمی باسانی سما جاتا تھا۔ مصر کے گاؤں سوید میں آسمان سے پتھر برسے جن کا وزن دس رطل<sup>1</sup> کے قریب تھا۔ یمن میں پہاڑوں نے کچھ ایسی حرکت کی کہ کھیت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ ماہ رمضان میں حلب میں گدھ سے ذرا چھوٹا پرندہ ظاہر ہوا اور چالیس دفعہ کہا اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور پھر اڑ گیا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ ایلچیوں نے اس واقعہ کو قلمبند کر لیا اور وہ پانچ سو آدمیوں کی جنہوں نے اسے سنا تھا، مہریں لگوا لیں۔

### شاید پہلی گاڑی

اسی سال ابراہیم بن مطہر کاتب نے بصرہ سے پہلی (شکاریوں کے بٹھانے کا چرخا) ایک گاڑی) میں بیٹھ کر سفر کیا، جس میں اونٹ جتے ہوئے تھے۔ اس گاڑی کو دیکھ کر لوگوں نے سخت



تعب کا اظہار کیا۔

داریا میں محل

243 ہجری میں متوکل دمشق میں آیا اور اس شہر کو بہت پسند کیا اور قصبہ داریا میں اپنی رہائش کے لیے ایک محل بنوایا اور وہیں رہنے لگا۔ اس پر یزید بن مہلب نے یہ اشعار کہے:

أَطْلُنُ الشَّامَ تَشْمُتُ بِالْعِرَاقِ إِذَا عَزَمَ الْإِمَامُ عَلَى الْإِنْطِلَاقِ

ترجمہ: میں خیال کرتا ہوں کہ شام عراق کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کیونکہ امیر نے وہاں جانے کا قصد کر لیا ہے۔

وَأَنَّ تَدْعُ الْعِرَاقَ وَسَاكِنِيهِ فَقَدْ تَبَلَى الْمَلِيحَةُ بِاطِّلاقِ

ترجمہ: اگر تو عراق اور اس کے رہنے والوں کو چھوڑتا ہے تو تعب نہیں کیونکہ کبھی حسینہ عورت بلائے طلاق میں مبتلا ہوتی ہی ہے۔

مگر متوکل دو یا تین ماہ کے بعد یہاں سے پھر واپس چلا گیا۔

غلام قنبر رضی اللہ عنہ

244 ہجری میں متوکل نے یعقوب بن سلیمان بن علی بن ابی طالب کے بیٹوں معتز اور مویذ کو پڑھایا کرتا تھا اور قتل کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن متوکل نے اسے پوچھا میرے بیٹے تمہیں زیادہ عزیز ہیں یا حسن و حسین رضی اللہ عنہما تو ابن سلیمان نے کہا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما تو ایک طرف رہے، تیرے بیٹوں سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام قنبر رضی اللہ عنہ بھی بدرجہا بہتر تھا۔ اس پر متوکل نے ترکوں کو اس کے پیٹ کے روندنے کا حکم دیا جس سے وہ مر گیا۔ بعض کہتے ہیں ان کی زبان نکلوادی گئی تھی جس کے صدمے سے وہ مر گئے۔ پھر خون بہا اس کے بیٹے کے پاس بھیج دیا گیا۔ دراصل متوکل ناموسی تھا۔

پانی غائب

245 ہجری میں تمام دنیا میں زلزلے آئے۔ شہر قلعہ اور پل مسہار ہو گئے۔ اٹلا کیہ کا ایک پہاڑ سمندر میں جا گرا۔ آسمان سے ہولناک آوازیں سنائی دیں۔ مصر میں سخت زلزلہ آیا۔ اہل یلیس نے مصر کی طرف سے سخت ہولناک آواز سنی جس سے وہاں کے بہت سے آدمی مر گئے۔ مکہ کے چشموں کے پانی زمین میں غائب ہو گئے۔ متوکل نے عرفات سے پانی لانے کے

لیے ایک لاکھ دینار دیئے۔

متوکل نے کہتے ہیں جتنا شعراء کو انعام دیا، اتنا کسی نے نہیں دیا۔ اس کی تعریف میں مروان بن جنوب کہتا ہے:

فَأَمْسِكْ نَدَى كَفَيْكَ عَنِّي وَلَا تَزُدْ      فَقَدْ خِفْتُ أَنْ أَطْفِي وَأَنْ أَتَجْبِرَا  
ترجمہ: اپنی بخشش مجھ سے روک لے اور زیادہ نہ کر کیونکہ مجھے خوف ہے، کہیں میں سرکش  
اور باغی نہ ہو جاؤں۔

متوکل نے یہ شعر سن کر کہا میں اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ روکوں گا جب تک میرا جو دوسرا  
تجھے غرق نہ کر دے۔ اس سے قبل اس نے اسے ایک قصیدہ پر بطور انعام ایک لاکھ تیس ہزار  
درہم نقد اور پچاس کپڑے انعام دیئے تھے۔

### دویمتی چابک

ایک روز متوکل کے ہاتھ میں دو چابک تھے جنہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ علی بن جہم  
نے ایک قصیدہ سنایا۔ متوکل نے انعام کے طور پر ایک چابک اس کی طرف پھینک دیا۔ علی بن  
جہم اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ متوکل نے کہا اسے حقیر سا نہ خیال کرنا، ایک لاکھ سے بھی زیادہ  
قیمت کا ہے۔ علی بن جہم نے کہا میں اسے کم قیمت نہیں سمجھتا بلکہ میں اس فکر میں ہوں کہ کچھ اور  
شعر سنا کر دوسرا بھی لے لوں۔ متوکل نے کہا اچھا کہو۔ اس نے یہ اشعار پڑھے:

بَسْرُ مَنْ رَأَى الْإِمَامَ عَدِلَ      تَغْرُفٌ مِنْ بَحْرِ الْبَحَارِ  
ترجمہ: سرمن رائے میں امام عادل ہے جس کے سخاوت کے سمندر سے تمام سمندر پانی  
لیتے ہیں۔

الْمُلْكُ فِيهِ وَفِي بَيْتِهِ      مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ  
ترجمہ: سلطنت اس میں اور اس کی اولاد میں رہے۔ جب تک رات دن ایک دوسرے  
کے بعد آتے رہیں۔

يُرْجَى وَيُخْشَى لِكُنْ خَطْبٍ      كَأَنَّهُ جَنَّةٌ وَنَارُ  
ترجمہ: یہ ایسا بادشاہ ہے جس سے ہر وقت خوف و امید کی جاتی ہے۔ گویا کہ وہ جنت بھی  
ہے اور دوزخ بھی۔

يَدَاهُ فِي الْجُودِ صَرَثَانِ عَلَيْهِ كَلْنَاهُمَا تَغَارُ

ترجمہ: اس کے ہاتھ بخشش میں ہم مثل ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے غیرت کرتے ہیں۔

لَمْ تَأْتِ مِنْهُ الْيَمِينُ شَيْئًا إِلَّا أَتَتْ مِثْلَهَا الْيَسَارُ

ترجمہ: اگر دایاں ہاتھ کوئی نیک کام کرتا ہے تو بائیاں ہاتھ بھی اس کی مثل کام کر کے ہی

چین لیتا ہے۔

ان اشعار کو کن کر متوکل نے دوسرا چابک بھی اس کی طرف پھینک دیا۔

### خليفة ره چکے

کہتے ہیں متوکل تخت نشین ہوا تو آٹھ ایسے شخص موجود تھے جن کے باپ خلیفہ رہ چکے تھے

یعنی منصور بن مہدی، عباس بن ہادی، ابو احمد بن ہارون رشید، عبداللہ بن امین، موسیٰ بن مامون، احمد بن معتمد، محمد بن داؤد اور اس کا بیٹا مختصر۔

### ہر صاحب کمال

مسعودی کہتے ہیں۔ عہد متوکل میں ہر صاحب کمال شخص خواہ وہ اچھے فن میں کمال رکھتا

تھا یا برے میں دولت سے مالا مال ہو گیا۔

### لذات و شراب

متوکل لذات و شراب میں منہمک رہتا تھا۔ اس کی چار ہزار کنیریں تھیں جن سے ہر ایک

کے ساتھ صحبت کی ہوئی تھی۔

### غالیہ سے لکھائی

علی بن جہم نے بیان کیا متوکل اپنے بیٹے کی والدہ کے ساتھ جو ایک بد صورت اونڈی تھی

بہت محبت کیا کرتا تھا اور اس کے بغیر اسے ایک بل بھی قرار نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے

رخسار پر غالیہ (ایک قسم کی خوشبو) سے لفظ جعفر لکھ کر متوکل کے پاس آکھڑی ہوئی جسے دیکھ کر

اس نے یہ اشعار پڑھے:

وَكَاتِبَةٌ بِالْمِسْكِ فِي الْخَيْدِ جَعْفَرًا بِنَفْسِي مَحَطَّ الْمِسْكِ مِنْ حَيْثُ أَتُوا

ترجمہ: بہت سی معشوقہ ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رخساروں پر کستوری سے لفظ جعفر لکھا

جس جگہ کستوری نے اثر کیا، اس جگہ پر میرا نفس قربان ہو گیا۔

لَسْنٌ أُوذِعَتْ سَطْرًا أَحَدَهَا لَقَدْ أُوذِعَتْ قَلْبِي مِنَ الْحُبِّ اسْطَرًا

ترجمہ: اگر اس کے رخسار پر کستوری سے ایک سطر لکھی ہے۔ میرے دل پر محبت کی کئی

سطر لکھی گئی ہیں۔

اطمینان بخش جواب

سلی کتاب الحن میں لکھتے ہیں۔ مصر میں پہلے پہل ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے احوال و مقامات اہل ولایت کو ظاہر فرمایا۔ عبداللہ بن عبدالحکم نے جوان دنوں رئیس مصر اور امام مالک کے شاگردان رشید سے تھے۔ ان کی ان باتوں سے انکار کیا اور کہا کہ یہ ایک نیا ہی علم ہے۔ اس میں علمائے سلف نے گفتگو نہیں کی اس لیے یہ یزید بن قیس ہیں۔ اس پر امیر مصر نے انہیں بلا بھیجا اور ان کا اعتقاد دریافت کیا اور جواب سے مطمئن ہو گیا۔ پھر ان کا حال متوکل کو لکھ بھیجا۔ جس پر اس نے انہیں بلا بھیجا انہیں فوراً روانہ کر دیا گیا۔ جب متوکل نے ان کا کلام سنا تو بہت خوش ہوا اور ان کی نہایت تعظیم و تکریم کی، حتیٰ کہ جب صالحین کا ذکر آتا تو متوکل کہتا کہ ذوالنون کا ذکر بھی ضرور کیا کرو۔

مجلس عامہ میں

متوکل نے اس ترتیب سے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنایا تھا۔ پہلے منصر، پھر معتز، پھر مؤید۔ مگر بعد ازاں معتز کو مقدم کرنا چاہا کیونکہ اس کی والدہ سے اس کو بہت محبت تھی۔ پس منصر سے کہا ولی عہدی سے معزول ہو جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ متوکل اسے مجلس عامہ میں بلا کر بہت بے عزت کرتا اور دھمکیاں بھی دیتا۔ دریں اثنا ترک کسی وجہ سے متوکل سے منحرف ہو گئے اور منصر کے ساتھ مل کر متوکل کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ایک رات متوکل اور اس کا وزیر ابن خاقان دونوں ابو ولعب کی مجلس میں بیٹھے تھے پانچ آدمیوں نے آ کر دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 5 شوال 247 ہجری میں پیش آیا۔

عمل احیائے سنت

کہتے ہیں کسی نے متوکل کو خواب میں دیکھا اور پوچھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ

کیا؟ اس نے کہا میں نے تھوڑا سا کام اچھائے سنت میں کیا تھا اس کے صلے میں خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔

جب متوکل قتل ہوا تو شعراء نے اس کے مرچے کہے منجملہ ان کے یزید مہلسی کے یہ اشعار بھی ہیں:

جَاءَتْ مَبِيَّتُهُ وَالْعَيْنُ هَاجِعَةٌ هَلَّا أَتَتْهُ الْمَنَايَا وَالْقَنَا قَصْدٌ

ترجمہ: موت اس کے پاس ایسے حال میں آئی جبکہ آنکھ سو رہی تھی۔ موت اس کے پاس ایسے وقت میں کیوں نہیں آئی جبکہ نیزے سیدھے تھے۔

خَلِيْفَةُ لَمْ يَسَلْ مَا نَالَهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَضَعْ مِثْلَهُ رُوحٌ وَلَا جَسَدٌ

ترجمہ: وہ ایسا خلیفہ ہے جس نے دوسروں جتنا اپنی زندگی سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ کوئی روح و جسم اس جیسا ضائع نہیں ہوا۔

### ماہر علوم و فنون

متوکل کی ایک لونڈی تھی جس کا نام محبوبہ تھا۔ اعلیٰ درجے کی شاعرہ تھی اور تمام فنون و علوم سے آگاہ تھی۔ جب متوکل قتل ہو گیا تو وہ بغا کبیر کے ہاتھ لگی۔ ایک دن وہ مجلس شراب میں بیٹھا ہوا تھا اسے بلا کر کہا گاؤ۔ وہ نہایت غمگین ہو کر بیٹھ گئی اور گانے سے عذر کیا۔ اس نے اسے قسم دلا کر کہا کہ ضرور گاؤ۔ اور پھر جبراً سارگی اس کے ہاتھ میں دیدی گئی تو اس نے فی البدیہہ یہ اشعار پڑھے:

أَيُّ عَيْشٍ يَسْلُدُنِي لَا أَرَى فِيهِ جَعْفَرًا

ترجمہ: جس عیش میں جعفر کو نہ دیکھوں وہ مجھے کیسے لذیذ معلوم ہو سکتی ہے۔

مَلِكٌ قَدْ رَأَيْتُهُ فَيُ نَجِيعٌ مُعْفَرًا

ترجمہ: جعفر وہ بادشاہ ہے جسے میں نے خون میں لتھڑا ہوا دیکھا ہے۔

كُلُّ مَنْ كَانَ ذَاهِيًا مِمْ

ترجمہ: ہر ایک شخص نے جنون عشق اور بیماری سے صحت پالی ہے۔

غَيْرَ مَحْبُوبَةِ النَّسِي

ترجمہ: مگر اس محبوبہ کو صحت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر وہ موت کو دیکھے تو موت خریدی جائے۔

لَا شُرْتُهُ بِمَا حَوْتَهُ يَدَاهَا لِنَقَرٍ

ترجمہ: البتہ وہ ضرور موت کو اپنا تمام مال دیکر قبر میں جانے کو خرید لیتی۔

إِنَّ مَوْتَ الْحَزِينِ أَطْيَبُ مِنْ أَنْ يُعْمَرَ

ترجمہ: کیونکہ غمگین کا مر جانا ہی اس کے جینے سے بدرجہا بہتر ہے۔

یہ اشعار سن کر بغا غضبناک ہوا اور اس کو قید کرنے کا حکم دیدیا۔ پس وہ قید کی گئی اور پھر کبھی نظر نہ آئی۔

### جدانہ ہو

نہایت عجیب بات یہ ہے۔ متوکل نے ہنتری شاعر کو کہا میری اور فتح ابن خاقان کی صفت میں شعر کہو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی بھر وہ مجھ سے جدانہ ہو ورنہ میری زندگی تلخ ہو جائے گی اور نہ ہی میں اس سے پہلے مروں۔ اس پر ہنتری نے یہ اشعار ذیل کہے:

يَا سَيِّدِي كَيْفَ اخْتَلَفْتَ وَغَدِي وَتَسَاءَلْتُ عَنْ وِفَاءِ بَعْدِي

ترجمہ: اے میرے سردار تو نے کیسے وعدہ خلافی کی اور عہد کو وفا کرنے سے تورہ گیا۔

لَا أَرْنِي إِلَّا يَوْمَ فَقْدِكَ يَا فَتْحُ وَلَا عَرَفْتُكَ مَا عَشْتُ فَقْدِي

ترجمہ: اے فتح مجھے زمانہ تیری موت نہ دکھائے اور نہ ہی تجھے میری موت دکھنی نصیب ہو۔

أَعْظَمُ الرُّزْءِ أَنْ تَقْدَمَ قَبْلِي وَمِنَ الرُّزْءِ أَنْ تُؤَخَّرَ بَعْدِي

ترجمہ: سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو مجھ سے پہلے ہی مر جائے اور یہ بھی بڑی

مصیبت ہے کہ تو میرے بعد زندہ رہے۔

خَدْرًا أَنْ تَكُونَ الْفَالِغِيْرِي إِذْ تَفْرُدُّ بِالْهَوَى فِينِكَ وَحْدِي

ترجمہ: تم اس بات سے بچتے رہنا کہ تم کسی اور کو دوست بنا لو کیونکہ میں نے بھی صرف تم

ہی کو دوست بنایا ہوا ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ دونوں اکٹھے قتل کیے گئے۔

### سلیمانی شکر پارہ

ابن عسا کر لکھتے ہیں۔ متوکل نے ایک روز خواب میں دیکھا آسمان سے ایک سلیمانی

شکر پارہ گرا ہے اور اس پر لکھا ہے جعفر التوکل علی اللہ۔ جب وہ خلیفہ ہوا تو لوگوں نے اس کے لقب میں غور کیا۔ بعضوں نے کہا ہم اس کا لقب مختصر رکھتے ہیں اور بعضوں نے کچھ اور تجویز کیا۔ مگر جب متوکل نے احمد بن ابی داؤد سے اپنا خواب بیان کیا تو اس نے اس لقب کو بہت پسند کیا اور پھر یہی سرکاری کاغذات میں بھی لکھا جانے لگا۔

### ایک اچھا علم

ہشام بن عمار کہتے ہیں۔ متوکل کہا کرتا تھا۔ کاش کہ میں محمد بن ادریس شافعی کے زمانہ میں ہوتا اور ان سے پڑھتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے سنا ہے ”اے لوگو! محمد بن ادریس مطلبی واصل برحمت حق ہو گیا ہے اور اپنے پیچھے تم میں بہت اچھا علم چھوڑ گیا ہے۔ پس تم اس کی اتباع کرو تا کہ ہدایت پاؤ۔“ پھر متوکل نے کہا ”اے اللہ! محمد بن ادریس پر رحمت وسعہ کر اور اس کے مذہب کا حفظ کرنا مجھ پر آسان کر دے اور مجھے اس سے نفع دے۔“ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ متوکل شافعی المذہب تھا اور یہ پہلا خلیفہ ہوا ہے جس نے شافعی مذہب اختیار کیا۔

### عذاب الہی سے

احمد بن علی بصری کہتے ہیں۔ متوکل نے ایک دفعہ احمد بن معدل وغیرہ علماء کو اپنے گھر بلایا۔ جب تمام لوگ آ موجود ہوئے تو وہ خود بھی اندر سے نکل کر آیا۔ اس کو دیکھ کر احمد بن معدل کے علاوہ تمام لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ متوکل نے عبید اللہ سے مخاطب ہو کر کہا معلوم ہوتا ہے اس شخص نے ہم سے بیعت نہیں کی۔ انہوں نے کہا اے امیر بیعت تو کی ہے مگر ان کی نظر کمزور ہے۔ احمد بن معدل نے کہا اے امیر مجھے نظر تو کم نہیں آتا بلکہ میں آپ کو عذاب الہی سے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص لوگوں سے اپنی تعظیم کے لیے کھڑا ہوئے کی امید رکھے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔“ متوکل یہ سن کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔

بزید مہلبی کہتے ہیں۔ متوکل نے مجھے کہا پہلے خلیفہ رعیت کو مطیع کرنے کی خاطر ان پر لازماً سختی کیا کرتے تھے مگر میں ان سے نرمی سے پیش آتا ہوں تاکہ وہ میری اطاعت کریں۔

عبدالاعلیٰ بن حماد ترسی کہتے ہیں۔ ایک روز میں متوکل کے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا اے ابویحییٰ تین روز سے تم ہمارے پاس نہیں آئے۔ جو چیز ہم نے تمہارے لیے رکھی تھی وہ کسی اور کو دے دی۔ میں نے کہا اللہ آپ کو اس ارادے کا نیک بدلہ دے۔ اگر اجازت ہو تو دو بیت میں گوش گزار کروں۔ کہنے لگا پڑھو تو میں نے یہ شعر پڑھے:

لَا شُكْرَ نَكَ مَعْرُوفًا هَمَمْتُ بِهِ إِنَّ اهْتِمَامَكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفٌ  
ترجمہ: میں اس احسان کی بابت جس کا آپ نے قصد کیا تھا، شکر بجالاتا ہوں کیونکہ آپ کا احسان کا قصد کرنا بھی احسان ہی ہے۔

وَلَا أَلْوَمُكَ إِذْ لَمْ يَمْضِهِ قَدْرٌ فَالِرِزْقِ بِالْقَدْرِ الْمَحْتَوِمِ مَضْرُوفٌ  
ترجمہ: اور میں آپ کو ملامت نہیں کرتا کیونکہ وہ میری قسمت میں ہی نہ تھا کیونکہ جو رزق قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور مل جاتا ہے۔

یہ اشعار سن کر متوکل نے مجھے دو ہزار دینار دیئے کا حکم دیا۔

جعفر بن عبدالواحد ہاشمی کہتے ہیں۔ متوکل کی والدہ کے انتقال کے بعد میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا اے جعفر بسا اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ میں ایک شعر کہتا ہوں، مگر پھر رک جاتا ہوں، چنانچہ آج میں نے یہ شعر کہا ہے:

تَدَنَّكَرْتُ لَمَّا فَسَّرَقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا فَعَزَيْتُ نَفْسِي بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ  
ترجمہ: جب زمانے نے ہمارے درمیان جدائی ڈال دی تو میں نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دی۔

حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے دوسرا شعر یوں موزوں کیا:

وَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْمَسَاءَ يَا سَبِيلَنَا فَمَنْ لَمْ يَمُتْ فِي يَوْمِهِ مَاتَ فِي غَدٍ  
ترجمہ: اور اسے کہا گھبرا نہیں کیونکہ اموات ہمارا راستہ ہیں جو آج نہیں مرا تو وہ کل مر جائے گا۔

خوش عیش

فتح بن خاقان سے مروی ہے۔ میں ایک دن متوکل کے پاس آیا تو میں نے اسے افسردہ خاطر اور متفکر دیکھ کر پوچھا آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ سے بڑھ کر تو روئے زمین پر کوئی شخص خوش



عیش نہیں ہے۔ کہنے لگا اے فتح مجھ سے خوش عیش وہ شخص ہے جس کا مکان وسیع ہو، عورت صالحہ ہے اور اسباب معیشت سب مہیا ہوں۔ وہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہے کہ ہم اسے بلائیں اور نہ وہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم اسے حقیر سمجھیں۔

### دونوں کا خیال

ابوالعیناء کہتے ہیں۔ متوکل کو کسی شخص نے ایک فضل نامی کنیز پر یہ بیجا بھیجی۔ متوکل نے اس سے پوچھا تو شاعرہ ہے۔ اس نے کہا جس نے مجھے فروخت کیا ہے اور جس نے خریدا ہے، ان دونوں کا خیال یہی ہے۔ متوکل نے کہا اچھا اپنے شعر مجھے سناؤ۔ اس نے یہ اشعار سنائے:

اِسْتَقْبَلَ الْمَلِكُ اِمَامَ الْهُدَى عَامٌ تَلَبَّ وَتَلَيْنَا

ترجمہ: بادشاہ امام الہدیٰ یعنی جعفر المتوکل علی اللہ نے 333 ہجری میں خلافت کو سنبھالا۔

خِلَافَةً اَفْضَتْ اِلَى جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ بَعْدَ عَشْرِنَا

ترجمہ: (یعنی) خلافت جب جعفر کے ہاتھ میں آئی تو اس وقت اس کی عمر ستائیس سال کی تھی۔

اِنَّا لَنَرُجُوْا يَا اِمَامَ الْهُدَى اِنْ تَمَلِكَ الْمُلْكَ ثَمَّا نِنَا

ترجمہ: بے شک ہم خدا تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ اسی برس تک بادشاہ رہے۔

لَا قَدَسَ اللهُ اِمْرًا لَمْ يَقُلْ عِنْدَ دُعَائِي لَكَ اٰمِنَا

ترجمہ: اب جو شخص میری اس دعا پر جو تیرے لیے ہے آمین نہ کہے خدا اس کا بھلا نہ کرے۔

### خواب میں صلح

علی بن جہم کہتے ہیں۔ متوکل کے پاس ایک لونڈی لائی گئی جو طائف میں پلی تھی اور اعلیٰ درجہ کی شاعرہ اور ادا بیہ تھی۔ متوکل اس پر شہوتہ ہو گیا۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد اسی سے ناراض ہو گیا اور تمام کنیزوں کو کہہ دیا اس سے کلام نہ کریں۔ ایک دن میں متوکل کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگا میں نے آج رات محبوبہ کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے اس سے اور اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! بہت اچھا ہوا۔ پھر مجھے کہا چلو دیکھیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ جا کر دیکھا تو وہ سارنگی بجا رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی:

اَدُوْرُنِي الْقَصْرُ لَا اَرَى اَحَدًا اَشْكُوْا اِلَيْهِ وَلَا يَكْلِمُنِي

ترجمہ: میں محل میں اکیلی اور تنہا پھر رہی ہوں، کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے پاس شکایت کروں اور وہ کہ مجھ سے گفتگو کرے۔

حَتَّى كَانَتِي أَيْتُ مَعْصِيَةً لَيْسَتْ لَهَا تَوْبَةٌ تَخْلِصُنِي  
ترجمہ: حتیٰ کہ گویا میں نے ایسا گناہ کر لیا ہے جس کی کوئی توبہ ہی نہیں کہ میں اس سے خلاصی پاسکوں۔

فَهَلْ شَفِيعٌ لَنَا إِلَى مَلِكٍ قَدْ زَارُنِي فِي الْكُرْبَى وَصَالِحِي  
ترجمہ: پس کیا کوئی ہے جو بادشاہ سے میری سفارش کر دے کیونکہ وہ خواب میں مجھے ملا ہے اور مجھ سے صلح کر لی ہے۔

حَتَّى إِذَا مَا الصَّبَاحُ لَاحَ لَنَا عَادَ إِلَى هَجْرَةٍ فَصَارَ مِنِّي  
ترجمہ: یہاں تک جب صبح ہمارے لیے ظاہر ہوئی تو وہ ہجرت (جدائی) کی طرف لوٹا، پس مجھ سے قطع تعلقی کر لی۔  
یہی خواب

یہ اشعار سن کر متوکل نے اسے آوازدی۔ وہ فوراً باہر نکل آئی اور متوکل کے پاؤں چوم لیے اور کہا میں نے آج رات خواب میں دیکھا تھا آپ نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ متوکل نے کہا بخدا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ بعد ازاں اسے پھر پہلے مرتبہ پر بحال کر دیا۔ جب متوکل قتل ہوا تو یہی وہ لوٹنڈی تھی جو بیغا کے ہاتھ آئی تھی۔

نختری نے اشعار ذیل میں متوکل کی تعریف اور ابن داؤد کی تحقیر ہے:

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَكَرْنَا إِلَى آبَائِكَ الْعِزُّ الْحَسَانُ  
ترجمہ: اے امیر المؤمنین آپ کے آباؤ اجداد کا شکر ہے اور عزت و احسان ہے۔  
رَدُّذَاتِ الدِّينِ فَمَا بَعْدَ مَا قَدْ أَرَاهُ فِرْقَتَيْنِ تَخَاصَمَانَ  
ترجمہ: اس کے بعد کہ اس میں دو فرقے پیدا ہو گئے تھے۔ جو باہم جھگڑتے تھے۔ آپ نے دین کو واپس کیا۔

فَصَمَّتِ الظَّالِمِينَ بِكُلِّ أَرْضٍ فَاضْحَى الظُّلْمَ مَجْهُولَ الْمَكَانِ  
ترجمہ: آپ نے ہر جگہ سے ظالموں کا قلع قمع کر دیا۔ اب کہیں ظلم دکھائی نہیں دیتا ہے۔

وَفِي سَنَةِ زَمَتْ مُتَجَبِّرِيهِمْ عَلَيَّ قَدْرٍ بَدَاهِيَةَ عَوَانِ

ترجمہ: ایک ہی برس میں جاہل اور ظالم تخت مصیبت میں پھینک دیئے گئے ہیں۔

فَمَا أَبْقَتْ مِنْ ابْنِ أَبِي دَوَادٍ سِرْوَى حَمِيدٍ يُخَاطَبُ بِالْمَعَانِي

ترجمہ: ابن ابی داؤد کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ صرف بے نقطہ گالیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ جن سے وہ مخاطب کیا جاتا ہے۔

تَحْيِرٍ فِيهِ سَابُورُ بْنُ سَهْلٍ فَطَارَلَهُ وَسَنَاهُ الْأَمَانِي

ترجمہ: سابور بن سہل اس میں بڑی دیر تک حیران رہا اور خواہشات اسے آرزو دلائی رہیں۔

إِذَا أَضْحَابُهُ اضْطَبَّحُوا بِئِيلٍ أَطَالُوا الْخَوْضَ فِي خَلْقِ الْقُرْآنِ

ترجمہ: جب اس کے ساتھیوں نے رات کے وقت شراب پی تو انہوں نے خلق قرآن (گھنٹا) لبا کر دیا یعنی وہ ہمیشہ اس پر خوش کرتے رہتے ہیں۔

### آسمان کی طرف

احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ رات کچھ دیر بیدار رہنے کے بعد جو میں سویا تو خواب میں دیکھا

کوئی شخص مجھے آسمان کی طرف اٹھائے لیے جاتا ہے اور کوئی شخص یہ شعر پڑھ رہا ہے:

مَلِكٌ "يُقَادُ إِلَى مَلِيكٍ عَادِلٍ مُتَفَضِّلًا فِي الْعَفْوِ لَيْسَ بِجَائِرٍ

ترجمہ: وہ ایک بادشاہ ہے جو شہنشاہ عادل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ ظلم نہیں کیا

گیا، بخشا گیا ہے۔

اس صبح کو سرمن رائے سے متوکل کے قتل کی خبر بغداد پہنچی۔

عمر بن شیبان کہتے ہیں۔ جس رات متوکل قتل ہوا ہے میں نے خواب دیکھا کوئی شخص یہ

اشعار پڑھ رہا ہے: اشعار

يَا نَائِمَ الْعَيْنِ فِي أَوْطَانِ جِسْمَانِ أَقْضِ دُمُوعَكَ يَا عَمْرُو بْنَ شَيْبَانَ

ترجمہ: اے اپنے جسم کی حاجتوں میں سوئے ہوئے اے عمرو بن شیبان اپنے آنسو بہا۔

أَمَّا تَسْرِي الْفَيْتَةَ الْأَرْجَاسَ مَا فَعَلُوا بِالْهَاشِمِيِّ وَالْفَتْحِ بْنِ خَاقَانَ

ترجمہ: کیا تیرے جانتا ان کم بختوں نے خلیفہ ہاشمی اور فتح بن خاقان کے ساتھ کیا کیا ہے؟

وَافِسَىٰ إِلَى اللَّهِ مَظْلُومًا تَضَيِّحُ لَهُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ مِن مَّثْنَىٰ وَوَحْدَانٍ  
ترجمہ: وہ اللہ سے مظلوم ہونے کی حالت میں تلا ہے آسمان کے ہر شخص نے اس کیلئے  
شور کیا ہے۔

وَسَوْفَ يَأْتِيكُمْ أَخْرَىٰ مُسَوِّمَةٌ تَوَقَّعُوهَا لَهَا شَانَ مِّنَ الشَّانِ  
ترجمہ: عنقریب تمہارے پاس ایک اور خلیفہ آئے گا جو نہایت شاندار ہوگا تم اس سے  
امید ہی رکھو گے۔

فَأَبْكُوا عَلَىٰ جَعْفَرٍ وَأَرْزُوا خَلِيفَتِكُمْ لَقَدْ بَكَاهُ جَمِيعُ الْإِنْسِ وَالْجِبَانِ  
ترجمہ: پس تم اپنے خلیفہ جعفر پر رودو کیونکہ تمام جن و انس اس پر رور ہے ہیں۔  
پھر میں نے چند ماہ کے بعد متوکل کو خواب میں دیکھا اور پوچھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا  
معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھوڑی سی کوشش جو میں نے سنت کو زندہ کرنے میں کی تھی اس کے  
عوض اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا اب تم اس جگہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا اپنے  
بیٹے محمد کا انتظار۔ خدا کے سامنے اس سے جھگڑوں گا۔

متوکل سے مروی احادیث

خطیب بسندہ محمد بن شجاع احمر سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن متوکل نے جریر بن  
عبد اللہ سے روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے لوگوں کو نرمی سے محروم  
رکھا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ (رواہ بطرانی بطریقہ اخراعی فی معجم کبیر)  
ذکر چھڑ گیا

ابن عساکر بسندہ علی بن جهم سے روایت کرتے ہیں۔ میں ایک روز متوکل کے پاس تھا تو  
جمال کا ذکر چل نکلا تو متوکل نے کہا ہالوں کی خوبصورتی بھی جمال میں داخل ہے۔ پھر بروایت  
ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کیا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لمبائی کہ  
تک ہیں اور بکوں کے باعث ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ موتیوں کی لڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ  
سب سے بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ آپ کا رنگ گندمی اور قد میانہ ہے نہ لمبا اور نہ بہت چھوٹا۔  
عبدالطلب کے بال بھی کانوں کی لواتک تھے۔ پھر معتظم نے کہا کہ مامون رشید مہدی منصور

محمد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بال بھی ایسے ہی تھے۔“ مصنف کہتے ہیں یہ حدیث مسلسل ہے اور کئی اور طریقوں سے بھی مروی ہے۔

عہد متوکل میں درج ذیل علماء فوت ہوئے۔

ابوثور احمد بن حنبل، ابراہیم بن منذر خزاعی، اسحاق بن راہویہ، اسحاق ندیم روح مقری، زہیر بن حرب، سنخون، سلیمان شاذکونی، ابوسعود عسکری، ابو جعفر نفیلی، ابوبکر بن شیبہ، کا بھائی دیک، الجن شاعر، عبدالملک بن حبیب، امام المالکیہ، عبدالعزیز بن یحییٰ غول شاگرد امام شافعی، عبید اللہ بن عمرو قاری، علی بن مدینی، محمد بن عبد اللہ بن نمیر، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن بکیر، یحییٰ بن یحییٰ، یوسف ارزق مقری، بشر بن ولید کندی، مالکی، ابن ابی داؤد، ابوبکر ہذلی، علاف شیخ الاعتزال، جعفر بن حرب، ابن کلاب، متکلم، قاضی یحییٰ بن اکثم، حارث محاسن، حرملة صاحب شافعی، ابن سکیت، احمد بن متعب، ذوالنون مصری، زاہد ابوتراب نجاشی، ابو عمر دوری مقری، وعبیل شاعر ابو عثمان مازنی نحوی وغیرہم رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔

## المنتصر باللہ

المنتصر باللہ محمد ابو جعفر بن متوکل بن منعم بن رشید اس کی والدہ بھی ام ولد تھی اور رومیہ تھی۔ اس کا نام جبشہ تھا۔ منتصر نہایت خوبصورت گندم گوں فراخ چشم، میانہ قد، جسیم مہیب اور عقلمند شخص تھا۔ نیکی کی طرف راغب اور ظلم اٹھا دینے پر مائل تھا۔ علوی لوگوں پر احسان کرتا تھا۔ ان پر جو خوف و مشقت طاری تھی ان کو دور کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کی اجازت دیدی۔ یزید مہلسی نے اس کے بارے میں یہ اشعار کہے:

وَلَقَدْ بَرَدَتْ لِطَالِيْبِهِ بَعْدَ مَا  
ذَمُّوْا زَمَانًا بَعْدَهَا وَرَمَانًا

ترجمہ: آپ نے اولاد ابی طالب کو زمانہ دراز تک غمگین و افسردہ رہنے کے بعد خوش کر دیا ہے۔

وَرَدَّدَتْ اَلْفَةَ هَا بَيْسَمِ فَرَايْتَهُمْ  
بَعْدَ الْعَدَاوَةِ مِنْهُمْ اِخْوَانًا

ترجمہ: پس آپ نے ان کو دشمنی کے بعد بھائی چارے سے دیکھا اور آپ نے ہاشمی محبت

کو لوٹا دیا۔

## خلفاء کے قاتل

المنصر باللہ اپنے باپ متوکل کے قتل کے بعد شوال 247 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا اور اپنے دونوں بھائیوں معتز اور مؤید کو ولی عہدی سے معزول کر دیا، جن کو متوکل نے اس کے بعد ولی عہد مقرر کیا تھا۔ رعیت میں اس نے عدل و انصاف پھیلا یا۔ لوگ اس کی ہیبت کے باوجود اس کی طرف مائل ہو گئے کیونکہ یہ نہایت سخی اور حلیم تھا اور کہا کرتا تھا سزا دینے کی نسبت درگزر کرنے کی لذت زیادہ شیریں ہے اور باقدرت شخص کے افعال سے کہا کرتا تھا کہ قبیح تر فعل انتقام لینا ہی ہے۔ جب تخت پر بیٹھا تو ترکوں کو گالیاں دینے لگا اور کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ خلفاء کے قاتل ہیں۔ ترکوں نے بہت حیلے کیے مگر ناکام رہے کیونکہ منصر نہایت بارعب شجاع اور زیرک تھا۔ آخر انہوں نے اس کے طبیب ابن طیفور کو تیس ہزار دینار دینے کر کے ایک زہر آلود نشتر سے اس کی فصد کھلوادی جس سے وہ مر گیا۔ بعض کہتے ہیں ابن طیفور بھول گیا اور اپنے غلام کو اشارہ کر کے اس نشتر سے فصد کھلوادی۔ بعض کہتے ہیں امرود میں زہر ڈال کر اسے دیا گیا تھا۔ جب قریب المرگ ہوا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا اے ماں! مجھ سے دنیا و آخرت دونوں جاتے رہے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو قتل کیا اور اب اس کے پیچھے میں بھی جاتا ہوں۔“ چھ ماہ سے بھی کم خلافت کر کے پانچویں ربیع الآخر 248 ہجری میں 26 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔

## سوار کی تصویر

کہتے ہیں ایک دن منصر لہو و لعب کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اپنے باپ کے خزانے سے ایک فرش نکلو کر مجلس میں بچھوایا ہوا تھا۔ اس فرش میں ایک جگہ ایک دائرہ تھا اور اس میں ایک سوار کی تصویر تھی جس کے سر پر تاج تھا اور اس کے ارد گرد فارسی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک فارسی پڑھنے والے کو بلوایا۔ وہ پڑھ کر خاموش ہو گیا تو منصر نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے۔ اس نے کہا اس عبارت کے کچھ معانی نہیں۔ آخر خلیفہ نے جب اصرار کیا تو اس نے کہا اس میں لکھا ہے ”میں شیروید بن کسریٰ بن ہرمز ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ مگر مجھے چھ ماہ سے زیادہ سلطنت کرنا نصیب نہیں ہوا۔“ اس بات کو سن کر منصر کارنگ فق ہو گیا اور حکم دیا کہ اس فرش کو جلا دو۔ وہ فرش سونے سے بنا ہوا تھا۔

## آباؤ اجداد

ثعلبى لطائف المعارف میں لکھتے ہیں۔ خلفاء سے مختصر بھی خاص خلیفہ ہوا ہے کیونکہ یہ اور اس کے پانچ آباؤ اجداد کے بعد دیگرے خلیفہ ہوتے چلے آئے ہیں اور ایسے ہی معتز اور معتد تھے۔ مصنف کہتے ہیں۔ اس سے بھی خاص مقتمم تھا جسے تاتاریوں نے قتل کیا تھا کیونکہ اس کے آباؤ اجداد میں سے آٹھ کے بعد دیگرے خلیفہ ہوئے تھے۔

## چھ ماہ تک

ثعلبى لکھتے ہیں۔ نہایت عجیب بات یہ ہے شیرویدہ فارس کے خاص ترین بادشاہوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تو اس کے بعد صرف چھ ماہ زندہ رہا اور مختصر بھی خاص ترین خلفاء سے تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کے بعد یہ بھی صرف چھ ماہ ہی زندہ رہا۔

## المستعین باللہ ابو العباس

المستعین باللہ ابو العباس احمد بن مقتمم بن الرشید متوکل کا بھائی تھا۔ 221 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ام ولد تھی جس کا نام مخارق تھا۔ خوبصورت اور گورے رنگ کا آدمی تھا۔ منہ پر چچک کے داغ تھے۔

## باغرتزکی

جس پر مختصر مر گیا تو ارکان دولت نے تل کر مشورہ کیا کہ اگر تم نے متوکل کی اولاد سے کسی کو خلیفہ بنایا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہ رہے گا اس لیے احمد بن مقتمم کو خلیفہ بنانا چاہئے اور پھر ہمارے ولی نعمت کا بیٹا بھی ہے۔ آخر اسی پر فیصلہ ہوا اور انہوں نے اس سے بیعت کر لی۔ (اس وقت اس کی عمر 28 سال کی تھی) اور 251 ہجری کے شروع تک بادشاہ رہا۔ مگر جب اس نے وصیف اور بغا (یہ دونوں ترکی عہدیدار تھے) کو قتل کیا اور باغرتزکی کو جس نے متوکل کو قتل کیا تھا، جلاوطن کر دیا تو ترک اس سے بگڑ گئے۔ مستعین کے صرف وصیف اور بغا ہی امیر اور وزیر تھے چنانچہ کسی شاعر نے کہا:

خَلِيفَةٌ فِي قَفْسٍ بَيْنَ وَصْفٍ وَبَغَا

ترجمہ: وصف اور بغا کے سامنے خلیفہ ایک پیٹھرے میں ہے۔

يَقُولُ مَا قَالَهُ كَمَا تَقُولُ الْبَغَا

ترجمہ: جو کچھ وہ دونوں اسے کہتے ہیں وہی کرتا ہے جیسے کہ طوطا کرتا ہے۔

### زیر حراست

جب ترک بگڑ گئے تو مستعین ان کے خوف سے سامر سے بغداد میں چلا آیا۔ اس پر ترکوں نے اس سے عذر کیا اور اسے واپس آنے کے لیے لکھا۔ لیکن مستعین نہ گیا۔ انہوں نے معتز باللہ سے بیعت کر کے مستعین کو معزول کر دیا۔ پھر معتز بہت بڑا لشکر لے کر مستعین سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر اہل بغداد مستعین کی مدد کے لیے مستعد ہو گئے اور ان دونوں کی آپس میں کئی سخت لڑائیاں ہوئیں اور کئی مہینے یہ شور برپا رہا۔ آخر مستعین کا فریق تنگ آ گیا اور مستعین کے معزول کرنے پر صلح مان لی۔ قاضی اسلعل وغیرہ نے صلح کے معاملے میں ایمان مغلظہ کی شرط لگائیں۔ آخر مستعین نے 252 ہجری میں خلافت سے کنارہ کر لیا اور واسطہ کی طرف چلا گیا اور وہاں 9 ماہ تک ایک امیر کی زیر حراست رہا۔ پھر وہاں سے سامرا کی طرف بھیجا گیا۔ معتز نے احمد بن طولون کو لکھا کہ مستعین کو قتل کر دے۔ اس نے کہا میں تو خلفاء کی اولاد کو قتل نہیں کرتا۔ اس نے سعید حاجب کو لکھا: چنانچہ اس نے 3 شوال 252 ہجری میں اسے قتل کر ڈالا۔ اس وقت مستعین کی عمر اکتیس برس کی تھی۔

مستعین نہایت نیک عالم ادیب، فاضل اور فصیح و بلیغ شخص تھا۔ اس نے کوئی تین بالشت چوڑی آستین نکالی تھی اور پہلے جو لمبی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں انہیں چھوٹا کر دیا تھا۔

اس کے عہد خلافت میں درج ذیل علماء فوت ہوئے:

عبد بن حمید ابوطاہر بن سرح، حارث بن مسکین، بزی مقری، ابو حاتم بختانی حافظ وغیرہم۔

## المعتز باللہ محمد

المعتز باللہ محمد ابو عبد اللہ بن متوکل بن مقتضی بن رشید 232 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ام ولد تھی اور رومیہ تھی جس کا نام قبیحہ تھا۔ مستعین کے معزول ہونے کے بعد 256 ہجری میں اس سے بیعت کی گئی۔ اس وقت اس کی عمر انیس برس کی تھی۔ اس سے قبل اس سے چھوٹی عمر کا کوئی خلیفہ تخت پر نہیں بیٹھا اور یہ نہایت حسین تھا۔



## گھوڑے اور سونے کا زیور

علی بن حرب جو معزز کے لڑکوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، کہتے ہیں اس سے بڑھ کر حسین نہیں گزرا۔ یہ پہلا خلیفہ ہے جس نے گھوڑوں کو سونے کا زیور پہنایا۔ اس سے قبل خلفاء معمولی تھوڑا سا چاندی کا زیور پہنایا کرتے تھے۔ اس کی تخت نشینی کے پہلے سال ہی اشاس جسے واثق نے نائب السلطنت بنایا ہوا تھا، مر گیا۔ اس نے 5 لاکھ دینار پیچھے چھوڑے تھے جنہیں معزز نے ضبط کر لیا اور پھر محمد بن عبداللہ بن طاہر کو نیابت کی خلعت عطا کی اور اس کی میان میں دو تلواریں باندھیں۔ مگر پھر اسی سال معزول کر دیا اور اپنے بھائی ابوجامد کو نائب السلطنت بنا ڈالا اور سنہری جزاؤ تاج اس کے سر پر رکھا اور جواہرات کے دو ہار اس کے گلے میں ڈالے اور دو تلواریں لٹکائیں۔ مگر اسے بھی معزول کر کے واسطہ میں بھیج دیا اور بعد ازاں بغاشرابی کو نائب السلطنت بنایا۔ مگر وہ دوسرے سال ہی معزز کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا مگر قتل کیا گیا اور اس کا سر معزز کے سامنے لایا گیا۔ اسی سال ماہ رجب میں معزز نے اپنے بھائی مؤید کو ولی عہدی سے معزول کیا اور اسے زدو کوب کر کے قید کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ معزز ڈرا کہیں لوگ اس پر بھائی کے قتل کا الزام نہ لگا دیں اس لیے اس نے قاضیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا اس پر مار دغیرہ کا کوئی اثر نہیں تھا۔

## ظلم ترکیاں

معزز ترکوں کے مقابلے میں بہت ضعیف تھا۔ ایک دفعہ ان کے بڑے بڑے رئیسوں نے جمع ہو کر کہا ہمیں کچھ دلوائیے کہ ہم صالح بن وصیف کو قتل کر دیں۔ معزز اس شخص سے بہت ڈرا کرتا تھا۔ اس وقت بیت المال میں کچھ بھی مال موجود نہ تھا۔ اس لیے اپنی ماں سے جا کر کچھ روپے مانگے۔ اس نے دینے سے انکار کیا۔ اس پر ترکوں نے اسے معزول کرنے پر اتفاق کر لیا اور صالح بن وصیف اور محمد بن بغانے بھی ان کا ساتھ دیا۔ پھر ہتھیار لگا کر ترک دارالخلافہ میں چلے آئے اور معزز کو بلا بھیجا۔ اس نے کہلا بھیجا میں نے دو اپنی ہے اور کمزور ہوں ہا ہوں اس لیے باہر نہیں آسکتا۔ ترکوں سے بہت سے اندر داخل ہو گئے اور اسے پاؤں سے پکڑ کر باہر لے آئے اور خوب زدو کوب کیا۔ گرمی کے دن تھے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور طمانچے مار مار کر

کہنے لگے اپنے آپ کو معزول کر۔ پھر قاضی ابن شورا ب اور گواہوں کو بلایا اور اسے معزول کر دیا۔ پھر بغداد سے محمد بن واثق جسے معتز نے نظر بند کر رکھا تھا سامرا بلا لیا۔ معتز نے حکومت اس کے سپرد کر دی اور خود اس کی بیعت کر لی۔ اس واقعہ کے چند روز بعد لوگ معتز کو حمام میں لے گئے۔ نہانے کے بعد اس نے پانی مانگا تو پانی نہ دیا اور وہاں سے نکال کر اسے برف کا پانی پلایا جس کے پینے کے بعد وہ مر گیا۔ یہ واقعہ شعبان 255 ہجری میں ہوا۔ معتز کی ماں قبیحہ پہلے تو چھپ رہی، مگر رمضان میں پھر آگئی اور صالح بن وصیف کو بہت سا مال عطا کیا جس میں تیرہ لاکھ دینار نقد تھے اور ایک زمردوں سے بھرا ہوا برتن تھا اور ایک بڑا مٹکا تھا جو بڑے بڑے موتیوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک مٹکا یا قوت احمر کا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تھی۔ جب ابن وصیف نے اس مال کو دیکھا تو کہنے لگا اس کبخت عورت نے پچاس ہزار دینار کے بدلے اپنے بیٹے کو قتل کروا ڈالا حالانکہ اس کے پاس اس قدر مال کثیر موجود تھا۔ ابن وصیف نے وہ سب مال لے لیا اور قبیحہ کو مکہ میں بھیج دیا۔ وہ معتمد کے خلیفہ ہونے تک وہیں رہی۔ پھر اسے سامرا میں منگوا لیا اور سامرا میں ہی وہ 246 ہجری میں فوت ہو گئی۔

معتز کے عہد خلافت میں درج ذیل علماء فوت ہوئے:

سری سقطی، ہارون بن سعید ایلی، داری صاحب منذ، عقی صاحب مسائل غتبہ اور دیگر حضرات رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## المہندی باللہ

المہندی باللہ محمد ابو محمد اسحاق بن واثق بن معتمد بن الرشید۔ اس کی ماں بھی ام ولد تھی جس کا نام وردہ تھا۔ یہ اپنے دادا کے عہد خلافت میں 210 ہجری کے بعد پیدا ہوا اور 29 رجب 255 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس سے اس وقت تک کسی نے بیعت نہ کی جب تک معتز نے خلافت اس کے سپرد نہ کر دی تھی اور گواہوں سے گواہی نہ لے لی تھی معتز خلافت کے لائق نہیں اور معتز نے بھی اقرار کر لیا اور مہندی سے بیعت کر لی۔ پھر مہندی صدر مجلس میں آ بیٹھا۔

### مہندی کا نقشہ

مہندی گندم گوں، دہلا پتلا، خوبصورت، پرہیزگار، عابد، عادل اور احکام خداوندی کے اجراء

میں سخت تھا۔ لیکن اس کا کوئی مددگار ہی نہ بنا۔ خطیب کہتے ہیں۔ سخت پر بیٹھنے سے قتل ہونے تک ہر روز روزہ رکھتا تھا۔

### نمک سرکہ اور زیتون

ہاشم بن قاسم کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ماہ رمضان میں شام کے وقت میں مہندی کے پاس بیٹھا تھا۔ اچانک میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہندی کہنے لگا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آگے ہو کر نماز پڑھائی۔ بعد ازاں کھانا منگوا یا تو ایک بید کی ڈلیا میں کھانا آیا جس میں میدہ کی روٹیاں تھیں۔ ایک برتن میں نمک تھا۔ ایک میں سرکہ تھا اور ایک میں روغن زیتون تھا۔ مجھ سے بھی کھانے کو کہا۔ میں نے کھانا شروع کیا۔ مجھے خیال تھا کھانا اور آئے گا۔ مہندی نے میری طرف دیکھ کر کہا تم روزہ دار نہیں تھے۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا کل روزہ نہیں رکھو گے؟ میں نے کہا رکھوں گا کیوں نہیں رکھوں گا رمضان کا مہینہ ہے۔ کہنے لگا پھر اچھی طرح کھاؤ کیونکہ اور کھانا نہیں آئے گا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ خدا نے آپ کو تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ مہندی کہنے لگا بات تو یوں ہی ہے۔ مگر میں نے غور کیا تو بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کو پایا۔ وہ کم کھانے اور فکر رعایا کی فکر میں کیسے لاغر ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے خاندان پر نگاہ ڈالی تو مجھے بڑی غیرت آئی۔ اس لیے میں نے اپنے آپ پر یہ کچھ لازم کر لیا جو تم دیکھ رہے ہو۔

### سچے کی قدر

جعفر بن عبدالواحد کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں مہندی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اثنائے کلام میں میں نے کہا احمد بن حنبل بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ وہ اس معاملہ میں اپنے بزرگوں کے خلاف تھے۔ مہندی نے کہا خدا احمد بن حنبل پر رحم کرے۔ بخدا اگر مجھے اپنے باپ سے قطع تعلق جائز ہوتا تو میں ضرور کر لیتا۔ پھر مجھے کہا حق بات کہا کرو کیونکہ میری نگاہ میں سچے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔

### سخت ممانعت اور سختی

لفظ یہ کہتے ہیں۔ بعض ہاشمیوں نے مجھ سے بیان کیا مہدی کا ایک جامہ دان تھا جس

میں ایک پشم کا جبہ اور ایک چادر تھی جسے رات کے وقت پہن کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس نے لہو و لب کو چھوڑ دیا تھا اور گانے بجانے کو حرام ٹھہرایا تھا اور عاملان (گورز حضرات) کو ظلم کرنے سے ممانعت کر دی تھی۔ حساب و کتاب میں نہایت سختی کر دی تھی۔ منشیوں سے خود بیٹھ کر حساب لیا کرتا تھا۔ دو چار آدمیوں کو مل کر نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ بہت سے امیروں کو سزا دی تھی اور جعفر بن محمود کو جلا وطن کر کے بغداد میں بھیج دیا تھا کیونکہ وہ رافضی تھا۔

### حلف اٹھائیے

موسیٰ بن بغا ”رے“ سے سامرا میں آیا تاکہ صالح بن وصیف کو معزز اور اس کی ماں کا مال چھیننے کے بدلے میں قتل کرے۔ عوام الناس نے ابن وصیف کو کہا اے فرعون تیرا موسیٰ آ پہنچا ہے۔ موسیٰ بن بغا نے آ کر مہندی کے پاس حاضر ہونے کا اذن چاہا۔ اس وقت وہ دارالاحدل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ موسیٰ بن بغا اپنے ملازمین کو ساتھ لیے زبردستی اندر گھس آیا اور محل کو لوٹ لیا اور مہندی کو پکڑ کر ایک کمزور گھوڑے پر سوار کر کے دارنا جود میں لے گیا۔ مہندی نے کہا موسیٰ ذرا خدا سے ڈر۔ آخر تیری کیا نیت ہے؟ اس نے کہا بخدا امیری نیت بخیر ہے۔ آپ حلف اٹھائیے کہ صالح کی طرفداری نہ کریں گے۔ اس نے حلف اٹھالیا تو سب نے اس سے بیعت کر لی۔ پھر انہوں نے صالح کی تفتیش شروع کر دی تاکہ اس سے اس کے افعال بد کی پریش کریں۔ مہندی روپوش ہو گیا۔ مہندی نے صلح کی کوشش کی۔ اس پر غلیفہ پر اہتمام لگایا گیا کہ اسے وہ جگہ معلوم ہے جہاں صالح جا کر چھپا ہے۔ اس میں بات بڑھ گئی اور لوگ مہندی کو معزول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسرے دن مہندی تلوار لٹکائے ہوئے باہر نکلا اور کہا مجھے تمہارا ارادہ معلوم ہو گیا ہے۔ مجھے مستعین و معزز کی طرح نہ سمجھنا۔ بخدا میں اپنا بند و بست کر کے نکلا ہوں اور وصیتیں بھر کر آیا ہوں۔ جب تک اس تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہے میں لڑوں گا۔ آخر دین حیا اور آرام بھی کوئی چیز ہے۔ معلوم نہیں لوگ خداوند قدوس اور خلفاء کی مخالفت پر کیوں دلیر ہو جاتے ہیں؟ پھر کہا مجھے صالح کی کوئی خبر نہیں۔ یہ سن کر لوگ اس سے راضی ہو گئے اور واپس چلے آئے۔

### باکیال کو خط

موسیٰ نے منادی کرادی جو شخص صالح کو حاضر کرے گا اسے دس ہزار دینار انعام دیا

جائیگا۔ لیکن وہ کسی کو نہ ملا۔ اتفاق سے ایک غلام دو پہر کے وقت ایک کوچہ میں داخل ہوا۔ ایک مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر چلا گیا۔ دیکھا کہ صالح سو رہا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں۔ جلدی سے جا کر موسیٰ بن بغا کو خبر دی۔ اس نے آدمی بھیج کر اسے قتل کروادیا اور اس کا سر کاٹ کر شہر میں تشہیر کی۔ مہندی کو اس کا یہ واقعہ نہایت ناگوار گزرا مگر ظاہر کچھ نہ کیا۔ پھر جب موسیٰ باکیال کو ساتھ لے کر ”سن“ کی طرف چلا گیا تو مہندی نے باکیال کو خفیہ خط لکھا کہ تم موسیٰ اور مغلح کو قتل کر دو یا قید کر لو تو تمہیں سب ترکوں کا سردار بنا دیا جائے گا۔ باکیال نے یہ خط موسیٰ کو دکھا دیا اور کہا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ موسیٰ یہ خط دیکھ کر ہی آگ بگولا ہو گیا اور مہندی کے قتل کا قصد کر کے وہیں سے اس کی طرف لوٹ پڑا۔

### مارڈالا

مہندی کی طرف سے اہل مغرب اور فرغانہ وغیرہ نے خوب مقابلہ کیا اور ایک ہی دن میں چار ہزار ترک قتل کر دیئے گئے۔ مگر آخر خلیفہ کے لشکر کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ دشمنوں نے اس کے بھیسے دبا کر اسے مارڈالا۔ یہ واقعہ رجب 256 ہجری میں پیش آیا۔ اس حساب سے اس کی خلافت 15 یوم کم ایک سال بنتی ہے۔

### دُعا کرو

کہتے ہیں جب ترکوں نے مہدی پر زغہ کیا تو عوام الناس نے مسجدوں اور گھروں کی دیواروں پر اشتہار لگائے کہ اے مسلمانو! دعا کرو خدا ہمارے خلیفہ کو جو عمر بن عبدالعزیز کی طرح عادل ہے دشمنوں پر فتح عطا فرمائے۔

## المعتمد علی اللہ

المعتمد علی اللہ ابوالعباس بن احمد بن متوکل بن معتمد بن رشید 229 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ رومیہ تھی جس کا نام نہیان تھا۔ مہندی کے قتل کے وقت معتمد جو ”سن“ میں قید تھا لا کر اسے تخت پر بٹھا دیا اور سب نے اس سے بیعت کر لی۔ اس نے اپنے بھائی موفق کو مشرق کا حاکم بنا دیا اور المفوض الی اللہ اس کا لقب مقرر کیا اور خود لہو و لعل میں ایسا مشغول ہوا کہ رعیت کی خبر گیری چھوڑ دی۔ لوگ اس سے ناخوش ہو کر اس کے بھائی کی طرف مائل ہو گئے۔

## لشکر کا سردار

اس کے عہد خلافت میں زنگیوں نے بصرہ اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ کر لیا اور شہروں کو تباہ کیا اور خون کی ندیاں بہادیں اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا۔ خلیفہ کے لشکر کے ساتھ ان کو کئی لڑائیاں ہوئیں، اکثر جگہ لشکر کا سردار موفق ہی تھا۔

## خلیفہ کیلئے دعائیں

ابھی یہ شورش فرو نہ ہونے پائی تھی کہ عراق میں سخت وبا پھیلی جس سے بہت سے لوگ مر گئے اور بعد ازاں بہت سے زلزلے آئے جن میں ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں۔ زنگیوں سے 256 ہجری سے لیکر 270 ہجری تک مسلسل جنگ رہی جس میں صولی کے بقول 15 لاکھ آدمی مارے گئے۔ آخر اس سال میں زنگیوں کا سردار بہبود (خدا اس پر لعنت کرے) قتل ہو گیا۔ جب اس جنگ سے نجات ملی، یہ شخص رسالت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا میں عالم الغیب ہوں۔ منبر پر کھڑا ہو کر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ علوی عورتوں کو اپنے لشکر میں دو یا تین درہموں میں بیچ دیا کرتا تھا۔ ہر ایک زنگی کے پاس دس دس علوی عورتیں تھیں۔ جن میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ برا کرتے اور ان سے خدمت لیتے۔ جب یہ نصیبت قتل ہوا اور اس کا سر نیزے پر رکھ کر بغداد میں لایا گیا تو لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں اور خلیفہ موفق کے لیے دعائیں کیں۔ شعراء نے اس کی صفت میں قصائد مدحیہ لکھے۔ جتنے شہر زنگیوں نے فتح کیے تھے وہ تمام پھر سے خلیفہ کے قبضہ میں آ گئے۔

## ایک سو پچاس دینار میں

260 ہجری میں حجاز و عراق میں سخت قحط پڑا حتیٰ کہ بغداد میں ایک کر (بہتر کاوندم) ایک سو پچاس دینار (یعنی 125 روپے) سے فروخت ہونے لگا۔ اسی سال رومیوں نے شہر لوگوں پر قبضہ کر لیا۔

## دو جھنڈے

261 ہجری میں معتمد نے اپنے بعد اپنے بیٹے المنفوس الی اللہ جعفر کے لیے بعد ازاں

اپنے بھائی موفق طلحہ کے لیے لوگوں سے ان کی ولی عہدی کی بیعت لی اور اپنے بیٹے کو مغرب شام جزیرہ اور آرمینیا کا حاکم بنایا اور اپنے بھائی کو مشرق عراق بغداد حجاز یمن فارس اصفہان ری خراسان طبرستان سجستان اور سندھ کا حاکم بنایا اور ہر ایک کے لیے دو جھنڈے بنوائے۔ ایک سفید اور ایک سیاہ اور یہ بھی قید لگا دی کہ اگر میں اپنے بیٹے کے بالغ ہونے سے قبل مر جاؤں تو میری جگہ تخت پر میرا بھائی بیٹھے۔ پھر یہ ایک دستاویز لکھ کر قاضی القضاة ابن شوارب کو دیکر روانہ کیا تاکہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے۔

### کعبہ پر پردہ

266 ہجری میں رومیوں نے دیار بکر پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو تہ تیغ کیا۔ اہل جزیرہ اور موصل وہاں سے بھاگ آئے۔ اس سال بدویوں نے کعبہ کے پردہ کو لوٹ لیا۔

### اللہ کی حفاظت

267 ہجری میں احمد بن عبد اللہ جہانی نے خراسان کرمان اور سجستان پر قبضہ کر لیا اور عراق کو فتح کرنے کا قصد کیا اور سکوں پر ایک طرف اپنا اور دوسری طرف معتمد کا نام نقش کرایا۔ یہ نہایت عجیب بات ہے۔ اس سال کے آخر میں اس کے غلاموں نے اسے قتل کر ڈالا اور خدا تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔

### کسی بہانہ سے

269 ہجری میں معتمد کی اپنے بھائی موفق سے بدگمانی بڑھ گئی کیونکہ 264 ہجری میں اس نے معتمد پر فوج کشی کی تھی۔ مگر پھر صلح ہو گئی تھی۔ آخر اسی سال معتمد نے مصر کے نائب ابن طولون سے خط و کتابت کر کے ایک رائے پر اتفاق کیا اس لیے ابن طولون فوج لیکر دمشق میں آ گیا اور معتمد سیر و شکار کے بہانے سے سامرا کی طرف چلا گیا۔ جب موفق کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے اسحاق بن کنداج کو لکھا کہ کسی بہانہ سے معتمد کو واپس کر۔ ابن کنداج یہ خط پڑھ کر نصیبین سے سوار ہو کر موصل اور حدیبہ کے درمیان معتمد کو جا ملا اور کہنے لگا بھائی آپ کا دشمن ہو رہا ہے اور آپ اپنے دار السلطنت سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ امر آپ کے دشمن پر ظاہر ہو جائے تو وہ آپ کے آباؤ اجداد کے ملک پر قابض ہو جائے گا۔ پھر اس نے معتمد کے

ساتھ اپنے چند سپاہی کر دیئے۔ پھر معتمد کو پیغام بھیجا یہ مقام آپ کے ٹھہرنے کا نہیں ہے۔ آپ فوراً واپس چلے جائیے۔ معتمد نے اس سے کہا تم اٹھاؤ کہ تم میرے ساتھ چلو گے اور مجھے موفق کے سپرد نہ کرو گے۔ اس نے قسم کھالی اور سامرا تک اس کے ساتھ گیا۔ راستے میں ساعد بن خالد کا تب موفق ملا۔ ابن کندانج نے معتمد کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے معتمد کو احمد بن حصب کے گھر جاتا رہا اور دار الخلافہ میں نہ جانے دیا اور پانچ سو سپاہیوں کو اس کی حراست کے واسطے مقرر کر دیا۔ جب موفق کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور اطلق کو بہت سی خلعتیں اور مال عطا کیا اور اسے (ذوالوزار تین) کا لقب عطا کیا۔ صاعد برابر معتمد کے ساتھ رہا۔ مگر معتمد بالکل اس کے قبضے میں تھے۔ اس بارے میں معتمد نے یہ اشعار کہے:

أَلَيْسَ مِنَ الْعَجَائِبِ إِنَّ مِثْلِي  
بَرِيءٌ مَّا قَلَّ مُمْتَنِعًا عَلَيْهِ

ترجمہ: کیا یہ عجیب بات نہیں کہ میرے جیسا آدمی ایسی شے کم دیکھتا ہے جو اس سے منع کی گئی ہے۔

تَوَكَّلْ بِاسْمِهِ الدُّنْيَا جَمِيعًا  
وَمَا مِنْ ذَاكَ شَيْءٍ فِي يَدَيْهِ

ترجمہ: تمام دنیا اس کے نام پر بھروسہ کرتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

إِلَيْهِ تُحْمَلُ الْأَمْوَالُ طُرًا  
وَيَمْنَعُ بَعْضُ مَا يُجْبِي إِلَيْهِ

ترجمہ: تمام اموال اس کی طرف بھیجے جاتے ہیں، لیکن ان پر اسے دسترس حاصل نہیں۔

بکار جیسا عالم

معتمد ہی پہلا خلیفہ ہے جو مقہور ہوا اور اسے روکا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد معتمد واسط میں بھیجا گیا۔ ابن طولون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے تمام قاضیوں اور سرداروں کو جمع کر کے کہا موفق نے امیر کے ساتھ عہد شکنی کی ہے۔ اس لیے اسے معزول کر دو۔ تمام اس بات کو مان گئے۔ مگر قاضی بکیر بن تہیہ نے کہا تم ہی معتمد کا وہ خط جس میں موفق کی ولی عہدی کا لکھ تھا لائے تھے۔ اب اس کے معزول کرنے کا خط لاؤ۔ ابن طولون نے کہا امیر نظر بند ہے۔ قاضی نے کہا میں نہیں جانتا۔ ابن طولون نے کہا کیا تم لوگوں کو اس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ بکار جیسا کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے۔ شاید تم سٹھیا گئے ہو۔ پھر ابن طولون نے اسے قید کر لیا اور اس کے تمام عطیات جو دس ہزار دینار تھے ضبط کر لیے۔ کہتے ہیں یہ سب دینار



قاضی کے گھر میں مہریں لگے پڑے تھے۔ جب موفق کو یہ خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ ابن طولون کو برسرِ نبرد لعنت کی جائے۔

### عراقی لشکر

شعبان 270 ہجری میں معتمد سامرا میں واپس لایا گیا اور بغداد میں گیا۔ محمد بن طاہر تلوار لیے اس کے آگے تھا اور لشکر خدمت میں تھا اور دکھائی یہ دیتا تھا گویا وہ نظر بند ہی نہیں ہے۔ اس سال ابن طولون فوت ہوا۔ موفق نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو اس کی جگہ مقرر کر دیا اور عراقی لشکر دے کر اسے مصر میں روانہ کر دیا۔ ادھر حماد بن احمد بن طولون اپنے باپ کی جگہ مسلط ہو چکا تھا۔ ابوالعباس اور اس کے درمیان ایسی لڑائی ہوئی کہ خون کی ندیاں بہ گئیں اور آخر میدان مصریوں کے ہاتھ میں ہی رہا۔

### رومیوں کا حملہ

اسی سال نہر عیسیٰ کا بند ٹوٹ گیا اور بغداد کے محلِ کرخ تک پانی چڑھ آیا جس سے سات ہزار مکان گر گئے۔ اسی سال رومیوں نے ایک لاکھ فوج کیساتھ طرطوس پر حملہ کیا۔ مگر فتح مسلمانوں کو ہوئی اور بیشمار مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔

### دعویٰ مہدیت

اسی سال عبداللہ بن عبید نے جو بنی عبید کا مورثِ اعلیٰ تھا، یمن میں مہدیت کا دعویٰ کر دیا اور برابر 278 ہجری تک قائم رہا۔ اسی سال اس نے حج کیا۔ قبیلہ کنانہ کے لوگوں نے اس کا حال دیکھ کر نہایت تعجب کا اظہار کیا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مصر میں لے گیا۔ بعد ازاں انہیں مغرب میں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بس یہیں سے مہدی کو ترقی ہوئی۔

### نکسالوں کا حکم

271 ہجری میں ہارون بن ابراہیم ہاشمی نکسالوں کا حاکم ہوا تو اس نے اہل بغداد کو حکم دیا لیکن دین کا معاملہ پیسوں سے کیا کریں۔ انہوں نے مجبوراً منظور کر لیا۔ مگر پھر چھوڑ دیا۔  
قبلہ اور حج کی جگہ

278 ہجری میں دریائے نیل کا پانی بالکل سوکھ گیا اور مصر میں سخت قحط پڑ گیا۔ اسی سال

موفق مرگیا اور معتد کو اس سے رہائی مل گئی۔ اسی سال کوفہ میں قبیلہ قرامطہ ظاہر ہوا۔ یہ لوگ ایک قسم کے ملحد تھے۔ کہا کرتے تھے جنابت سے غسل نہیں اور شراب حلال ہے اور اذان میں وان محمد بن الحنیفہ رسول اللہ زیادہ کر لیا تھا۔ نیز کہتے ہیں سال بھر میں صرف دو روز سے رکھنے چاہئیں۔ ایک نوروز کے دن اور دوسرا مہر جان کے دن اور قبلہ اور حج کی جگہ بیت المقدس ہی ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی خرافات ایجاد کی تھیں۔ بہت سے جاہل ان کے تابع ہو گئے تھے جو نہ مانتا تھا اس کو سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے۔

### کتب فردشوں سے

279 ہجری میں ابو العباس بن موفق کے غلبہ سے معتد کو نہایت ضعف پہنچا کیونکہ تمام لشکر ابو العباس کی اطاعت میں چلا گیا تھا۔ اس پر معتد نے ایک عام اجلاس کیا اور سب کے سامنے اپنے بیٹے مفوض کو ولی عہدی سے معزول کر دیا اور خود ابو العباس سے بیعت کر لی اور اس کا لقب معتضد مقرر کیا۔ اسی سال معتضد نے حکم کیا کہ کوئی نجومی اور قصہ گوراستے میں نہ بیٹھے اور کتب فردشوں سے حلف لے لیا کہ وہ فلسفہ اور مناظرہ کی کتابیں فروخت نہ کریں۔ اسی سال چند ماہ کے بعد اتوار کی رات بتاریخ اکتیس رجب المرجب تیس برس سلطنت کر کے معتد اچانک وفات پا گیا۔

### رات سوتے میں

بعض کہتے ہیں اسے زہر دیا گیا تھا اور بعض کہتے ہیں رات کو اس کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ اس کے عہد خلافت میں درج ذیل علماء فوت ہوئے:

امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ربیع بن ریح، مرادی، مزنی، یونس بن عبد الاعلیٰ، زبیر بن بکار، ابو الفضل ریشی، محمد بن یحییٰ ذہلی، حجاج بن شاعر، علی حافظ، قاضی القضاة بن ابی شوارب، قاری سوی، عمر بن شیبہ، ابو زرعہ، رازی، محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکیم، قاضی بکار، داؤد ظاہر، ابن دارہ، قتی، بن مخلد، ابن قتیبہ، ابو حاتم رزی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ  
عبد اللہ بن معتز نے معتد کی مدح میں یہ اشعار کہے:

يَا خَيْرَ مَنْ تَرْخِي الْمَطِيَّ بِهِ وَمِنْ حَبْلِ الْعَهْدِ مَوْثِقَهُ

ترجمہ: اے ان تمام لوگوں سے بہتر جنہیں سواریاں باامن لے جاتی ہیں اور جن سے

عہد کی رسی مضبوط ہوتی ہے۔

أَضْحَىٰ عِنَانُ الْمَلِكِ مُقْتَسِرًا      بِيَدَيْكَ تَحْبُسُهُ وَتَطْلِقُهُ

ترجمہ: ملک کی لگام تیرے ہاتھ میں مقہور ہے۔ اگر چاہے روک لے اور اگر چاہے چھوڑ دے۔

فَأَحْكَمَ لَكَ الدُّنْيَا وَسَاكِنَهَا      مَا صَافَ سَهْمٌ "أَنْتَ مُوَفَّقُهُ"

ترجمہ: پس دنیا اور اس کے رہنے والے آپ کے مطیع ہیں، کیونکہ جس تیر کا چلہ آپ چڑھائیں وہ کبھی نشانے سے تجاوز نہیں ہوتا۔

جب معتمد قید (نظر بند) کیا گیا تو اس نے یہ اشعار کہے تھے:

أَصْبَحْتُ لَا أَمْلِكُ دَفْعًا لِمَا      أَسَامُ مِنْ خَسْفٍ وَمِنْ ذُلِّهِ

ترجمہ: مجھے ذلت و خواری سے جو تکلیف ہو رہی ہے مجھے اس کے دفعہ کرنے کی طاقت نہیں۔

تَمْضِي أُمُورِ النَّاسِ دُونِي وَلَا      يَشْعُرُنِي فِي ذِكْرِهَا قَلْبُهُ

ترجمہ: لوگوں کے تمام امور جاری ہوتے ہیں اور مجھے خبر تک نہیں ہوتی اور ان میں میرا ذکر تک نہیں آتا۔

إِذَا اشْتَهَيْتُ الشَّيْءَ وَلَوَابِهِ      عَنِّي وَقَالُوا هَهْنَا عَلُّهُ

ترجمہ: جب میں کسی چیز کو چاہتا ہوں تو وہ مجھ سے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بیماری ہے۔

صولی کہتے ہیں معتمد کا ایک کاتب ملازم تھا جو اس کے اشعار کو سونے کے پانی سے لکھا

کرتا تھا۔ ابوسعید حسن بن سعید نیشاپوری نے معتمد کے مرثیہ میں ذیل کے اشعار کہے:

لَقَدْ قَرَّ طَرَفُ الزَّمَانِ النَّكَدِ      وَكَمَانَ سَخِينَا كَلِيلًا رَمَدِ

ترجمہ: جنھوں و شوم زمانے کی آنکھ میں ٹھنڈک آگئی ہے حالانکہ اس سے پہلے گرم اور دکھی تھی۔

وَبَلَغَتِ الْحَادِثَاتِ الْمُنَى      بِسْمَوَاتِ إِمَامِ الْهُدَى الْمُعْتَمِدِ

ترجمہ: امام الہدیٰ معتمد سے حوادثِ زمانہ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔

وَلَمْ يَبْقَ لِي حَذْرٌ بَعْدَهُ      فَلَدُونَ الْمَصَائِبِ فَلَنَجْتَهِدِ

ترجمہ: اب کے اس مرنے کے بعد مجھے کوئی خوف نہیں رہا۔ پس اب وہ جو چاہیں کریں۔

## المعتضد بالله

المعتضد بالله ابوالعباس بن موفق طلحہ بن متوکل بن معتصم بن رشید ماہ ذوالقعدہ 242 ہجری میں پیدا ہوا۔ صولی کہتے ہیں ربیع الاوّل 243 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں ام ولد تھی جس کا نام صواب تھا جبکہ بعض کہتے ہیں حرزیا ضرار تھا۔ اس کے چچا معتد کے مرنے کے بعد جب 279 ہجری میں اس سے بیعت کی گئی۔ نہایت خوبصورت، شجاع، صاحب رعب و دہد بہ اور ذہین شخص تھا اور خلفائے بنی عباس سے نہایت سخت گیر تھا۔ شیر پر اکیلا ہی حملہ کیا کرتا تھا اور رم بہت ہی کم کیا کرتا تھا۔ جب کسی افسر پر نفا ہوتا تو اسے زندہ گڑوایا کرتا تھا۔ نہایت با سیاست خلیفہ گزرا ہے۔

### سچ بتلاؤ

عبداللہ بن حمدون کہتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ شکار کے لیے باہر نکلا اور ایک ککڑیوں کے کھیت کے پاس خیمہ لگایا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ کھیت کا محافظ چلایا۔ معتضد نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اسی وقت اسے حاضر کیا گیا تو معتضد نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے کھیت میں تین غلام آگھے تھے اور انہوں نے اسے خراب کر دیا ہے۔ وہ تینوں اسی وقت حاضر کیے گئے اور اگلے روز ان تینوں کی اسی کھیت میں گردنیں اڑادی گئیں۔ اس واقعہ کے کئی روز بعد مجھے معتضد نے پوچھا مجھے سچ بتلاؤ لوگ۔ مجھ سے کس بات سے ناراض رہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی خوزریزی کے باعث۔ کہنے لگا بخدا جب سے میں تخت پر بیٹھا ہوں میں نے کوئی ناحق خون تو نہیں کیا۔ میں نے کہا ان تینوں آدمیوں کو جو کھیت میں گھس آئے تھے آپ نے کیوں تلہ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ان تینوں آدمیوں کو جو کھیت میں گھس آئے تھے آپ نے کیوں قتل کرایا۔ کہنے لگا میں نے تو چوروں کو قتل کیا ہے اور مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ یہی ہیں۔ کبھی نہ کھولا

قاضی اسمعیل کہتے ہیں۔ میں ایک دن معتضد کے پاس گیا تو اس کے پیچھے کئی رومی نوجوان لڑکے جو نہایت حسین تھے کھڑے تھے۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا۔ جب میں اٹھنے لگا تو معتضد نے کہا مجھ سے بدگمان نہ ہونا خدا کی قسم میں نے کبھی حرام پر اپنا ازار بند نہیں کھولا۔

## کتاب جلا دو

قاضی اسماعیل ہی کہتے ہیں۔ ایک دن معتضد کے پاس گیا تو مجھے ایک کتاب دی۔ میں نے اسے پڑھا تو اس میں اختلافی مسائل میں علماء کی لغزشیں بیان کی گئی تھیں (تا کہ معتضد ان مسائل میں رخصت پر عمل کرے) میں نے کہا اس کا مصنف زندیق (خدا و آخرت کا مشرک) ہے۔ معتضد نے کہا کیا یہ باتیں جھوٹ ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ بات یہ ہے جس نے مسکرات (نشہ لانے والی چیزیں) کو مباح کیا ہے۔ اس نے متعہ (اہل تشیع، شیعہ حضرات کا میعادی نکاح) کو مباح نہیں کیا اور جس نے متعہ کو جائز رکھا ہے اس نے غنمی کو جائز نہیں رکھا اور ہر ایک عالم سے کوئی نہ کوئی لغزش ہو ہی جایا کرتی ہے اور جس نے علماء کی ساری لغزشوں کو جمع کر کے اپنا معمول بہا (زیبائی خوبی) بنایا ہے تو اس کا دین گویا ضائع ہو گیا۔ معتضد نے اس کتاب کے جلا دینے کا حکم دیا۔

## روح پھونکی

معتضد نہایت تیز خاطر اور جوانمرد تھا۔ بہت سی ایسی لڑا اور غالب رہا۔ امر خلافت کو نہایت اچھی طرح نبھایا۔ لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے اس کی ہیبت کے باعث ہی سب فتنے و فساد جاتے رہے تھے اور اس کا زمانہ نہایت امن و آسائش کا زمانہ تھا۔ اس نے خراج کم کر دیا تھا اور عدل پھیلایا تھا اور ظلم کو دور کر دیا تھا۔ لوگ اسے سفاح ثانی کے نام سے بھی یاد کرتے تھے کیونکہ اس نے عباسیوں کی سلطنت میں جو بالکل زوال کے قریب جا پہنچی تھی نئے سرے سے روح پھونک دی تھی۔ ابن رومی نے اسی مضمون کو یوں ادا کیا ہے: اشعار

هَيْبَتُنَا بِنَيْبِ الْعَبَّاسِ إِنَّ إِمَامَكُمْ  
إِمَامَ الْهَيْبَةِ وَالنَّبَاسِ وَالْجُودِ أَحْمَدُ

ترجمہ: اے بنی عباس! تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا امام صاحب ہیبت اور صاحب جود و کرم ہے

كَمَا بَنَى الْعَبَّاسِ أَنْشَى مُلْكَكُمْ  
كَذَا بِنَابِ الْعَبَّاسِ أَيْضًا يُجَدُّ

ترجمہ: جیسا کہ ابو العباس کے ساتھ تمہارا ملک شروع ہوا تھا اسی طرح پھر ابو العباس

سے ہی اس کی تجدید کر دی گئی ہے۔

إِمَامٌ "يَظِلُّ الْأَمْسَ يَعْمَلُ نَحْوَهُ  
تَلْفَهُ مَلْهُوفٌ" وَيُشَاقُّهُ الْغَدُّ

ترجمہ: یہ ایسا امام ہے گزشتہ کی طرح کام کرتا ہے اور آئندہ کل اس کا مشاق رہتا ہے۔

ابن معتر نے اسی بارے میں یہ اشعار کہے ہیں:

أَمَّا تَرَى مُلْكَ بَنِي هَاشِمٍ عَادَ عَزِيزًا بَعْدَ مَا زَلَّ

ترجمہ: کیا تو نہیں دیکھتا کہ ملوکیت بنی ہاشم ناخوش حالات میں رہنے کے بعد پھر باعزت اور آسودہ حالات میں لوٹی آئی ہے۔

يَا طَائِبًا لِلْمُلْكِ كُنْ مِثْلَهُ تَسْتَوْجِبُ الْمُلْكَ وَالْأَقْلَابَ

ترجمہ: اے ملک کو طلب کرنے والے تو بھی مقتضد کی طرح کام کرتا کہ تو بادشاہت پالے ورنہ نہیں۔

نجومی اور افسانہ گو

خلافت کے شروع سال سے ہی اس نے کتب فروشوں کو فلسفہ اور اسی قسم کی کتابیں فروخت کرنے سے منع کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کوئی نجومی یا فسانہ گور سے میں نہ بیٹھے۔ اس نے خطبہ نہ پڑھا۔

سیاہ آندھی

280 ہجری میں داعی مہدیت ”قیروان“ پہنچا، مگر اس کا راز ظاہر ہو گیا اور حاکم افریقہ اور اس کے درمیان جنگ وجدال شروع ہوا۔ مگر اسے ترقی ہی ہوتی رہی۔ اسی سال دہمیل سے خط آیا کہ ماہ شوال میں سورج کو گرہن لگا اور عصر تک سخت اندھیرا چھایا رہا اور اس کے بعد سیاہ آندھی آئی تھی جو رات کے تیسرے حصے تک رہی اور بعد ازاں سخت زلزلہ آیا جس سے شہر کا بہت سا حصہ گر گیا جس کے نیچے ایک لاکھ پچاس ہزار آدمی دب کر مر گئے۔

ایک رطل ایک درہم

281 ہجری میں بلاد روم سے مکور یہ فتح ہوا اور اسی سال ری اور طبرستان میں پانی کی ایسی کمی ہوئی کہ تین رطل (ڈیڑھ سیر) پانی ایک درہم میں بکتا تھا اور اس قدر قحط پڑا کہ لوگوں نے مردار کھانے شروع کر دیئے۔ اسی سال مقتضد نے مکہ شریف میں آ کر دارالندوہ کو گرا کر وہاں ایک مسجد بنوادی۔

## آگ روشن کر کے

282 ہجری میں معتقد نے منع کر دیا کوئی شخص نوروز کے دن آگ نہ روشن کرے اور نہ لوگوں پر پانی ڈالا کرے (پہلے لوگ نوروز کے دن آگ روشن کیا کرتے تھے اور لوگوں پر پانی ڈالا کرتے تھے) ان کے علاوہ بھی مجوسیوں کی باقی رسموں سے بھی منع کر دیا۔

## دس صندوق

اسی سال خمارویہ احمد بن طولون کی بیٹی قطر النداء سے خلیفہ کی شادی ہو گئی۔ ربیع الاول میں شب زفاف ہوئی۔ اس کے جہیز میں چار ہزار ازار بند ہی تھے جو جواہرات سے جڑاؤ تھے اور دس صندوق جواہرات کے بھرے ہوئے تھے۔

## ورشہ کے دفاتر

283 ہجری میں معتقد نے حکم دیا کہ ذوالارحام کو بھی میراث دی جائے اور ورشہ کے دفاتر توڑ ڈالے۔ لوگوں نے اس پر معتقد کو بہت دعائیں دیں۔

## سرخ چہرے

284 ہجری میں مصر میں ایسی سرخی ظاہر ہوئی حتیٰ کہ لوگوں کے چہرے اور دیواریں سرخ دکھائی دیتی تھیں۔ لوگوں نے اس کے زائل ہونے کے لیے خشوع و خضوع سے دعائیں مانگیں اور یہ سرخی مصر سے رات تک رہی۔

## ہر گوشہ میں

ابن جریر لکھتے ہیں۔ اسی سال معتقد نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر برسر منبر لعنت کرنے کا ارادہ کیا۔ وزیر عبید اللہ نے اسے اس بات سے ڈرایا کہ اس طرح عام لوگوں میں اضطراب (شش و پنج پریشانی) پیدا ہوگا۔ لیکن معتقد نے ایک نہ سنی اور ایک خط لکھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عیب مذکور تھے۔ قاضی یوسف نے کہا امیر! ان کے سننے سے لوگوں میں سخت فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ کہنے لگا اگر کسی نے ذرا بھی حرکت کی تو اسے تلوار سے تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ قاضی یوسف نے کہا آپ ان علویوں کا کیا کریں گے جو ہر گوشہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنے فضائل سنیں گے تو لوگ ان کی طرف

مائل ہو جائیں گے اور آپ کے برخلاف ہتھیار اٹھالیں گے۔

### پتھر برسے

285 ہجری میں بصرہ میں زرد آندھی آئی۔ پھر وہ سبز ہو گئی اور پھر سیاہ ہو گئی اور تمام ملک میں پہنچی۔ بعد ازاں ژالہ باری ہوئی۔ ہر اولہ کا وزن ایک سو پچاس درہموں جتنا تھا۔ اس آندھی سے تقریباً پانچ سو کھجوروں کے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور ایک گاؤں میں پتھر برسے۔ جن میں سے بعض سفید تھے اور بعض سیاہ رنگ کے تھے۔

### قرمطی کا زور

286 ہجری میں بحرین میں ابو سعید قرمطی نے زور پکڑا۔ (یہ شخص ابوطاہر سلیمان کا باپ تھا) لشکر شاہی اور اس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جس میں خلیفہ کو شکست ہوئی اور اس نے بصرہ اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ کر لیا۔

### اپنی گردن سے

خطیب اور ابن عساکر ابو حسین خصمی سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ معتضد نے قاضی ابو حازم کو پیغام بھیجا کہ میں نے فلاں شخص سے مال لینا ہے اور میں نے سنا ہے اس کے قرض خواہوں نے اس پر دعویٰ کیا تھا اور آپ نے انہیں مال دلوادیا ہے۔ ہمیں ان جیسا خیال کیجئے اور مال دلوادیتجئے۔ قاضی حازم نے اپنی سچائی سے کہا امیر سے کہہ دو۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جبکہ آپ نے مجھے قاضی بنایا تھا اور کہا تھا میں نے امر عدالت اپنی گردن سے اتار کر تمہاری گردن میں ڈال دیا ہے اس لیے میں کسی کے دعویٰ کو بغیر شہادت کے کیسے مان سکتا ہوں؟ معتضد نے کہلا بھیجا فلاں دو بڑے معزز شخص میرے گواہ ہیں۔ قاضی حازم نے جواب دیا وہ میرے پاس آئیں اور آکر شہادت دیں۔ اگر ان کی گواہی قابل قبول ہوئی تو میں مان لوں گا ورنہ میں اپنا حکم جاری کروں گا۔ یہ سن کر وہ دونوں شخص ڈر گئے اور گواہی دینے سے اعراض کیا اور معتضد کو کچھ بھی نہ ملا۔

### بحیرہ میں عمارت

ابن حمدون ندیم کہتے ہیں۔ معتضد نے ساٹھ ہزار دینار خرچ کر کے بحیرہ میں ایک



عمارت بنوائی جس میں وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جن میں اس کی محبوبہ دریرہ بھی تھی۔ اس پر ابن بسام نے یہ اشعار کہے:

تَرَكَ النَّاسُ بَحِيرَهُ وَتَخَلَّى فِي الْبَحِيرَةِ  
ترجمہ: لوگوں نے بحیرہ چھوڑ دیا۔ اب خلیفہ وہاں خلوت میں بیٹھتا ہے۔  
فَاعِدًا يَضْرِبُ بِالطَّبْلِ عَلَيَّ حَرًا كَرِيْرَهُ  
ترجمہ: اور دریرہ کی فرج پر بیٹھ کر طبل بجاتا ہے۔

### بہت رویا

معتضد نے یہ اشعار سن لیے لیکن ظاہر نہ کیا اور اس محل کو دیران کرنے کا حکم دیدیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دریرہ مر گئی۔ معتضد اس کے مرنے پر بہت رویا اور اس کے مرے میں یہ اشعار کہے: اشعار مرثیہ

يَا حَيِّئًا لَمْ يَكُنْ يَعِدْ لَهُ عِنْدِي حَيْبٌ

ترجمہ: اے میری دوست جس کے برابر مجھے کوئی دوست عزیز نہیں۔

أَنْتَ عَنْ عَيْنِي بَعِيدٌ وَمِنْ الْقَلْبِ قَرِيبٌ

ترجمہ: تو میری آنکھوں سے تو دور ہے ہی (مگر) دل سے قریب ہے۔

لَيْسَ لِي بَعْدَكَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللَّهِو نَصِيبٌ

ترجمہ: تیرے بعد مجھے کسی کھیل کی رغبت نہیں رہی ہے۔

لَكَ مِنْ قَلْبِي عَلَى قَلْبِي وَإِنْ بِنْتُ رَقِيبٌ

ترجمہ: اگر تو جدا ہو ہی گئی ہے مگر میرا دل ہی میرے دل پر تیرا قریب ہے

وَخِيَالِي مِنْكَ مُدْغِبٌ خِيَالٌ لَا يَغِيبُ

ترجمہ: اور جب سے تو مجھ سے غائب ہو گئی ہے میرا خیال مجھ سے لمحہ بھر تم سے دور نہیں ہوتا۔

لَمْ تَرَائِي كَيْفَ لِي بَعْدَكَ عَوْلٌ وَنَجِيبٌ

ترجمہ: آ تو مجھے دیکھتی کہ تیرے بعد میں کیسے چیخ و پکار کر رہا ہوں۔

وَفُؤَادِي حَشْرَةٌ مِنْ حَرِّ الْقُحُورِ لِهَيْبُ

ترجمہ: اور میرا دل غم کی آگ سے کس قدر شعلے دار رہا ہے۔

وَأَتَيْتُكَ بِإِنْسِي فِيكَ مَحْزُونٌ وَكَئِيبٌ

ترجمہ: تو تجھے البتہ ضرور یقین آجاتا کہ میں تیرے غم میں (کس قدر) غمگین ہوں۔

مَا أَرَى نَفْسِي وَإِنْ سَلَيْتُهَا عَنْكَ تَطِيبٌ

ترجمہ: میں تیری طرف سے نفس کو بہت تسلیاں دیتا ہوں لیکن امید نہیں کہ وہ خوش ہو۔

لِي دَمْعٌ لَيْسَ يُعْصِنِي وَصَبْرٌ مَا يُجِيبُ

ترجمہ: آنسو میری نافرمانی نہیں کرتے۔ یعنی ہر وقت بہتے رہتے ہیں۔ اور صبر میری اطاعت نہیں کرتا، یعنی وہ پاس بھی نہیں پھٹکتا۔

ایک شاعر نے مستفند کی تعریف میں یہ اشعار کہے ہیں:

طَيْفُ أَلَمِ بِيَدِي سَلَّمَ بَيْنَ الْحَيْمِ يَطْوِيهِ، إِلَّا كَمْ

جَاذِنَعَمْ يَشْفِي السَّقَمَ مِمَّنْ لَثَمُ وَمُلْتَزَمٌ

ترجمہ: خیال یاریلوں کو طے کرتا ہوا؛ ذی سلم کے خمیوں میں آیا جس نے اسے بوسہ دیا

(اس سے) بخشش کی خوش ہوا اور نعل میں لے لیا، اس کی بیماریوں کو دور کر دیا۔

فِيهِ هَضْمٌ إِذَا يَضُمُّ دَاوِي الْأَلَمِ ثُمَّ أَنْصَرَمٌ

فَلَمَّ أَنْتُمْ شَوْقًا وَهَمَّ السُّلُومُ ذَمُّكُمْ ثُمَّ كَمْ

ترجمہ: جب اسے نعل میں لیا جائے تو وہ باریک کر ہے۔ اس نے بیماریوں کو دور کر دیا

اور چلا گیا۔ اس کے بعد میں اس کے شوق میں سویا نہیں ہوں۔ ملامت نے میری مذمت کی کہ تو

کب تک آخر کب تک

نَوْمُ الْأَصَمِّ أَحْمَدُ لَمْ كُلِّ الثَّلَمِ مِمَّا أَنْهَدَمُ

هُوَ الْعَلَمُ وَالْمُعْتَصِمُ خَيْرُ النَّسَمِ خَالًا وَعَمٌ

ترجمہ: (تو کب تک) بہروں کی نیند سوتا رہے گا۔ احمد نے تمام رخنوں کو بند کر دیا۔ وہ کوہ

(پہاڑوں کی کا ڈورہ وغیرہ) ہے، چائے پناہ ہے۔ تمام آدمیوں سے حسب و نسب کے لحاظ سے

افضل ہے۔ ابھی بالغ نہیں ہوا کہ کارہائے بزرگ کا احاطہ کر لیا ہے۔

عَوَى الْهَمَمُ وَمَا اِخْتَلَمُ طَرْدِ أَشْمِ سَمَحِ الشِّيمِ

جَلَا الظُّلْمُ كَالْبَدْرِ تَمَّ رَعِي الدَّمَمُ حَمَى الْحَرَمِ

ترجمہ: ذمہ دار یوں کو نگاہ میں رکھتا اور کبھی غلطی نہیں کرتا۔ بزرگی کا پہاڑ ہے۔ جو اس مرد اچھی عادتوں والا ہے۔ چودھویں کے ماہِ کامل کی طرح ہے۔ عاجزوں سے رعایت کرنے والا ہے۔ حریم شریفین کا خادم ہے۔

فَلَمْ يَرَمْ خَصَّ وَعَمَّ بِمَا قَسَمَ لَهُ النِّعَمَ مَعَ النِّقَمِ  
وَالْخَيْرُ جَمَّ إِذَا تَبَسَّمَ وَالْمَاءُ دَمٌ إِذَا انْتَقَمَ

ترجمہ: پس اس جگہ خاص عام سے کسی کو سرداری نہیں۔ پس جو اس کی تقسیم پر راضی ہو گیا، اس کیلئے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور جب وہ ہنستا ہے تو بھلائی کی کثرت کرتا ہے اور جب وہ انتقام لیتا ہے تو پانی بھی خون بن جاتا ہے۔

### بعض کا خیال

مقتدر ربیع الآخر 289 ہجری میں سخت بیمار ہو گیا۔ اس کی طبیعت میں بڑا تغیر آ گیا تھا۔ اس کی وجہ بعض نے کثرتِ جماع بتلائی ہے۔ اس کے بعد تندرست ہو گیا تھا۔ اس پر ابنِ معتمر نے یہ اشعار کہے تھے:

طَارَ قَلْبِي بِجَنَاحِ الْوَجِيبِ جَزَعًا مِنْ حَادِثَاتِ الْخُطُوبِ

ترجمہ: حوادثِ زمانہ کی وجہ سے میرا دل جزعِ نزع کے پر لگا کر اڑ گیا ہے

وَحَذَرًا أَنْ يُشَاكَ بِسُوءِ أَسَدِ الْمُلْكِ وَسَيْفِ الْحُرُوبِ

ترجمہ: اور اس ڈر سے کہیں ملک کے شیر اور لڑائیوں کی تلوار کو نقصان نہ ہو جائے۔

### مرض لوٹا

کچھ عرصہ کے بعد مرض پھر لوٹ آیا اور ربیع الآخر کی بائیس تاریخ کو مقتدر فوت ہو گیا۔

### طیب مرگیا

مسعودی لکھتے ہیں۔ لوگوں کو مقتدر کی بیماری میں کچھ شک پڑ گیا۔ طیب نے آ کر نبض دیکھی تو مقتدر نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور طیب کو ایسی ٹانگ رسید کی جس سے وہ کئی گز کے فاصلے پر جا کر اور گرتے ہی مر گیا اور ایک ساعت کے بعد مقتدر بھی مر گیا۔

ذیل میں وہ اشعار ہیں جو مقتدر مرتے وقت پڑھ رہا تھا:

تَمَعُ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَبْقَى وَخُذْ صَفْوَهَا مَا إِنَّ صَفَتْ وَدَعِ الرُّتَقَا

ترجمہ: دنیا سے نفع اٹھالے کیونکہ تو ہمیشہ باقی نہ رہے گا اور اس کی صفائی کو اختیار کر اور اس کی گندگی کو چھوڑ دے۔

وَلَا تَأْمِنَنَّ الدُّهْرَانِيَّ امْتِنَةُ فَلَمْ يَبْقَ لِيْ حَالًا وَلَمْ يَرْعَ لِيْ حَقًّا  
ترجمہ: زمانے سے بے خوف نہ ہو کیونکہ میں اس سے بے خوف ہوا تھا۔ لیکن اس نے میرا کوئی حال باقی نہ چھوڑا اور نہ میرے حق کی رعایت کی۔

قُلْتُ صَانِدِيْذَ الرَّجَالِ فَلَمْ اَدْعُ عَدُوًّا وَلَمْ اَمْهَلْ عَلٰى ظَنِّهِ خُلُقًا  
ترجمہ: میں نے تمام زمانے کے سرداروں کو قتل کیا۔ کسی دشمن کو نہ چھوڑا اور نہ کسی کو اس کے خیال کے مطابق مہلت دی۔

وَ اَخْلَيْتُ قُوْرَ الْمُلْكِ مِنْ كُلِّ بَاوِلٍ وَ شَتَّيْتُهُمْ غَرْبًا وَ سَزَقْتُهُمْ شَرْقًا  
ترجمہ: میں نے بادشاہوں کے گھروں کو دیران کر دیا اور مشرق و مغرب میں جا کر ان کو پارہ پارہ کر دیا۔

فَلَمَّا بَلَغْتُ النُّجْمَ عِزًّا وَ رَفْعَةً وَ دَانَتْ رِقَابُ الْخَلْقِ اَجْمَعُ لِيْ رِقَا  
ترجمہ: جب میں عزت و رفعت میں پروین (ثریا) احوال معلوم کرنے والا ستارہ) تک پہنچ گیا اور تمام خلقت میری غلام بن گئی۔

رَمَانِي الرَّوْدِي سَهْمًا فَا حَمَدًا جَمْرَتِيْ فَهِيَ اَنَا ذَا فِيْ حُفْرَتِيْ عَاجِلًا مَلْفِيْ  
ترجمہ: تو موت نے مجھے تیرا اور میری آگ کو بجھا دیا۔ پس میں اب عنقریب اپنے گڑھا (قبر) میں جا لیوں گا۔

فَا فَسَدَتْ دُنْيَايَ وَ دِيْنِيْ سِفَاهَةً فَمَنْ ذَا الَّذِي مَنِيْ بِمُضْرِعِهِ اَشْفِيْ  
ترجمہ: میں نے اپنے دین اور دنیا کو اپنی بیوقوفی سے ضائع کر دیا۔ پس مجھ سے زیادہ کون بد بخت ہوگا؟

فِيَا لَيْتَ شِعْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ مَا اَرَى اِلٰى نِعْمَةِ اللّٰهِ اَمْ نَارِهِ اُلْقٰى  
ترجمہ: کاش مجھے معلوم ہو جائے مرنے کے بعد میں کیا دیکھوں گا؟ کیا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں پھینکا جاؤں گا۔

ذیل کے اشعار بھی معتضد کے ہیں:

يَا لَا حِطِّي بِالْفُتُورِ وَالذُّعْجِ وَقَاتِلِي بِالذَّلَالِ وَالغُنْجِ

ترجمہ: اے سیاہ اور خوابیدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھنے والے اور ناز و ادا سے مجھے قتل کرنے والے۔

أَشْكُو إِلَيْكَ الَّذِي لَقِيتُ مِنَ الْوَحْدِ فَهَلْ لِي إِلَيْكَ مِنْ فَرَجِ

ترجمہ: میں عشق کی تکلیف کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ کیا تو میری کشمکش کرے گا؟

حَلَلْتُ بِالطَّرْفِ وَالْحَمَالِ مِنَ النَّاسِ مَحَلِّي الْعَيْنِ وَالْمِهْجِ

ترجمہ: تو اپنی خوبصورتی اور جمال کے باعث لوگوں کی آنکھوں اور دلوں میں بس رہا ہے۔

صلوٰی نے جو معتضد کا مرثیہ لکھا تو اس نے اس میں یہ ذیل کے اشعار کہے:

لَمْ يَلْتَقِ حَزْرَ الْفِرَاقِ أَحَدٌ كَمَا أَنَا مِنْهُ لَاقٍ

ترجمہ: سوزشِ فراق سے جیسی تکلیف میں اٹھا رہا ہوں ایسی کسی نے نہیں اٹھائی۔

يَا سَائِلِي عَنْ طَعْمِهِ أَلْقَيْتَهُ مُرَّ الْمَذَاقِ

ترجمہ: اے مذاق کے مزے سے متعلق سوال کرنے والے میں نے تو اس حال میں اس

سے ملاقات کی ہے کہ یہ کڑوا ہے۔

جَسْمِي يَذُوبُ وَمُقَلَّتِي عَسْرِي وَقَلْبِي ذُو اخْتِرَاقِ

ترجمہ: میرا جسم پگھل رہا ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور میرا دل جل رہا ہے۔

مَا لِي أَلِيفٌ بَعْدَ كُمْ إِلَّا أَكْسِيَابِي وَأَشْتِيَاقِ

ترجمہ: تمہارے بعد میرا نمگسار صرف غم اور شوق ہی رہ گیا ہے۔

فَاللَّهُ يَحْفِظُكُمْ جَمِيعًا فِي مَقَامِي وَالطَّلَاقِ

ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ میرے چلنے پھرنے میں اور میرے مرنے کے بعد بھی تم سب کی

حفاظت فرمائے۔

اور ابنِ معتمر نے ان اشعار میں معتضد کا مرثیہ کہا:

يَا دَهْرُ وَيَحْكُ مَا أَلْقَيْتَ لِي أَحَدًا وَأَنْتَ وَالِدُ سُوءِ تَأْكُلُ الْوَلَدَا

ترجمہ: اے زمانے خدا تیرا بھلا کرنے تو نے میرے لیے کسی کو نہیں چھوڑا تو ایسے برا

باپ ہے کہ (اپنے) بیٹے کو بھی کھا جاتا ہے۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَلْ ذَا كُفْلَهُ قَدِيرٌ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَاحِدًا صَمَدًا

ترجمہ: میں اپنے اس قول سے خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ میں خدائے واحد بے نیاز سے ہر حال میں راضی ہوں۔

يَا سَاكِنَ الْقُبْرِ نِي غَيْرَاءٍ مَظْلَمَةٍ بِالظَّاهِرِيَّةِ مَقْصِي الدَّارِ مُنْفَرًا ذَا

ترجمہ: اے مقام طاہریہ میں غباراً لو داندھیری قبر میں لیٹے ہوئے گھر سے دور اور اکیلے۔

أَيْنَ الْجُبُوشِ الَّتِي قَدْ كُنْتَ تَسْحَبُهَا أَيْنَ الْكُنُوزِ الَّتِي أَحْصَيْتَهَا عَدَدًا

ترجمہ: وہ لٹکر کہاں ہیں جو تمہاری زیرِ کمان تھے اور وہ خزانے کہاں ہیں جنہیں تم نے شمار کر رکھا تھا۔

أَيْنَ السَّرِيرِ الَّذِي قَدْ كُنْتَ تَمْلَأُهُ مَهَابَةً مِنْ رَأْيِهِ عَيْنُهُ ارْتَعَدَا

ترجمہ: وہ تخت کہاں ہے جن پر تم بیٹھا کرتے تھے جن پر بیٹھا ہوا تمہیں دیکھ کر دیکھنے والا کانپ اٹھتا تھا۔

أَيْنَ الْأَعَادِ الْأُولَى ذَلَلَتْ مَصْعَبَهُمْ أَيْنَ اللَّيُوثِ الَّتِي صِيرْتَهَا بَدَدًا

ترجمہ: وہ دشمن کہاں ہیں جنہیں رام کیا تھا اور وہ شیر کہاں ہیں جنہیں تو نے پراگندہ کیا تھا۔

أَيْنَ الْجِيَادِ الَّتِي حَجَلْتَهَا بِدَمٍ وَكُنَّ يَحْمِلْنَ مِنْكَ الضَّيْعُمَ الْأَسَدَا

ترجمہ: وہ گھوڑے کہاں جنہیں تو نے خون سے بیخ کلیان بنایا تھا اور تیرے جیسے شیر کو اٹھائے پھرتے تھے۔

أَيْنَ الرِّمَاحِ الَّتِي غَدَيْتَهَا مَهْجَا مُذْمِتٌ مَا وَرَدَتْ قَلْبًا وَلَا كَبَدًا

ترجمہ: وہ نیزے کہاں ہیں جن کو تو نے جانوں کی غذا دی تھی۔ جب سے تو مر گیا ہے وہ کسی دل و جگر میں نہیں اتر سکے۔

أَيْنَ الْجَنَانِ الَّتِي تَجَرَّيْ جَدَاوِلُهَا وَتَسْجِبُ إِلَيْهَا الطَّائِرُ الْفَرَدَا

ترجمہ: وہ باغ کہاں ہیں جن کی نہریں بہ رہی ہیں اور (ان باغوں میں) خوش الحان پرندے گارہے ہیں۔

أَيْنَ الْوَصَائِفِ كَالْفَرَزِ لِأَنَّ رَاتِعَهُ يَسْحَبْنَ مِنْ حُلَلٍ مُوشِيَةٍ جَدَدًا

ترجمہ: وہ ہرنوں کی شکل والی لوٹیاں کہاں ہیں جو ناز و ادا سے مزین چادروں کو کھینچتی تھیں۔

أَيْنَ الْمَلَاهِمِ وَأَيْنَ الرَّاحِ تَحْسِبُهَا يَا قَوْلُهُ كَسَيْتَ مِنْ فِطْنَةِ زَرْدَا  
ترجمہ: وہ کھیل کود کے سامان کہاں ہیں۔ وہ شراب کہاں ہے جسے تم یا قوت خیال کرتے  
تھے اور چاندی زرہ پہنی ہوئی تھی۔

أَيْنَ الْوُثُوبِ إِلَى الْأَعْدَاءِ مَبْتَغِيًا صَلَاحَ مَا تَبَنَّى الْعَبَّاسُ إِذْ فَسَدَا  
ترجمہ: وہ دشمنوں کی طرف کود کر سلطنت بنی عباس کی اصلاح کرنا کہاں گیا۔ اس  
زمانے میں کہ جب وہ خراب ہو گئی۔

مَا زِلْتِ تَقْسُرُ مِنْهُمْ كُلَّ قَسْوَرَةٍ وَمُحَطِّمُ الْعَالِي الْجِبَارِ مُعْجَمًا  
ترجمہ: تو ان کے ہر ایک شیر کو توڑتا رہا اور ہر تکبر کو نیچے گراتا رہا۔

لَمْ الْقَضِيَّتْ فَلَا عَيْنٌ وَلَا آثَرٌ حَتَّى كَانَتْ يَوْمًا لَمْ تَكُنْ أَحَدًا  
ترجمہ: پھر یہ تمام باتیں اس طرح ختم ہو گئیں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا اور تو ایسے  
ہو گیا ہے گویا تو کبھی موجود ہی نہیں تھا۔

معتقد کے ایام خلافت میں درج ذیل علماء فوت ہوئے:

ابن مرازمالکی کنن ابی الدنیا اسطیل حارث بن ابی اسامہ ابو العیناء میرزا ابو سعید خراز شخ  
الصوفیہ سخری شاعر وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔

معتقد نے اپنے پیچھے چار لڑکے اور گیارہ لڑکیاں چھوڑیں۔

## المکتفی بالله

المکتفی بالله ابو محمد علی بن معتقد غرہ ربیع الآخر 264 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ  
ترکیہ تھی۔ اس کا نام جب تک تھا۔ یہ خلیفہ حسن میں ضرب الثقل تھا چنانچہ اس کے بارے ایک  
شاعر نے یہ اشعار کہے:

قَابِسَتْ بَيْنَ جَمَالِهَا وَفِعَالِهَا فَإِذَا الْمَلَا حَةُ بِالْخِيَانَةِ لَا تَقْبِي  
ترجمہ: جب میں نے محبوبہ کے جمال اور کاموں کا مقابلہ کیا تو معلوم ہوا کہ صرف  
خوبصورتی تو خیانت کیلئے کافی نہیں۔

وَاللَّهِ لَا كَلَمْتُهَا وَلَوْ أَنَّهَا كَالشَّمْسِ أَوْ كَالْبُنْدِ أَوْ كَالْمُكْتَفِي

ترجمہ: خدا کی قسم میں اس سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر چہ سورج یا چاند یا مکتفی کی طرح ہی کیوں نہ ہو۔

اس کے والد نے ہی اس کو ولی عہد بنایا تھا۔ بروز جمعہ 22 ربیع الاخریٰ 289 ہجری میں عصر کے بعد اس کے والد کی بیماری کی حالت میں لوگوں نے اس سے بیعت کی۔

### ابو محمد کنیت

صولی کہتے ہیں۔ خلفاء میں سے مکتفی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کا نام علی نہیں اور حسن بن علی ہادی اور مکتفی کے علاوہ کسی کی کنیت ابو محمد نہیں ہوئی۔

### ہجوم کے باعث

باپ کی وفات کے وقت جب اس کے لئے بیعت کی گئی تو اس وقت یہ رتہ میں تھا اس لیے وزیر ابو الحسن قاسم بن عبد اللہ نے اس کی طرف سے بیعت لی اور اس کی طرف خط لکھا تو 7 جمادی الاولیٰ کو بغداد میں پہنچا اور کشتی میں سوار ہو کر دجلہ میں سے گزرا۔ اہل بغداد نے اس روز بڑی خوشی منائی۔ قاضی ابو یوسف لوگوں کے رش کے باعث دجلہ میں گر پڑے مگر صحیح و سالم نکال لیے گئے۔ جب مکتفی دار الخلافہ میں پہنچا تو شعراء نے قصائد پڑھے اور وزیر قاسم کو بارگاہ خلافت سے سات خلعتیں عطا ہوئیں۔

### زلزلہ اور آندھی

مکتفی نے تخت پر بیٹھے ہی اپنے باپ کے تہ خانوں کو مہسار کر دیا اور ان کی جگہ مسجد میں بنوا دیں اور باغ اور دکانیں جو اس کے باپ نے لوگوں سے محل بنانے کے لیے لے رکھی تھیں، وہ سب کچھ لوگوں کو واپس کر دیا اور عدل و انصاف اور خوش خلقی پر کمر باندھ لی۔ اس سے لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور دعائیں دینے لگے۔ اسی سال میں بغداد میں زبردست زلزلہ آیا جو کئی دن تک رہا اور اسی سال بصرہ میں آندھی آئی جس سے ہزاروں درخت گر گئے۔ اسی سال یحییٰ بن زکریا قرمطی نے بغاوت کی اور خلیفہ کے لشکر اور اس کے درمیان دیر تک جنگ و قتال رہا۔ آخر 290 ہجری میں یحییٰ بن زکریا قرمطی مارا گیا۔ پھر اس کی جگہ اس کا بھائی حسین آ گیا اور فتدو فساد برپا کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک داغ تھا۔ کہنے لگا یہی میرے سچا ہونے کی علامت ہے۔ اس کے چچیرے بھائی عیسیٰ بن مہر ویہ نے ظاہر کیا کہ میرا لقب مدثر ہے اور سورہ مدثر میں



میرا ہی نام ہے۔ اس نے اپنے ایک غلام کا لقب مطوق بالنور رکھا اور شام کو اپنے قبضہ میں کر کے فتنہ و فساد پھیلا تا شروع کر دیا اور اپنا لقب امیر المؤمنین مہدی رکھا۔ منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ آخر 291 ہجری میں قتل ہو گیا۔

گیارہ گز تک

اسی سال نواح روم میں سے اٹھا کیہ فتح ہوا جہاں سے غنیمت بیشار ہاتھ آئی اور 292 ہجری میں وجہ میں اس قدر طغیانی آئی کہ اس سے قبل اس قدر طغیانی کبھی نہیں آئی ہوگی۔ بغداد کا اکثر حصہ منہدم ہو گیا اور گیارہ گز سے بھی زیادہ پانی چڑھ گیا۔

صوفی نے مکتفی کی مدح میں قمرطی کا ذکر کرتے ہوئے یہ اشعار کہے ہیں:

كَفَى الْمُكْتَفِيَّ الْخَلِيفَةَ      مَا كَانَ قَدْ حَذَرَ

ترجمہ: جس بات سے خلیفہ ڈرتا تھا خدا نے اسے اس بات سے محفوظ رکھا۔

أَلْ عَبَّاسَ أَنْتُمْ      سَادَةُ النَّاسِ وَالْعَزْزُ

ترجمہ: اے آل عباس تم ہی تمام لوگوں کے سردار اور احکام سے واقف کرنے والے ہو۔

حَكَمَ اللَّهُ أَنْكُمْ      حَكَمَاءَ عَلَيَّ الْبَشَرُ

ترجمہ: خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بے شک لوگوں پر حاکم تم ہی ہو گے۔

وَأَوْلُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ      صَفْوَةَ اللَّهِ وَالْخَيْرِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بھلائی اور تمام اولی الامر تم سے ہی ہوا کریں گے۔

مَنْ رَأَى أَنْ مُؤْمِنًا      مَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْ كَفَرَ

ترجمہ: جو شخص یہ خیال کر لے کہ وہ مومن ہے جو تمہاری نافرمانی کرے تو وہ شخص کافر

ہے۔ (خیال کرنے والا)

أَنْزَلَ اللَّهُ ذَاكُمْ      قُلْ فِي مُحْكَمِ السُّورِ

ترجمہ: تمہارے بارے میں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح فرما

دیا ہے۔

آٹھ آٹھ

مکتفی حالت جوانی میں ہی بارہ ذوالقعدہ 295 ہجری میں فوت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے

پچھے آٹھ لڑکے اور آٹھ بی لڑکیاں چھوڑی تھیں۔

اس کے عہد خلافت میں درج ذیل علماء فوت ہوئے۔

عبداللہ احمد بن حنبل، ثعلب امام العربیہ، قبیل قاری، ابو عبداللہ بوسنی فقیہ، بزار صاحب  
مسند ابومنذکبی، قاضی ابو حازم، صالح حوزہ امام محمد بن نصر مروزی، ابو حسین نوری شیخ الصوفیہ  
ابو جعفر ترمذی شیخ شافعیہ۔

### شعر بھیجے

مصنف کہتے ہیں۔ میں نے مصنفہ عبدالغافر میں دیکھا۔ ابن ابی الدنیا کہتے ہیں جب  
ملٹنی خلیفہ ہوا تو میں نے اس کی طرف یہ دو شعر لکھے:

إِنَّ حَقَّ النَّاسِ حَقُّ الْأَبْوَةِ      عِنْدَ أَهْلِ الْحِجْزِ وَأَهْلِ الْمُرْوَةِ

ترجمہ: اہل مروہ و اہل عقیل کے نزدیک ادب سکھانے والے کا حق باپ جیسا ہے۔

وَأَحَقُّ الرِّجَالِ أَنْ يَحْفَظُوا ذَاكَ      وَرِعْوَهُ أَهْلُ بَيْتِ النَّبْوَةِ

ترجمہ: اور اسباب کی رعایت اور حفاظت کے حقدار تمام لوگوں سے بڑھ کر اہل بیت

نبوت ہیں۔

تو اس نے مجھے دس ہزار درہم انعام کے طور پر بھیجے۔ اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ  
عہد ملٹنی تک ابھی ابن ابی الدنیا زندہ تھے۔

## المقتدر باللہ

المقتدر باللہ ابو الفضل جعفر بن معتضد۔ یہ ماہ رمضان المبارک 282 ہجری میں پیدا  
ہوا۔ اس کی والدہ رومیہ تھی۔ بعض نے کہا ترکیہ تھی۔ اس کا نام غریب تھا اور بعض نے اس کا نام  
شغب بتایا ہے۔ جب ملٹنی کا مرض بڑھ گیا تو اس نے مقتدر کے بارے پوچھا تو اسے بتایا گیا  
وہ بالغ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس نے اس کو ولی عہد بنا دیا اور اس سے پہلے اس قدر کم عمر آدمی  
کو ولی تخت پر نہیں بیٹھا کیونکہ یہ تیرہ برس کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھا تھا۔ وزیر عباس بن حسن  
نے اسے بچہ سمجھ کر معزول کرنے کا ارادہ کیا اور بہت سے لوگوں نے بھی اس کے ساتھ اس کی  
رائے پر اتفاق کر لیا۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن معز کو اس کی جگہ خلیفہ بنایا جائے۔ ابن معز نے

بھی اس بات کو مان لیا مگر یہ شرط لگا دی کہ خوزیری نہ ہو۔ اس بات کی خبر مقتدر کو بھی ہوگئی۔ اس نے وزیر کو بہت سامال اپنے حق میں دے کر راضی کر لیا۔ مگر باقی لوگ اس بات کو نہ مانے اور بیس ربیع الاول 296 ہجری کو جب مقتدر گیند بلا کھیل رہا تھا، اس پر چڑھائی کی۔ مقتدر یہ حالت دیکھ کر گھر بھاگ آیا اور دروازے بند کر لیے۔ لوگوں نے وزیر کو قتل کر دیا اور ابن معتر کو بلا کر سب افسروں، قاضیوں اور امیروں نے بیعت کر لی اور اس کا لقب الغالب باللہ مقرر کیا۔ اس نے محمد بن داؤد بن جراح کو اپنا وزیر مقرر کر لیا اور ابوشی احمد بن یعقوب کو قاضی مقرر کیا اور تمام ملک میں اپنی خلافت کے فرمان جاری کر دیئے۔

### پورانہ ہو

معانی بن زکریا جریری کہتے ہیں۔ جب مقتدر معزول کیا گیا اور ابن معتر خلیفہ بنا تو لوگ محمد بن جریر طبری کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کیا خبر ہے؟ لوگوں نے بتایا بیعت ابن معتر سے کر لی گئی ہے پھر پوچھا وزیر کون ہے لوگوں نے بتایا محمد بن داؤد۔ پھر پوچھا قاضی بننے کے لیے کس کو پیش کیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابوالکشمی۔ یہ کچھ سن کر ابن جریر نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ یہ امر پورا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں ہوگا۔ کہنے لگے جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے یہ سب اپنے فن میں کامل و ماہر عالی مرتبہ ہیں اور زمانہ اب ادبار میں ہے اور دنیا بھاگی جارہی ہے۔ اس لیے یہ حالت دیر تک قائم نہ رہے گی۔ (چنانچہ ایسا ہی ہوا۔)

### بغیر جنگ کے

خلیفہ ہوتے ہی ابن معتر نے مقتدر کو کہلا بھیجا تم محمد بن طاہر کے گھر میں چلے جاؤ تاکہ میں دار الخلافت میں آ جاؤں۔ مقتدر نے اس بات کو مان لیا۔ مگر اس کے ساتھ جو تھوڑے سے آدمی رہ گئے تھے، کہنے لگے۔ آؤ اس مصیبت کو رفع کرنے میں اپنے آپ کو آزمائیں تو سہی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہتھیار لگا لیے اور مخزم کا قصد کیا جس جگہ ابن معتر تھا۔ جب انہوں نے ان لوگوں کو آتے دیکھا تو ان کے دلوں میں کچھ ایسا رعب بیٹھا کہ وہ بغیر جنگ کے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور ابن معتر اس کا وزیر اور قاضی بھی بھاگ نکلا اور بغداد میں فتنہ برپا ہو گیا۔ مقتدر نے ان فقہاء و امراء کو جنہوں نے اسے معزول کیا تھا، پکڑ لیا اور ان سب کو یونس حازن کے حوالہ کر دیا۔ اس نے چار آدمیوں کے علاوہ جن میں قاضی ابو عمر بھی تھا اور سب کو قتل کر دیا اور

ابن معتر کو قید کر دیا اور چند روز کے بعد قید خانہ سے اس کی لاش ہی نکلی۔

### کمر باندھ لی

اس طرح مقتدر کا تسلط بیٹھ گیا۔ ابو الحسن علی بن محمد بن فرات عہدہ وزارت پر سرفراز ہوا جس نے عدل و انصاف پر کمر باندھ لی اور مقتدر کو بھی عدل کی ہی ترغیب دی۔ سب ظلم مٹا دیئے۔ مقتدر نے تمام امور تو اس کے سپرد کر دیئے اور خود لہو و لعب میں مشغول ہو گیا اور تمام خزانوں کو تلف کر دیا۔

### خدمت کا حکم

اسی سال مقتدر نے حکم دیا یہود و نصاریٰ سے خدمت لی جائے اور یہ زین کی بجائے صرف پالان پر سوار ہوا کریں۔

### زیادۃ اللہ اغلب

اسی سال مغرب میں مہدی کا زب کا غلبہ ہوا اور لوگوں نے اس کی امامت اور خلافت کو تسلیم کر لیا۔ چونکہ اس نے عدل و انصاف لوگوں میں پھیلایا تھا اس لیے سب اس کی طرف مائل ہو گئے اور مغرب کا تمام کا تمام ملک اس کے قبضہ میں چلا گیا۔ افریقہ کا حاکم زیادۃ اللہ بن اغلب بھاگ کر مصر چلا آیا اور وہاں سے عراق میں آ پہنچا۔ اس طرح مغرب بنی عباس کی سلطنت سے نکل گیا۔ بس اس تاریخ سے ان کی سلطنت میں ضعف آنے لگا۔ اس طرح سے ان کی تمام ممالک اسلامیہ پر ایک سو ساٹھ برس سے زیادہ حکومت رہی ہے۔

### پہاڑ دھنس گیا

ذہبی کہتے ہیں۔ مقتدر کی صغریٰ کے باعث نظام سلطنت میں بڑا خلل آ گیا تھا۔ 300 ہجری میں دینور کے قریب ایک پہاڑ زمین میں دھنس گیا اور اس کے نیچے سے اس قدر پانی نکلا کہ جس سے بہت سے گاؤں برباد ہو گئے۔

### اللہ اللہ ہے

اس سال میں ایک فخر (مذکر) نے بچہ جنا۔ خدا کی قدرت جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

## حسین علاج

301 ہجری میں علی بن عیسیٰ وزیر مقرر ہوا اور نہات ایمان داری اور پرہیزگاری سے کام کرنا شروع کیا۔ شراب کی خرید و فروخت کو بند کر دیا اور لوگوں کو پانچ لاکھ تک کا خراج معاف کر دیا۔ اسی سال قاضی ابوعمر پھر قاضی مقرر ہوئے اور مقتدر اپنے گھر سے سوار ہو کر شامیہ تک گیا۔ یہ اس کا پہلا سفر تھا جس میں اسے عام لوگوں نے دیکھا۔ اسی سال حسین علاج کو اونٹ پر سوار کر کے بغداد میں لایا گیا اور منادی کرا دی گئی کہ یہ شخص بھی مذہب قرامطہ کا داعی ہے۔ اسے اچھی طرح سے دیکھ لو۔ پھر اسے 309 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔ مشہور ہے کہ اس شخص نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور کہا کہ خدا انسان میں حلول کر سکتا ہے۔ جب اس سے مناظرہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نہ علم قرآن ہے نہ علم حدیث اور نہ ہی علم فقہ۔

## ٹکرا گئے

اسی سال مہدی فاطمی چالیس ہزار بربری سوار لے کر مصر کی طرف بڑھا۔ لیکن راستے میں دریائے نیل حائل تھا اس لیے اسکندر یہیں واپس آ گیا اور وہاں قتل عام کر کے پھر واپس آیا۔ مقتدر نے اس کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا اور ہر قدر کے مقام پر دونوں فریق آپس میں ٹکرا گئے۔ مگر فاطمی کو فتح ہوئی اور وہ اسکندر یہ اور قیوم پر قابض ہو گیا۔

## خفتوں پر خرچ

303 ہجری میں مقتدر نے اپنے پانچ سو لڑکوں کے خفتے کرائے اور اس پر چھ لاکھ دینار خرچ کیے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے یتیمی کے خفتے کرائے اور انہیں انعام دیے۔ اسی سال جامع مصر میں عید پڑھی گئی اور علی بن ابی شیبہ نے کتاب سے دیکھ کر خطبہ پڑھا۔ لیکن پھر بھی پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو میں **اَلَا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ** میں **مُسْلِمُوْنَ** کی جگہ **مُشْرِكُوْنَ** پڑھ گیا۔

## اسلام مجوسیان دہلیم

اسی سال میں قبیلہ دہلیم جو مجوسی تھے، حسن بن علی علوی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔

زب زب جانور

304 ہجری میں بغداد میں ایک جانور زب زب کے ظاہر ہونے سے بڑا اضطراب ظاہر ہوا۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس جانور کو راتوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر دیکھتے تھے۔ یہ جانور شیر خوار (دودھ پیتے) بچوں کو کھاتا تھا اور عورتوں کی چھتیاں کاٹ کر لے جاتا تھا۔ لوگ اس سے بچوں کی سخت حفاظت کرتے اور اس کو ڈرانے کے لیے طشت اور صدیاں (پرائس وغیرہ) یا تھال بڑے بڑے) بجاتے تھے اور اس کے خوف سے لوگوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو ٹوکروں کے نیچے سلانا شروع کر دیا۔ یہ جانور برابر کئی راتوں تک رہا اور پھر نہ پایا گیا۔

انتہا کی سجاوٹ

305 ہجری میں بادشاہ روم کے قاصد تھے لیکر آئے اور صلح کا عقد باندھنا چاہا۔ مقتدر نے ان کو دکھلانے کے لیے بہت بڑا جلوس تیار کیا، چنانچہ اپنے تمام لشکر کو جو ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھا، باب شامیہ سے لیکر دار الخلافہ تک بڑی ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا اور ان کے بعد نو کروں کو کھڑا کیا۔ ان کی تعداد سات ہزار تھی۔ بعد ازاں اپنے حاجب کھڑے کیے جو تعداد میں سات سو تھے۔ وہ پردے جو دار الخلافہ کی دیواروں پر لٹکائے گئے تھے ان کی تعداد اڑتیس ہزار تک تھی۔ وہ سب کے سب دیبا کے تھے اور وہ فرش جو بچھائے گئے تھے تیس ہزار کی تعداد میں تھے اور اپنے سامنے زنجیروں میں بندھے ایک سو درندے کھڑے کرائے۔

شفا خانہ

306 ہجری میں مقتدر کی والدہ کے نام پر ایک شفا خانہ کھولا گیا۔ سات ہزار دینار اس کا سالانہ خرچ ہو جاتا تھا۔

ماں حکمران

اسی سال مقتدر کی لاپرواہی کے وجہ سے سلطنت کا تمام نظام حرم شاہی کے ہاتھ میں آ گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مقتدر کی ماں حکم کرنے لگی اور خود فیصلے کرنے کیلئے بیٹھتی۔ ہر جمعہ میں کاغذات چیک کرتی، تمام امیر و وزیر حاضر ہوتے اور جو پروانہ جات جاری ہوتے ان پر اس (مقتدر کی والدہ) کے دستخط ہوتے۔

اسی سال محمد بن مہدی فاطمی مصر میں واپس آیا اور صعید کے بہت سے حصہ کو فتح کر لیا۔ 308 ہجری میں بغداد میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے کیونکہ حامد بن عباس نے عراق کے گرد و نواح پر قبضہ کر کے سخت ظلم جاری کیے تھے۔ آخر تک آ کر لوگوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ شاہی لشکر نے ان کا مقابلہ تو کیا۔ مگر رعایا نے اس لشکر کو تتر بتر کر دیا اور قید خانے توڑ ڈالے۔ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور وزیر پر پتھر پھینکے اور دولت عباسیہ کا حال ناگفتہ بہ کر دیا۔

### برسوں لڑائی

اسی سال القائم کے لشکر نے جزیرہ پر قبضہ کر لیا جس سے اہل مصر کا اضطراب بڑھ گیا اور وہ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے اور برسوں تک لڑائیاں ہوئیں جن کی تفصیل بہت ہی طویل

### فتویٰ سے قتل

309 ہجری میں قاضی ابو عمر اور دیگر فقہاء کے فتوے سے منصور علاج کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے حالات بہت عجیب ہیں۔ جن پر لوگوں نے مستقل تصنیفیں کی ہیں۔ 311 ہجری میں مقتدر نے حکم دیا۔ مفضل کے حکم کے مطابق ذوی الارحام کو میراث میں حصہ دیا جائے۔

312 ہجری میں والی خراسان نے فرغانہ فتح کیا۔

314 ہجری میں رومیوں نے مالٹا کو فتح کر لیا۔

### ناقوس بجایا

اسی سال (یعنی 314 ہجری) میں موصل کے قریب دریائے دجلہ کا پانی ایسا جم گیا کہ اوپر سے چوہے گزر جاتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔

315 ہجری میں رومیوں نے دمیاط پر قبضہ کر لیا اور وہاں لوگوں کو قید کر لیا۔ مال و اسباب لوٹ لیا اور جامع مسجد میں ناقوس (دھینگ) جس کو ہندو پوجا کے وقت بجاتے ہیں) بجایا گیا۔

## بچوں کو ذبح کر دیا

اسی سال دہلیم نے ری اور جبال پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا اور بچوں کو ذبح کیا۔  
بجائے منبر

316 ہجری میں قرمطی نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دارالہجرت رکھا۔ ان چند برسوں میں اس کا زور بہت بڑھ گیا تھا۔ بہت سے شہر فتح کر لیے تھے۔ مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ دلوں میں اس کی ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ خلیفہ کا لشکر کئی دفعہ شکست کھا چکا تھا۔ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ قرامطہ کے خوف سے حج بند ہو گیا اور اہل مکہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور رومیوں نے خلاط کو فتح کر لیا اور وہاں کی جامع مسجد سے منبر کو نکال کر اس کی جگہ صلیب رکھ دی۔  
دارالخلافت پر چڑھائی

317 ہجری میں مونس خادم ملقب بہ مظفر مقتدر سے باغی ہو گیا کیونکہ مقتدر کا ارادہ تھا مونس کو معزول کر کے ہارون بن غریب کو اس کی جگہ امیر الامراء مقرر کر لے اس لیے وہ محرم کی چودھویں تاریخ کو تمام لشکر اور امراء و وزراء کو ساتھ لے کر دارالخلافت پر چڑھ دوڑا۔ اسے دیکھ کر مقتدر کے خواص بھاگ نکلے۔ مقتدر کو اس کی والدہ اس کی خالہ اور اس کی بیویوں وغیرہ حضرات کو عشاء کے بعد گھر سے نکال دیا گیا اور اس کی والدہ کے چہلاکھ دینار لوٹ لیے اور پھر اسے معزول کر کے محمد بن معتضد کو خلیفہ بنا کر مونس اور دیگر امراء نے اس سے بیعت کر لی اور القاہرہ باللہ اس کا لقب مقرر کیا۔ وزارت کا عہدہ علی بن ابی مقلد کے ذمہ لگا دیا گیا۔ یہ واقعہ ہفتہ کے روز پیش آیا۔ اتوار کے روز القاہرہ باللہ تخت خلافت پر بیٹھا اور وزیر نے تمام شہروں میں اس کے بادشاہ ہونے کے فرمان جاری کیے۔ پیر کے روز شاہی جلوس نکالا گیا تو لشکر نے انعام بیعت اور تحنواہ کا مطالبہ کیا۔ خازن اس وقت حاضر نہیں تھا۔ فوج نے شور و غوغا ڈال دیا اور حاجب کو قتل کر ڈالا اور مقتدر کی تلاش کی اور اس کی تلاش میں مونس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ پھر اسے تخت خلافت پر بیٹھائیں۔ آخر وہ مقتدر کو کندھوں پر اٹھا کر دارالخلافت میں لے آئے اور القاہرہ باللہ کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ رو کر کہتا تھا اے لوگو! میرے بار



ے میں اللہ سے ڈرو۔ مقتدر نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا بھائی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ میں نے پہلے ہی کبھی تم پر سختی کی ہے اور خوش ہو جاؤ۔ پہلا وزیر پھر بحال کر دیا گیا اور اس نے تمام ممالک میں پہلے خلیفہ کے بحال ہونے کی اطلاع کر دی۔ پھر مقتدر نے تمام لشکر میں انعام تقسیم کیے۔

### حجر اسود لے گیا

اسی سال مقتدر نے منصور دہلیس کے ساتھ حاجیوں کا ایک قافلہ روانہ کیا جو صحیح و سلامت مکہ میں پہنچ گئے۔ مگر ترویہ (قربانی) کے دن دشمن خدا ابوطاہر قرظلی نے حاجیوں کو مسجد حرام میں قتل کر دیا اور لاشیں بزمزم میں پھینکوا دیں اور حجر اسود کو گرز مار کر توڑ دیا اور اکھاڑ کر لے گیا اور قریباً گیارہ روز کے بعد وہاں سے واپس ہوا۔ حجر اسود میں برس سے بھی زیادہ ان کے پاس رہا۔ حالانکہ انہیں اس کے عوض پچاس ہزار (50000) دینار پیش کیے گئے۔ مگر انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ آخر میں مطیع کے عہد خلافت میں ان سے واپس لے لیا گیا۔

### چالیس اور ایک دہلا اونٹ

کہتے ہیں جب اہل قرمطہ حجر اسود کو مکہ شریف سے اسکی جگہ سے اکھاڑ کر لے جانے لگے تو یہاں دار ہجرت اور عمارت جو انہوں نے بنوائی تھی، تک اس کے نیچے چالیس اونٹ مر گئے اور جب واپس لائے تو ایک دہلا پتلا اور لاغر اونٹ جس پر انہوں نے حجر اسود کو ان سے واپس لیکر مکہ مکرمہ لانے کیلئے لادنا تھا وہ اکیلا ہی اسے یہاں تک لے آیا اور اس کی برکت سے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ اونٹ موٹا ہوتا چلا گیا اور بالکل تندرست ہو گیا۔

### تاب نمیں

محمد بن ربیع کہتے ہیں جس سال قرامطہ نے مکہ پر حملہ کیا، میں وہیں تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص میزاب کعبہ کو اکھاڑنے کے لیے چھت پر چڑھا تو میں نے دعا کی یا اللہ! مجھ میں اس ظلم و بربریت کو دیکھنے کی تاب نہیں۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت کعبہ اللہ کی چھت سے سر کے بل نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ایک شخص قرمطیوں سے خانہ کے دروازے پر چڑھ کر یہ شعر پڑھ رہا تھا:

اَنَا بِاللَّهِ وَبِاللَّهِ اَنَا      نَخْلُقُ الْخَلْقَ وَنَفِيْهِمْ اَنَا

ترجمہ: میں اللہ کے ساتھ ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم دونوں ہی خلافت کو پیدا کرتے ہیں، مگر میں اس کو فنا کرتا ہوں۔

اس واقعہ کے بعد ابوطاہر قرمطی زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا اور چچک کے مرض میں مبتلا ہو کر فی النار والسقر ہو گیا۔

### آیت میں اختلاف

اسی سال اہل بغداد میں آیت عَسَىٰ اَنْ يَّعْتَكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُومًا (پ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79) ترجمہ: قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان، محمد بشر سیالوی)

میں سخت اختلاف ہو گیا۔ حنبلی کہتے تھے اس کے معانی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو عرش پر بٹھائے گا۔ دوسرے یعنی حنفی اہل مذہب وغیرہ حضرات کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت پر جلوہ افروز فرمائے گا۔ اس نزاع نے یہاں تک طول پکڑا کہ بہت سے آدمیوں کی جانیں چلی گئیں۔

319 ہجری میں قرمطی کوفہ میں آ گیا۔ اہل بغداد کو خوف پیدا ہوا۔ وہ خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ قرآن مبارک بلند کیے اور مقتدر کو گالیاں دیں۔

اسی سال قبیلہ وایلم ذہبور پر چڑھ آئے اور شہر کولونا اور پھر قتل عام کیا۔

### خس و خاشاک

320 ہجری میں مونس مقتدر پر چڑھ دوڑا۔ اس کے ساتھ اکثر بربری سپاہی تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ایک بربری نے مقتدر کو حربہ (نیزہ) مارا جس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ پھر تلوار سے ذبح کر کے اس کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ کپڑے اتار لیے اور جسم کو وہیں ننگا کر کے پھینک دیا۔ لوگوں نے خس و خاشاک (گھاس اور کوڑا) سے اس کا ستر (شرمگاہ) چھپا دیا اور وہیں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ واقعہ بدھ ستائیس شوال 320 ہجری کو پیش آیا۔

### والپسی کا ارادہ

کہتے ہیں اس روز مقتدر کے وزیر نے اس کا زانچہ دیکھا۔ مقتدر نے پوچھا کیا وقت ہے؟ اس نے جواب دیا زوال کا۔ مقتدر نے اس سے بدشگون (برائمنحوس وقت) لیا اور واپس

آ جانے کا قصد کیا۔ لیکن اسی وقت مونس کے سوار سامنے آ گئے اور لڑائی ہونے لگی۔  
کانٹا چمٹ گیا

جس بربری نے مقتدر کو قتل کیا تھا لوگ اس کے پیچھے گئے۔ وہ دار الخلافہ کی طرف دوڑا تاکہ القابہر باللہ کو بیعت کے لیے باہر نکالے۔ راستے میں کانٹوں کی گٹھڑی پڑی تھی۔ دوسری طرف قصاب کی دکان تھی۔ اس کے پاس سے گزرنے لگا تو گوشت لڑکانے والا کانٹا اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس صدمہ سے اس کا آن کھل گیا اور گھوڑا اس کے نیچے سے نکل گیا اور وہ زمین پر گرتے ہی مر گیا۔ لوگوں نے اسے ان کانٹے دار لکڑیوں میں ڈال کر جلا ڈالا۔  
مال برباد

مقتدر تیز عقل اور صاحب الرائے تھا۔ لیکن شراب و شہوات میں غرق رہتا تھا۔ نہایت فضول خرچ تھا۔ عورتیں اس پر غالب آ گئی تھیں۔ چنانچہ ان کو تمام شاہی جواہر دیدیئے تھے۔ اپنی ایک محبوبہ کو ایک ایسا قیمتی موتی دیا تھا جس کا وزن تین مثقال (مثقال ساڑھے چار ماشے کا وزن) تھا اور اپنے ایک زید نامی غلام کو جواہرات کی ایسی تسبیح دی تھی جس کی نظیر نہ تھی۔ الغرض اس طرح سے بے انتہا مال ضائع کر دیا تھا۔ اس کے گھر میں غلامانِ رومی و ثقاہلی اور حبشی کے علاوہ گیارہ ہزار خنسی غلام تھے۔ بارہ لڑکے اپنے پیچھے چھوڑے تھے جن میں سے تین یعنی رضی، متقی اور مطیع تخت خلافت پر بیٹھے۔ ایسے ہی متوکل اور رشید کے بیٹوں سے بھی تین تین خلیفہ ہوئے۔

ذہبی کہتے ہیں۔ اس کی نظیر صرف بادشاہوں میں ہی ملتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں متوکل کے لڑکوں سے پانچ خلیفہ ہوئے ہیں۔ یعنی مستعین عباس، معتضد داؤد، مستکفی سلیمان، القائم حمزہ، مستجد یوسف اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔

ثعالبی الطائف المعارف میں لکھتے ہیں۔ متوکل اور مقتدر کے سوا کسی کا نام جعفر نہیں ہوا اور یہ دونوں ہی قتل ہوئے۔ متوکل چہار شنبہ (بدھ) کی رات کو اور مقتدر دن کو قتل ہوا۔

کچھ خوبیوں سے

مقتدر کی خوبیوں سے ایک حکایت ہے جسے ابن شاہین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے وزیر عیسیٰ نے چاہا کہ ابن ابی صاعد اور ابو بکر بن ابی داؤد سجستانی کے درمیان صلح کرادے۔ پس ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تم سے بڑا ہے تم اٹھ کر ان سے معافی مانگو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں

مانگنا۔ وزیر نے کہا تم تو بڑے منگبر دکھائی دیتے ہو۔ ابن ابی داؤد نے کہا صرف منگبر ہی نہ کہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والا بھی کہو۔ وزیر نے کہا یہ بات ہے۔ پھر ابن داؤد نے کھڑے ہو کر کہا شاید تمہیں اس بات کا خیال ہے کہ میں تنخواہ میں تمہارا دست نگر ہوں۔ بخدا آج کے بعد میں تمہارے ہاتھ سے کبھی تنخواہ نہ لوں گا۔ مقتدر کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس دن سے ان کی تنخواہ خود شمار کر کے اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کرتا تھا۔

مقتدر کے عہد خلافت میں یہ علماء فوت ہوئے:

محمد بن داؤد ظاہری، یوسف بن یعقوب قاضی، ابن شریح شیخ الشافعی، جنید شیخ الصوفیہ ابو عثمان خیری زاہد ابوبکر بردیجی، جعفر قریانی، ابن بسام شاعر نسائی صاحب سنن، حسن بن سفیان صاحب سنن، حیاتی شیخ المعتز لہ، میوت بن موزع نحوی، ابن الجلاء شیخ الصوفیہ ابویعلیٰ موصلی صاحب مسند اشائی قاری ابن سیف، یکے از قرائے مصر، ابوبکر رویانی صاحب مسند، امام ابن منذر، ابن جریر طبری، راجح نحوی، ابن جزیمہ، ابن زکریا طبیب، انھش صغیر، بنان جمال، ابوبکر بن ابی داؤد بستانی، ابن سراج نحوی، ابو عوانہ صاحب صحیح، ابو قاسم بغوی صاحب مسند، ابو عبید بن حرب، ابو کسحی شیخ المعتز لہ، ابو عمر قاضی، قد امہ کاتب وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## القاہر باللہ

القاہر باللہ ابو منصور محمد بن معتضد بن طلحہ متوکل اس کی والدہ ام ولد تھی جس کا نام فتنہ تھا۔ جب مقدر قتل ہوا تو لوگوں نے اس کو اور محمد بن، ملکش کو بلایا اور پھر ملکش سے کہا تم خلیفہ بننے ہو۔ اس نے کہا مجھے تو اس کی حاجت نہیں۔ یہ میرے چچا (القاہر باللہ ابو منصور محمد) ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ قاہر نے بھی خلافت کو منظور کر لیا اور سب نے اس سے بیعت کر لی اور اس نے اپنا وہی لقب القاہر باللہ مقرر کیا۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ مقتدر کے اہل و عیال پر تادان لگا دیا اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ مقتدر کی ماں کو اس قدر پٹوایا کہ وہ پختے پختے مر گئی۔

بغاوت پکڑی گئی

321 ہجری میں فوج بگڑ گئی اور مونس اور ابن مقلہ وغیرہ نے مل کر اسے معزول کرنا چاہا

تاکہ اس کی جگہ ابنِ مکتفی کو خلیفہ بنائیں۔ مگر قاہر نے ایسی چال چلی کہ اس بغاوت کے سرکردگان کو پکڑ کر قتل کر ڈالا اور ابنِ مکتفی کو دیوار میں چنوا دیا اور دیگر مخالفین کے گھر لٹوا دیئے گئے۔ پھر لشکر میں انعامات اور تنخواہیں تقسیم کر کے ان کے جوش کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور اس طرح سے قاہر کا خوب تسلط بیٹھ گیا اور اس دن سے اپنے لقب میں المنتقم من اعداء دین اللہ زیادہ کر دیا اور سکون پر بھی اسی لقب کو مسکوک کر دیا۔

### آلات لھو

اسی سال گانے والی کنیزیں رکھنے سے منع کر دیا۔ شراب کی خرید و فروخت بند کر دی اور گویوں کو گرفتار کر لیا۔ مثنویوں (بہجودوں) کو شہر بدر کر دیا۔ آلات لہو و لعب تڑوا دیئے۔ گانے والی چھوڑ کر یوں کو بیچ ڈالنے کا حکم دیا۔ ان سب باتوں کے باوجود خود اس قدر شراب پیتا تھا کہ نشتر نے نہ دیتا اور گانائے سے کبھی بس نہ کرتا تھا۔

### اصحاب مرداوتج

322 ہجری میں دہلیم نے زور پکڑا اور اس کا سبب یہ ہوا کہ جب مرداوتج کے اصحاب اصفہان میں داخل ہوئے تو علی بن بویہ جو اس کا سپہ سالار لشکر تھا، مال کثیر لے کر اپنے مخدوم (مرداوتج) سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر اس نے محمد بن یاقوت نائب خلیفہ سے جنگ کی جس میں محمد بن یاقوت کو شکست ہوئی اور ابن بویہ تمام فارس پر قابض ہو گیا۔

### چھت سے سانپ

کہتے ہیں ابن بویہ نہایت ہی مفلس فقیر شخص تھا۔ مچھلیاں پکڑ کر گزارہ کیا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ میں پیشاب کرنے لگا ہوں اور پیشاب گاہ سے ایک آگ کا شعلہ نکلا ہے جس نے تمام دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اس خواب کی اسے یہ تعبیر بتلائی گئی کہ اس کی اولاد بادشاہ ہوگی اور جہاں تک اس شعلہ کی روشنی گئی تھی وہاں تک ملک اس کے زیرِ نگیں ہوگا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہوتے ہوتے یہ شخص مرداوتج بن زیاد دہلی کا سپہ سالار بن گیا۔ دہلی نے اسے کرن سے مال لانے کے لیے بھیجا۔ وہاں سے یہ پانچ لاکھ درہم لے کر آیا۔ پھر یہ ہمدان پر قبضہ کرنے کی خاطر آگے بڑھا۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ ابن بویہ نے ان

سے جنگ چھیڑ دی اور یزور شمشیر اسے فتح کر لیا۔ وہاں سے شیراز میں آیا۔ جو ماں اس کے پاس تھا وہ ختم ہو چلا تھا۔ ایک دن مکان میں چت لیٹا ہوا تھا۔ چھت سے ایک سانپ گرا فوراً حکم دیا چھت گرا دی جائے۔ اس کے اندر سے سونے کے بھرے ہوئے صندوق برآمد ہوئے۔ جن کو تمام لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر ایک دن درزی کو کچھ سینے کے لئے بلایا۔ وہ کار سے بہرہ تھا۔ جب اس نے بات کی اس کو سمجھ نہ آئی تو اسکے چہرے کے بدلنے آثار دیکھ کر وہ سمجھا شاید میری کسی نے اس سے کوئی چغلی کھائی ہے تو وہ ڈر کے مارے کہنے لگا خدا کی قسم میرے پاس ان بارہ صندوقوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں ان میں کیا ہے۔

### قسمت کا دخل بھی

ابن بویہ نے قسم دیا کہ فوراً وہ تمام صندوق اس کے ہاں سے لائے جائیں جب وہ صندوق لائے گئے ان کو کھولا گیا تو ان میں سے بھی بے شمار مال نکلا۔

چھپر نہیں زمین پھاڑ کے

پھر ایک دن کی بات ہے کہ جا رہا تھا تو راستے میں اچانک گھوڑے کے پاؤں جھنس گئے۔ اس نے وہاں کھدوائی کرانی شروع کر دی کھود کر دیکھا تو وہاں سے بھی بہت بڑا خزانہ نکلا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے خراسان اور فارس کا تمام ملک خلیفہ کے تصرف سے نکل کر اس کے قبضے میں چلا گیا۔

### النائیکا کا

اسی سال قاہرے اسطعلیل نو بختی کو جس نے اس کے خلیفہ بنائے جانے پر زور دیا تھا ایک کنویں میں النائیکا کو پر سے کنواں بند کروا دیا اور گناہ اس کا صرف یہ تھا قاہرے کے خلیفہ ہونے سے قبل اس نے ایک لوٹری کو قاہرے سے زیادہ قیمت دے کر خرید لیا تھا۔

### میری بیعت

اسی سال فوج باغی ہو گئی کیونکہ پوشیدہ ہی پوشیدہ انہیں خوف دلایا جا رہا تھا کہ قاہرہ تمہارے قید کرنے کے لیے نہ خانہ تیار کروا رہا ہے اس لیے تمام سپاہی تلواریں برہنہ کیے ہوئے اس پر چڑھ آئے قاہرہ بھاگا تو سہی مگر آخر گرفتار ہو گیا۔ لوگوں نے عباس محمد بن مقتدر سے

بیعت کر لی اور اس کی الراضی باللہ کا لقب دیا۔ پھر وزیر قاضی ابوالحسن بن قاضی ابو عمر حسن بن عبداللہ بن ابی شوارب اور ابوطالب بن بہلول کو قاہرہ کے پاس بھیجا گیا۔ یہ سب اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میری بیعت تمہاری اور باقی بھی سب کی گردنوں میں ہے اور میں تمہیں بری اور علیحدہ نہیں کرتا۔ پس یہاں سے چلے جاؤ۔

### امامت فرض

قاہرہ کا یہ جواب سن کر سب اٹھ کر چلے آئے۔ راستے میں ایک آدمی جوانی میں سے تھا وہ وزیر سے کہنے لگا کہ قاہرہ کو بغیر سوچ و فکر کے معزول کر دینا چاہئے۔ اس کے افعال بد مشہور ہیں۔ قاضی ابوالحسن کہتے ہیں میں نے آ کر راضی سے تمام حقیقت کہہ دی اور کہا میں تو آپ کی امامت فرض سمجھتا ہوں۔ راضی نے کہا اچھا۔ اب جاؤ اور مجھے اس پر غور کرنے دو۔ پھر یسا نامی ایک مصاحب نے راضی کو قاہرہ کی آنکھوں میں گرم سلانیاں پھر وادینے کا مشورہ دیا چنانچہ اس کی دونوں آنکھوں میں گرم سلانیاں پھر وادی گئیں۔

### آنکھیں نکال دیں

محمود اصفہانی کہتے ہیں قاہرہ کی معزولی کا سبب اس کا بد خصلت ہونا اور خونریز ہونا تھا اور جب اس نے خلع سے انکار کیا تو اس کی آنکھوں میں سلانیاں پھر وادی گئیں جس سے دونوں آنکھیں رخساروں پر بہہ پڑیں۔

### چھوٹا سانیزہ

صولی کہتے ہیں۔ قاہرہ نہایت جلد باز خونریز بد خصلت اور تلون المواج شخص تھا۔ ہمیشہ نشہ میں چور رہتا تھا۔ اگر اس کا حاجب نیک نہ ہوتا تو شاید وہ تمام لوگوں کو قتل کر ڈالتا۔ اس نے ایک چھوٹا سانیزہ بنا رکھا تھا جسے ہر وقت اٹھائے رکھتا تھا اور اس وقت تک اسے ہاتھ سے نہ پھینکتا تھا جب تک کہ اس سے کسی نہ کسی شخص کو قتل نہ کر لیتا تھا۔

### خصلتیں اور اخلاق

علی بن محمد خراسانی کہتے ہیں۔ ایک دن مجھے قاہرہ نے بلوایا اور حربہ (چھوٹا سانیزہ) اس کے سامنے پڑا تھا۔ کہنے لگا مجھ سے خلفائے بنی عباس کی خصلتیں اور اخلاق بیان کرو۔

## خرچ کرنے والا

میں نے کہا سفاخ خونریزی میں جلدی کیا کرتا تھا اور اس کے عامل بھی اس کے قدم بقدم چلتے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ جو امر داور نہایت پیسہ خرچ کرنے والا آدمی تھا۔ کہنے لگا منصور کیسا تھا۔

میں نے کہا منصور ہی پہلا خلیفہ ہوا ہے جس نے عباسیوں اور علویوں میں تفرقہ ڈالا۔ پہلے وہ آپس میں باہتفاق رہا کرتے تھے۔ اسی نے پہلے نجومیوں کو مقرب بنایا اور اسی نے پہلے سریانی اور عجمی کتابیں مثلاً کلیلہ دمنہ اقلیدس اور یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ لوگوں نے جب ان کتابوں کو دیکھا تو ہر وقت انہی میں مشغول رہنے لگے۔ جب محمد بن اسحاق نے یہ خرابی دیکھی تو اس نے مخازی اور سیر میں کتابیں تصنیف کیں۔ منصور نے سب سے پہلے اپنے غلاموں کو عامل بنایا اور عرب پر ترجیح دی۔

قاہر نے کہا اچھا مہدی کیسا تھا؟ میں نے کہا نہایت عادل سخی اور منصف تھا۔ اس کے باپ نے جبراً جو کچھ لوگوں سے چھینا تھا ان کو واپس دیدیا۔ زندہ بیٹوں کو قتل کرایا۔ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شریف میں تعمیری کام کرائے۔

قاہر نے پوچھا اچھا ہادی کیسا تھا؟ میں نے کہا وہ بڑا جبار اور متکبر تھا۔ اس کے عامل بھی اس کے قدم بقدم چلتے تھے۔

پھر کہنے لگا اچھا رشید کیسا تھا؟ میں نے کہا وہ حج اور جہاد کی طرف راغب تھا۔ مکہ کے راستے میں سرائیں اور حوض اسی نے بنوائے اور کاؤنڈہ طرطوس، مصعبہ اور مرعش کی سرحدیں بنوائیں۔ سب لوگوں میں اپنا عدل پھیلا یا اور برا مکہ اسی کے عہد میں تھے اور ان کی بخشش مشہور رہی ہے۔ یہی خلیفہ سب سے پہلے گیند بلا کھیلا ہے اور چاند ماری بھی سب سے پہلے اسی نے کی ہے اور بنی عباس میں سے سب سے پہلے شترخ اسی نے کھیلا ہے۔

قاہر نے کہا اچھا امین کیسا تھا؟ میں نے کہا وہ سخی تھا مگر لذات میں منہمک رہتا تھا۔ اس لیے اس کا کام بگڑ گیا۔

پھر کہنے لگا اچھا مامون کیسا تھا؟ میں نے کہا اس پر فلسفہ اور نجوم غالب تھا اور نہایت حلیم

اور سخی تھا۔



پھر کہنا گا۔ اچھا مقصود کیا تھا؟ میں نے کہا وہ بھی مامون کے قدم قدم چلا تھا۔ مگر اسے بادشاہان عجم کے ساتھ تھکے اور شاہسواری کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے جنگیں لڑیں اور فتوح حاصل کیں۔

پھر پوچھا واثق کیا تھا؟

میں نے کہا وہ اپنے باپ کے ہی طریقہ پر چلا۔

پوچھنے کا متوکل کے بارے کیوں؟

میں نے کہا اس کے اعتقاد مامون، مقصود اور واثق کے بالکل خلاف تھے۔ اس نے جنگ اور مناظرہ سے رونا دھونا کر دیا تھا اور ان کے مرتکب ہونے والوں کے لیے اس نے سزائیں مقرر کیں۔ قرأت و سماعت حدیث کا ستم کیا۔ قرآن لکھتے تھے اسے لوگوں کو منع کیا اس لیے لوگ اس سے خوش رہے۔

پھر مجھے باقی خلفاء کی بابت بھی پوچھا اور میں نے بھی جواب دیے۔ پھر کہنے لگا تم نے ان کے احوال اس طرح بیان کیے ہیں گویا ان کو میرے سامنے اٹھایا ہے۔ اتنا کہہ کر چلا گیا۔

باغ اور محل

مسعودی کہتے ہیں۔ قاہر نے مونس اور اس کے دوستوں سے بہت سامان لیا ہوا تھا۔ جب وہ معزول ہوا اور اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھر وادی گئی تو وہ مال انہوں نے اس سے طلب کیا مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اسے طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کیا گیا۔ لیکن اس نے اقرار نہ کیا۔ آخر الراضی باللہ نے اسے بلا کر کہا لشکر مال کا مطالبہ کر رہا ہے اور میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس جو مال ہے وہ اب تمہارے تو کسی کام کا بھی نہیں پس ہمیں بتلا دو۔ قاہر نے کہا اب تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں بتلا دیتا ہوں۔ وہ مال فلاں باغ میں مدفون ہے۔ (قاہر نے دور دور سے پودے منگا کر ایک باغ لگوایا تھا اور اس میں ایک محل بنوایا تھا۔) اس میں سے کھدوا کر نکلو۔ الراضی باللہ خود اس باغ اور محل پر فریفتہ تھا۔ کہنے لگا آخر اس باغ میں وہ مال کس جگہ مدفون ہے۔ قاہر بولا میری آنکھیں ہیں نہیں جو میں جاؤں اور دیکھ کر کہے جگہ بتا دوں۔ تم باغ کو کھدو اور مال مل جائے گا۔ الراضی نے باغ اور محل کی بنیادیں تک کھدو اور اسیں مگر مال کا نام و نشان تک نہ ملا۔ الراضی نے کہا اب بتاؤ مال

کہاں ہے؟ قاہر نے کہا میرے پاس مال کہاں سے آیا؟ یہ حیلہ تو میں نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تم باغ میں بیٹھ کر عیش و عشرت نہ کر سکو۔ راضی یہ بات سن کر شرمندہ ہوا اور اسے قید کروادیا۔ آخر 333 ہجری کے بعد رہا کر دیا۔

### گھر میں بند

ایک دن کا ذکر ہے۔ یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے مستغنی کے زمانہ خلافت میں جامع مسجد منصور میں نمازیوں سے کہہ رہا تھا خدا کیلئے مجھے کچھ بتادو۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں اور یہ باتیں اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ خلیفہ کو لوگ برا کہیں۔ اس دن سے اسے گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا یہاں تک کہ جمادی الاولیٰ 339 ہجری میں تریپن سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے چار بیٹے عبد العزیز، عبد العزیز، عبد العزیز، عبد العزیز چھوڑے۔ اس کے زمانہ میں ہی طحاوی شیخ الحنفیہ، ابن درید، ابو ہاشم بن جہان، وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے وفات پائی۔

## الراضی باللہ

الراضی باللہ ابو العباس محمد بن مقتدر بن معتضد بن طلحہ بن متوکل 297 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ام ولد رومیہ تھی جس کا نام ظلم تھا۔ جس روز قاہر معزول ہوا ہے اسی روز اس سے بیعت لی گئی۔ تخت پر بیٹھتے ہی ابن مقلد کو حکم دیا قاہر کے تمام غیوب ایک جگہ لکھ کر لوگوں کو سنا دے۔

### مجموسیوں سے جوڑ

اسی سال یعنی 321 ہجری میں مرداوتج جو قبیلہ ذیلیم کا سرگروہ تھا، اصفہان میں مر گیا۔ اس کی حکومت خوب پھیلی اور مشہور تھا۔ یہ بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور وہ پوشیدہ طور پر مجموعیوں سے ملا ہوا ہے۔ یہ کہا کرتا تھا۔ میں عربوں کی سلطنت کو تباہ کر کے از سر نو عجمیوں کی سلطنت آباد کروں گا۔

### جھنڈ اور خلعت

اسی سال علی بن بویہ نے راضی کو کہلا بھیجا جس شہر میں قابض ہو گیا ہوں وہ مجھے دس لاکھ

درہم سالانہ کے عوض جاگیر میں دیئے جائیں۔ اس پر راضی نے اس کو ایک جھنڈا اور ایک خلعت بیجم۔ بعد ازاں ابن بوہان اس کو بیچنے میں دیر کرتا رہا۔

### مورثِ اعلیٰ

اسی سال مہدی حاکم مغرب مر گیا۔ اس کی مدت سلطنت پچیس برس تھی۔ یہ شخص خلفائے مصر کا جنہیں جاہل لوگ فاطمی کہتے ہیں، مورثِ اعلیٰ تھا۔ دراصل اس کا دادا مجوسی تھا اور اس نے اپنے آپ کو علوی مشہور کر رکھا تھا۔

### اولادِ اتباع میں

قاضی ابو بکر باقلانی کہتے ہیں۔ مہدی کا دادا مجوسی تھا اور اس نے مغرب میں مشہور کر دیا میں علوی ہوں۔ لیکن علمائے نسب کو اس کے اس دعوے سے انکار تھا اور ہے اور رہے گا۔ اصل میں یہ فرقہ باطنیہ خبیثہ سے تھا۔ اسلام علماء اور فقہاء کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا تا کہ آسانی سے لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ اس کی اولاد بھی اس کے قدم بقدم چلتی تھی۔ شراب خوری اور زنا کاری کو حلال کر دیا۔ رخص کو پھیلایا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو القاسم محمد ملقب بہ القاسم بامر اللہ ابو القاسم محمد بادشاہ ہوا۔

### لاشِ سولی پر

اسی سال محمد بن علی شلمغانی معروف بامین ابی غراقرظ ظاہر ہوا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لیکن اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے اور بھی دوست قتل ہوئے۔

اسی سال ابو جعفر شومی حاجب نے انتقال کیا۔ اس کی عمر ایک سو چالیس سال کی تھی اور ابھی تک اس کے حواس بالکل درست تھے۔ اسی سال سے بغداد والوں کا حج 327 ہجری تک

بند رہا۔

### حاکم مشرقین

323 ہجری میں راضی باللہ کو کچھ اطمینان ہوا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں ابو الفضل

اور ابو جعفر کو مشرق اور مغرب کا حاکم بنا دیا۔

محضر پر دستخط

اسی سال ابن شیبوذ کا مشہور واقعہ ہوا اور قرأت شاذ سے اس کو توبہ کرائی گئی اور وزیر ابو علی بن مقلہ کے سامنے اس سے محضر (دستاویز) پر دستخط کرائے گئے۔

دن کو اندھیرا

اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ میں بغداد میں نہایت تند و تیز آندھی آئی اور عصر سے مغرب تک بالکل اندھیرا چھایا رہا۔

اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں ایک رات کثرت سے تارے ٹوٹتے رہے اور ایسی کثرت ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا گیا تھا۔

نام کا خلیفہ

324 ہجری میں محمد بن رائق امیر و اسط گرد و نواح کے ملک پر قابض ہو گیا اور وزارت و دفاتر وغیرہ سب اس کے پاس چلے گئے۔ سب مال اسی کے پاس جانے لگا۔ بیت المال ٹوٹ گئے اور راضی صرف نام کا خلیفہ رہ گیا۔

صاحب اندلس

345 ہجری میں اس سے بھی زیادہ غلغلہ واقع ہوا اور ملک کے بعض حصوں پر یا خارجی حکمران ہو گئے یا ایسے حکمران تھے جو ملک کے خزانے میں مال ہی نہیں بھیجتے تھے اور اس کے گرد و نواح کا تھوڑا سا علاقہ رہ گیا اور اس پر بھی ابن رائق کا ہاتھ تھا۔ جب دولت عباسیہ کا صرف نام ہی نام رہ گیا اور ملک پر قرامطہ اور مبتدعیوں کا قبضہ ہو گیا تو امیر عبدالرحمن بن محمد اموی مروانی صاحب اندلس کی بھی ہمت بڑھی اور کہنے لگا میں خلافت کے سب سے زیادہ لائق ہوں۔ اس نے اپنا لقب امیر المؤمنین الناصر لدین اللہ رکھا اور اندلس کے اکثر حصہ پر قابض ہو گیا اور یہ صاحب بیعت جہاد کرنے والا اور خوش سیرت تھا۔ اس نے بہت سے باغیوں کی جڑ کاٹ ڈالی۔ اس وقت دنیا میں تین شخص امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب تھے۔ عباسی بغداد میں یہ عبدالرحمن اندلس اور مہدی کاذب قیروان میں۔

امیر الامراء

326 ہجری میں بحکم علی ابن رائق سے باغی ہو گیا اور اس پر غالب آ گیا۔ ابن رائق مارے خوف کے مارے کہیں چھپ گیا اور بحکم بغداد میں داخل ہو گیا۔ راضی نے اس کی بڑی عزت کی اور امیر الامراء کا لقب دیکر بغداد اور خراسان کی امارت اس کے سپرد کر دی۔

حج پر ٹیکس

327 ہجری میں ابوعلی عمر بن یحییٰ علوی نے اپنے دوست قرامطی کو لکھا تم حاجیوں کو حج کی اجازت دیدو اور میں تمہیں پانچ دینار محصول دے دوں گا۔ اس نے اجازت دیدی اور لوگوں نے طینان کے ساتھ حج کیا۔ یہ پہلا ہی موقعہ تھا حاجیوں کو حج کے لیے ٹیکس ادا کرنا پڑا۔

دجلہ کی طغیانی

328 ہجری میں دجلہ کا پانی انہیں گزرتک چڑھ گیا اور بغداد کے بہت سے مکانات گر پڑے اور کئی جانیں تلف ہو گئیں۔

راضی کی وفات

329 ہجری میں راضی بیمار ہو گیا اور ماہ ربیع الآخر میں ساڑھے آٹیس برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔

راضی جو انمزد کریم ادیب شاعر اور فصیح ن تھا۔ علماء کو دوست رکھتا تھا۔ اس کے اشعار مدون ہیں۔ حدیث لغوی وغیرہ سے سنی تھی۔

قواعد مرتب کیے

خطیب کہتے ہیں۔ راضی میں بہت سے فضائل تھے۔ مختصر یہ کہ وہ آخری خلیفہ تھا جس کے اشعار مدون ہیں اور یہ آخری خلیفہ تھا جس نے لشکر اور مالوں کے قواعد بنائے تھے اور یہ آخری خلیفہ تھا جس نے جمعہ کے روز خطبہ پڑھا اور یہ آخری خلیفہ تھا جو اپنے وزراء اور ندماء کے ساتھ بیٹھا۔ اس کے انعام اور کام سب خلفائے متقدمین کی طرح تھے اور یہ آخری خلیفہ تھا جس نے متقدمین کا سالہاس پہن کر سفر کیا۔ اس کے اشعار سے یہ ذیل کے اشعار بھی ہیں:

كُلُّ مَنْفَسٍ إِلَى كَعْبٍ      كُلُّ أَمْرٍ إِلَى حَنْدَرٍ

ترجمہ: ہر صفائی کا انجام کدورت ہے اور ہر ایک کام کا انجام خوف ہے  
وَمَصِيرُ الشَّبَابِ لِمَمُوتٍ فِيهِ أَوْ الْكِبَرِ  
ترجمہ: اور جوانی کا انجام یا موت ہے یا بڑھاپا۔

ذُرُّ ذُرِّ الْمَشِيبِ مَنْ  
وَأَعْظَى يَنْذُرُ الْبَشَرِ  
ترجمہ: بڑھاپا کیسا ہی اچھا واعظ ہے جو آدمی کو ڈراتا ہے۔

أَيُّهَا الْأَمَلُ الَّذِي  
تَأَهُ فِي لُحَّةِ الْعَذْرِ  
ترجمہ: اے امید کرنے والے اور دھوکے کی موجوں میں حیران (کھڑے ہوئے)  
أَيْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا  
ذَهَبَ الشَّخْصُ وَالْآثَرُ  
ترجمہ: ہم سے پہلے (جو تھے) کہاں گئے۔ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔

رَبِّ فَاغْفِرْ خَطِيئَتِي  
أَنْتَ يَا خَيْرُ مَنْ غَفَرَ  
ترجمہ: اے تمام بخشنے والوں سے بہتر اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔

### کیا دعا کروں؟

ابوالحسن ابن زرقویہ اسمعیل نطنزی سے روایت کرتے ہیں۔ فطر کی رات مجھے راضی نے بلایا۔ جب میں گیا تو بولا اے اسمعیل میں نے کل لوگوں کو نماز پڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ بتاؤ جب میں اپنے آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں تو کیا کہوں؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا آپ یہ کہئے گا۔ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. (پ 26 سورہ احقاف آیت 15) ترجمہ: اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان محمد مبشر سیالوی) راضی نے کہا یہ دعا میرے لیے کافی ہے۔ پھر چار سو دینار مجھے انعام دیئے اور یہ مال ایک غلام کو دیکر ساتھ کر دیا۔

عہد راضی میں یہ علماء کے کرام فوت ہوئے:

نفظویہ قاری ابن مجاہد، ابن کاس حنفی، ابن ابی حاتم، مبرمان، ابن عبدیہ صاحب العقد الفرید، صطخری، شیخ الشافعیہ، ابن شہبوذ، ابوبکر انباری وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

## المتقی للہ

المتقی للہ ابو اہلق ابراہیم بن مقتدر بن معتضد بن موفق طلحہ بن متوکل۔ یہ اپنے بھائی راضی کی وفات کے بعد چونتیس برس کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس کی والدہ لونڈی تھی جس کا نام غلوب تھا۔ متقی بہت روزہ دار اور عبادت گزار تھا۔ اپنی کنیزوں سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کرتا تھا کہا کرتا تھا قرآن مجید کے علاوہ مجھے کسی مصاحب کی ضرورت نہیں۔ کبھی نہیں بھی نہیں پی۔ متقی اصل میں برائے نام خلیفہ تھا کیونکہ سلطنت کے کاروبار ابن عبداللہ احمد بن علی کو فی کاتب بحکم کے ہاتھ میں تھے۔ اس کی خلافت کے پہلے سال ہی وہ بزرگنبد جو مدینہ منصور میں تھا اور بغداد کا تاج اور بنی عباس کی یادگار سمجھا جاتا تھا، گر پڑا۔ اس گنبد کو منصور نے بنوایا تھا۔ اس کی بلندی اسی گز تھی اور اس کے نیچے جو ایوان تھا وہ بیس گز مربع رقبہ میں تھا۔ اس پر ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ جس طرف سے کوئی دشمن آنے والا ہوتا تھا اس کا منہ اس طرف پھر جایا کرتا تھا۔ یہ گنبد رات کے وقت بجلی کی گرج اور کڑک اور بارش کے صدے سے گر پڑا تھا۔ اسی سال بحکم ترکی قتل ہو گیا اور اس کی جگہ کورتلین دیلی امیر الامراء مقرر ہوا۔ متقی نے بحکم کا تمام مال جو بغداد میں تھا اور وہ دس لاکھ دینار سے بھی زیادہ تھا ضبط کر لیا۔

## ابن رائق

اسی سال ابن رائق نے بغاوت کی۔ کورتلین اس سے لڑنے کے لیے نکلا۔ مگر وہ شکست کھا کر کہیں چھپ گیا اور اس کی جگہ امیر الامراء ابن رائق بنایا گیا۔

مردار کھانا پڑا

330 ہجری میں بغداد کے اندر اس قدر گرانی ہوئی کہ گندم کا ایک کر (بہتر کلو) تین سو سولہ دینار میں بک گیا۔ لوگوں نے مردار کھا کر گزارہ کیا۔ ایسا قحط بغداد میں اس سے قبل کبھی نہیں پڑا تھا۔

## بچاؤ کی خاطر

اسی سال ابوالحسن علی بن محمد یزیدی باغی ہوا۔ خلیفہ اور رائق دونوں اس سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مگر دونوں کو شکست ہوئی اور بھاگ کر موصل میں چلے گئے۔ دار الخلافہ بغداد خوب لوٹا گیا۔ جب خلیفہ تکریت میں گیا تو وہاں سیف الدولہ ابوالحسن علی بن عبداللہ بن حمدان اور اس کے بھائی حسن بن حمدان سے ملاقات ہوئی۔ وہیں اچانک ابن رائق قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ نے اس کی جگہ حسن بن حمدان کو مقرر کر لیا اور ناصر الدولہ اس کا لقب رکھ دیا اور اس کے بھائی کو خلعت دے کر اس کا لقب سیف الدولہ رکھا۔ پھر ان دونوں کو لے کر بغداد میں آیا۔ یزیدی وہاں سے بھاگ کر واسط میں چلا گیا۔ پھر ذوالقعدہ میں خبر ملی۔ یزیدی بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس خبر سے لوگوں میں بڑا اضطراب پیدا ہو گیا اور شہر کے معزز لوگ بچاؤ کی خاطر نکل گئے۔ خلیفہ ناصر الدولہ کو ساتھ لے کر نکلا اور سیف الدولہ یزیدی سے لڑنے کے لیے نکلا۔ مدائن کے قریب ان دونوں میں خونریزی لڑائی ہوئی۔ جس میں یزیدی کو شکست ہوئی اور وہ واسط کی طرف بھاگا۔ سیف الدولہ نے بھی اس کا پیچھا کیا اور اس کو واسط سے بھگا دیا۔ وہ وہاں سے بصرہ کی طرف بھاگ گیا۔

## منتقش صورت

331 ہجری میں عیسائیوں نے ارزن، میا، فارس اور نصیبین پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے باشندوں کو قتل اور کچھ کو قید کیا۔ پھر انہوں نے وہ رومال مانگا جو رعی کے گرجا میں تھا اور اس کی نسبت عیسائیوں کا خیال تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا منہ مبارک اس سے پونچھا تھا اور آپ کی صورت اس میں منتقش ہو گئی تھی۔ وہ رومال اس شرط سے دیا گیا کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے تمام قیدی رہا کر دیئے اور ان کو وہ رومال دیدیا گیا تو زون سے مقابلہ

اس سال واسط کے امراء نے سازش کر کے سیف الدولہ پر چڑھائی کر دی۔ سیف الدولہ خوف سے بغداد کی طرف بھاگا۔ ادھر اس کا بھائی ناصر الدولہ اپنے بھائی کے بھاگ جانے کے باعث موصل پہنچا تو زون نے اس موقع کو غنیمت جان کر بغداد پر چڑھائی کی۔



سیف الدولہ بھاگ کر موصل جا پہنچا۔ تو زون ماہ رمضان میں بغداد میں داخل ہوا۔ متقی نے اسے خلعت دی اور اس کو امیر الامراء مقرر کر دیا۔ کچھ روز کے بعد متقی اور تو زون کے درمیان ناچاقی پیدا ہو گئی۔ تو زون نے ابو جعفر بن شیرزاد کو واسط سے بغداد بلا لیا۔ اس نے آ کر بغداد کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور متقی نے اس سے مقابلہ کرنے کے لئے ابن محمد ان کو لکھا۔ وہ ایک جبار لشکر لے کر آیا۔ مگر ابن شیرزاد کہیں چھپ گیا۔ متقی اپنے اہل و عیال کو لیکر تکریت میں چلا گیا۔ ناصر الدولہ عربوں اور کردیوں کا لشکر کثیر لیکر تو زون کے مقابلے کے لیے نکلا۔ بمقام عکبراء دونوں آپس میں ٹکرائے مگر ابن محمد ان کو شکست ہوئی اور وہ اور متقی دونوں موصل کی طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد پھر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا جس میں پھر ابن محمد ان کو شکست ہوئی اور وہ اور خلیفہ نصیبین کی طرف بھاگ گئے۔ خلیفہ نے اشید والی مصر کو مدد کے لیے لکھا۔ مگر پھر بنی حمدان کچھ تنگدل اور ست سے ہو گئے۔ لاچار خلیفہ نے تو زون کو صلح کیلئے لکھ دیا۔ اس نے مان لیا اور عہد دیمان اور حلف ہو گئے۔ ادھر اشید بھی آ پہنچا اور رتہ میں متقی سے ملا۔ اسے خلیفہ کی صلح کا علم ہو گیا تھا۔ کہنے لگا اے امیر میں آپ کا غلام اور غلام کا بیٹا ہوں۔ ترکوں کی شرارت اور غدر آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے۔ آپ ان کے داؤ میں نہ آئیں اور میرے ساتھ مصر میں چلیں اور امن سے حکومت کریں۔ خلیفہ نے اس بات کو نہ مانا اور اشید پھر مصر لوٹ گیا۔

### تغظیم کے بعد

4 محرم 333 ہجری کو متقی رتہ سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر تو زون اس کی پیش قدمی کے لیے نکلا۔ انبار اور رہیت کے درمیان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو زون خلیفہ کو دیکھ کر پایادہ ہو گیا اور آداب بجالایا۔ متقی نے لاکھ اسے سوار ہونے کو کہا مگر اس نے نہ مانا۔ اور اس خیمہ تک اسی طرح گیا جو خلیفہ کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی خلیفہ کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں سلیمیاں پھر وادی گئیں اور بعد ازاں اسے بغداد میں بھیج دیا گیا اور اس سے مہر چادر اور چھتری لے لی۔ پھر تو زون نے عبداللہ مکنفی کو بلا کر اس سے بیعت کر لی اور اس کا لقب المکنفی باللہ رکھا۔ پھر متقی نے بھی اس سے بیعت کر لی اور اپنے آپ کو معزول کر دیا۔ یہ واقعہ 4 محرم کو پیش آیا۔ بعض کہتے ہیں ماہ صفر میں پیش آیا۔

کہتے ہیں اس واقعہ کی خبر جب قاہرہ کو پہنچی تو اس نے یہ اشعار پڑھے:

صِرْتُ وَإِبْرَاهِيمَ شَيْخِي عَمِّي لَا بُدَّ لِلشَّيْخَيْنِ مِنْ مُصَدِّرٍ  
ترجمہ: میں اور ابراہیم دونوں بوڑھے اندھے ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کیلئے کوئی مصدر بھی  
ہونا چاہئے۔

مَا ذَامَ تُوَزُونَ لَهٗ امْرَاةٌ مَطَاعَةٌ فَالْمَيْلُ فِي الْمَجْمَرِ

ترجمہ: تو زون ہمیشہ امیر مطاع رہا اور اس کی سلائی ہمیشہ آگ میں رہی ہے۔  
توزون اس واقعہ کے ایک سال بعد مر گیا۔ بیچارے متقی کو جزیرہ سندھ کے بالنگاہیل  
ایک جزیرہ میں قید کر دیا گیا اور وہاں وہ پچیس برس تک اسی مصیبت میں رہا۔ آخر ماہ شعبان  
میں 357 ہجری کو راہی ملک بقاء ہو گیا۔

### چراغ جلا کر

متقی کے عہد خلافت میں ہی ایک حموی چور ہوا جسے ابن شیرزاد نے بغداد پر غالب ہونے  
کے وقت پچیس ہزار دینار ماہوار لینے پر چوری کی اجازت دے دی تھی۔ یہ شخص لوگوں کے گھر  
مشعلیں اور چراغ جلا کر لوٹ لیا کرتا تھا۔ ان دنوں اسکورج دیلمی بغداد کا کوتوال تھا جس کو ان  
بد معاشوں نے قتل کر دیا تھا۔

متقی کے عہد خلافت میں ذیل کے علماء فوت ہوئے:

ابو یعقوب نہر جو ری مرید جنید بغدادی، قاضی ابو عبد اللہ محلی، ابو بکر فرغانی، صوفی، حافظ  
ابو العباس بن عقدہ اور ابن ولاد نحوی وغیر ہم۔

### خدا کا کرنا

کہتے ہیں جب قاہرہ کو متقی کی آنکھیں نکالی جانے کی خبر ملی تو کہنے لگا ہم دو ہو گئے ہیں  
تیسرا بھی ہونا چاہئے، چنانچہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مستغنی کی بھی آنکھیں نکلا دی گئیں۔

## المستغنی باللہ

المستغنی باللہ ابو القاسم عبد اللہ بن مستغنی بن معتضد۔ اس کی والدہ ام ولد تھی جس کا نام ملح  
الناس تھا۔ متقی کے معزول ہونے کے بعد صفر 333 ہجری میں اکیالیس سال کی عمر میں تخت  
نشین ہوا۔ تو زون اسی کے عہد خلافت میں مرا اور اس کے بیٹے ابو جعفر بن شیرزاد کو سلطنت کی

ہوس پیدا ہوگئی اور لشکر سے اپنے لیے عہد لے لیا۔ خلیفہ نے یہ دیکھ کر اسے خلعت عطا کی۔ پھر احمد بن بویہ بغداد میں آیا۔ ابن شیرزاد اس کے خوف سے کہیں چھپ گیا۔ ابن بویہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے اسے بھی خلعت عطا کی اور معز الدولہ کا خطاب بھی دیا اور اس کے بھائی علی کو عماد الدولہ اور تیسرے بھائی کو بھی خطاب رکن الدولہ عطا کیا۔ ان کے یہ خطاب سکوں پر نقش بھی کرائے گئے۔

### کشتی گیر اور تیراکی

مستکفی نے اپنا لقب ”امام الحق“ رکھا اور ایسے ہی سکوں پر بھی نقش کرنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد معز الدولہ نے اس قدر زور پکڑا کہ خلیفہ کے لیے پانچ ہزار درہم روز کی تنخواہ مقرر کر کے نظر بند کر دیا۔ دیلمیوں سے یہ پہلا شخص ہے جو عراق کا بادشاہ ہوا اور اسی نے سب سے پہلے بغداد میں مُحصَل خراج مقرر کئے اور کشتی گروں اور تیراکیوں کو برا بھونٹا کیا۔ پس بغداد کے نوجوان کشتی گیری اور تیراکی میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ تیراکی کے ہاتھ پر آنگیٹھی ہوتی تھی اور اس پر ہنڈیا ہوتی تھی اور اس وقت تک تیرتا رہتا تھا جب تک کہ گوشت بھن کر تیار نہ ہو جاتا تھا۔

### ہاتھ بڑھایا

چند روز کے بعد معز الدولہ مستکفی سے بدگمان ہو گیا اور جمادی الآخر 334 ہجری میں خلیفہ کے پاس آیا اور اپنے مرتبے پر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبوں پر کھڑے تھے۔ دیلم سے دو شخص آگے بڑھے۔ خلیفہ نے اس خیال سے کہ شاید یہ ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہیں اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر گر لیا اور اسی کے عمامہ سے اس کی مشکیں کس دیں۔

### حرم لوٹ لیا

بعد ازاں دیلمیوں نے دار الخلافہ پر ہجوم کر لیا اور دار الخلافہ اور حرم کو لوٹ لیا اور ایک تیکا بھی باقی نہ چھوڑا۔ بعد ازاں معز الدولہ اپنے گھر میں چلا آیا۔ دیلمی مستکفی کو پیدل اس کے پاس لے گئے۔ وہاں اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں اور اسے معزول کر دیا گیا۔ اس نے

صرف ایک سال چار ماہ حکومت کی۔ پھر فضل بن مقتدر سے لوگوں نے بیعت کر لی اور مستغنی نے بھی خلافت اس کے سپرد کر کے خود اس سے بیعت کر لی۔ پھر اسے قید کر دیا گیا اور وہیں قید میں چھالیس برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔  
نوٹ: یہ اہل تشیع کی طرف مائل تھا۔

## المطیع لله

المطیع لله ابو القاسم الفضل بن مقتدر بن معتمد۔ اس کی والدہ ام ولد تھی جس کا نام مشغلہ تھا۔ یہ 301 ہجری میں پیدا ہوا۔ معز الدولہ نے اس کے لیے سو دینار روزانہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اس کی خلافت کے شروع سال میں ہی بغداد میں اس قدر گرانی ہوئی کہ لوگوں نے مردار اور گوبر کھایا۔ بہت سے لوگ راستوں میں مر گئے اور کتوں نے ان کا گوشت کھایا۔ باغ اور زمینیں روٹیوں کے عوض میں بیچ ڈالی گئیں۔ غریب لوگ اپنے بچوں کو بھون کر کھا گئے۔ معز الدولہ کے لیے گندم کا ایک کربیس ہزار درہم میں خرید گیا۔

### بطور قیدی

اس سال معز الدولہ اور ناصر الدولہ بن حمدان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ معز الدولہ میدان جنگ میں گیا تو مطیع بطور قیدی اس کے ساتھ تھا۔

اسی سال اشید والی مصر مر گیا۔ اس کا نام محمد بن مطیع فرغانی تھا۔ اشید کے معنی شہنشاہ کے ہیں۔ یہ بادشاہان فرغانہ کا لقب تھا جیسا کہ اصہم بادشاہان طبرستان کا اور صول بادشاہان جرجان کا اور خاقان شاہان ترک کا انشین شاہان اشروسہ کا سامان شاہان سمرقند کا لقب تھا۔ اشید نہایت شجاع اور باہمت شخص تھا۔ قاہر سے پہلے مصر کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ اس کے آٹھ ہزار غلام تھے۔ کافور کا آقا بھی یہی تھا۔

اسی سال القاسم العبدی والی مغرب فوت ہوا اور اس کے بعد منصور باللہ اسمعیل حاکم ہوا۔ یہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر زندقہ اور ملعون تھا۔ انبیاء علیہم السلام کو کھلم کھلا گالیاں بکتا تھا اور منادی کرایا کرتا تھا کہ غار اور غار والوں پر لعنت کرو (نعوذ باللہ من ذالک) اس نے بہت سے علماء کو قتل کر دیا تھا۔

335 ہجری میں معز الدولہ نے درخواست کی کہ اس کے بھائی علی بن بویہ الملقب بہ عماد الدولہ کو کاروبار سلطنت میں اس کے ساتھ شریک کر دیا جائے اور اس کے مرنے کے بعد ہی اس کا جانشین ہو۔ مطیع نے تو اس بات کو قبول کر لیا۔ لیکن قضاء سے عماد الدولہ اسی سال فوت ہو گیا اور معز الدولہ نے اس کی جگہ اس کے بھائی رکن الدولہ ولد عضد الدولہ کو مقرر کر دیا۔

### چاندی کا حلقہ

339 ہجری میں حجر اسود پھر اپنی جگہ کعبہ شریف میں نصب کر دیا گیا اور اس کے ارد گرد ایک چاندی کا حلقہ لگا دیا گیا جس کا وزن تین ہزار سات سو اور نصف درہم تھا۔

### تھوڑی سی سیاہی

محمد بن نافع خزاعی کہتے ہیں۔ میں نے حجر اسود کو جب وہ اکھڑا ہوا تھا دیکھا اس کے سرے پر تھوڑی سی سیاہی تھی باقی سب سفید تھا اور طول ایک گز تھا۔

### میں جبرائیل ہوں

341 ہجری میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو تاسخ کا قائل تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح مجھ میں منتقل ہو گئی ہے اور اس کی عورت نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح مجھ میں منتقل ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک اور آدمی جو کہتا تھا میں جبرائیل ہوں۔ لوگوں نے ان کو مارا پینا مگر پھر اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت کرام سے منسوب کرتے تھے لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔ معز الدولہ چونکہ اہل بیت کی طرف مائل تھا اس نے ان کو رہا کر دیا اور یہ بات اس کے افعال ملعونہ سے ایک تھی۔

### قاہر کی بنیاد

اسی سال منصور عبیدی والی مغرب اپنے آباد کردہ شہر میں مرا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا سعد حاکم ہوا۔ اس نے اپنا لقب المعز لدین اللہ رکھا۔ قاہرہ کی بنیاد اسی نے رکھی۔ منصور ایک نیک طینت شخص تھا۔ تمام بری باتوں اور مظالم کو رفع کر دیا اس لیے لوگ اس کے گرویدہ تھے۔ اس کا بیٹا بھی نیک سیرت شخص تھا۔ تمام ملک مغرب اس کے قبضہ میں آ گیا تھا۔

343 ہجری میں والی خزاسان نے اپنے ملک میں مطیع کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اس سے

قبل وہاں اس کے نام پر خطبہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ مطیع نے اس کو خلعت اور جھنڈا عطا کیا۔  
مکان گر گئے

344 ہجری میں مصر میں سخت زلزلہ آیا اور تین گھنٹے تک رہا۔ جس سے بہت سے مکان گر گئے۔ لوگوں نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کیں۔

346 ہجری میں سمندر اسی گز اتر گیا اور کئی پہاڑ اور جزیرے سامنے آ گئے اور بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں جو کبھی نہ دیکھی گئی تھیں۔

### شہر حلوان

”رے“ اور اس کے گرد و نواح میں سخت زلزلے آئے۔ شہر طالقان پورے کا پورا زمین میں دھنس گیا۔ صرف تین آدمی بچ گئے۔ ری کے اس شہر کے علاوہ بھی تقریباً ایک سو پچاس گاؤں زمین میں دھنس گئے۔ شہر حلوان کا اکثر حصہ زمین میں دھنس گیا۔ زمین سے مردوں کی ہڈیاں برآمد ہوئیں اور کئی چشمے جاری ہو گئے۔ ری میں ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ایک گاؤں ہوا میں معلق ہو گیا اور نصف یوم کے بعد زمین میں دھنس گیا۔ کئی جگہ سے زمین پھٹ گئی اور وہاں سے نہایت بدبودار پانی اور دھواں نکلا۔ ابن جوزی سے ایسے ہی منقول ہے۔

### نڈی دل

347 ہجری میں قم، حلوان اور جبال میں پھر زلزلہ آیا اور ہزاروں آدمی تباہ ہوئے۔ بعد ازاں نڈی دل آیا اور تمام فصلوں، غلوں اور درختوں کو صاف کر گیا۔

350 ہجری میں معز الدولہ نے بغداد میں ایک نہایت عالی شان گھر بنوایا۔ اس کی بنیادیں چھتیس گز نیچے رکھوائی تھیں۔

اسی سال ابو العباس عبداللہ بن حسن بن ابی شوارب قاضی مقرر ہوئے۔ جب وہ خلعت لے کر معز الدولہ کے گھر سے نکلے تو ان کے سامنے باجے بجائے گئے اور اردل میں بہت سی فوج تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا دولاکھ درہم سالانہ معز الدولہ کے خزانہ میں پہنچایا کریں گے اور اس بات کا اقرار نامہ بھی لکھ دیا۔ مطیع ان کی تقرری کو تو روک نہ سکا، صرف یہ حکم دیا کہ ابو العباس کبھی میرے سامنے نہ آئے۔

اسی سال معز الدولہ نے بغداد کے کوتوالوں اور فضیوں کو پٹوایا تھا۔

### جزیرہ اقریطش

اسی سال رومیوں نے جزیرہ اقریطش کو مسلمانوں سے فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے اسے 230 ہجری میں فتح کیا تھا۔

اسی سال الناصر لدین اللہ والی اندلس فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا الحاکم تخت پر بیٹھا۔

### جلاوطن

351 ہجری میں شیعوں نے بغداد کی مسجدوں کے دروازوں پر لکھوایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت ہو اور اس شخص پر جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا حق (یعنی باغ فدک) چھین لیا اور اس پر بھی جس نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے نانا کے ساتھ دفن نہ ہونے دیا اور اس شخص پر بھی جس نے ابوذر کو جلاوطن کر دیا۔ لوگوں نے رات کے وقت ان تمام الفاظ کو مٹا ڈالا۔ معز الدولہ نے پھر ارادہ کیا کہ پھر لکھوائے مگر اس کے وزیر مہلمی نے کہا اس کی جگہ صرف یہ لکھو دو امیر معاویہ پر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔

352 ہجری میں عاشورا کے روز معز الدولہ نے تمام بازار بند کر دیئے اور تانبائیوں کو روٹی پکانے سے منع کر دیا اور بازاروں میں قبے نصب کر کے ان پر ٹاٹ آویزاں کیے گئے اور عورتیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ماتم کناں بال کھولے ہوئے منہ پر ٹھانچے مارتے ہوئے شوارع عام پر نکلیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ یہ ذلیل حرکت کی گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پر رویا پینا گیا اور پھر یہ مکینہ حرکت آج تک چلی آرہی ہے۔

اسی سال میں ذوالحجہ کے موقع پر عید غدیر خم بڑی دھوم سے منائی گئی اور ڈھول وغیرہ بجائے گئے۔

### ملے ہوئے پہلو

اسی سال ارمن کے ایک سردار نے ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس دو آدمی بھیجے جو کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی عمریں پچیس سال تھی اور ان دونوں کے صرف پہلو ملے ہوئے تھے اور پیٹ دو تھے ناف بھی دو تھیں دو ہی معدے تھے۔ ان کی بھوک پیاس اور بول و

براز کا وقت بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ ہاتھ باز و رانیں اور پنڈلیاں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تھیں۔ ایک ان میں سے عورتوں کی طرف مائل تھا اور دوسرا لوٹڈیوں سے محبت رکھتا تھا۔ ان میں سے ایک زندہ رہا اور دوسرا مر گیا۔ ناصر الدولہ نے تمام طبیبوں کو جمع کیا کہ اس مردہ کو زندہ سے علیحدہ کر دیں مگر کوئی نہ کر سکا۔ آخر وہ زندہ بھی مردے کی بدبو سے بیمار ہو گیا اور مر گیا۔

### بڑا خیمہ

353 ہجری میں معز الدولہ کے لیے ایک بہت بڑا خیمہ بنایا گیا جس کے درمیان عمود کا

طول پچاس گز تھا۔

### زحمت نہ دی

354 ہجری میں معز الدولہ کی بہن فوت ہو گئی۔ مطیع تخت رواں پر اس کی تعزیت کے

لیے نکلا۔ معز الدولہ پیشوائی کے لیے نکلا اور مطیع کو تخت سے اترنے کی زحمت نہ کرنے دی اور کئی دفعہ آداب بجالا کر مطیع کو وہیں سے رخصت کر دیا۔

### شہر قیساریہ

اسی سال بادشاہ روم یعقوب نے مسلمانوں کے علاقہ کے قریب شہر قیساریہ آباد کیا تاکہ

ہر وقت لوٹ مار کر سکے۔

## معز الدولہ

356 ہجری میں معز الدولہ مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا بختیار مقرر ہوا۔ مطیع نے اس کا

لقب عز الدولہ رکھا۔

### تنخواہیں بند

357 ہجری میں قرامطہ دمشق پر قابض ہو گئے۔ مصر اور شام سے کوئی شخص بھی اس سال

جج نہ کر سکا۔ پھر انہوں نے مصر پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن فوراً عبیدیوں نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح اقالیم مغرب مصر اور عراق میں رافضیوں کی سلطنتیں بن گئیں اور یہ اس طرح ہوا جب کافور اشیدی والی مصر مر گیا تو مصر میں سخت بد نظمی پھیل گئی۔ لشکریوں کی تنخواہیں



بند ہو گئیں۔ چند آدمیوں نے معز کو خط لکھا کہ اپنا لشکر بھیجتا کہ مصر پر قبضہ کرے۔

اس نے اپنے سپہ سالار جوہر کی زیرِ کمان ایک لاکھ سوار روانہ کیے جنہوں نے جا کر مصر پر قبضہ کر لیا۔ اس نے قاہرہ میں رہائش اختیار کی اور وہیں معز کے لیے دارالامارت بنایا جو آج کل قصرین کے نام سے مشہور ہے۔ بنی عباس کا نام خطبہ سے نکلوا دیا اور سیاہ لباس کا پہننا موقوف کر دیا۔ خطیبوں کو سفید لباس پہنوائے اور حکم دیا خطبوں میں یہ الفاظ پڑھے جائیں۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَعَلَى فَاطِمَةَ الْبُتُولِ وَعَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطِ الرَّسُولِ وَصَلِّ عَلَى الْأَيْمَةِ اِبْنَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْزُ اللَّهُ.“ (یعنی اے اللہ تو رحمت فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر رحمت فرما اور حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ عنہا پر اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ سے ہیں اور امیر المؤمنین معز اللہ کے بزرگوں کے اماموں پر۔) یہ تمام واقعات ماہ شعبان 358 ہجری میں پیش آئے۔

### تکمیل تعمیر ازہر

رجب 358 ہجری میں اذان میں حَیِّ عَلِيٍّ خَيْرِ الْعَمَلِ زیادتی کی گئی اور جامع ازہر (مصر) کی بنیاد رکھی گئی جو رمضان 361 ہجری میں مکمل ہو گئی۔

359 ہجری میں عراق میں ایک بہت بڑا ستار ٹوٹا جس کے ٹوٹنے سے ایسی روشنی ہوئی جیسے سورج کی ہوتی ہے اور اس کے ٹوٹنے کے بعد ایسی سخت آواز آئی جیسے بجلی کڑکنے کی ہوتی ہے۔

360 ہجری میں جعفر بن فلاح کے حکم سے جو المعز کی طرف سے دمشق کا حاکم تھا حَیِّ عَلِيٍّ خَيْرِ الْعَمَلِ مؤذن نے اذان میں کہنا شروع کیا اور کسی کو اس کی اجازت نہ ہوئی۔

### تاوان

363 ہجری میں بختیار نے خلیفہ مطیع پر تاوان لگایا۔ مطیع نے کہا میرا تو صرف نام ہی خطبوں میں ہے۔ اگر کہتے ہو تو میں اس سے بھی دستبردار ہو جاتا ہوں مگر اس نے نہ مانا اور سختی کی۔ آخر خلیفہ نے اپنا تمام مال اسباب بیع کر اسے چار لاکھ درہم دیدیئے۔ خلیفہ سے تاوان لینے کی بات تمام لوگوں میں مشہور ہو گئی۔

## ٹھٹھاروں سے آگ

اسی سال بغداد میں عزالدولہ کا ایک غلام مارا گیا۔ وزیر ابوالفضل شیرازی نے ٹھٹھاروں سے آگ لیکر غریب اور مسکین آدمیوں کے محلہ میں پھینکوا دی جس سے کئی لاکھ مردان خدا جل گئے اور ہزار ہا مکانات راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ آخر اسی سال وزیر بھی مر گیا۔

## تابوت

اسی سال ماہ رمضان میں معزمصر میں آیا اور اس کے ساتھ اپنے آباؤ اجداد کے تابوت بھی تھے۔

363 ہجری میں مطبع نے ابوالحسن محمد بن ام شیبان ہاشمی کو قاضی مقرر کیا، حالانکہ وہ قضا سے انکار کرتے تھے اور ان سے اپنے لیے بہت سی شروط لکھوائیں۔ مختصر یہ کہ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی قضا کی انہیں کچھ بھی تنخواہ نہ ملے گی؛ نہ انہیں کوئی خلعت دی جائے گی اور نہ شرع کے مخالف کسی معاملہ میں ان سے سنارش ہی کی جائے گی۔ پھر ان کے نشی کے لیے تین سو درہم ماہوار اور فرضی کے لیے ایک سو اور خزانچی کے لیے چھ سو درہم ماہوار مقرر کر دیئے۔ پھر ان کے تقرر کا فرمان لکھا:

## حفاظت ملت و ذمہ

”یہ وہ عہد نامہ ہے جو اللہ کے بندے المطیع اللہ نے ابن محمد ہاشمی کے لیے لکھا ہے جبکہ انہیں مدینۃ الاسلام، مدینۃ المنصور، مدینۃ شرقیہ، کوفہ سنی فرات، واسط کرنی، طریق الضرات، دجلہ، طریق خراسان، حلوان، فرمیسین، دیار مصر، دیار ربیعہ، دیار بکر، موصل، حرین، یمن، دمشق، حمص، جند قسرین، عوام مصر، اسکندریہ، جند فلسطین، اردن اور ان کے مضافات پر قاضی بنایا ہے۔ ہم انہیں اس امر کا پابند کرتے ہیں وہ قاضی القضاات کا کام کریں گے اور حکام کے حالات معلوم کرتے رہیں گے۔ جس کا طریقہ اچھا دیکھیں گے اسے برقرار رکھیں گے اور بد طینت کو معزول کر دیں گے۔ ملت اور ذمہ کی حفاظت ایسے شخص کے سپرد کر دیں گے جو صاحب دیانت و امانت ہو، پرہیزگاری سے موصوف اور علم میں مشہور ہو، عقل سلیم رکھتا ہو، حلیم ہو، کپڑے میسے کچیلے نہ پہنتا ہو، اس کو سفید اور پاک لباس سے رغبت ہو، دل کا بھی صاف ہو اور معاملات دنیا

سے واقف ہو، سلامتی عقبیٰ اور مفسد باتوں سے باخبر ہو، خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہو، ہر بات میں کتاب اللہ کو مد نظر رکھتا ہو، ہر کام میں اسی کے مطابق حکم دے اور ہر معاملہ میں اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نصب العین بنائے۔ اجماع امت کی رعایت رکھے اور آئمہ مجتہدین کی تقلید کرے، جس بات میں قرآن، حدیث اور اجماع امت ثابت نہ ہو اس میں اپنے اجتہاد سے کام لے۔ متخاصمین کو ایک نظر سے دیکھے۔ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے۔“ غرض اسی طرح کی اور بہت سی باتیں لکھیں۔

### قاضی القضاة

مصنف کہتے ہیں۔ خلفائے متقدمین کا دستور یہ تھا۔ وہ دار الخلافہ میں ایک قاضی مقرر کرتے تھے جو تمام ممالک محروسہ کا قاضی ہوتا تھا۔ پھر یہی قاضی ہر ملک اور ہر شہر میں اپنی طرف سے قاضی مقرر کیا کرتا تھا اس لیے اس بڑے قاضی کو قاضی القضاة کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کسی کا یہ لقب نہیں ہوتا تھا اور اب تو حال یہ ہو گیا ہر شہر میں چار چار قاضی ہونے لگے اور ہر ایک ہی ان سے قاضی القضاة کے لقب سے ملقب، حالانکہ اس وقت کے قاضی القضاة کے ماتحت نائب آج کل کے قاضی القضاة کے ماتحتوں سے دُگنے ہوتے تھے۔ اس وقت کے قاضی القضاة آج کل کے سلاطین سے بڑھ کر با اختیار ہوتے تھے۔

### الطالع للہ کو سونپ دی؟

اسی سال یعنی 363 ہجری میں مطیع پرفانج گرا اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ عزالدولہ کے حاجب سبکتگین نے کہلا بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو معزول سمجھ کر اپنے سلطنت کا نظام اپنے بیٹے کو سونپ دے۔ مطیع نے ایسا ہی کیا، چنانچہ تیس ذیقعد 363 ہجری بروز بدھ کو الطالع للہ تخت پر بیٹھ گیا۔

مطیع نے اسی برس اور چند ماہ سلطنت کی۔ قاضی ابن ام شیبان نے اس کے خلع کا حکم دیا۔ خلع کے بعد اسے شیخ الفاضل سے ملقب کر دیا گیا۔

### سلطنت رافضیاں

ذہبی کہتے ہیں۔ مطیع اور اس کا بیٹا بی بیویہ کے باعث بہت کمزور رہے ہیں۔ بعد ازاں یہ

حالت اسی طرح رہی یہاں تک کہ جب مقتضی حاکم ہوا تو خلافت کی حالت کچھ سدھر گئی تھی۔ لیکن سلطنت رافضیاں بنی عبید مصر میں اس وقت زوروں پر تھے۔ ان کی یہ سلطنت عباسیوں کے مقابل تھی۔ مطیع اپنے بیٹے کو لے کر واسط چلا گیا اور محرم 364 ہجری میں وہیں فوت ہوا۔ ابن شاین کہتے ہیں جہاں تک میری تحقیق ہے، مطیع نے اپنی مرضی سے خلع کیا تھا۔

### جب دوست مرجائیں

خطیب نے مختلف لوگوں سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ جب کسی شخص کے دوست مرجاتے ہیں تو وہ پھر ذلیل ہو جاتا ہے۔

مطیع کے عہد خلافت میں یہ علماء فوت ہوئے:

خرقی شیخ الحدیث ابو بکر شبلی صوفی، ابن قاضی امام الشافعیہ، ابو رجاء اسوانی، ابو بکر صولی، بہیم بن کلیب شاشی، ابو طیب معلوکی، ابو جعفر نحاس نحوی، ابو نصر فارابی، ابو اسحاق مروزی امام الشافعیہ، ابو القاسم زجاجی نحوی، کرنی شیخ الحنفیہ، دینوری صاحب المجالس، ابو بکر ضعی، قاضی ابو القاسم تونخی، ابن حداد صاحب الفروع، ابو علی بن ابی ہریرہ من کبار الشافعیہ، ابو عمر زاہد، مسعودی صاحب مروج الذهب، ابن درستویہ، ابو علی طبری، فاکہی صاحب تاریخ مکہ، متنبی شاعر، ابن حبان صاحب الصحیح، ابن شعبان من آئمتہ المالکیہ، ابو علی قانی، ابو الفرج صاحب رغانی۔

### الطالع لله

الطالع اللہ ابو بکر عبدالکریم بن مطیع اس کی والدہ ام ولد تھی جس کا نام ہزار تھا۔ یہ اپنے والد کے معزول ہونے پر تینتالیس برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز ہی جلوس نکلا، خود گھوڑے پر سوار تھا۔ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ لشکر جلو میں تھا اور سبکتگین آگے آگے تھا۔ اگلے روز سبکتگین کو خلعت اور پرچم عطا کیا اور نصر الدولہ کا خطاب دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے نصر الدولہ، سبکتگین اور الطالع اللہ کے درمیان چپقلش شروع ہو گئی۔ نصر الدولہ نے ترکوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر ان دونوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔

اسی سال یعنی ماہ ذوالحجہ 363 ہجری میں حرین شریفین میں معزز عبیدی کے لیے خطبہ

پڑھا جانے لگا۔

## ناگوار گزرا

364 ہجری میں عزالدولہ کی مدد کرنے کیلئے سبکتگین کے مقابلے میں عزالدولہ بغداد میں آیا۔ مگر یہاں آ کر اسے بغداد اسیا پسند آیا وہ خود یہاں وجاہت حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گیا۔ تمام لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر عزالدولہ کے برخلاف بھڑکا دیا۔ وہ اپنے مکان میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ عضدالدولہ نے خود ہی طالع کی طرف سے پورے ملک میں فرمان جاری کر دیا عضدالدولہ نائب سلطنت مقرر ہو گیا ہے۔ الطالع کو یہ امر ناگوار گزرا اور دونوں کی بگاڑ تو تھی ہی پھر بیس جمادی الاولیٰ خطبوں سے بھی الطالع کا نام نکلوادیا گیا۔ مگر آخر اسی سال ماہ رجب میں پھر لکھوادیا گیا۔ اس کے بعد رافضیوں کا مصر، شام، مشرق و مغرب تمام ملکوں پر قبضہ ہو گیا۔ عید کی طرف سے نماز تراویح کو بند کرنے کی منادی کرادی گئی۔

365 ہجری میں رکن الدولہ بن بویہ نے اپنے مقبوضہ ممالک کو اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ چنانچہ اس نے فارس اور کرمان عضدالدولہ اور رے اور اصفہان مؤید الدولہ اور ہمدان دینور فخرالدولہ کو دیدیئے۔

## مجلس حکم

اسی سال ماہ رجب میں عزالدولہ کے دارالسلطان میں مجلس حکم منعقد ہوئی۔ قاضی القضاة ابن معرف حکم مقرر ہوئے کیونکہ عزالدولہ کی خواہش تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ان کے احکام کی تعمیل کیسے ہوتی ہے۔

## غلام کا غم

اسی سال عزالدولہ اور عضدالدولہ کے درمیان خفیف سی لڑائی ہوئی۔ عزالدولہ کا ایک ترکی غلام گرفتار ہو گیا جس سے اسے اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا رونا شروع کیا اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اجلاس میں بیٹھنا اپنے آپ پر حرام کر لیا۔ آخر نہایت عاجزی سے اس نے عضدالدولہ کو لکھا کہ وہ غلام واپس بھیج دیا جائے۔ لوگوں نے اس پر بہت مذاق اڑائے۔ لیکن اس نے ان کی کچھ پروا نہ کی اور اس غلام کے عوض دو لونڈیاں بھیجیں جن میں سے ایک کی قیمت ایک لاکھ دینار تک تھی اور ایلچی سے کہا اگر وہ اس

پر بھی نہ مانے تو بے تامل جو کچھ مانگے دے دینا کیونکہ میں نے ارادہ کر لیا ہے میں اس غلام کو واپس لے کر ہی رہوں گا۔ اگرچہ مجھے دنیا ہی نہ چھوڑنی پڑے۔ جب اپنی عضد الدولہ کے پاس گیا تو اس نے وہ غلام اسے واپس دیدیا۔

اسی سال کوفہ میں عز الدولہ کے نام کی بجائے عضد الدولہ کا نام خطبہ میں پڑھا گیا۔ اسی سال المعز لدین اللہ عبیدی والی مصر مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا اور اس نے اپنا لقب عزیز مقرر کیا۔ اس خاندان کا یہ پہلا بادشاہ تھا جو بطور میراث مصر کا حاکم ہوا۔  
366 ہجری میں المستنصر باللہ الحکم بن الناصر لدین اللہ اموی والی اندلس فوت ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا المؤمن باللہ ہشام تخت نشین ہوا۔

### خلعت پہنائی

367 ہجری میں عز الدولہ اور عضد الدولہ کے مابین لڑائی ہوئی جس میں عضد الدولہ کو فتح ہوئی عز الدولہ پکڑا گیا اور انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ طائع نے عضد الدولہ کو نائب السلطنت مقرر کیا اور خلعت پہنائی۔ جو اہرات سے جڑاؤ تاج اس کے سر پر رکھا۔ پڑکا باندھا اور نگن پہنائے گئے۔ اس کی کمر میں تلوار باندھی گئی اور اپنے ہاتھ سے دو جھنڈے عطا کیے۔ ایک بطور اعزاز امراء جو زور پھیل کارنگ تھا اور دوسرا بطور ولی عہدی کے جو نہری تھا اس سے پہلے کبھی کسی کو یہ دوسرا جھنڈا عطا نہیں کیا گیا تھا۔ پھر ایک ولی عہدی کا عہد نامہ لکھ کر اس کے رو برو ہی سنایا گیا۔ سب لوگ اس بات سے متعجب ہوئے کیونکہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ ولی عہد خلیفہ وقت کا بیٹا یا قرہبی رشتہ دار ہی ہوا کرتا تھا۔ جب عضد الدولہ نے وہ عہد نامہ لے لیا تو خلیفہ نے کہا یہ میرا ولی عہد ہے۔ اسی کے موافق عمل کرنا۔

368 ہجری میں طائع نے حکم دیا کہ عضد الدولہ کے دروازے پر صبح مغرب اور عشاء کے وقت نو تہیں بجائی جائیں اور خطبوں میں اس کا نام ہی پڑھا جائے۔

### تاج المملکت

369 ہجری میں عزیز والی مصر کا اپنی بغداد میں آیا اور کہا عضد الدولہ نے طائع سے کہا ہے میرے خطاب میں تاج المملکت زیادہ کیجئے اور پھر خلعت اور تاج پہنائیے۔ طائع نے اس بات کو منظور کر لیا اور ایک دن مقرر کر کے خود تخت پر بیٹھا۔ ارد گرد سو سپاہی برہنہ تلواریں لیے

بطور باڈی گاڑ ڈکھڑے تھے۔ ہر طرح کی سجاوٹ دکھلائی گئی۔ سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن مجید تھا۔ کندھوں پر چادر تھی۔ ہاتھ میں چھتری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار گلے میں تھی۔ عضد الدولہ نے پردے ڈلوادیئے تاکہ اس کے آنے سے پہلے کسی کی نظر خلیفہ پر نہ پڑے۔ ترک اور دہلیم بغیر ہتھیار لگائے اندر داخل ہوئے۔ تمام امیر و وزیر و دروویہ اپنے اپنے مراتب پر کھڑے تھے۔ پھر عضد الدولہ کے داخل ہونے کے لیے اذن ہوا۔ جب وہ داخل ہوا تو تمام پردے اٹھادیئے گئے۔ اس نے آتے ہی زمین خدمت چومی۔ جرنیل زیاد اس حالت کو دیکھ کر ڈر گیا۔ جرنیل زیاد نے یہ سب دیکھ کر عضد الدولہ سے کہا اے بادشاہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ خدا ہے (جس کی اتنی تعظیم کر رہے ہو) عضد الدولہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ پھر اسی طرح سات دفعہ ارد گرد پھر کر زمین خدمت چومی۔ طالع نے اپنے خادم خاص سے کہا اسے کہو قریب آ جائے۔ عضد الدولہ اوپر چڑھ آیا اور دو دفعہ آداب بجالایا۔ طالع نے کہا اور قریب آؤ۔ عضد الدولہ اور قریب ہوا اور طالع کے قدموں کو بوسہ دیا۔ طالع نے اپنا دایاں ہاتھ اس پر رکھ کر کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ مگر وہ کہتا جاتا تھا آپ مجھے اس بات سے معاف رکھیں۔ مگر آخر خلیفہ کے اصرار اور قسم دلانے سے بیٹھ گیا۔ تب طالع نے کہا امور رعیت سے جو کچھ خدا تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اور مشرق سے مغرب تک جتنی زمین میرے تصرف میں ہے ان کا تمام نظام میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خاص کر میری ذات اور اسباب خاصہ کے علاوہ تم اس کو قبول کر لو۔ عضد الدولہ نے کہا خدا مجھے آپ کی اطاعت اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عضد الدولہ کو خلعت پہنائی اور دربار برخواست کر دیا۔

### ہر ماہ! مبارک

مصنف کہتے ہیں۔ ذرا اس حاکم کے کام کی طرف دیکھو۔ جیسے اس کے زمانہ میں سلطنت میں ضعف و کمزوری آئی ایسی پہلے کسی کے عہد میں نہ آئی تھی اور جیسی تقویت عضد الدولہ کو حاصل ہوئی ایسی کسی کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ اب ہمارے عہد میں تو یہ حال ہو گیا ہے ہر مہینہ کے شروع میں خلیفہ نائب السلطنت کے گھر مبارکباد دینے آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو تعظیم سلطان خلیفہ کی کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے وہ اپنے اجلاس سے اٹھ کر خلیفہ کے ساتھ دوسری جگہ جا بیٹھتا ہے۔ پھر خلیفہ اسی طرح چلا جاتا ہے جیسے کوئی معمولی آدمی چلا جاتا ہے اور نائب السلطنت

پھر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ مجھ سے بیان کیا گیا ہے سلطان اشرف برہسائی نے جب دشمن سے جنگ کرنے کے لیے سفر کیا تو خلیفہ دربانوں کی طرح سوار ہو کر آگے آگے چلتا تھا۔ ہیبت و عظمت آتی ہی نائب السلطنت کی تھی جتنی خلیفہ کی۔ خلیفہ کو کوئی نہ پوچھتا تھا اور وہ صرف معمولی امیروں کی طرح نظر آتا تھا۔

370 ہجری میں عضد الدولہ بغداد میں آیا۔ طالع نے اس کا استقبال کیا۔ اس سے پہلے کوئی خلیفہ کسی کا استقبال نہ کیا کرتا تھا۔ جب معز الدولہ کی لڑکی مرگئی تھی، اس وقت مطیع سوار ہو کر تعزیت کو گیا تھا۔ لیکن معز الدولہ نے نہایت تعظیم کی تھی اور زمین خدمت چومی تھی۔ مگر عضد الدولہ نے طالع کو بلا بھیجا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور تاخیر کی بھی جرأت نہ ہوئی۔

سات خلعتیں

372 ہجری میں عضد الدولہ مرا تو طالع نے اس کی جگہ اس کے بیٹے مصمام الدولہ کو لاکھڑا کیا اور اسے شمس الملت کے خطاب سے نوازا۔ سات خلعتیں دیں، تاج پہنایا اور دو جھنڈے بھی دیئے۔

373 ہجری میں عضد الدولہ کا بھائی مؤید الدولہ بھی مر گیا۔

### جمعہ سے روکنا

375 ہجری میں مصمام نے چاہا بغداد اور اس کے گرد نواح میں ریشمی کپڑوں پر ٹیکس لگا دے جس سے سالانہ دس لاکھ درہم کی آمدنی ہو سکتی تھی۔ لوگوں نے جامع منصور میں جمع ہو کر نماز جمعہ سے باز رکھنا چاہا اور قریب تھا کہ فتنہ برپا ہو جائے اس لیے مصمام اپنے اس ارادے سے باز رہا۔

### تاج عطا کیا

376 ہجری میں مصمام کے اپنے ہی بھائی شرف الدولہ نے مصمام پر چڑھائی کر دی اور اس پر فتح پا کر اسے اندھا کر دیا۔ تمام لشکر شرف الدولہ کی طرف مائل ہو گیا۔ جب وہ بغداد کی طرف آیا تو طالع اس کے استقبال کو گیا اور اسے مبارکباد دی اور ولی عہد مقرر کیا، تاج عطا کیا اور عہد نامہ بھی لکھا گیا۔



378 ہجری میں شرف الدولہ نے اسی قسم کا رصد گاہ بنوایا جیسے مامون نے بنوایا تھا۔

### اس قدر آندھی

اسی سال بغداد میں سخت قحط پڑ گیا جس سے بہت سے آدمی مر گئے تھے۔ بصرہ میں اتنی شدید گرمی پڑی اور لو چلی جس سے تمام پھل جل سڑ گئے۔ دجلہ میں اس قدر تیز آندھی چلی کہ دریائے دجلہ کی زمین نظر آنے لگی۔ بہت سی کشتیاں غرق ہوئیں۔ ایک کشتی جس میں چار پائے سوار تھے الٹ گئی اور کئی دنوں کے بعد زمین جوئی میں ملی۔

### ہاتھوں میں کنگن

379 ہجری میں شرف الدولہ مر گیا۔ اس نے اپنی جگہ اپنے بھائی ابونصر کو مقرر کر دیا تھا۔ طالع تعزیت کے لیے اس کے گھر گیا، اس نے نہایت تعظیم کی اور زمین خدمت چومی۔ پھر ابونصر طالع کے پاس آیا اور تمام امراء و وزراء حاضر ہوئے۔ طالع نے ابونصر کو سات خلعتیں دیں جن سے اوپر والی خلعت سیاہ تھی۔ سیاہ عمامہ دیا۔ گلے میں بہت بڑا ہار ڈالا۔ ہاتھ میں کنگن پہنائے۔ اس کے سامنے حاجب تلوازیں برہنہ لے کر چلتے تھے۔ پھر اس نے زمین خدمت کو بوسہ دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ عہد نامہ پڑھا گیا۔ طالع نے اسے بہاء الدولہ و ضیاء الملت دو خطاب دیئے۔

### قسمیں لیں

381 ہجری میں طالع کو قید کر لیا گیا۔ وجہ یہ ہوئی طالع نے بہاء الدولہ کے ایک خواص کو قید کروا لیا تھا۔ ایک دن طالع ساہبان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تلوار گلے میں لٹک رہی تھی اتنے میں بہاء الدولہ آیا اور زمین خدمت چوم کر کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ بہاء الدولہ کے ہمراہیوں نے بڑھ کر طالع کو پکڑ کر تخت سے نیچے گرا لیا اور دہلیمیوں نے ہجوم کر کے اسے ایک چادر میں باندھ لیا اور دارالسلطنت میں لے گئے۔ تمام شہر میں شور برپا ہو گیا۔ انہوں نے طالع سے قسمیں لیں اپنے آپ کو معزول کر کے القادر باللہ کو وظیفہ مقرر کر دو۔ تمام اکابر و اشراف کی اس بات پر شہادتیں ہو گئیں اور پھر بطیحہ سے القادر باللہ کو بلا کر خلیفہ بنا دیا گیا۔

## بیت اٹھ گنی

طالع القادر باللہ کے ہاں اچھی حالت میں رہا۔ چنانچہ ایک رات کا ذکر ہے اس کے سامنے آدھی جلی موم بتی روشن کی گئی تو اس نے کہانی لائی جائے تو اس پر فوراً بتی حاضر کی گئی۔ آخر یہ شب عید الفطر 393 ہجری کو فوت ہو گیا اور القادر باللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے میں سب امراء و وزراء حاضر تھے۔ شریف نے اس پر ایک مرثیہ کہا۔ طالع آل ابی طالب سے بہت دوستی رکھتا تھا۔ اس کی بیت دلوں سے اس قدر اٹھ گئی تھی کہ شاعروں نے اس کی ہجوس لکھ دی تھیں۔

عہد طالع میں یہ علماء فوت ہوئے:

ابن سنی حافظ، ابن عدی القضال الکبیر، سیرانی نحوی، ابوہبل صلحو کی، ابو بکر رازی حلفی، ابن خالویہ، ازہری، امام اللغۃ، ابو ابراہیم فارابی صاحب دیوان الادب، رفاء شاعر، ابو یزید مروزی شافعی، دارکی، ابو بکر بہری، شیخ المالکیہ، ابولیت سمرقندی، امام الحنفیہ، ابولعلی فارسی نحوی، ابن حلاب مالکی وغیرہم۔

## القادر باللہ

القادر باللہ ابو العباس احمد بن اسحاق بن مقتدر۔ یہ 336 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ام ولد تھی جس کا نام تخمنی تھا۔ بعض نے کہا ہے اس کا نام دمنہ تھا۔ طالع کے خلع کے بعد اس سے بیعت کی گئی جبکہ اس وقت یہ وہاں موجود نہ تھا۔ دس ماہ رمضان کو یہ بغداد میں آیا اور دوسرے روز اجلاس عام بلایا۔ لوگوں نے مبارکباد دی اور شعراء نے قصائد پڑھے۔ شریف رضی نے یہ دو شعر کہے:

شَرَفَ الْخِلَافَةِ يَا بَنِي الْعَبَّاسِ      الْيَوْمَ جَدَّدَهُ أَبُو الْمُبَاسِ

ترجمہ: اے خلافت کی عزت و تکریم بنی عباس آج ابو العباس نے پھر خلافت کی تجدید

کر دی ہے۔

ذَالطُّوْدِ أَبْقَاهُ الزَّمَانِ ذَخِيْرَةً      مِنْ ذَلِكَ الْجَبَلِ الْعَظِيْمِ الرَّأْسِي

ترجمہ: اس عظیم اور بلند پہاڑ سے (جس سے تجدید ہوئی ہے) خدا اس عظیم پہاڑ کو باقی رکھے۔

## تصنیف خلیفہ

خطیب کہتے ہیں القادر امانت، دیانت، سیادت، اقامتہ تہجد اور کثرت صدقات میں مشہور تھا۔ فقہ اس نے علامہ ابوالبشر ہروی شافعی سے پڑھی تھی۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس میں اس نے صحابہ کرام کے فضائل لکھے ہیں۔ خلیفہ معز کی اور قرآن کو مخلوق کہنے والوں کی تکفیر لکھی تھی اور کی تھی۔ یہ کتاب جامع مہدی میں ہر جمعہ کے دن اصحاب حدیث کے حلقوں میں پڑھی جاتی تھی۔ (ترجمہ ابن الصلاح فی طبقات السلفیہ)

## وفاداری کی قسمیں

ذہبی کہتے ہیں اس کی خلافت کے شروع سال میں ہی ایک عظیم مجلس منعقد ہوئی۔ القادر باللہ اور بہاء الدولہ دونوں نے آپس میں وفاداری کی قسمیں کھائیں۔ القادر نے اسے اپنے تمام ملک کا حاکم بنا دیا۔

اسی سال ابوالفتوح حسن بن جعفر علوی والی مکہ نے لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی اور اپنا لقب الراشد باللہ مقرر کیا۔ والی مصر کی سلطنت وہاں سے اٹھ گئی۔ مگر پھر ابوالفتوح کی حالت میں ضعف آ گیا اور اس نے پھر عزیز عبیدی کی اطاعت قبول کر لی۔

## دارالعلم

382 ہجری میں وزیر ابو نصر ساہور اردشیر نے کرخ میں ایک عالیشان محل بنوایا اور اس کا نام دارالعلم رکھا اور وہاں بہت سی کتابیں جمع کر کے علماء کیلئے وقف کر دیں۔

## اصیفا اعرابی

384 ہجری میں عراق کے حاجی نوگ واپس آ گئے کیونکہ اصیفا اعرابی نے انہیں نکس کے بغیر گزرنے نہ دیا اس لیے وہ بغیر حج کیے واپس آ گئے۔ اسی سال اہل شام اور یمن نے بھی حج نہ کیا۔ صرف اہل مصر نے حج کیا۔

## صرف چار برس

387 ہجری میں سلطان فخر الدولہ مر گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا سلطنت رے کا حاکم ہوا۔ اس کی عمر صرف چار برس تھی۔ قادر نے اسے مجدد الدولہ کا لقب دیا۔

## نوبادشاہ

ذہبی کہتے ہیں نہایت عجیب بات ہے 387 اور 388 ہجری میں نوبادشاہ ایک ہی طریقے پر فوت ہوئے۔ یعنی منصور بن نوح بادشاہ ماوراء النہر، فخر الدولہ جو کہ ری اور جبال کا بادشاہ تھا۔ عزیز عبیدی وغیرہ ابو منصور عبدالملک ثعالبی اسی بارے میں کہتا ہے: اشعار

أَلَمْ تَرْمُدْ عَامِينَ أَمْلَاكَ عَصْرِنَا      يَصْبِحُ بِهِمُ لِلْمَوْتِ وَالْقَتْلِ صَالِحُ  
ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا ان دو سالوں میں موت ہمارے بادشاہوں پر چینی رہی ہے اور قتل چلا تا رہا ہے۔

فَنُوحُ بْنُ مَنْصُورٍ طَوْنَهُ يَذُرُّ الرَّدَى      عَلَيَّ حَسْرَاتٍ ضَمَّتْهَا الْجَوَائِحُ  
ترجمہ: چنانچہ نوح بن منصور کو ہلاکت کے ہاتھوں نے لپیٹ لیا اور حسرتیں اس کے دل میں باقی رہ گئیں۔

وَيَابُوسُ مَنْصُورٍ فِي يَوْمٍ سَرَّحَسٍ      تَمَزَّقَ عَنْهُ مُلْكُهُ وَهُوَ طَائِحُ  
ترجمہ: اے لوگو! یوم سرخس میں منصور کی شدت کو دیکھو اس کا ملک اس سے دور ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔

وَفَرِقَ عَنْهُ الشَّمْلُ بِالشَّمْلِ وَاغْتَدَمَ      أَمِيرًا ضَرِيرًا تَعْرِيبُهُ الْجَوَائِحُ  
ترجمہ: اس کی آنکھوں کو اندھا کرنے سے اس کی جماعت متفرق ہو گئی اور وہ ایک نابینا امیر ہو گیا جسے تختیوں نے آدھا کیا۔

وَصَاحِبُ مِصْرٍ قَدْ مَضَى بِسَبِيلِهِ      وَوَالِي الْجِبَالِ غَيَّبَتْهُ الصَّرَائِحُ  
ترجمہ: اسی طرح والی مصر و جبال مر گیا اور قبروں نے اس کو چھپا دیا۔

وَصَاحِبُ جُرْجَانِيَّةٍ فِي نَدَامَةٍ      تَرَصَّدَهُ طَرْفٌ مِنَ الْحَيْنِ صَائِحُ  
ترجمہ: اسی طرح صاحب جرجانیہ بھی حسرت اور ندامت میں چل بسا اور موت کی بلند دیکھنے والی آنکھوں نے اسے ہاک کیا۔

وَخَوَارِزْمُ شَاهٌ شَاهٌ وَجْهٌ نَعِيمِهِ      وَعَنْ لَهُ يَوْمٌ مِنَ النَّحْسِ طَالِحُ  
ترجمہ: اور شاہ خوارزم کی نعمتوں کا منہ سیاہ ہو گیا اور اسے نہایت منحوس اور بد بخت دن پیش آیا۔

وَكَانَ عَلَافِي الْأَرْضِ يَخْطُبُهَا أَبُو عَلِيٍّ عَلَى السِّيَاحِ أَنْ طَرَحَتْهُ الطَّوَائِعُ  
ترجمہ: اس نے بھی زمین میں بکبر کیا تھا اور ابو علی اس پر خطبہ پڑھا کرتا تھا یہاں تک کہ  
مصائب نے اسے ہلاک کر ڈالا۔

وَصَاحِبُ بَسْتِ ذَلِكَ الضَّيْعَمُ الَّذِي بَرَأْنَهُ لِلْمُشْرِقِينَ مَفَاتِحُ  
ترجمہ: اور صاحب بست یعنی وہ ایسا شیر تھا کہ جس کے پنجے مشرق و مغرب کو فتح کرنے  
والے تھے۔

أَخَاهُ بِهِ مِنْ صَدْمَةِ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُ وَالْمَقْدِيرُ سَانِحُ  
ترجمہ: زمانے نے اس پر بھی اپنا سیدہ بٹھایا۔ پس اسے کسی نے کچھ فائدہ نہ دیا کیونکہ  
تقدیر کا فیصلہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔

جِيُوشٌ إِذَا أَرَبْتُ عَلَى عَدَدِ الْحُصَى  
ترجمہ: ان کے پاس اتنے لشکر ہوتے تھے جب وہ کہیں فروکش ہوتے تو میدانوں اور  
بیابانوں کو پر کر دیتے تھے۔

وَدَارَتْ عَلَى صَمَّامِ دَوْلَةُ بُوَيَّةَ فَوَائِرُ سُوءٍ سَلَيْسُنَ قَرَادِخُ  
ترجمہ: اور صمام الدولہ دولت بویہ پر بھی ہلاکت کی چکیاں چل گئیں اور انہیں پس کر  
رکھ دیا۔

وَقَدْ جَاَزَ وَالِي الْجُوزْجَانَ قَنَاطِرًا لِحَيَوَةِ فَرَافْتَهُ السَّمَانِيَا الطَّوَامِخُ  
ترجمہ: اور تحقیق جرجان کے والی نے بھی زندگی کا پل پار کر لیا اور اسے بھی اموات نے  
آد بایا۔

### جھنڈوں پر نام

ذہبی لکھتے ہیں عزیز والی مسمر 386 ہجری میں فوت ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی فتوحات  
میں حمص، حلب اور حماة زیادہ کیے اور یمن اور موصل میں بھی اس کا خطبہ پڑھا گیا اور ان میں  
اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر لیا اور جھنڈوں پر اپنا نام لکھوایا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا منصور حاکم  
ہوا اور اپنا لقب الحاکم بامر اللہ لکھوایا۔

## گردن ماروی

393 ہجری میں اسود حاکمی نائب دمشق نے مغربی کو گدھے پر بٹھا کر تمام شہر میں تشہیر کرائی اور کہا یہ اس شخص کی سزا ہے جو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت رکھے۔ اس کے بعد ان کی گردن ماروی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے قاتل کو عذاب چکھائے۔

## عہدہ ملا کام نہیں

394 ہجری میں بہاء الدولہ نے شریف ابوالحسن بن موسیٰ کو قاضی القضاة اور حج و مظالم کا حکم مقرر کر دیا اور شیراز سے ان کے لیے عہد نامہ لکھا لیکن القادر باللہ کی وجہ سے وہ اپنے عہدہ پر کام نہ کر سکے۔

## گستاخیاں بیباکیاں

395 ہجری میں مصر کے والی حاکم نامی ذلیل نے بہت سے اشراف کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر بعد ازاں قتل کر ڈالا اور اس کے ایما پر مساجد کے دروازوں اور شوارع عام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشتہاروں پر گالیاں لکھ کر لگائی گئیں اور اپنے تمام عاملوں کو بھی اس نے گالیاں دینے کا حکم دیا۔

## مختلف پابندیاں

اسی سال کتوں کے مارنے شراب، جوا اور عظمیٰ کی خرید و فروخت سے منع کر دیا گیا اور وہ مچھلی جس پر چھلکے نہ ہوں اس کی فروخت سے بھی منع کر دیا گیا اور اس کے بعد جنہوں نے ایسی مچھلیاں فروخت کیں ان کو قتل کر دیا۔

## سننے والے

اسی سال حاکم نے مصر اور حرین میں حکم بھیجا جب میرا نام لیا جائے تو سننے والے باادب کھڑے ہو جائیں اور سجدہ بجلائیں، خواہ وہ بازار میں بیٹھے ہوں یا کسی جلسہ میں۔

## اردل سوار

398 ہجری میں شہر بغداد میں شیعوں اور سنیوں میں فساد ہو گیا۔ قریب تھا اس میں شیخ ابو حامد اسرافعی مقتول ہو جائیں، شیعوں نے بغداد میں ”یا حاکم یا منصور“ کے نعرے لگائے۔

آخر القادور باللہ نے اس فساد کو رفع کیا اور اپنے اردل سواروں کو سنیوں کی مدد کے لیے بھیج دیا جنہوں نے جا کر شیعوں کی سرکوبی کی۔

### صلیب، قرامی اور سیاہ عمامے

اسی سال حاکم نے بیت المقدس کے گرجہ قمامہ کو مسمار کر دیا اور مصر کے تمام گرجوں کے مسمار کرنے کا حکم دیدیا، نیز حکم دیا نصاریٰ اپنی گردنوں میں ایک گز لمبی اور پانچ رطل وزنی صلیب لٹکایا کریں اور یہودیوں کو حکم دیا اپنی گردنوں میں اسی وزن کا لکڑی کا قرامی (رنگین باریک پردہ) پہنیں اور سروں پر سیاہ عمامے رکھیں۔ ان باتوں سے یہودی و نصاریٰ مسلمان ہو گئے۔ لیکن بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا اور جو لوگ از خود اپنے آپ پر جبر کیے ہوئے مسلمان ہوئے تھے انہیں اپنے واپس دین میں جانے کی اجازت تھی اور اپنی عبادت گاہ بنانے کی بھی اجازت ہو گئی۔

399 ہجری میں ابو عمر و قاضی البصرہ معزول ہوئے اور ان کی جگہ ابوالحسن ابن ابی

شوارب قاضی مقرر ہوئے تو عصر فری شاعر نے ان کی تعریف میں یہ اشعار کہے:

عِنْدِي حَدِيثٌ "ظَرِيفٌ" بِمِثْلِهِ يَتَغَنَّى

ترجمہ: میرے پاس ایک عجیب بات ہے۔ اس کے لائق یہ ہے کہ اسے گایا جائے۔

مِنْ قَاضِيَيْنِ يُعْرَضَى هَذَا وَهَذَا يَهْنَى

ترجمہ: دو قاضیوں میں سے ایک کو مبارکباد دی جاتی ہے اور ایک سے افسوس کیا جاتا ہے۔

وَذَا يَقُولُ جُبْرُنَا وَذَا يَقُولُ اسْتَرْحْنَا

ترجمہ: اور ایک تو کہتا ہے ہم پر ظلم کیا گیا ہے اور ایک کہتا ہے ہم نے آرام پالیا ہے۔

وَيَكْذِبَانِ جَمِيعًا وَمَنْ يَضِدُّ مِنَّا

ترجمہ: اور وہ تمام لوگوں کو جھوٹا جانتے ہیں اور ہم سے سچا ہے کون؟

اسی سال اندلس میں خاندان بنو امیہ کی سلطنت کمزور ہو گئی۔ سلطنت کا نظام درہم درہم برہم

ہو گیا۔

400 ہجری میں دجلہ کا پانی اتنا کم ہو گیا کہ کبھی اتنا کم نہ ہوا تھا، حتیٰ کہ جو جزیرے ظاہر

ہوئے تھے وہ بھی زراعت کے لیے کرایہ پر لیے گئے۔

402 ہجری میں حاکم نے زنگجوروں، ان کے درختوں اور انگوروں کے بیچنے کی ممانعت کردی اور ہزار ہا انگور کے درخت جڑ سے اکھڑوا پھینکے۔

### عورتوں پر پابندی

404 ہجری میں رات اور دن کے وقت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگادی او۔ یہ حکم اس کے مرتے دم تک جاری رہا۔

411 ہجری میں حاکم کو جلوان (جو کہ مضافات مصر سے ہے) میں قتل کر دیا گیا۔ خدا تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس کے بعد اس کا بیٹا علی تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں سلطنت زوال پذیر ہونے لگی۔ چنانچہ حلب اور شام کا اکثر حصہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔

422 ہجری میں القادر باللہ اکتالیس سال دو ماہ سلطنت کر کے بروز سوموار بتاریخ گیارہ ذوالحجہ فوت ہو گیا۔ اس کے عہد خلافت میں علمائے ذیل فوت ہوئے:

### اسمائے انتقال کنندگان

ادیب ابو احمد عسکر زمامی نحوی، ابو الحسن ماسر حسی، شیخ الشافعیہ ابو عبد اللہ مرزیانی، صاحب بن عبادہ جو مؤید الدولہ کا وزیر تھا، وزراء میں سے صاحب پہلے پہل اسی کا نام ہوا اور دار قطنی حافظ حدیث ابن شاہین، ابو بکر اودی امام الشافعیہ یوسف بن سیرانی، ابن رولاق مصری، ابن ابی زید مالکی، شیخ المالکیہ مالک مکی، صاحب قوت القلوب، ابن بطہ، حنبلی، ابن شمعون واعظ، ابن غلبون قاری، کشمینی راوی صحیح، معانی بن زکریا نہروانی، ابن خویز مند، ابن جنی، جوہری صاحب صحاح، ابن فارس صاحب المعجم، ابن مندہ حافظ، اسمعیل، شیخ الشافعیہ اصح بن فرج، شیخ المالکیہ بدیع الزمان ہمدانی صاحب مقالات، ابن لال، ابن ابی زمامین، ابو حبان، توحیدی، داد شاعر، ہرودی صاحب غریبین، ابو الفتح بستی شاعر، حلیمی، شیخ الشافعیہ، ابن فارض، ابو الحسن قابسی، قاضی ابو بکر باقلانی، ابو طیب صلحوی، ابن الاکفانی، ابن نباتہ صاحب الخطب، ضمیری، شیخ الشافعیہ، حاکم صاحب مستدرک، ابن کج، شیخ ابو حامد اسفرائینی، ابن مدرک، شریف رضی، ابو بکر رازی، صاحب القاب، حافظ عبد الغنی بن سعید، ابن مردویہ، ابی عبد اللہ بن سلام، الضری، مفسر، ابو عبد الرحمن سلمی، شیخ الصوفیہ، ابن بواب صاحب خط، عبد الجبار معتزلی، محامی امام الشافعیہ، ابو بکر قتال، شیخ الشافعیہ، اسناد ابو اسحاق اسفرائینی، ہلاک کانی، ابن فخر عالم اندلس، علی بن عیسیٰ ربیع نحوی وغیرہم، رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔



## عالم فاضل حضرات

ذہبی لکھتے ہیں اسی زمانہ میں اشعریہ کے راس رئیس ابواسحاق اسفرائینی تھے اور اسی زمانہ میں معتزلیہ کا تاج قاضی عبدالجبار تھے اور اسی زمانہ میں رافضیوں کا سر تاج شیخ مفید تھا اور کرامیہ کا سر تاج محمد بن ہبسم تھا۔ قراء کی زینت ابوالحسن حمای تھے۔ محدثین کی زیبائش و آرائش حافظ عبدالغنی بن سعید تھے۔ صوفیوں کے سردار ابو عبدالرحمن سلمی تھے۔ شاعروں کا سر تاج ابو عمر بن دراج تھا اور مجددین میں رہنما ابن بواب تھے اور بادشاہوں کے بادشاہ سلطان محمد بن بکتکیں تھے۔

میں (مصنف) کہتا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی زیادہ کرنا چاہئے اسی زمانہ میں اہل زمانہ کا بڑا اختلاس الحاکم بامر اللہ تھا۔ اہل لغت میں سب سے اوپر جوہری تھے۔ نحویوں کے امام ابن جنی تھے۔ بلغاء سے ممتاز بدیع الزمان تھے، خطباء سے ابن نباتہ کو امتیاز حاصل تھا۔ مفسرین میں یکتا ابوالقاسم بن حبیب نیشاپوری تھے اور خلفاء کی شان القادر باللہ تھا کیونکہ یہ نہایت فقیہ اور صاحب تصنیف تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شیخ تقی الدین بن صلاح نے اسے فقہاء شافعیہ سے شمار کیا ہے اور ان کے طبقات میں ان کا حال لکھا ہے۔ نیز اس کی مدت خلافت سب سے زیادہ تھی۔

## القائم بامر اللہ

القائم بامر اللہ ابو جعفر عبداللہ بن القادر۔ یہ 15 ذیقعدہ 391 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ام ولد تھی جس کا نام بدر الدینی یا قطر الندی تھا۔ آرمینیہ کی رہنے والی تھی۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد 422 ہجری میں تخت کا وارث ہوا۔ القادر باللہ نے اپنی زندگی میں اسی کو ولی عہد مقرر کیا تھا اور اس کا لقب القائم بامر اللہ مقرر کیا تھا۔

## کثیر الصدقہ

ابن اثیر لکھتے ہیں ابو جعفر نہایت خوبصورت، پرہیزگار، عابد، زاہد، عالم، قوی الیقین، کثیر الصدقہ اور صابر شخص تھا اور نہایت اعلیٰ درجہ کا ادیب اور خوشخط تھا۔ عدل و احسان کو پسند کرتا تھا۔ اگر کوئی چیز اس سے طلب کی جاتی تھی تو یہی اس کے دینے سے دریغ نہ کیا کرتا۔

## خبر ملی

خطیب لکھتے ہیں 450 ہجری تک جب تک اسے نظر بند کیا گیا تھا یہ عزت خلافت پر قائم رہا اور اس نظر بندی کا باعث یہ ہوا کہ ارسلان ترکی بسا سیری کا اقتدار بہت بڑھ گیا اور تمام امراء عرب و عجم اس سے خائف تھے۔ منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ اس نے لوگوں کے مال لوٹ لیے تھے۔ گاؤں ویران کر دیئے تھے۔ قائم بھی ادویز بن میں مبتلا تھا وہ کچھ کرے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد القائم کو اس کی بد عقیدگی معلوم ہوئی اور خبر ملی وہ دارالخلافت کو لوٹنے کا قصد رکھتا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے ابوطالب محمد بن کمال سلطان العزیز معروف بہ طغرل بک سے مدد کے بارے میں خط و کتابت کی۔ پھر بسا سیری کے گھر کو جلا دیا۔

## دشمن بنا دیا

447 ہجری طغرل بک بھی بغداد میں آ پہنچا۔ بسا سیری وجہ میں چلا گیا تھا اور بہت سے ترک اس کے ساتھ آئے تھے۔ بادشاہ مصر نے روپے سے اس کی مدد کی اور پھر طغرل بک کے بھائی تبال کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اس سے وعدہ کیا تمہارے بھائی طغرل کی جگہ پر تمہیں مقرر کیا جائے گا۔ اس لالچ سے تبال اپنے بھائی طغرل بک سے لڑنے نکل کھڑا ہوا۔

## اذان میں زیادتی

450 ہجری میں بسا سیری بغداد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ مصری جمعہ لے تھے۔ پس خلیفہ اور اس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ خلیفہ کی مسجد کے علاوہ تمام مساجد میں والی مصر المستعمر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اذان میں حَسْبِي عَلِيٌّ حَسْبِي الْعَمَلُ بھی کہا گیا۔ ایک مہینہ تک لڑائی رہی۔ آخر بسا سیری کو فتح ہوئی اور اس نے خلیفہ کو پکڑ لیا اور فرغانہ میں لے جا کر قید میں ڈال دیا۔

## بغداد پہنچا دو

ادھر طغرل بک کو فتح ہوئی اور اس نے اپنے بھائی تبال کو قتل کر ڈالا اور پھر حاکم فرغانہ کو لکھا خلیفہ کو نہایت تعظیم کے ساتھ بغداد میں پہنچا دو چنانچہ اس نے نہایت عزت سے خلیفہ کو بھیج دیا اور خلیفہ 25 ذی القعدہ 451 ہجری میں نہایت تزک و احتشام کے ساتھ بغداد میں داخل ہوا۔



اللہ بے شک تو رازوں کو جاننے والا ہے اور دل کی باتوں پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق پر آگاہ ہونے کیلئے اور کسی بات کو جاننے کیلئے (میرے جیسے عاجز) مسکین بندے کے آگاہ کرنے سے شانِ علی کے سبب بے نیاز ہے۔ تیرے اس بندے نے تیری نعمتوں کا کفر کیا اور ان کا شکر ادا نہ کیا۔ انجاموں کو اس نے لغو جانا اور ان کو یاد نہ کیا تیرے علم نے اسے سرکش بنا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے ظلم کیا اور نہایت دشمنی سے پیش آیا۔ اے اللہ ہمارا کوئی مددگار نہیں اور ظالم غرور میں ہیں اور تمام باتوں پر اطلاع رکھنے والا جاننے والا انصاف فرمانے والا ہے اور تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ اس کے مظالم پر اور اس کے ظالم ہاتھوں سے تیری ہی طرف ہم بھاگتے ہیں۔ پس تحقیق اس نے ہم لوگوں پر ظلم کیا ہے اور اس کی شکایت تیری ہی بارگاہ میں کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی پاس اس کا فیصلہ لاتے ہیں اور ہم اس سے اپنے انصاف میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم نے اس کے مظالم کی اپنی فریاد تیرے حرم میں پہنچائی ہے اور تیرے کرم سے اس سے نجات پانے کے امیدوار ہیں۔ پس تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو ہی فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

### برابر ساٹھ سال

448 ہجری میں الظاہر عبیدی والی مصر مر گیا اور اس کے سات سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا جو برابر ساٹھ سال اور چھ ماہ تک بادشاہ رہا۔

### روٹی پچاس دینار میں

ذہبی کہتے ہیں کوئی خلیفہ یا بادشاہ اتنی مدت تک حکمران نہیں رہا۔ اس کے عہد میں ہی مصر میں ایسا قحط پڑا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کے بعد سے لیکر آج تک ایسا قحط کبھی نہیں پڑا تھا۔ آدمی آدمیوں کو کھا گئے اور ایک روٹی پچاس دینار میں بک گئی۔

443 ہجری میں معز بن ناولیس نے مغرب میں خطبہ سے عبیدیوں کا نام نکلوا کر بنی عباس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔

جعفری بک

451 ہجری میں سلطان ابراہیم بن مسعود بن محمود بن بکتکین والی غزنی اور سلطان جعفری بک بن سلجوق اور برادر طغرل بک والی خراسان کے درمیان بہت سی لڑائیوں کے بعد صلح ہوئی۔ پھر اسی سال جعفری بک مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الپ ارسلان تخت پر بیٹھا۔

مالک سیاہ و سفید

455 ہجری ماہ رمضان میں جب طغرل بک رے میں مر گیا تو اس کے بعد اس کا بھتیجا صاحب خراسان سلطان ہوا۔ قائم نے اسے خلعت بھیجی اور تمام سیاہ و سفید کا مالک کر دیا۔ ذہبی لکھتے ہیں یہ پہلا شخص ہے جسے بغداد میں منبروں پر سلطان کے لقب سے پکارا گیا اور اسے وہ شوکت حاصل ہوئی جو کسی سلطان کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ اس نے نصرانیوں کے بہت سے شہر فتح کیے اور اس نے نظام الملک کو اپنا وزیر بنایا اور عبد الملک وزیر سابق کی خرابیوں مثلاً اشعریہ کو برا بھلا کہنا وغیرہ کو دور کیا اور شافعیہ کی مدد کی اور امام الحرمین ابو القاسم قشیری کی نہایت عزت کی اور مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ کہتے ہیں یہی سب سے پہلا مدرسہ ہے جو فقہاء کے لیے بنایا گیا۔

عجیب الخلقیت

458 ہجری میں باب ازج میں ایک ایسی لڑکی پیدا ہوئی جس کے دوسرے چہرے اور دو گردنیں تھیں جبکہ نیچے سے جسم ایک ہی تھا۔

ستارہ

اسی سال چاند کے برابر کا ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی بہت تیز تھی۔ لوگ اس سے بہت ڈر گئے تھے۔ یہ ستارہ دس راتوں تک طلوع کرتا رہا۔ بعد ازاں اس کی روشنی کم ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔

مدرسہ نظامیہ بغداد

459 ہجری میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور شیخ ابو اسحاق شیرازی اس کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ طلباء پڑھنے کے لیے جمع ہوئے۔ لیکن شیخ ابو اسحاق نہ آئے اور کسی وجہ سے

پڑھانے سے اعراض کیا۔ آخر امین صباح نے درس دینا شروع کیا۔ بعد ازاں لوگوں نے شیخ ابواسحق کو بھی راضی کر لیا اور انہوں نے بھی پڑھانا شروع کر دیا۔

### پانی آ گیا

460 ہجری کو رملہ میں بہت شدید زلزلہ آیا جس سے وہ شہر بالکل ویران ہو گیا۔ پانی کنوؤں سے نکل کر بہنے لگا اور اس زلزلہ سے پچیس ہزار افراد ہلاک ہو گئے اور سمندر کا پانی کنارے سے ایک دن کی مسافت کے فاصلے پر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے آگے تک سمندر میں گھس گئے اور مشغول ہو گئے۔ پیچھے سے جھٹ سمندر کا پانی آ گیا جس سے سب لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔

### سنہری چھت

461 ہجری میں جامع دمشق جل کر تباہ ہو گئی اور تمام خوبیاں جاتی رہیں اور اس کی خوبصورت سنہری چھت بالکل جل گئی۔

### کتا اور بلی بھی

462 ہجری میں امیر مکہ کے ایلچی نے آ کر سلطان الپ ارسلان کو اطلاع دی۔ خطبہ سے مستنصر کا نام قطع کر کے عباسیوں کا نام پڑھا جانے لگا ہے اور اذان میں جی علی خیر العمل بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ سلطان نے اس ایلچی کو تیس ہزار دینار اور ایک خلعت دی اور کہا اس تبدیلی (جو کی گئی تھی اور اب چھوڑ دی گئی ہے) کا باعث وہی قحط تھا جس نے مصریوں کو ذلیل کر دیا تھا۔ جس میں آدمیوں نے آدمیوں کو کھالیا تھا۔ ایک اژدہ (ناپے کا برتن مصری پیمانہ) گندم کی قیمت سو دینار ہو گئی تھی اور کتا تیس دینار سے بک گیا اور بلی تین دینار میں بک گئی۔

### دلچسپی نہ ہوئی

کہتے ہیں قحط کے دوران قاہرہ سے ایک عورت باہر آئی۔ اس کے پاس جواہر سے بھرا ایک پیمانہ تھا۔ اس نے لوگوں میں آ کر کہا کون ہے جو مجھ سے یہ جواہرات کا پیمانہ لیکر مجھے نہم دیدے تو اس کی اس بات پر کسی نے توجہ تک نہ دی۔

فَدَّ عَلِمَ الْمِصْرِيُّ اِنْ جُنُودَهُ سَنَوْا فِيهَا وَطَاعُونَ عَمَاسٍ

ترجمہ: والی مصر نے اچھی طرح جان لیا کہ بے شک اس کے لشکر قحط والے سالوں کی طرح ہیں۔ ان میں طاعون ظاہر ہوگا اور قریہ عمواس والے بلیات و آفات میں مبتلا ہوں گے۔  
 أَقَامَتْ بِهٖ حَتَّى اسْتَرْبَتْ بِنَفْسِہٖ ۚ وَأَوْجَسَ مِنْهَا خِيفَةً اٰی اِنْجَاسِ  
 ترجمہ: وہ سال اس طرح اس کے ساتھ رہے کہ اس نے اپنے آپ میں بھی شک کیا اور اس سے اس میں نہایت سخت خوف پیدا ہو گیا۔

### ادبار و اقبال

463 ہجری میں جب لوگوں نے مستنصر کی دولت کا ادبار اور قائم اور سلطان الپ ارسلان کی دولت کا اقبال دیکھا تو حلب میں خطبہ میں دونوں کے نام پڑھے جانے لگے۔

### طویل المیعاد صلح

اسی سال یعنی 463 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ عظیم ہوئی جس میں فتح مسلمانوں کو ہی ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا سپہ سالار لشکر الپ ارسلان ہی تھا۔ بادشاہ روم قید ہوا لیکن پھر بہت سامان لیکر رہا کر دیا گیا اور پچاس برس کے لیے صلح کر لی۔ بادشاہ روم کو چھوڑنے کے بعد سلطان الپ ارسلان نے دارالخلافہ کی طرف سرنگا کر کے خلیفہ کی خدمت کی بجائے آوری کا اشارہ کیا۔

464 ہجری میں بکریوں میں سخت وبا پڑی جس سے ریوڑ کے ریوڑ ہی غارت ہو گئے۔

465 ہجری میں سلطان الپ ارسلان قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا ملک شاہ اس کی جگہ قائم

ہوا اور اپنا لقب جلال الدولہ رکھا اور نظام الملک کو اپنا وزیر بنا کر اس کا لقب اتا بک رکھا۔ یہ پہلا شخص ہے جس کا لقب اتا بک ہوا۔ اتا بک کے لفظی معنی ہیں ”امیر والد“

### ایک ہزار دینار میں

اسی سال مصر میں پھر قحط پڑ گیا یہاں تک کہ ایک اور عورت نے ایک ہزار دینار سے روٹی لی اور وہاں بھی سخت بھیلی۔

### بغداد ایک چھٹیل میدان

466 ہجری میں دجلہ کا بہت سا حصہ غرق ہو گیا اور دجلہ میں گز تک چڑھا آیا۔ اس سے قبل

ایسی طغیانی کبھی نہ آئی تھی۔ بیشار مال جانیں اور چار پائے ضائع ہو گئے۔ لوگ کشتیوں میں پناہ گزین ہوئے۔ دو دفعہ کشتیوں میں جمعہ پڑھایا گیا۔ خود خلیفہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعائیں کیں۔ قریباً ایک لاکھ مکانات گر گئے اور بغداد ایک چھٹیل میدان ہو گیا۔

### زخم بہہ پڑا

467 ہجری بروز بدھ بمطابق تیرہ شعبان المعظم خلیفہ القائم نے فصد کھلوائی۔ جب رات سویا تو زخم کا منہ کھل گیا۔ صبح اٹھا تو ضعف بہت زیادہ محسوس کیا۔ فوراً اپنے پوتے دلی عہد عبداللہ بن محمد کو بلایا اور اسے وصیت کی اور تھوڑی دیر بعد انتقال کر گیا۔ اس کی مدتِ خلافت پینتالیس سال تھی۔

اس کے عہد میں علمائے ذیل نے انتقال کیا:

ابوبکر برقانی، ابوالفضل فلکی، ثعلبی مفسر، قدوری شیخ الحنفیہ، ابن سینا شیخ الفلاسفہ، مہیار شاعر، ابونعیم صاحب الحلیہ، ابوزید دیوسی، بروی مالکی صاحب تہذیب، ابوالحسن بھری معتزلی، مکی صاحب الاعراب، شیخ ابو محمد جوینی، مہدوی صاحب التفسیر، قلیلی، شہانینی، ابو عمر دوانی، خلیل صاحب الارشاد، سلیم رازی، قاری ابوالعلاء ابوعثمان صابونی، ابن بطال شارح بخاری، قاضی ابوطیب طبری، ابن شیطی مقری، ماوردی شافعی، ابن باب شاذ، قضاعی صاحب شہاب، ابن برہان نحوی، ابن حزم ظاہری، بیہقی، ابن سید صاحب محکم، ابویعلیٰ بن فراء، شیخ الحنابلہ، حضرمی شافعی، ہندی صاحب الکامل فی القرأت، فورانی، خطیب بغدادی، ابن رشیق صاحب عمدہ اور ابن عبدالبر وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔

## المقتدی بامر اللہ

المقتدی بامر اللہ ابوالقاسم عبداللہ بن محمد بن القائم بامر اللہ اس کا والد اس کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا بلکہ یہ اپنے والد کی وفات کے چھ ماہ بعد پیدا ہوا۔ اس کی ماں ام ولد تھی جس کا نام رجوآن تھا۔ اپنے دادا کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر انیس سال اور تین ماہ کی تھی۔ شیخ ابواسحاق شیرازی، ابن صباغ اور دامغانی کے رو برو اس سے بیعت کی گئی۔ اس کے عہدِ خلافت میں خیرات کثیرہ اور آثار حسنہ ظاہر ہوئے۔ قواعدِ خلافت نہایت عمدہ تیار



ہوئے۔ گانے والوں اور زنان فاحشہ کو جلا وطن کر دیا گیا اور حکم دیا لنگی باندھے بغیر کوئی حمام میں نہ جائے اور بوتروں کے گھر گروادینے تاکہ لوگوں کی بے پردگی نہ ہو۔ یہ خلیفہ نہایت قوی انفس اور عالی ہمت تھا۔

اس کی خلافت کے شروع سال میں ہی مکہ میں بصر عبیدی کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اسی سال نظام الملک نے نجومیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے نوروز اول نقطہ برج حمل سے شروع کرایا۔ اس سے پہلے نوروز سورج کے برج حوت کے نصف طے کرنے کے وقت شروع ہوتا تھا۔ اب تک نظام الملک کی تقویم پر ہی عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔

### زیادتی ختم

468 ہجری میں دمشق میں مقتدی کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور اذان سے حسی علی خیر العمل نکلوا دیا گیا۔ لوگ اس بات سے بہت خوش ہوئے۔

469 ہجری میں ابو نصر بن استاذ ابو قاسم قشیری اشعری بغداد میں آئے اور مدرسہ نظامیہ میں تقریر فرمائی جس کے ساتھ جنہلیوں میں کچھ اضطراب ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے وعظ میں قشیریوں کے مسلک کو سب سے بہتر کہا تھا اس لیے جنہلیوں کو جوش آیا اور اس دوران بہت سے لوگ قتل بھی ہو گئے۔ فخر الدولہ جمہیر کو مقتدی کی وزارت سے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ نہایت متعصب جنہلی تھا۔

475 ہجری میں خلیفہ نے شیخ ابواسحاق شیرازی کو سلطان کی طرف ایچی بنا کر بھیجا اور حمید ابوالفتح کی زیادتیوں کی شکایت کی۔

476 ہجری میں تمام ملک میں ارزانی ہو گئی اور قحط دور ہو گیا۔ اسی سال خلیفہ ابوشجاع محمد بن حسن کو وزیر بنایا اور ظہیر الدین اس کا لقب رکھا۔ مصنف کہتے ہیں میرے خیال میں یہ سب سے پہلا لقب ہے جس میں دین کی طرف نسبت کی گئی۔

477 ہجری میں سلیمان قلاتمش سلجوقی والی قونیہ واقصراء اپنے لشکر کے ساتھ شام کی طرف گیا اور اٹاکیہ پر جو 358 ہجری میں رومیوں کے قبضے میں تھا قابض ہو گیا اور اس پر سلطان ملک شاہ نے اس کو مبارکباد دی۔

ذہبی کہتے ہیں آل سلجوق ہی روم کے بادشاہ تھے۔ ان کی مدت تک سلطنت رہی اور ظاہر

کے زمانہ میں یبرس میں ان کا بقیہ موجود تھا۔

## امیر المسلمین

478 ہجری میں یوسف بن تاشفین والی سبتہ و مراکش نے مقتدی سے درخواست کی جو شہر اس کے قبضہ میں ہیں وہ اسے دے کر سلطان کا لقب عطا کیا جائے۔ مقتدی نے یہ منظور کر لیا اور اس کو خلعت و جھنڈا دیا۔ امیر المسلمین کا لقب عطا کیا۔ اس سے وہ خوش ہوا اور اس بات سے فقہائے مغرب بھی خوش ہو گئے۔ شہر مراکش اسی یوسف نے ہی بسایا تھا۔

## عبیدی کا خطبہ

اسی سال سلطان ملک شاہ بغداد میں آیا۔ یہاں اس کا آنا پہلی دفعہ تھا۔ دار السلطنت میں فروکش ہوا۔ خلیفہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر اصفہان چلا گیا۔ اسی سال حرمین شریفین میں عبیدی کا خطبہ چھوڑ کر مقتدی کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔

481 ہجری میں غزنی کا بادشاہ مؤید ابراہیم بن مسعود بن محمود بن بکتگین مر گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا جلال الدین مسعود تخت پر بیٹھا۔

## مدرسہ باب ابرز

483 ہجری کو بغداد میں باب ابرز میں تاج الملک مستوفی الدولہ نے مدرسہ بنوایا اور ابو بکر شاش اس کے مدرسے معلم مقرر ہوئے۔

## مدتوں حکمرانی

484 ہجری جزا میر سفلیہ پر انگریز قابض ہوا۔ یہ بزیہ سب سے پہلی مفتوحہ جگہ تھی جو 200 ہجری کے بعد مسلمانوں نے فتح کی اور مدتوں تک اس پر آل اغلب حکمران رہی۔ پھر یہ بزیہ عبیدی معتزلی کے قبضہ میں بھی رہا۔ بعد ازاں فرنگیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔

## انصاف چاہا

اسی سال سلطان ملک شاہ بغداد میر آیا اور ایک بہت بڑی جامع مسجد بنوائی اور اس کے ارد گرد امراء کے مکانات بنوائے۔ ملک شاہ پھر اصفہان چلا گیا اور 485 ہجری میں پھر بغداد میں آیا اور خلیفہ کو کہلا بھیجا بغداد کو خالی کر دو اور جہاں تمہاری مرضی ہو چلے جاؤ۔ خلیفہ کو اس سے

سخت رنج ہوا اور کہا مجھے ایک مہینے کی ہی مہلت دیدو۔ اس نے کہا میں ایک ساعت کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ خدا کی قدرت سلطان انہی دنوں بیمار ہوا اور مر گیا۔ خلیفہ نے سلطان کے وزیر سے دس روز کی مہلت لے لی تھی۔ لوگوں نے اس بات کو خلیفہ کی کرامت سمجھا۔ کہتے ہیں انہی دنوں خلیفہ نے روزے رکھے اور سلطان ملک شاہ کے بارے اللہ تعالیٰ سے انصاف چاہا، چنانچہ اس کو انصاف مل گیا۔

## پانچ سالہ

جب سلطان مر گیا تو اس کی زوجہ ترکان نے اس کی موت کو پوشیدہ رکھا اور خفیہ طور پر اپنے بیٹے کے لیے امراء سے بیعت لے لی اور مقتدی سے کہلا بھیجا اسے سلطان کا لقب عطا کرے۔ اس نے اس بات کو مان لیا اور ناصر الدینا والدین کا لقب دیا۔ یہ واقعہ محرم 487 ہجری میں ہوا۔ خلیفہ نے اس کی اطلاع اپنے ممالک محروسہ میں بھی بھجوا دی۔ دوسرے دن خلیفہ اچانک مر گیا۔ اس کی لوٹڈی شمس النہار نے اسے زہر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے مستظہر سے بیعت کی گئی۔

اس کے وقت میں یہ علمائے کرام فوت ہوئے:

عبدالقاہر جرجانی، ابوالولید حاجی، شیخ ابواسحاق شیرازی، اعلم نحوی، ابن صباح صاحب الشامل، متولی، امام الحرمین، دامغانی حنفی، ابن فضل مجاشعی، بردی شیخ الحنفیہ۔

## المستظہر باللہ

المستظہر باللہ ابوالعباس احمد بن مقتدی باللہ ماہ شوال 470 ہجری میں پیدا ہوا اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد سولہ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔

ابن اثیر کہتے ہیں یہ نہایت کریم الاخلاق اور نرم طبیعت شخص تھا۔ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتا تھا۔ نہایت خوشخط اور اعلیٰ درجے کا انشاء پرداز تھا۔ اپنے اس فن میں نظیر نہ رکھتا تھا۔ نہایت جوانمرد، شجاع، سخی، واسع العلم اور علماء و صلحاء پر جان نثار کرتا تھا۔ اسے اپنے عہد میں چین نہ آیا۔ ہمیشہ جنگوں میں ہی رہتا تھا۔

اس کی خلافت کے سال اول میں مستنصر عبیدی والی مصر مر گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا

استیعین احمد آیا۔ اسی سال رومیوں نے بلنسیہ فتح کیا۔

488 ہجری میں احمد خان والی سمرقند قتل ہو گیا کیونکہ وہ زندیق ہو گیا تھا۔ اس لیے امراء نے اسے گرفتار کر لیا اور فقہاء نے اس کے قتل کا فتویٰ دیدیا۔ اس کے بعد اس کا چچیرا بھائی آیا۔

### سبعہ سیارے

489 ہجری میں سبعہ سیارے زحل کے علاوہ تمام برج حوت میں جمع ہو گئے۔ نجومیوں نے پیش گوئی کی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان جیسا طوفان آئے گا چنانچہ حاجی دارالمناب میں اترے تو ایک سیل رواں آیا جس میں تمام ڈوب گئے۔

490 ہجری میں سلطان ارسلان ارغوان بن الپ ارسلان والی خراسان قتل ہوا اور سلطان برکیاروق اس کے تمام ملک پر قابض ہو گیا اور سب اس کے مطیع ہو گئے۔

اسی سال میں حلب اطالیہ، معرہ اور شیراز میں ایک ماہ تک عبیدی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ مگر بعد ازاں پھر عباسیوں کے نام کا ہی خطبہ پڑھا جانے لگا۔

### فرنگیوں کی خرابیاں

اسی سال شہر نیقیہ پر فرنگیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا شہر تھا جو مکمل طور پر ان کے قبضہ میں آیا۔ وہاں سے بڑھتے ہوئے یہ کفر طالت تک پہنچے اور اس کے گرد و نواح کو خوب لوٹا۔ فرنگیوں کی ملک شام پر یہ پہلی پیش قدمی تھی جو انہوں نے بحر قسطنطنیہ کے راستے فوج کے ساتھ کی تھی۔ بادشاہ اور رعایا میں اس سے سخت اضطراب پھیل گیا۔ کہتے ہیں جب والی مسمرنے سلجوقیوں کی قوت اور ان کے شام پر غلبے کو دیکھا تو شام پر قبضہ کرنے کیلئے فرنگیوں کو بلا بھیجا۔ لیکن لوگ ہر طرف سے فرنگیوں پر ٹوٹ پڑے۔

### ہائل واقعات

492 ہجری میں باطنیوں کو خوب اقتدار حاصل ہوا اور اسی سال فرنگیوں نے ڈیڑھ مہینے کے محاصرے کے بعد بیت المقدس کو فتح کر لیا اور 70 ہزار سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا جن میں سے بہت سے علماء اور عباد و زہاد تھے۔ تمام مساجد مسمار کر دیں اور یہودیوں کو ایک گرجا میں جمع کر کے جلا دیا۔ بقیۃ السیف لوگوں نے بغداد میں آ کر پناہ لی اور وہاں کے ایسے ہائل واقعات

بیان کیے جن سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے چونکہ اسلامی بادشاہوں میں آپس میں اختلافات تھے اس لیے شام میں فرنگیوں کے پاؤں جم سکے۔ ایبوردی شاعر نے اس بائبل واقعہ کو اس طرح نظم کیا ہے:

مَرَحِبًا دِمَاءً بِالذُّمُوعِ السَّوَاجِمِ      فَلَمْ يَبْقَ مِنَّا عُرْضَةٌ لِلْمَرَاجِمِ  
ترجمہ: ہم نے خون کو اٹکھائے ریختہ کے ساتھ ملایا ہے۔ پس اب لڑائی میں ہمارا کوئی حیلہ نہیں رہا ہے۔

وَشَرُّ سَلَاحِ الْمَرْءِ دَمَعٌ بِفَيْضِهِ      إِذَا الْحَرْبُ شَبَّتْ نَارَهَا بِالصَّوَارِمِ  
ترجمہ: آدمی کا سب سے بڑا ہتھیار آنسو ہیں جو وہ تلواروں کے ساتھ لڑائی تیز ہوتے وقت بہاتا ہے۔

فَأَيُّهَا بَنِي الْإِسْلَامِ إِنَّ وِرَاءَ كُمْ      وَقَائِعٌ يُلَخِّصُ الرِّدَى بِالْمُنَاسِمِ  
ترجمہ: اے اہل اسلام خاموش ہو جاؤ۔ تمہارے پیچھے کئی جنگیں ہیں جو تمہیں گھوڑوں کے سموں سے ہلاک کر دیں گی۔

أَنَابِمَةً فِي ظِلِّ أَمْنٍ وَعَبْطَةً      وَعَاشِشَ كَنَوَارِ الْعَمِيلَةِ نَاعِمِ  
ترجمہ: اے آنکھ جو نرم و نازک اور گھونہ باغ کے عیش کی طرح سوری ہے۔  
وَكَيْفَ نَسَامُ الْعَيْنُ مَلَأَ حُفُونَهَا      عَلَيَّ هَمَّاتٍ أَيْقَطَتْ كُلَّ نَائِمِ  
ترجمہ: اس آنکھ کو نیند کیسے آئے گی جس کی پللوں میں گرد و غبار بھرا ہوا ہے۔ جو ہر سونے والے کو جگا دیتا ہے۔

وَإِخْوَانُكُمْ بِالشَّامِ يُضِجِي مَقِيلَهُمْ      طُهُورُ الْمَذَاكِمِ أَوْ يُطُونُ الْفَشَائِمِ  
ترجمہ: تمہارے بھائیوں کی شام میں خوابگا ہیں یا گھوڑوں کی ٹانگیں ہیں یا کرکسوں کے پیٹ ہیں۔

تَسُومُهُمُ الرُّؤْمُ الْهَوَامُ وَأَنْتُمْ      تَجْرُونَ ذَيْلَ الْخَفْضِ فَعَلَّ الْمَسَالِمِ  
ترجمہ: رومی بد بخت تمہارے بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور تم امن کشاں بے خوف ٹہل رہے ہو۔

فَكَمْ مِنْ دَمَاءٍ قَدَّابِيحَتْ وَمِنْ دَمِي      تَوَارِي حَيَاءَ حَسَنُهَا بِالْمَعَاصِمِ

ترجمہ: بہت سے خون گرائے گئے اور بہت سی پری پیکروں نے حسن کے حیا سے اپنے ہاتھوں سے (گناہوں سے بچنے اور مظالم سے بچنے کیلئے) پردہ کر لیا۔

بِحَيْثُ السُّيُوفِ الْبَيْضِ مُحَمَّرَةَ الظَّنِّ وَسَمْرُ الْعَوَالِي دَامِيَاتِ الْإِهْزَامِ  
ترجمہ: یہ واقعہ اس جگہ ہوا جہاں چمکتی ہوئی سفید تلواریں سرخ ہو گئیں اور گندم گوں تیروں کے بھالے رنگین ہو گئے۔

يَكَاذُ لَهُنَّ الْمُسْتَحْنُ بَطِينَةٌ يُنَادِي بِأَعْلَى الصُّوْتِ يَا أَهْلَ هَاشِمٍ  
ترجمہ: قریب ہے اس خونریزی کے لیے ایک نرمی کرنے والا (مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ سے کہیں اے آل ہاشم

أَرَى أُمَّتِي لَا يَسْرَعُونَ إِلَى الْعِدَائِي رِمَا حُهُمُ وَالذِّينِ دَامِيَّ الدَّعَائِمِ  
ترجمہ: میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے نیزوں کو دشمن کی طرف جلدی نہیں لے جاتے اور دین کے ستون ست ہو گئے ہیں۔

وَيَسْتَلْبِطُونَ النَّارَ خَوْفًا مِنَ الرَّدَائِي وَلَا يَحْسِبُونَ الْعَارَ ضَرْبَةً لَزِيمِ  
ترجمہ: ہلاکت کے خوف سے اپنی طرف آگ کھینچتے ہیں۔ مگر عار اور شرم کو امر مستر نہیں جانتے۔

أَتَرْضَى صَنَادِيدَ الْأَعَارِبِ بِالْأَذَى وَتَقْضِي عَلَى ذَلِ كِمَاةِ الْأَعَاجِمِ  
ترجمہ: کیا عرب کے شجاعان اسلام کی اذیت پر راضی ہو جائیں گے اور اپنی عمروں کو عجم کے تحت ہو کر خواری میں بسر کریں گے۔

فَلَيْتَهُمْ إِذْ كُمْ يَسْرُدُوا حَبِيئَةً عَنِ الدِّينِ ظَنُّوا غَيْرَةً بِالْمَجَارِمِ  
ترجمہ: کاش! اگر انہوں نے دین کی غیرت کے باعث اپنے آپ سے دشمن کو دفع نہیں کیا تو کاش اپنی عورتوں کی غیرت ہی انہیں اس بات پر آمادہ کر دیتی۔

### آخر ناچاقی

اس سال محمد بن ملک شاہ نے اپنے بھائی سلطان برکیاروق پر فوج کشی کی اور اس پر غالب آیا۔ خلیفہ نے اس کو غیاث الدینا والدین کا لقب دیا۔ بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھایا گیا۔ لیکن بعد میں پھر ان دونوں کے درمیان ناچاقی ہو گئی۔

دور دور سے

اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن مجید طبریہ سے دمشق لایا گیا۔ لوگوں نے دور دور سے آ کر اس کی زیارت کی اور آخر جامع مسجد کے ایک حجرہ میں رکھ دیا گیا۔

494 ہجری میں عراق میں باطنیوں نے زور پکڑا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ امراء لوگ ان کے ڈر سے اپنے کپڑوں کے نیچے زرہیں پہنتے تھے۔ بہت سے علماء ان کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ جن میں سے ایک رویانی صاحب الحجر بھی تھے۔

اسی سال فرنگیوں نے شہر سروج، حیفاء، ارسوف، تیساریہ فتح کر لیا۔

495 ہجری میں مستعلی والی مصر مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا الامر باحکام اللہ منصور تخت پر بیٹھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف پانچ سال کی تھی۔ خطبوں سے خطباء نے اس کا نام خارج کر دیا اور صرف حنیفہ کا نام باقی رکھا گیا۔

497 ہجری میں سلطان محمد اور برکیاروق میں صلح ہو گئی اور وجہ یہ تھی کہ جب ان دونوں کی عداوت سے فساد عام ہو گیا، مال لوٹے گئے، خون بہائے گئے، بادشاہ مغلوب ہو گئے تو علماء نے بیچ میں آ کر صلح کرادی اور دونوں سے حلف اٹھوا لیے۔ اس کے بعد خلیفہ نے برکیاروق کو خلعت بھیجا اور اس کا نام خطبوں میں داخل کر دیا۔

498 ہجری میں سلطان برکیاروق مر گیا۔ امراء نے اس کے بیٹے جلال الدولہ ملک شاہ کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ خلیفہ نے اس کی خلعت دی اور اس کا نام خطبوں میں پڑھنے کا حکم دیا۔

499 ہجری نہادند کے نواح میں ایک شخص نبوت کا داعی ہوا۔ آخرا سے پکڑ کر قتل کیا گیا۔

چمڑہ میں بھس

500 ہجری میں قلعہ اصفہان جو باطنیوں کے قبضہ میں تھا فتح ہوا۔ بہت سے باطنیوں کو قتل کیا گیا اور قلعہ گر دیا گیا۔ ان کے سردار کا چمڑا اتار کر اس میں بھس بھرا گیا۔ یہ سب باتیں سلطان محمد نے کہیں۔

501 ہجری میں سلطان نے بغداد کا خراج اور ٹیکس کم کر دیا جس سے لوگ خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ اس کے بعد اس نے نہایت عدل و انصاف پھیلا یا۔

502 ہجری میں باطنیوں نے پھر زور پکڑا اور دفعۃً شہر شیراز پر قابض ہو گئے اور تمام شہر اور قلعہ پر قابض ہو کر دروازے بند کر لیے۔ اس دن وہاں کا حاکم باہر سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے فوراً حملہ کر کے ان کو تتر بتر کر دیا۔

503 ہجری میں فرنگیوں نے کئی سال کے محاصرہ کے بعد طرابلس پر تسلط قائم کر لیا۔

### فرنگیوں کا ظلم

504 ہجری میں فرنگیوں نے مسلمانوں کو سخت تکالیف دیں۔ شام کا اکثر حصہ ان کے قبضہ میں آ گیا۔ مسلمانوں نے ان سے جان چھڑانی چاہی مگر فرنگی نہ مانا۔ آخر کئی ہزار دینار دینے پر راضی ہوا۔ مگر پھر انہوں نے عہد توڑ دیا۔ (خدا ان پر لعنت کرے۔)

### سیاہ اور زرد آندھی

اسی سال مصر میں سیاہ آندھی چلی۔ ایسا اندھیرا چھایا ہاتھ پھیلائے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ریت کی بارش ہوئی۔ لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ سب ہلاکت کا یقین کر بیٹھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آدھی زرد رنگ اختیار کر گئی اور یہ زردی عصر سے مغرب کے بعد تک رہی۔

اسی سال فرنگیوں کی بادشاہ حسین تاشقین سے لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بہت سے عیسائی قتل اور قید ہوئے اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ فرنگیوں کے سارے شجاع اس لڑائی میں مارے گئے۔

### باطنی کا وار

507 ہجری میں سورہ شاہ موصل لشکر جرار لیکر فرنگیوں سے لڑنے کے لیے بیت المقدس پہنچا۔ ایک سخت معرکہ کے بعد وہ دمشق آ گیا۔ ایک جمعہ کو وہ جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا۔ اچانک ایک باطنی نے وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔

### بڑے بڑے دروازے

511 ہجری ایک شدید سیلاب آیا جس سے نجار غرق ہو گیا اور ہزار ہا لوگ ہلاک ہوئے۔ شہر کے دروازے کئی میلوں تک بہتے چلے گئے اور پھر مٹی کے نیچے دب گئے اور کئی سالوں کے بعد طے۔ ایک بچہ چنگھوڑے میں تھا۔ سیلاب اسے بہا لے گیا۔ راستے میں



پنکھوڑ ایک زیتون کے درخت کے ساتھ لٹک گیا۔ لوگوں نے کئی روز کے بعد اسے وہاں سے اتارا وہ بچہ زندہ تھا آخروہ بڑا ہوا اور مدت تک زندہ رہا۔

اسی سال سلطان محمد مرگیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمود تخت پر بیٹھا جس کی عمر چودہ سال کی تھی۔

512 ہجری میں خلیفہ مستظہر باللہ بروز بدھ بمطابق تیرہ ربیع الاول میں پچیس برس خلافت کر کے فوت ہو گیا۔ ابن عقیل شیخ الحنابلہ نے اسے غسل دیا اور اس کے بیٹے المسترشد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ چند روز بعد اس کی دادی مقتدی کی والدہ مرگئی۔ سنی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایسا کوئی خلیفہ نہیں ہوا جس کے مرنے کے بعد اس کی دادی زندہ رہی ہو۔ اس نے اپنا بیٹا بھی خلیفہ دیکھا پھر پوتا اور بعد ازاں پڑپوتا بھی دیکھا۔

ذیل میں مستظہر کے اشعار ہیں:

أَذَابَ حَسْرُ الْجَوَى فِي الْقَلْبِ مَا جَمَهُ      يَوْمًا مَدَدْتَ إِلَيَّ رَسْمَ الْوَدَاعِ يَدَا  
ترجمہ: جس روز تو نے وداع کی رسم کیلئے ہاتھ بڑھایا تو میرے دل کی جھی چیز کو آتش عشق نے پگھلا دیا۔

وَكَيْفَ أَسْلُكُ نَهْجَ الْإِضْطِهَارِ وَقَدْ      أَرَى طَرَائِقَ فِي مَهْرِ الْهَوَى قَدَا  
ترجمہ: میں مہر کی راہ کیسے طے کروں حالانکہ معشوق کی محبت میں مختلف راہیں دیکھتا ہوں۔

إِنْ كُنْتُ أَنْقَضُ عَهْدًا لِحُبِّ يَأْسُكُنِي      مِنْ بَعْدِ حِينَ فَلَا عَايُنْتُكُمْ أَبَدًا  
ترجمہ: اے معشوق اگر میں محبت کے عہد کو توڑ دوں تو اس کے بعد کبھی تمہارا دیدار نہ پاؤں گا۔

صائم طالحی نے اس کی مدح میں شعر کہے:

أَصْبَحْتُ الْمُسْتَظْهِرَ بْنَ الْمُقْتَدِي      بِإِلَهِ ابْنِ الْقَائِمِ بْنِ الْقَادِرِ  
ترجمہ: میں نے مستظہر بن مقتدی باللہ بن قائم بن قادر کے ساتھ بچاؤ چاہا ہے۔

مُسْتَعِصِمًا أَرْجُو نَوَالَ كَفِهِ      وَبِإِنْ يَكُونُ عَلَى الْعَشْرَةِ نَاصِرِي  
ترجمہ: میں اس کی بخشش کی امید کرتا ہوں اور چاہتا ہوں اہل کے خرچ کیلئے میری مدد کرے۔

فَبَقُرُّ مَعَ كِبْرِي قَرَارِي عِنْدَهُ      وَيَفُورُ مِنْ مَدْحِي بِشِعْرِ سَائِرِ

ترجمہ میں اس کے پاس ٹھہرنے سے فائدہ حاصل کروں اور وہ میری مدح سے کامیاب ہو۔

### بہت درست

سلفی کہتے ہیں۔ مجھ سے ابو خطاب بن جراح نے بیان کیا میں نے ماہ رمضان میں مستظہر کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک رکعت میں میں نے سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھی اِنَّ ابْنَكَ سُورِقٌ (یعنی میرا بیٹا چوری گیا) یہ روایت میں نے نسائی سے سنی تھی۔ جب میں نے سلام پھیرا تو مستظہر نے کہا یہ قرأت بہت درست ہے کیونکہ اس سے اولاد انبیاء کی کذب سے تترزیہ اور برأت ظاہر ہوتی ہے۔

عہد مستظہر میں یہ علماء فوت ہوئے:

ابو المنظر سمعانی، نصر المقدسی، ابو الفرج رازی، شیدہ رُوْیَانِی، خطیب تبریزی، کیاہرائسی، غزالی، شاشی جس نے کتاب حلیہ تصنیف کر کے نام اس کا مستظہری رکھا تھا، ابووردی لغوی۔

## المستر شد باللہ

المستر شد باللہ منصور الفضل بن مستظہر باللہ ربیع الاول 485 ہجری میں پیدا ہوا اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد ربیع الاول 512 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ نہایت دلیر بلند ہمت صاحب الرائے اور باہمت شخص تھا۔ امور خلافت کو نہایت خوبی سے مرتب کیا۔ خلافت کو جو صرف نام ہی کی رہ گئی تھی پھر زندہ کر دیا۔ ارکان شریعت کو مضبوط کیا۔ بنفس نفیس جنگوں میں شریک ہوا۔ کئی بار حملہ موصل اور خراسان کی طرف لڑنے کے نکلا۔ مگر آخری مرتبہ ہمدان کے قریب اس کے لشکر کو شکست ہوئی اور قید کر کے آذربائیجان میں بھیجا گیا۔

### یہی کافی ہے

حدیث اس نے ابو القاسم بن بیان، عبدالوہاب بن ہیثم اللہ بستی سے سنی تھی اور اس سے محمد بن عمر بن مکی اجوازی اور اس کے وزیر علی طراد اور اسمعیل بن طاہر موصلی نے روایت کی ہے۔ ابن سمعانی نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اس کی فضیلت میں یہی کہنا کافی ہے۔ ابن صلاح نے اس کا ذکر طبقات شافعیہ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے ابو بکر شاشی نے اپنی کتاب المہمۃ میں تصنیف کی تھی اور اس کے لقب سے ہی کتاب مشہور ہوئی

کیونکہ اس وقت اس کا لقب عمدة الدنيا والدين تھا۔

ابن سبکی نے بھی طبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے اور لکھا ہے یہ پہلے نہایت عابد و زاہد تھا۔ صوف کے کپڑے پہنا کرتا تھا اور اکیلا ایک مکان میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ 484 ہجری 18 رمضان بروز بدھ پیدا ہوا۔ اس کے باپ نے اس کو ولی عہد بنانے کا خطبہ پڑھا اور ربیع الاول 488 ہجری میں سکوں میں بھی اس کا نام درج کر دیا۔ نہایت خوشخط تھا۔ اکثر کتابوں کی اصلاح کیا کرتا تھا۔ اس کی جرأت، شجاعت اور حملہ مشہور تھے۔ لیکن اس کا زمانہ مشوش ہی رہا اور مخالفین نے اسے مکر رہی رکھا، حتیٰ کہ جب آخری مرتبہ عراق کی طرف گیا تو شکست کھا کر گرفتار ہوا اور شہید کر دیا گیا۔

لشکر کی بے وفائی

525 ہجری میں ذہبی کے قول کے مطابق جب سلطان محمود بن ملک شاہ مر گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا داؤد تخت پر براجمان ہوا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اس کا چچا مسعود محمد اس پر چڑھ دوڑا۔ دونوں کی لڑائی ہوئی۔ آخر اس شرط پر صلح ہوئی سلطنت میں دونوں شریک رہیں گے۔ ہر ایک کے لیے ایک ملک مخصوص ہو جائے گا چنانچہ پہلے بغداد میں مسعود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور بعد ازاں داؤد کے لیے۔ خلیفہ نے ان دونوں کو خلعت دی۔ چند روز کے بعد خلیفہ اور مسعود بگڑ گئے۔ خلیفہ اس سے جنگ پر نکلا لیکن اس کے اکثر لشکر نے اس سے بیوفائی کی اور باغی ہو گیا۔ مسعود کو فتح ہوئی۔ اس نے خلیفہ کو مع خواص کے ہمدان کے قریب ایک قلعہ میں قید کر دیا۔ جب یہ خبر اہل بغداد کو ملی تو لوگ اپنے سروں میں خاک ڈالے روتے شور مچاتے ہوئے بازاروں میں نکلے۔

ابن جوزی ان دنوں بغداد میں بہت زلزلے آئے، حتیٰ کہ ایک دن سس پانچ پانچ یا چھ چھ مرتبہ زلزلہ آتا تھا اور لوگ فریاد کرتے تھے۔ اس پر سلطان سخر نے اپنے بھتیجے مسعود کو لکھا جب تمہیں یہ خط ملے اسی وقت خلیفہ کے پاس جا کر آداب بجالاؤ اور معافی مانگو اور نہایت عاجزی کرو کیونکہ آسانی اور زمینی علامات ایسی ظاہر ہوئی ہیں ہمیں ان کے سننے کی بھی طاقت نہیں۔ انہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا تو بڑی ہی دور کی بات ہے۔ چنانچہ تند ہواؤں کے چلنے بجلیوں کے چمکنے زلزلوں کا آنا اور لگاتار بیس دن تک رہنا اور لشکر اور رعیت کا پریشان ہونا مجھے

اپنی جان کا فکر لگ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو عذاب الہی نازل ہو پڑے۔ لوگوں نے جامع مسجد میں نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں۔ خطبہ بند ہو گئے ہیں۔ مجھے ان تمام باتوں کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ پس اللہ سے ڈرو۔ امیر المؤمنین کو نہایت عزت کے ساتھ بغداد پہنچاؤ اور خود ان کی غاشیہ برداری کرو جیسا کہ ہمارے آباؤ اجداد کی عادت رہی ہے۔

جب مسعود کو یہ خط ملا تو اس نے ان تمام باتوں کی تعمیل کی۔ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بعد اوائے آداب معافی کا خواستگار ہوا۔ پھر سلطان خنجر نے ایک اور ایچی بھیجا جس کے ساتھ بہت سا لشکر تھا اور مسعود کو کھلا بھیجا خلیفہ کو بہت جلد دار الخلافہ میں پہنچاؤ۔

### خبر نہ تھی

کہتے ہیں اس لشکر میں سترہ ہابٹھی بھی تھے۔ مسعود کو ان کی خبر نہ ہوئی۔ بعض کہتے ہیں ان کو کہا ہی اس نے تھا۔ انہوں نے خلیفہ کے خیمے پر ہجوم کر کے اسے قتل کر ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بہت سے مہر ایوں کو بھی قتل کر دیا۔ لشکر کو ان کا علم اس وقت ہی ہوسکا جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ لشکر نے ان لعینوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ سلطان افسوس کے لیے بیٹھا اور سخت سوگ گھیا۔ تمام لوگ رونے لگے۔

### واقعہ قتل مسترشد

جب خلیفہ کی وفات و خبر شہادت بغداد میں پہنچی تو لوگ برہنہ پا اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے اور عورتیں روتی ہوئی اور مرچے پڑھتی ہوئی باہر نکل آئیں اور اس بے چینی کی وجہ یہ تھی مسترشد پر اس کی شجاعت عدل اور مہربانی کی وجہ سے فدا ہوتے تھے۔ مسترشد کے قتل کا واقعہ موضع مرانہ میں جمعرات کے روز بر مطابق 16 ذوالقعدہ 529 ہجری کو پیش آیا۔ مختصر یہ کہ مسترشد کے اشعار سے یہ بھی ہیں:

أَنَا إِلَّا شَقْرُ الْمَدْعُوْبِي فِي الْمَلَاْحِمِ وَمَنْ يَمْلِكُ الدُّنْيَا بَغَيْرِ مَرَاْحِمِ  
ترجمہ: میں وہ شجاع باز ہوں جو جنگوں میں بلایا جاتا ہوں اور میں وہ شخص ہوں جو قتل و  
قال کے بغیر دنیا کا مالک ہوں۔

سَبَلْعُ أَرْضِ الرُّومِ خَيْلِي وَيَنْتَضِي بِأَقْصَى بِلَادِ الصِّينِ بَيْضَ صَوَارِمِ  
ترجمہ: عنقریب ہی میرا لشکر سرزمین روم میں جا پہنچے گا اور میری چمکتی تلواریں چین میں

جاچکیں گی۔

جب اسیر ہوا تو یہ اشعار کہے:

وَلَا عَجَبًا لِلْأَسَدِ أَنْ ظَفَرَتْ بِهَا كِلَابُ الْأَعَادِي مِنْ فَصِيحٍ وَأَعْجَبٌ

ترجمہ: اور اگر عربی اور عجمی کتے شیر پر قابو پالیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔

مَحْرَبَةٌ وَحَشِي سَقَتْ حَمْرَةَ الرَّذِي وَمَوْتُ عَلِيٍّ مِنْ حُسَامِ بْنِ مَلْجَمٍ

ترجمہ: کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جان وحشی کے حربہ (نیزہ) نے لی تھی اور حضرت

علی رضی اللہ عنہ کی موت ابن ملجم کی تلوار سے ہوئی تھی۔

بھاگا نہیں

جب سترشد کو شکست ہوئی تو لوگوں نے اسے بھاگنے کا مشورہ دیا مگر وہ نہ مانا اور اپنی جگہ

پر قائم رہا یہاں تک کہ پکڑا گیا اس پر اس نے یہ اشعار کہے:

قَالُوا نَقِيمٌ وَقَدْ أَحَاطَ بِكَ الْعُدُوُّ وَلَا تَنْزِي

ترجمہ: لوگوں نے مجھے کہا تم کھڑے ہو رہے ہو بھاگتے نہیں حالانکہ دشمن تمہیں گھیر رہا ہے۔

فَأَجَبْتُهُمُ الْمَرْءَ مَا لَمْ يَتَعْظُ بِالْوَعْظِ غَرُ

ترجمہ: میں نے انہیں جواب دیا جو آدمی وعظ سے نصیحت حاصل نہ کرے وہ جاہل ہے۔

لَا يَلْتُ خَيْرًا مَا حَيْثُ وَلَا عَدَانِي الدَّهْرُ شَرُّ

ترجمہ: تو میں کبھی بھلائی نہ پاتا، زندہ رہتا اور نہ زمانے اور دشمن کی شرارت کو جان پاتا۔

إِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ إِنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَنْفَعُ أَوْ يَضُرُّ

ترجمہ: اگر میں اللہ کے علاوہ جانتا کہ کوئی نفع یا ضرر پہنچا سکتا ہے۔

ذہبی کہتے ہیں ایک دفعہ سترشد نے عید کے خطبہ میں کہا اللہ اکبر ما سحت

الانواء، و اشرق الضياء، و طلعت ذكاء، و علت على الارض و السماء، اللہ

اکبر ماہمی سحاب، و لمع سراب و الحج طلاب، و سرقاد ما اباب

”اللہ بڑا ہے جس کی تعریف ہوئی حاجتوں کو پورا کرنے سے اور روشنیوں نے اس سے

فیض حاصل کیا اور ذہانت نے اطلاع پائی اور اس سے زمین و آسمان پر خیر و برکت ہوئی۔ اللہ

بڑا ہے جس سے بادلوں نے خوب برسنا حاصل کیا اور جس سے دھوپ نے چمک حاصل کی اور

بہت تلاش کرنے والے نے دلیل اور جس سے لشکر خوش اڑے۔ پھر اس کے بعد ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔

جب مسترشد قید ہوا تو کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا۔

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ حَسَنِي فَيُ ذُرِّيَّتِي. وَأَعِنِّي عَلَى مَا وَلَّيْتَنِي وَأَوْزِعْنِي  
شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَوَفَّقْنِي وَأَنْصُرْنِي. ترجمہ: اے اللہ مجھے میری اولاد میں مصلح بنا اور اس  
چیز پر میری مدد فرما جو تو نے میرے پردگی ہے اور مجھے اپنی نعمت کو تقسیم کرنے والا اور اپنی نعمت کا  
شکر کرنے والا بنا اور مجھے توفیق عطا فرما اور میری مدد فرما۔

جب مسترشد خطبہ پڑھ کر بیٹھا تو ابوالمظفر ہاشمی نے اسے یہ اشعار سنائے:

عَلَيْكَ سَلَامٌ اللَّهُ يَا خَيْرَ مَنْ عَلَا عَلَى مَنبَرٍ قَدْ حَفَّ أَعْلَامُهُ النَّصْرُ  
ترجمہ: اے وہ شخص جو منبر پر چڑھا اور اسے جھنڈوں کی فتح نے گھیر لیا، تم پر اللہ کی سلامتی ہو  
وَأَفْضَلُ مِنْ أُمَّ الْأَنْبِيَاءِ وَعَمَّهُمْ بِسِيرَتِهِ الْحُسْنَى وَكَانَ لَهُ الْأَمْرُ  
ترجمہ: اور اے وہ شخص جو حسب و نسب کے لحاظ سے اور بلحاظ سیرت سب سے افضل  
ہے اور حکم اس کے لئے ثابت ہے۔

وَأَفْضَلُ أَهْلِ الْأَرْضِ شَرْقًا وَمَغْرِبًا وَمِنْ جَدِّهِ مِنْ أَجْلِ نَزْلِ الْمَطَرِ  
ترجمہ: اور اے وہ شخص جو مشرق سے مغرب تک کے تمام لوگوں سے افضل ہے اور اے  
وہ شخص جس کے دادا کے طفیل بارش نازل ہوئی۔

لَقَدْ سَنَنْتُ أَسْمَاعَنَا مِنْكَ خُطْبَةً وَمَوْعِظَةً فَضَّلَ يَلِينَ لَهَا الصَّخْرُ  
ترجمہ: تیرے خطبے نے ہمارے کانوں کو مزین کر دیا ہے اور تیرے حق و باطل کے  
درمیان فاصل و عطف نے پتھروں کو نرم کر دیا ہے۔

مَلَأَتْ بِهَا كُلَّ الْقُلُوبِ مَهَابَةً فَقَدْ رَجَفَتْ مِنْ خَوْفٍ تَخَوُّفِهَا مِصْرُ  
ترجمہ: اس خطبہ اور وعظ نے تو تمام لوگوں کے دلوں کو ہیبت سے بھر دیا ہے اور اس کے  
خوف سے تمام شہر کانپ اٹھا ہے۔

وَزِدَّتْ بِهَا عَدْنَانِ مَجْدًا مَوْلَانَا فَاصْحَى بِهَا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ لَكَ الْفَخْرُ  
ترجمہ: اس خطبہ سے تو نے عدنان کی ثابت بزرگی کو زیادہ کر دیا ہے اس لیے تیرے

لیے جہان میں فخر حاصل ہو گیا ہے۔

وَسُدَّتْ بَنِي الْعَبَّاسِ حَتَّى لَقَدْ غَدَا يُبَاهِي بِكَ السَّجَادَ وَالْعَالَمَ الْبَحْرَ

ترجمہ: تو بنی عباس کا سردار بن گیا ہے یہاں تک کہ زمانہ کے تمام عالم و عابد اب تیرے

ساتھ فخر و ناز کرتے ہیں۔

فَلِلَّهِ عَصْرٌ أَنْتَ فِيهِ إِمَامُنَا وَ لِلَّهِ دِينٌ أَنْتَ فِيهِ لَنَا الصَّدْرُ

ترجمہ: یہ زمانہ کتنا ہی اچھا ہے جس میں آپ ہمارے امام ہیں اور یہ دین کتنا ہی

اچھا ہے جس میں آپ ہمارے پیشوا ہیں۔

بَقِيَتْ عَلَيَّ الْأَيَّامُ وَالْمُلْكُ كُلَّمَا تَقَادَمَ عَصْرٌ أَنْتَ فِيهِ إِلَى عَصْرٍ

ترجمہ: خدا کرے آپ اور آپ کا ملک ہمیشہ رہے۔ جب ایک زمانہ پرانا ہو جائے تو

دوسرا آ جائے۔

وَأَصْبَحَتْ بِالْعِيدِ السَّعِيدِ تُشْرِفُنَا فِيهِ صَلَوَتُكَ وَالنَّحْرُ

ترجمہ: اس عید کی آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے قربانی دینے اور نماز پڑھانے سے ہمیں

مشرف کیا ہے۔

اسی طرح اس کے وزیر جلال الدین حسن بن علی بن صدقہ نے اس کی مدح میں یہ شعر کہے:

وَجَدْتُ الْوَرَى كَالْمَاءِ طَعْمًا وَرِقَّةً وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ زَلَالَةٌ

ترجمہ: میں نے دنیا کو مزے اور رقت میں پانی کی طرح دیکھا ہے اور امیر المؤمنین اب

زلال کی طرح ہے۔

وَصَوْرَتْ مَعْنَى الْعَقْلِ شَخْصًا مَصُورًا وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِثْلَهُ

ترجمہ: اور اگر عقل کو میں مجسم تصور کروں تو بلاشبہ اس کی مثال امیر المؤمنین ہے

وَلَوْلَا مَكَانُ الدِّينِ وَالشَّرْعِ وَالنُّطْقِ لَقُلْتُ مِنَ الْأَعْظَامِ حَلَّ جَلَالَهُ

ترجمہ: اور اگر دین میں شرع اور تقویٰ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں امیر المؤمنین کی بزرگی کرنے

میں جل جلالہ کہتا۔

524 ہجری میں موصل میں بادل سے آگ برسی جس سے کئی جگہیں اور مکان جل گئے۔

اسی سال الامر باحکام اللہ منصور لا ولد مر گیا اور اس کے بعد اس کا چچہ ابھائی حافظ

عبدالمجید بن محمد بن محمد بن مختصر تخت پر بیٹھا۔

اسی سال بغداد میں پر دار بچھو پیدا ہوئے۔ جن کے دو ڈنگ تھے۔ لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے ان سے کئی بچے ہلاک ہو گئے۔

مسترشد کے عہد خلافت میں یہ علماء فوت ہوئے:

شمس الامامة ابو الفضل امام الحنفیہ، ابو الوفاء عقیل جنلی، قاضی القضاة ابو الحسن دامغانی، ابن بلیمہ مقرئ، طغرانی صاحب لامیہ العجم، ابو علی صدق حافظ، ابو نصر قشیری ابن قطاء نفوی، محی السدہ بنوی، ابن فہام مقرئ، حریری صاحب منامات، میدانی صاحب الامثال، ابو الولید بن رشد مالکی، امام ابو بکر بن طرطوسی، ابو الحجاج سرسقطی، ابن السید بطیلوسی، ابو علی فارقی شافعی، ابن طراوت نحوی، ابن بازش، طا فر حداد شاعر، عبدالغافر فارسی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## الراشد باللہ

الراشد باللہ ابو جعفر منصور بن مسترشد 502 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ام ولد تھی۔

کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوا تو اس کا مخرج پاخانہ نہ تھا۔ طبیبوں کو بلوایا۔ انہوں نے سونے کا ایک اوزار بنا کر چیرا دیا جس سے نفع ہوا۔

513 ہجری میں والد نے اسے ولی عہد مقرر کیا اور باپ کے قتل کے بعد ذوالقعدہ 529

ہجری میں تخت پر بیٹھا۔ نہایت فصیح، ادیب، شاعر، شجاع اور جوانمرد شخص تھا۔

## ایک دستاویز

سلطان مسعود جب بغداد میں واپس آیا تو راشد وہاں سے موصل چلا گیا۔ سلطان نے قضاة، علماء اور فقہاء کو بلوا کر ایک دستاویز لکھوائی جس میں بہت سے لوگوں کی شہادتیں قلمبند کی گئیں کہ راشد نے فلاں فلاں پر ظلم کیا اور فلاں کا مال زبردستی لوٹا، چھینا اور خونریزی اور شراب پی وغیرہ پھر فقہاء سے فتویٰ لیا گیا ایسا شخص حکومت کے لائق نہیں یا ہے؟ اور کیا اسے معزول کرنا درست ہے؟ شہر کے قاضی ابن الکرخی نے اس کے معزول کرنے کا فتویٰ دیدیا۔ پھر اس کے چچا زاد بھائی المستظہر سے بیعت لی گئی۔ اس نے اپنا لقب المستظہر لامر اللہ رکھا۔ یہ واقعہ سولہ ذوالقعدہ 530 ہجری میں ہوا۔



جب راشد کو اپنی معزولی کی خبر ملی تو وہ موصل سے نکل کر آذربائیجان چلا گیا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک دستہ تھا۔ انہوں نے مرانہ سے بہت مال جمع کیا اس کو لوٹ لیا اور بہت سے آدمی قتل کر ڈالے۔ علماء کی ڈاڑھیاں منڈوا ڈالیں۔ پھر اصفہان پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا اور خوب لوٹ مار کی۔ یہاں راشد بیمار ہوا اور سولہ رمضان المبارک کو بہت سے عجیبوں نے اسے گھیر لیا اور چھریاں مار مار کر قتل کر دیا۔ جب بغداد میں اس کی خبر پہنچی تو ایک روز ماتم کیا گیا۔

عماد کا تب لکھتے ہیں راشد حسن یوسفی بیان کرتا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں صولی نے لکھا ہے لوگ کہا کرتے تھے ہر چھٹا خلیفہ معزول ہوتا ہے۔ میں نے جب اس امر پر غور کیا تو مجھے یہ بات نہایت ہی عجیب معلوم ہوئی۔ بہر حال اسے شروع میں بیان کر دیا گیا ہے۔

چادر اور چھتری مرتے دم تک راشد ہی کے پاس رہی۔ اس کے قتل کے بعد دونوں چیزیں لاکر مقتضی کو دی گئیں۔

## المقتفی لامر اللہ

المقتفی لامر اللہ ابو عبد اللہ محمد بن مستظہر باللہ بابکس ربیع الاول 489 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ حبشیہ تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد چالیس سال کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھا۔

### خواب میں زیارت

المقتفی لقب رکھنے کا سبب یہ ہوا اس نے خلافت سنبھالنے سے چھ روز قبل خواب میں رسول اکرم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے عنقریب ہی تو خلیفہ ہوگا۔ پس اپنے عہد میں اللہ کے احکام کی پیروی کرنا۔ اس لیے اس کا لقب المقتفی لامر اللہ رکھا گیا۔

### گھوڑے اور مال

جب مقتفی نے خوب عدل پھیلایا اور تمام بغداد اپنے قبضہ میں کر لیا تو مسعود نے دار الخلافہ کے تمام گھوڑوں اور مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور چار گھوڑوں اور آٹھ خچروں کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ بعض کہتے ہیں اس کی طرف سے بیعت ہی اس شرط پر کی گئی تھی کوئی گھوڑا اور آلہ سفر اس کے پاس نہ چھوڑا جائے گا۔

## ایک دانہ بھی

531 ہجری میں سلطان مسعود نے خلیفہ کے تمام متعلقات پر قبضہ کر لیا۔ صرف اس کی خاص مقبوضہ زمین اس کے پاس رہنے دی۔ پھر اپنے وزیر کو خلیفہ سے مزید ایک لاکھ دینار لانے کیلئے بھیجا۔ مفتی نے کہا بہت ہی عجیب بات ہے تمہیں اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ مسز شد اپنا تمام مال لیکر تمہاری طرف چلا گیا تھا اور اس پر جو گزری سب جانتے ہیں اور پھر راشد خلیفہ ہوا تو اس نے جو کچھ کہا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ بھی جاتے وقت جو باقی مال تھا وہ لے گیا تھا۔ اب تو صرف گھر کا اسباب ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ تم نے لے لیا۔ دارالضرب پر بھی تم نے قبضہ کر لیا۔ آخرا اب اس قدر کثیر مال اور روپیہ تمہیں کہاں سے لاکر دیں۔ اب یہی بات باقی رہ گئی ہے ہم گھر سے ہی باہر نکل جائیں اور وہ بھی تمہارے حوالے کر دیں اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے ظلم کر کے کسی سے ایک دانہ بھی وصول نہ کروں گا۔

## ماں کی خاطر

خلیفہ کی یہ تمام باتیں سن کر سلطان نے خلیفہ سے مال طلبی چھوڑ دی اور ماں کی خاطر لوگوں سے خراج لینا شروع کر دیا۔ تاجروں پر ٹیکس لگایا اور لوگوں کو اس نے سخت تکالیف دیں۔

## مطلع صاف تھا

جمادی الاولیٰ میں خلیفہ کے تمام ملکی معاملات اور ترکات واپس کر دیئے گئے اور اسی سال تیس رمضان کو بھی چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے دوسرے روز روزہ رکھا۔ مگر اس روز بھی شام کے وقت چاند دکھائی نہ دیا حالانکہ دونوں روز مطلع بھی بالکل صاف تھا۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی وقوع پذیر نہ ہوا تھا۔

## سیاہ پانی

533 ہجری میں بختری کے ارد گرد دس میل تک سخت زلزلہ آیا جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے اور سختہ زمین میں دھنس گیا اور وہاں سے سیاہ رنگ کا پانی نکلنے لگا۔

## آمدنیوں پر قبضہ

اسی سال شہروں کی تمام آمدنیوں پر امراء نے قبضہ کر لیا۔ سلطان مسعود سخت تنگ ہو گیا

اور اس کا صرف نام ہی نام رہ گیا۔ اسی طرح سلطان سبخر بھی سخت عاجز ہو گیا۔ ان کے ضعف سے خلیفہ مقتدی کی عزت بڑھ گئی۔ پس اسی سے دولت عباسیہ کی اصلاح شروع ہوئی۔

### ادلہ بدلہ

541 ہجری میں سلطان مسعود بغداد میں آیا اور دارالضرب بنوایا۔ خلیفہ نے وہ شخص جو دارالضرب میں سکہ بناتا تھا، پکڑ لیا اور مسعود نے خلیفہ کے حاجب کو پکڑ لیا۔ اس سے خلیفہ سخت غضب ناک ہو گیا اور مساجد کے دروازے بند کر دیئے گئے۔ پھر مسعود نے حاجب کو رہا کر دیا۔ ادھر خلیفہ نے سکہ بنانے والے کو بھی چھوڑ دیا اور اس طرح فساد رفع ہو گیا۔

### ایک مطرب کو دیتے

اسی سال ابن عبادی واعظ وعظ کرنے بیٹھا تو سلطان مسعود بھی اس جگہ آیا۔ ابن عبادی نے محصول کے بارے گفتگو کرتے ہوئے کہا اے بادشاہ! آپ جو مال مسلمانوں سے لیتے ہیں ایک رات ایک مطرب کو دیتے ہیں۔ مجھے آپ وہی مطرب سمجھ کر مسلمانوں کا وہ تمام مال بخش دیجئے۔ یہ سن کر سلطان نے منادی کرا دی آئندہ کوئی محصول نہ لیا جائے۔ پھر یہ حکم لکھ کر تختیاں لگادی گئیں اور ڈھولوں اور نقاروں کے ساتھ ان کو شہروں میں پھرایا بھی گیا۔ یہ تختیاں الناصر لدین اللہ کے وقت تک بغداد میں لگی رہیں۔ لیکن اس نے یہ کہہ کر اکھڑا پھینکیں کہ ہمیں عجیبوں کے آثار و نشانات کی کوئی ضرورت نہیں۔

### پہچھانہ چھوڑا

543 ہجری میں فرنگیوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر نور الدین زنگی والی حلب نے ان کا مقابلہ کیا۔ ان دنوں اس کا بھائی موصل کا حاکم تھا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور فرنگیوں کو شکست۔ لیکن نور الدین زنگی نے اس وقت تک فرنگیوں کا پہچھانہ چھوڑا جب تک کہ ان تمام شہروں کو جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینے ہوئے تھے فتح نہ کر لیا۔

544 ہجری میں الحافظ لدین اللہ والی مصر مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا مظاہر اسمعیل

تخت نشین ہوا۔

## زلزلہ کی شدت

اسی سال ایک دفعہ پھر سخت زلزلہ آیا جس سے بغداد قریباً دس دفعہ ہل گیا اور اس سے حلوان میں ایک پہاڑ ٹوٹ گیا۔

## خون کی بارش

545 ہجری میں یمن میں خون کی بارش ہوئی زمین سرخ ہو گئی اور لوگوں کے کپڑوں پر سرخی کے نشانات باقی رہ گئے۔

547 ہجری میں سلطان مسعود مر گیا۔

اس کے بعد لشکر نے اتفاق کر کے ملک شاہ کو سلطان بنا لیا اور اس کا مشیر خاص بک مقرر ہوا۔ مگر خواص بک نے بغاوت کر کے ملک شاہ کو گرفتار کر لیا اور اس کے بھائی محمد کو خوزستان سے بلا کر سلطنت اس کے حوالے کی۔ اس دن سے خلیفہ مطلق العنان حکمران ہو گیا اور سلطان کی طرف سے جتنے لوگ مدرسہ نظامیہ میں مدرس تھے سب کو معزول کر دیا۔ اسی دوران اس کو خبر ملی کہ نوحی واسط میں لوگوں نے فساد برپا کر دیا ہے۔ فوراً لشکر لیکر گیا اور ان باغیوں کی سرکوبی کی۔ پھر حملہ اور کوفہ سے ہوتا ہوا بغداد واپس آ گیا۔ جب شہر میں آیا تو اس روز بازار نہایت خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔

## صاع برابر تنخواہ

548 ہجری میں ترکوں کے ایک گروہ نے سلطان سنجر کو قید کر لیا اور نہایت ذلیل کیا اور اس کے ساتھ سارے شہروں کو قبضہ میں کر لیا۔ لیکن خطبہ میں اس کا نام باقی تھا اور وہ صرف نام کا خلیفہ تھا۔ ایک صاع کے برابر اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ وہ اپنی جان پر روتا تھا۔

## امان کے قلعے

549 ہجری میں مصر کا حاکم الظاہر باللہ عبیدی قتل ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الفائز عیسیٰ تخت نشین ہوا جو بالکل بچہ ہی تھا۔ سلطنت میں خرابی واقع ہوئی۔ مقتدی نے نورالدین محمود بن زنگی کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے وہاں جانے کے لیے لکھا۔ وہ اس وقت فرنگیوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھا۔ یہ شخص جہاد سے نہ تھکتا تھا۔ اسی سال اس نے دمشق کو فتح کیا تھا اور بلاد

روم سے تلوار کے زور اور امان سے کئی قلعے فتح کر لیے تھے اور اس کی شوکت و عظمت بہت بڑھ گئی تھی۔ مقتدی نے اس کو حاکم مصر بنا کر بھیجا۔ الملک العادل کا خطاب عطا کیا۔ ان دنوں مقتدی کی شوکت اور بھی بڑھ گئی تھی اور مخالفین پر وہ غالب آ گیا تھا۔ اس کی شوکت و عظمت روز بروز بڑھتی گئی یہاں تک کہ ہفتہ کی رات 2 ربیع الاول 555 ہجری کو مر گیا۔

ذہبی کہتے ہیں خلیفہ مقتدی ان خلفاء سے تھا جو نہایت با شوکت اور باہمت تھے۔ نہایت عالم، ادیب، شجاع اور حلیم تھے۔ نہایت نرم طبیعت تھے۔ خلفاء میں اس جیسے کوئی بھی کم گزرے ہیں جو چھوٹا بڑا کام اس کی سلطنت میں ہوتا، اس کی اجازت سے ہوتا۔ حدیث اس نے اپنے استاذ ابوالبرکات بن الفرخ بن سن سے پڑھی تھی۔

ابن سمعانی کہتے ہیں کچھ حدیث اس نے اپنے بھائی مسترشد کے ساتھ ابوقاسم بن بیان سے بھی سنی تھی۔ ابومنصور جو اقلی لغوی وزیر ابن ہبیرہ وغیرہا نے اس سے روایت کی تھی۔

### صاحب رائے و سیاست

مقتدی نے خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا اور اپنے دفن کے لیے ایک عقیق کا تابوت بھی بنوایا۔ نہایت نیک سیرت، محبوب الخلق، عالم دیندار اور صاحب الرائے و سیاست تھا۔ روم خلافت کو اس نے نئے سرے سے جاری کیا اور نظامت سلطنت خود کیا کرتا تھا اور لڑائی میں بنفس جایا کرتا تھا۔

### علوم و دینیہ میں

ابوطالب عبدالرحمن بن محمد بن عبدالسیح ہاشمی کتاب مناقب عباسیہ میں لکھتے ہیں مقتدی کا زمانہ نہایت عدل و انصاف اور خیر و برکت والا تھا اور یہ خلیفہ ہونے سے پہلے بھی نہایت عابد و زاہد تھا۔ پہلے لوم دینیہ میں نہایت مصروف رہتا تھا اور کتابیں تصنیف کرتا تھا۔ معتمد کے بعد ایسا شجاع جو انمرد کوئی خلیفہ نہیں ہوا اور ساتھ ہی یہ نہایت زاہد اور پرہیزگار تھا جہاں اس کا لشکر گیا، فتحیاب ہی ہو کر لوٹا۔

## حدیث کا عاشق

ابن جوزی کہتے ہیں مقشقی کے عہد خلافت میں بغداد اور عراق خلفاء کے قبضہ میں آ گیا تھا حالانکہ اس سے پہلے ان پر بادشاہ ہی حکومت کرتے تھے۔ خلیفہ کا صرف نام ہوتا تھا اس کے نائب سلطنت سلطان بنجر صاحب خراسان سلطان نور الدین محمود اولیٰ شام تھے۔ یہ خلیفہ نہایت سخی، علم و حدیث کا عاشق اور عالم و فاضل تھا۔

## قیامت بروں پر

ابن سمانی نے ابو منصور جو اہلی سے اور انہوں نے مقشقی سے اور اس نے بسند خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا قیامت برے لوگوں پر آئے گی۔

کہتے ہیں جب مقشقی نے امام ابو منصور جو اہلی نحوی کو امام بنانے کے لیے بلایا تھا تو انہوں نے آ کر صرف یہی کہا السلام علی امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ۔ وہاں اس وقت ابن تلمیذ نصرانی بھی کھڑا تھا۔ کہنے لگا اے شیخ خلفاء پر اس قدر ہی سلام کرتے ہیں۔ ابن جو اہلی نے جواب نہ دیا اور خلیفہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے امیر المؤمنین میں نے ایسے سلام کیا ہے جیسے حدیث میں آیا۔ پھر انہوں نے اس مضمون کی ایک حدیث روایت کی اور پھر کہا اے امیر اگر کوئی قسم کھائے کسی نصرانی یا یہودی کے دل تک علم نہیں پہنچا تو اسے کفارہ دینا لازم نہیں آتا کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ جو ایمان کے علاوہ دور نہیں ہو سکتی۔

مقشقی نے کہا تم نے خوب کہا اور بہت اچھا بیان کیا۔ اس کلام سے گویا ابن تلمیذ کے منہ میں پتھر کی لگام دیدی گئی، یعنی بالکل خاموش ہو گیا۔ اگر چہ وہ بڑا ادیب تھا۔

علمائے ذیل عہد مقشقی میں فوت ہوئے:

ابن ابرش نحوی، یونس بن مغیث، جمال الاسلام بن مسلم شافعی، ابوالقاسم اصفہانی صاحب ترتیب، ابن برجان مازری، مالکی صاحب معلم، علامہ زحشری رشاطی صاحب التساب، امام جو اہلی، ابن عطیہ صاحب تفسیر، ابوالسعادت ابن الشجرى، امام ابوبکر بن عربی، ناصح الدین ارجانی شاعر، قاضی عیاض، حافظ ابوالولید بن دباغ، ابوالاسعد ہبہ عبدالرحمن قشیری، ابن علام الفرس مقری،

رفاع شاعر، شہرستانی صاحب السلسلہ وائل، قیسرانی شاعر، محمد بن یحییٰ تلمیذ غزالی، ابوالفضل بن ناصر حافظ، ابوالکرم شہرزی مقرر، واد شاعر، ابن ائحل امام الشافعیہ وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## المستجد باللہ

المستجد باللہ ابوالمظفر یوسف بن مقتدی 518 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ام ولد کرچی تھی جس کا نام طاؤس تھا۔ 547 ہجری میں اس کے باپ نے اسے ولی عہد مقرر کیا اور اس کے مرنے پر اس کی بیعت کی گئی۔ نہایت عادل اور نرم خوتھا۔ اس نے عراق کے تمام ٹیکس اٹھادیئے۔ مفسدوں کا جانی دشمن تھا، چنانچہ مدت تک ایک مفسد کو قید رکھا۔ ایک آدمی نے آکر عرض کیا دس ہزار دینار مجھ سے لے کر رہا کر دیجئے۔ مستجد نے جواب دیا میں تمہیں دس دینار دیتا ہوں اور تم مجھے اس طرح کا کوئی اور شخص بتلا دو تاکہ میں اسے بھی قید کروں اور لوگوں کو اس کے شر سے بچاؤں۔

## اصطراب

ابن جوزی کہتے ہیں مستجد نہایت فہیم صاحب الرائے اور ذکی تھا۔ اعلیٰ درجے کا ناظم و ناظر تھا۔ آلات فلک اور اصطراب بنانے میں ماہر تھا۔ ذیل کے اشعار اسی کے ہیں: اشعار

عَيَّرْتَنِي بِالشَّيْبِ وَهُوَ وَقَارٌ      لَيْتَ غَيَّرْتُ بِمَا هُوَ عَارٌ

ترجمہ: محبوبہ نے بڑھاپے کی سفیدی دیکھ کر مجھے عیب لگایا، حالانکہ وہ موجب فخر چیز ہے۔ کاش وہ اس چیز کو عار سمجھتی۔ جو فی الحقیقت عار ہے۔

إِنْ تَكُنْ شَابَتِ الذُّوَابُ مِنِّي      فَالْأَيْلِيُّ تَزِينُهَا الْأَقْمَارُ

ترجمہ: اگر میری زلفیں سفید ہو گئی ہیں تو کوئی مضاقتہ نہیں کیونکہ راتوں کو ماہ و تاباں سے ہی زینت ہوتی ہے۔

ایک بخیل کی صفت میں اس کے یہ اشعار ہیں:

وَبَاخِلٍ أَشْعَلِ فِي بَيْتِهِ      تَكْرِمَةً مِنْهُ لَنَا شَمْعَةٌ

ترجمہ: بہت سے ایسے بخیل ہیں جو ہماری عزت کی خاطر اپنے گھر میں شمعیں روشن کرتے ہیں۔

فَمَا جَرَتْ مِنْ عَيْنِهَا دَمْعَةٌ      حَتَّى جَرَتْ مِنْ عَيْنِهِ دَمْعَةٌ

ترجمہ: جب شیعہ پگھلتی ہے اور اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں (یعنی وہ قطرہ قطرہ ہو کر بہنے لگتی ہے) تو اس کنبوں کے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔

اپنے وزیر ابن ہبیرہ کی دانائی اور کارزاری سے خلیفہ بہت خوش ہوا تو اس کی صفت میں یہ اشعار کہے:

صِفْتُ نِعْمَتَانِ خَصَّتَاكَ وَعَمَّتَا      بِذِكْرِهِمَا حَتَّى الْقِيَامَةَ تَذَكَّرُ  
ترجمہ: وہ دونوں نعمتیں جو تیرے ساتھ خاص ہیں اور عام ہیں۔ قیامت تک ان کی وجہ سے تو مشہور رہے گا۔

وَجُودُكَ وَالذُّنْيَا إِلَيْكَ فَكَيْفَ؟      وَجُودُكَ وَالْمَعْرُوفُ فِي النَّاسِ مُنْكَرُ  
ترجمہ: دنیا تیری اور تیرے وجود کی ہر لحاظ سے محتاج ہے اور لوگوں میں تیرے احسان اور تیرے وجود کا کوئی منکر نہیں ہے۔

فَلَوْ رَامَ يَا يَحْيَىٰ مَكَانَكَ جَعْفَرُ      وَيَخْسَىٰ لَكِنَّمَا عَنْهُ يَحْيَىٰ وَجَعْفَرُ  
ترجمہ: اے یحییٰ اگر تیرے مکان و مرتبے کا یحییٰ و جعفر بھی ارادہ کرتے تو البتہ ضرور وہ اس سے عاجز ہو جاتے ہیں۔

وَلَمْ أَرَمَنْ يَنْوِي لَكَ السُّنُوبَا      أَبَا الْمُظَفَّرِ إِلَّا كُنْتَ أَنْتَ الْمُظَفَّرُ  
ترجمہ: اے ابو جعفر میں دیکھتا ہوں جو بھی تیرے ساتھ برابری کرنا چاہتا ہے تو اس پر تو ہی غالب آتا ہے۔

اس کی خلافت کے شروع سال میں ہی حاکم مصر مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا العاضد لدین اللہ محافظ تخت بنا۔ یہ شخص عبیدیوں میں سے آخری خلیفہ تھا۔

### دو ماہ محاصرہ

563 ہجری میں سلطان نور الدین نے امیر اسد الدین شیر کوہ کو دو ہزار سوار دیکر مصر کی جانب روانہ کیا۔ اس نے جزیرہ میں اتر کر قریباً دو ماہ تک مصر کا محاصرہ کیے رکھا۔ وہاں کے حاکم نے فرنگیوں سے مدد مانگی اس لیے وہ ان کی مدد کو دمیاط سے آگے بڑھے۔ اسد الدین صعیق کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کے اور مصریوں کے درمیان لڑائی ہوئی اگرچہ اس کے دشمن کے پاس بہت سا لشکر تھا اور اس کے پاس کم مگر فتح اس کو ہوئی اور بہت سے فرنگی مارے گئے۔ پھر



اسد الدین نے صعید کا خراج جمع کیا۔ فرنگیوں نے اسکندریہ کا قصد کیا اور اس پر صلاح الدین یوسف بن ایوب اسد الدین کا ہتھیجا قابض ہو چکا تھا۔ فرنگیوں نے مسلسل چار ماہ تک اس کا محاصرہ رکھا۔ آخر اسد الدین جب اس طرف بڑھا تو فرنگی بھاگ گئے اور اسد الدین شام کی طرف چلا آیا۔

آمد کی خبر

564 ہجری میں فرنگیوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ پھر دیا ر مصریہ پر حملہ کر کے بلبیس پر قبضہ کر لیا اور قاہرہ کے حاکم نے فرنگیوں کے قبضے کے خوف سے قاہرہ میں آگ لگادی۔ پھر اس نے سلطان نور الدین سے مدد مانگی۔ اس پر اسد الدین اپنی فوجیں لیکر اس کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ جب فرنگیوں نے اس کی آمد کی خبر سنی فوراً وہاں سے بھاگ اٹھے۔ اسد الدین مصر میں داخل ہوا۔ العاضد صاحب مصر نے اسے اپنے اپنا وزیر بنالیا اور اسے خلعت عطا کی۔ اسد الدین اس کے بعد صرف دو ماہ پانچ دن زندہ رہا۔ العاضد نے اس کے ہتھیجے صلاح الدین کو مقرر کر دیا اور تمام امور اس کے سپرد کر کے اسے الملک الناصر کا خطاب دیا۔ صلاح الدین اپنے فرائض کو نہایت عمدگی سے انجام دیتا رہا۔

ذہبی لکھتے ہیں جب سے مستحجد بیمار ہوا آسمان پر سخت سرخی رہی یہاں تک کہ دیواروں پر اس کا اثر دکھائی دیتا تھا۔

عہد مستحجد میں یہ علماء فوت ہوئے:

ذیلی صاحب مسند الفردوس، عمرانی شافعی صاحب تبیان، ابن بزی شافعی، وزیر ابن ابی ہمیرہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، امام ابوسعید سمعانی، ابن الجیب سہروردی، ابوالحسن بن ہذیل مرقی وغیرہم۔

## المستغنی بامر اللہ

المستغنی بامر اللہ الحسن ابو محمد بن مستحجد باللہ 536 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ آرمینیا کی رہنے والی تھی تھی اور ام ولد تھی۔ نام اس کا غصہ تھا۔ مستغنی والد کے فوت ہونے کے بعد تخت پر بیٹھا۔

ابن جوزی لکھتے ہیں تخت پر بیٹھتے ہی اس نے تمام مظالم رفع کر دیئے۔ ایسا عدل و کرم پھیلا یا جو ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہاشمیوں، علویوں اور علماء کو بہت سامال دیا۔ مدرسوں اور سراؤں پر بھی بہت کچھ خرچ کیا۔ اس کے نزدیک مال کی کوئی وقعت نہ تھی۔ ہمیشہ لوگوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا۔ نہایت بردبار اور مہربان تھا۔ جب خلیفہ ہوا تو تمام ارکان دولت کو خلعتیں عطا کیں۔ شاہی درزی کہتا ہے میں نے ایک ہزار تین سو ریشمی قبائیں (چغے) قطع کی تھیں۔ بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور رسم کے موافق دینار شمار کیے گئے۔ روح بن حدیثی قاضی ہوئے اور ان کو 17 غلام دیئے گئے۔ جیسے شاعر نے اسی بارے میں یہ اشعار کہے ہیں:

يَا اِمَامَ الْهُدَى عَلَوْتُ عَلَى الْعَجُوِّ      دِبِمَالٍ وَفِضَّةٍ وَنُضَارٍ  
ترجمہ: اے امام ہدایت تو مال، چاندی اور سونے کے بخشے میں بارش سے بھی بڑھ گیا ہے۔

فَوَهَبْتَ الْأَعْمَارَ وَالْأَمْنَ وَالْبُلْدَانَ      فِي سَاعَةٍ مَضَتْ مِنْ نَهَارٍ  
ترجمہ: ابھی ان میں ایک ساعت ہی گزری ہے کہ تو نے اس میں لوگوں کو عمریں امن اور شہر بخش دیئے ہیں۔

فِيمَاذَا يُثْنِي عَلَيْكَ وَقَدْ جَاوَزْتَ      فَضْلَ الْبُحُورِ وَالْأَمْطَارِ  
ترجمہ: تیری تعریف کن الفاظ میں کی جائے جبکہ تو سخاوت میں سمندروں اور بارشوں سے بھی بڑھ گیا ہے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُعْجَزٌ مُنْقَلٍ      خَارِقٌ لِلْعُقُولِ وَالْأَفْكَارِ  
ترجمہ: تو! تو گویا ایک معجزہ ہے جو عقول و افکار کے خلاف واقع ہوا ہے۔

جَمَعْتَ نَفْسَكَ الشَّرِيفَةَ بِالْبَاسِ      وَبِالْجُودِ بَيْنَ مَاءٍ وَنَارٍ  
ترجمہ: تیرے نفس نے سختی اور سخاوت اور آگ اور پانی کے درمیان لوگوں کو جمع کیا ہے یعنی دوستوں کیلئے توختی اور نرم ہے اور دشمن کیلئے آگ اور سختی ہے۔

### زوال عبیدیاں

ابن جوزی کہتے ہیں اکثر مستضعف لوگوں سے پردے میں رہتا تھا۔ اگر باہر سوار ہو کر جانا ہوتا تو نوکروں چاکروں کے درمیان ہو کر چلا جاتا تاکہ لوگ اسے زیادہ کھڑا نہ کر سکیں۔ اکیلا

باہر نہ جاتا اور نوکروں چاکروں کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور نہ جانے پاتا۔ اس کے دور میں ہی بنی عبید کی سلطنت ختم ہو گئی اور مصر میں مستنصری کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور سکوں میں بھی اس کا نام چلا۔ جب اس امر کی خبر اہل بغداد کو ملی تو بہت خوشی منائی گئی اس پر بازار سجائے گئے۔ اس پر ہی مصنف کتاب ہذا نے ایک کتاب ”النصر علی مصر“ لکھی۔ یہ ابن جوزی کا کلام تھا۔

ذہبی! اس کے عہد خلافت میں بغداد میں رافضیوں کا زور کم ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے بہت امن ہو گیا تھا اور اس کی وقت میں سعادت عظیمہ حاصل ہوئی۔ یمن برقہ تو زور اور مصر وغیرہ میں اس کے نام کا خطبہ ہونے لگا۔ تمام بادشاہ اس کے مطیع فرمان ہو گئے۔ یہ تمام واقعات 567 ہجری کے ہیں۔

### عجیب و غریب اشیاء

عباد کا تب کہتے ہیں سلطان صلاح الدین نے 567 ہجری کے پہلے جمعہ میں مصر میں بنی عباس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ بدعت کا قلع قمع ہو گیا اور راہ شرع واضح ہو گئی اور قاہرہ میں بھی ایسے ہی خطبہ ہوا۔ تھوڑے دنوں بعد ہی والی مصر العاضد مر گیا اور صلاح الدین نے اس کے محل اور اس کے تمام ذخائر و نفاکس کو اپنی حراست میں لے لیا۔ کہتے ہیں وہ مال اس قدر کثیر تھا دس سال تک فروخت ہوتا رہا اور کچھ نہایت عجیب و غریب قسم کی اشیاء جو سلطان صلاح الدین نے اپنے لیے رکھی تھیں وہ ان کے علاوہ تھیں۔ سلطان نور الدین نے یہ خوشخبری شہاب الدین بن مظفر بن علامہ شرف الدین بن ابی عمروں کے ہاتھ بغداد میں بھیجی اور مجھے بشارت جسے تمام شہروں میں سنائے جانے کا حکم تھا، لکھنے کا کہا تو میں نے وہ اس طرح لکھی:

### مراد پوری ہوئی

”ہر طرح کی تعریف خدا کو سزاوار ہے جو حق کو ظاہر اور برتر کرنے والا ہے اور باطل کو کمزور اور نابود کرنے والا ہے۔“ اور کچھ آگے چل کر لکھا شہروں میں کوئی ایسا نہیں جس پر مولانا امام مستنصری بامر اللہ امیر المؤمنین کے نام کا خطبہ نہ پڑھا گیا ہو اور مساجد قبضہ میں ہیں اور بدعت کے گرجے مسمار کر دیئے گئے ہیں اور آگے چل کر لکھا حالانکہ وہ سو برس سے چھوٹے دعویداروں اور شیطانی گروہوں سے بھری ہوئی تھیں۔ آگے لکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان شہروں کا مالک بنا دیا

ہے اور ہماری مراد جو کفر و الجاد کو مٹانے کی تھی پوری ہو گئی ہے جس کے ہم نائب ہیں۔ اسے ہم نے مقدم کیا ہے اور دولت عباسیہ قائم کر دی ہے اور ملحدوں کو تہ تیغ کر دیا ہے۔  
عماد نے اسی مضمون میں ایک قصیدہ بھی بنایا۔

قَدْ خَطَبْنَا لِلْمُسْتَضَى بِمِصْرَ نَائِبِ الْمُصْطَفَى إِمَامِ الْعَصْرِ  
ترجمہ: ہم نے نائب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور امام العصر مستضیٰ کے لیے مصر

میں خطبہ پڑھا

وَأَخَذْنَا لِنَصْرِهِ عَصْدًا وَالْعَاضِدُ وَالْفَاصِرُ الَّذِي بِالْقَصْرِ

ترجمہ: اور عاصد کی امداد کو قاصر تھا، چھوڑ دیا ہے اور ہمارے لیے تو اس کی مدد کا بازو پکڑ۔  
وَتَرَكْنَا الْمُدْعَى يَدْعُو بُرًّا وَهُوَ بِالذَّلِّ تَحْتِ حَجْرٍ وَحَصْرٍ

ترجمہ: اور مدعی کو ہم نے اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ اس نے اپنا چہرہ دوزخ کی طرف کر لیا اور انہوں نے اسے ذلت و مشقت کے پتھروں اور سنگریزوں کے نیچے کر دیا ہے۔

خليفة نے اس بشارت کے جواب میں نور الدین اور صلاح الدین کو خلیفہ اور خطبائے مصر کو جمنڈے بیٹھے اور عماد کو ایک خلعت اور سو دینار بھیجے۔ عماد نے اس کے بعد ایک اور قصیدہ بنایا جس کا ایک شعر یہ ہے:

أَدَلَّتْ بِمِصْرَ لِدَاعِي الْهَدَاةِ وَانْتَقَمْتَ مِنْ دَعَى الْيَهُودِ

ترجمہ: میں نے مصر کے لوگوں کی خلیفہ برحق کی طرف رہنمائی کی اور یہودیوں کو دعوت دینے والے سے میں نے انتقام لیا۔

ابن اثیر لکھتے ہیں عباسیوں کے نام کا مصر میں خطبہ پڑھے جانے کا سبب یہ تھا جب مصر میں صلاح الدین کے پاؤں مضبوط ہو گئے اور عاصد کی حالت کمزور ہو گئی تو نور الدین نے اس کی طرف عباسیوں کے نام کا خطبہ پڑھوانے کے بارے لکھا۔ اس نے جواب دیا ایسے میں مجھے مصریوں کے باغی ہونے کا ڈر ہے۔ نور الدین اس بات کو خاطر میں نہ لایا اور پھر نہایت تاکید سے اس پر عمل کرنے کو لکھا۔ اتفاق سے ان دنوں عاصد بیمار ہو گیا اور صلاح الدین نے امراء سے مشورہ کیا۔ بعض نے تو اتفاق ہی کیا جبکہ بعض نے مخالفت کی۔ ان دنوں مصر میں عجمی شخص امیر العالم نامی آیا ہوا تھا۔ وہ ان کا یہ لیت و لعل دیکھ کر بولا میں اس کام کو شروع کرتا ہوں

چنانچہ محرم کے پہلے جمعہ میں وہ خطیب سے پہلے منبر پر جا بیٹھا اور مستضیٰ کے لیے، عاکی، مگر کسی نے چون و چرا نہ کی۔ عاصد سخت بیمار تھا۔ آخر عاشوراء کے دن فوت ہو گیا۔

### دھاری دار گدھا

569 ہجری میں نور الدین نے خلیفہ کے پاس ہدیے اور تحائف بھیجے جن میں ایک گدھا تھا اس کے بدن پر دھاریاں تھیں اور ایک عتابی کپڑا تھا۔ سب لوگ ان ہدیوں کے دیکھنے کے لیے نکلے۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام عتابی تھا۔ وہ فخر اور دعوے تو بہت کیا کرتا تھا، مگر تھا بلید اور ناقص العقل۔ ایک شخص نے ہنسی اور دل لگی کے طور پر کہا اگر نور الدین نے ہمیں حمار اور عتابی بھیجا ہے تو ہمارے پاس بھی عتابی حمار ہے۔

### نارنگی جتنے اولے

اسی سال سواد میں نارنگی کے برابر اولے پڑے جن سے بہت سے مکان مسمار ہو گئے اور ہزار ہا انسان و حیوانات مر گئے۔ دجلہ میں ایک بار پھر اتنی طغیانی آئی بغداد غرق ہو گیا۔ لوگوں نے نماز جمعہ شہر پناہ کے باہر کہیں اور ادا کی۔ اس سال فرات میں بھی بہت طغیانی آئی جس سے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے اور کھیتوں کو بہت نقصان پہنچا۔ لوگوں نے نہایت عاجزی سے دعائیں مانگیں۔ خدا کی شان ادھر تو اتنا زیادہ پانی زحمت بن گیا اور ادھر دجیل کے کھیت پانی نہ ہونے کے سبب جل گئے۔

### بروقت اطلاع

اسی سال سلطان نور الدین والی دمشق فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا الملک الصالح اسمعیل تخت پر بیٹھا۔ لیکن اسے بچہ سمجھ کر فرنگیوں نے سواصل میں حرکت کی۔ لیکن اس نے انہیں ان کی مطلوبہ چیز مال دیکر دفعہ دور کر دیا۔

اسی سال خواہان عبیدی نے پھر عبیدیوں کی سلطنت بنانا چاہی اور سلطان صلاح الدین کے امراء سے بھی ان کے ساتھ بعض متفق ہوئے۔ لیکن اس کی بروقت اطلاع سلطان کو ہو گئی۔ اس نے تمام کو قیصرین میں سولی پر اٹھوا دیا۔

572 ہجری میں سلطان صلاح الدین نے مصر اور قاہرہ کے گرد یوار بنانے کا حکم دیا اور

اس کی تعمیر کا نظام امیر قراقرم قراقرم کے سپرد کیا۔

ابن اثیر لکھتے ہیں کہ اس دیوار کا دورانیس ہزار تین سو (19300) گز ہاشمی تھا۔

مکمل نہ ہوا

اسی سال سلطان صلاح الدین نے کوہ مقطم پر قلعہ بنانے کا حکم دیا۔ مگر یہ قلعہ اس کی زندگی میں مکمل نہ ہوا بلکہ اس کے بھتیجے سلطان الملک الکامل کے عہد میں مکمل ہوا اور سب سے پہلے اسی نے اس میں رہائش اختیار کی۔

اسی سال سلطان صلاح الدین نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حزار بنوایا۔

آگ کے ستون

574 ہجری میں بغداد میں آدھی رات تک نہایت سخت تیز ہوا نہیں چلتی رہیں اور اطراف آسمان میں آگ کے ستون نمودار ہوئے۔ لوگوں نے گڑگڑا کر دعائیں کیں۔ یہ صورت حال صبح تک رہی۔

575 ہجری میں ماہ شوال کو خلیفہ المستضیٰ باللہ انتقال کر گیا۔ وہ اپنے بیٹے احمد کو جانشین بنا گیا تھا۔

عہد مستضیٰ میں علمائے ذیل نے وفات پائی۔

ابن خشاب نحوی، ملک النخاعہ ابوترار الحسن بن صافی، حافظ ابو العلاء الہمدانی، ناصح الدین ابن الدہان النحوی، حافظ کبیر، ابو القاسم بن عسا کر از شاگردان امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، حص بیض شاعر، حافظ ابو بکر بن خیر وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## الناصر لدین اللہ

الناصر لدین اللہ احمد ابو العباس بن مستضیٰ 10 رجب 553 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ترکیہ تھی جس کا نام زمرہ تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد کیم ماہ ذیقعد 575 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس نے بہت سے علماء کو روایت حدیث کی اجازت دی تھی۔ مختصر یہ ابو الحسن عبدالحق یوسفی ابو الحسن علی بن عسا کر الطائفی تھے۔ اس نے خود بہت سے لوگوں کو روایت حدیث

کی اجازت دی تھی جو اسی کی زندگی میں ہی بطور رشک و فخر اس سے روایت کیا کرتے تھے۔  
گستاخی کا ارادہ

ذہبی کہتے ہیں الناصر لدین اللہ سے زیادہ عرصہ تک کسی نے خلافت نہیں کی ہوگی کیونکہ یہ متواتر سینتالیس سال تک خلیفہ رہا اور مدت العمر عزت و جلالت کی حالت میں رہا جس نے سرکشی یا مخالفت کی اسے تباہ کر دیا اور جس نے دل میں اس کی گستاخی کا ارادہ کیا اسے خدا تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اس اقبال مندی کے باوجود بھی غافل نہ تھا مصالح ملک میں نہایت اہتمام کیا کرتا تھا اور رعایا سے کسی چھوٹے بڑے کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔

### پختہ تدبیریں

اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اس کے خیر اور پرچہ نو لیس جگہ جگہ اور شہر شہر پھیلے ہوئے تھے جو ہر چھوٹی بڑی بات لکھ لکھ کر اس کو بھیجتے رہتے تھے اور یہ ایسے ایسے حیلے کیا کرتا تھا اور ایسی ایسی چالیں چلا کرتا تھا جنہیں کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دودشمن بادشاہوں میں صلح کر دیتا اور ان کو خبر تک بھی نہ ہو پاتی اور دودشمن بادشاہوں میں عداوت ڈال دیتا اور پتہ بھی نہ چلتا۔

### چوردوازے سے

یہاں تک کہ ان دنوں والی ماژنڈران کا اٹلیٹی بغداد میں آیا تو صبح کو خلیفہ کے پاس اس کے اعمال و افعال شبینہ (رات کے کام) کا پرچہ مل جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اٹلیٹی نے اپنی تمام مصروفیات اور ذمہ داریاں اور کام نہایت خفیہ طریقے سے انجام دینے شروع کر دیئے اور انتہائی احتیاط برتی۔ مگر اس کے باوجود اس کی تمام کارروائی کا پرچہ خلیفہ کو مل جاتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک عورت کو چوردوازے سے اندر بلا کر رات بھر اپنے پاس رکھا تو صبح کو اس خبر کا تذکرہ اس پرچہ میں تھا جو روزانہ خلیفہ کو ملا کرتا تھا بلکہ اس میں یہاں تک درج تھا کہ انہوں نے جو لحاف اوپر اوڑھا تھا اس پر ہاتھی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اٹلیٹی گھبرا گیا اور اسے کامل یقین ہو گیا کہ خلیفہ غائب جانتا ہے کیونکہ امامیہ کا اعتقاد ہے کہ امام حاملہ کے معصوم بچے کے بارے اور دیوار کے پیچھے چیزوں کا علم رکھتا ہے۔

## خط کا علم

ایک دفعہ خوارزم شاہ کا ایلچی ایک مخفی اور سر بہمہر خط لیکر آیا۔ الناصر لدین اللہ نے اس خط کو دیکھتے ہی کہہ دیا مجھے اس خط کا حال معلوم ہے۔ تم واپس چلے جاؤ۔ اس سے اسے یقین ہو گیا کہ خلیفہ کو علم غیب ہے۔

## بیس دن برف باری

ذہبی کہتے ہیں لوگوں کا خیال تھا جنات الناصر لدین اللہ کے تابع ہیں۔ جب خوارزم شاہ خراسان اور ماوراء النہر میں آیا اور جبر و تعدی شروع کی اور بڑے بڑے بادشاہوں کو مطیع کر لیا اور ہزار با خلق خدا کو تہ تیغ کیا اور وہاں سے بنی عباس کا خطبہ موقوف کر دیا اور فتح بغداد کے قصد سے آگے بڑھا۔ مگر جب ہمدان میں پہنچا تو برابر بیس روز تک ان پر برف باری ہوتی رہی، حالانکہ وہ موسم برف کا نہ تھا۔ اس پر اس کے خواص نے کہا چونکہ آپ نے بیت الخلافت کی فتح کا ارادہ کیا ہے۔ اس لیے یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے اور پھر یہ خیر آئی کہ ترکوں نے جمع ہو کر اس کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اس لیے اسے لاچار واپس ہونا پڑا اور الناصر لدین اللہ کو اس کے مقابلہ کی زحمت تک نہ کرنا پڑی۔

## پیٹ بھر کر

ناصر عجیب طبیعت کا آدمی تھا۔ جب کسی کو کچھ دبتا تو پیٹ بھر کر دیتا اور جب کسی کو مارتا تو بری طرح مارتا۔ بعض دفعہ تو اس شخص کی طرح داد و دہش کرتا جیسے محتاجی کا ڈر ہی نہ ہو۔

## ظوطے کا واقعہ

ایک دفعہ ہندوستان سے ایک شخص اس کے لیے ایک طوطا لیکر آیا جو قتل ہوا اللہ احد پڑھتا تھا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو اتفاقاً وہ حوطا مر گیا۔ وہ شخص بہت حیران ہوا۔ اتنے میں فراش نے آکر طوطا طلب کیا۔ اس نے رو کر جواب دیا وہ تو کل رات مر گیا ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے وہ مر گیا ہے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں خلیفہ سے کتنے انعام کی امید تھی۔ اس نے کہا میں پانچ سو دینار کی امید رکھتا تھا۔ اس فراش نے کہا یہ لے۔ خلیفہ نے تیرے لیے پانچ سو دینار بھیجے ہیں۔ جس دن تو ہندوستان سے روانہ ہوا تھا خلیفہ کو اس دن تیرا حال معلوم ہو گیا تھا۔



## گھوڑا چھین گیا

صدر جہاں! جب بغداد میں آئے تو ان کے ساتھ بہت سے فقیہ بھی تھے۔ ایک فقیہ کے پاس نہایت عمدہ گھوڑا تھا۔ جب وہ گھر سے چلنے لگا تو گھر والوں نے کہا اگر تم اسے یہیں چھوڑ جاؤ تو بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو تم سے کوئی چھین لے۔ اس نے کہا عوام تو ایک طرف خلیفہ وقت بھی اس کو چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ خلیفہ نے پہلے ہی ایک مشعلچی کو حکم دے رکھا تھا کہ جب ایسا ایسا ایک شخص آئے تو اسے مار کر گھوڑا اس سے چھین لینا چنانچہ جب وہ بغداد میں آیا تو مشعلچی نے ایسا ہی کیا۔ فقیہ بہت پریشان ہوا اور ہر جگہ فریاد کی مگر کسی نے نہ سنی۔ الغرض جب یہ لوگ حج کر کے واپس آئے تو بارگاہِ خلافت سے صدر جہاں اور ان کے ہمراہیوں کو خلعتیں عطا ہوئیں اور منجملہ ان کے اس فقیہ کو بھی خلعت ملی جس میں وہی گھوڑا مع طلائی زین اور ساز و سامان کے ساتھ تھا۔ پھر اسے کہا گیا خلیفہ کو بیشک اس گھوڑے کو چھیننے کی جرأت نہیں ہوئی مگر ایک ادنیٰ درجے کے شخص یعنی مشعلچی نے اسے چھین لیا۔ یہ بات سن کر وہ فقیہ بیہوش ہو کر گر پڑا اور خلیفہ کی کرامت کا قائل ہو گیا۔

موفق عبداللطیف کہتے ہیں ناصر نے اپنی ہیبت اور خوف سے لوگوں کے دلوں کو پر کر دیا تھا اور اس سے اہل ہند اور اہل مصر بھی ایسے ہی ڈرتے تھے جیسے اہل بغداد۔ معتمد کے بعد خلافت کی ہیبت مرجی تھی۔ مگر اس نے اسے زندہ کر دیا اور اپنے ساتھ ہی اس کا خاتمہ بھی کر گیا۔ مصر اور شام کے بادشاہوں اور اکابر کی مجلسوں میں جب ناصر کا ذکر آتا تو اس کی ہیبت اور جلال کے باعث تمام اپنی آوازیں پست کر لیتے۔

## پوشیدہ قتل بتا دیا

ایک دفعہ بغداد میں ایک تاجر آیا جس کے پاس دمیاط کا بنا ہوا طلائی مال تھا۔ چونگی والوں نے اس سے محصول مانگا مگر اس نے کہہ دیا میرے پاس وہ چیزیں ہی نہیں جن کا تم محصول لیتے ہو تو انہوں نے تمام اشیاء کی نشانیاں اور شکل و صورت بیان کرنی شروع کی۔ مگر اس پر بھی اس نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے بارگاہِ خلافت کی ہدایت کے موجب کہا کیا تو نے اپنے فلاں ترکی غلام کو بحر دمیاط کے کنارے لے جا کر پوشیدہ قتل نہیں کیا تھا۔ یہ بات سن کر حیران رہ گیا کیونکہ

اس کے سوا کسی کو اس واقعہ کی خبر نہ تھی۔

### اچسین اور چین تک

ابن نجار کہتے ہیں تمام بادشاہ و سلاطین اس کے مطیع فرمان ہو گئے تھے اور تمام سرکش و مخالفین اس کی تلوارِ خاکِ گاف کے سامنے جھک گئے تھے اور تمام اس کے مددگار و معاون بن گئے تھے۔ اس نے بہت سے ممالک فتح کر لیے۔ اس کی سلطنت اس قدر وسیع تھی۔ شاید ہی کبھی کسی کو اتنی وسیع سلطنت نصیب ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ اندلس، اچسین اور چین میں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ عباسیوں میں سب سے زیادہ شدید یہی شخص تھا جس کی ہیبت سے پہاڑ کانپتے تھے۔ خوش خلق، کامل النظر، فصیح اللسان، بلیغ البیان شخص تھا۔ اس کے فرامین نہایت اعلیٰ اور عمدہ تھے اور اس کا زمانہ تاجِ فخر کا موتی تھا۔

### میزبان کی بے ادبی

ابن واصل لکھتے ہیں ناصر نہایت دلیر، شجاع، صاحب عقل صائب اور ذہن ثاقب تھا۔ عراق اور ملک کے تمام اطراف میں اس کو باخبر رکھنے والے اس کے اپنے آدمی موجود تھے جو اسے ذرا ذرا بات کی اطلاع دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ بغداد میں ایک شخص نے دعوت کی اور ہاتھ مہمانوں سے پہلے دھولے۔ اس کے خبر دینے والے آدمی نے اس بات کی اطلاع ناصر کو پہنچائی تو اس نے جواب میں لکھا یہ بات میزبان کی بے ادبی پر دال ہے۔ مگر ان باتوں کے باوجود رعایا کے حق میں اچھا نہ تھا۔

### علمائے کو اجازت نامے

موفق عبداللطیف کہتے ہیں وسط ایام خلافت میں روایت حدیث میں مشغول ہو گیا تھا۔ چنانچہ بہت سے محدثین کو بلا کر ان سے احادیث سنیں اور اجازت حاصل کی اور پھر خود بھی اور بادشاہوں اور علماء کو اجازت نامے لکھ کر بھیجے۔ ایک کتاب بھی لکھی جس میں 70 احادیث تھیں۔ پھر وہ کتاب حلب پہنچی تو لوگوں میں سنی سنائی گئی۔

ذہبی! ناصر نے بہت سے علماء کو اجازت دی تھی۔ ان میں سے ابن سیکنہ، ابن احضر، ابن

نجار وغیرہ تھے۔

## دستخط لوٹدی کرتی

ابن جوزی کے پوتے ابوالمظفر کہتے ہیں آخر عمر میں ناصر کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ بعض کہتے ہیں بالکل ہی اندھا ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا حال رعایا بلکہ یہاں تک اس کے وزیر اور گھر والوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کیونکہ اس نے اپنی ایک لوٹدی کو اپنے لکھنے اور دستخط کرنے کی مشق کرا دی تھی۔ اس کا خط اور دستخط بالکل ناصر کے خط اور دستخط جیسے تھے۔ فرمانوں پر وہی دستخط کر دیا کرتی تھی۔

شمس الدین کہتے ہیں پانی جو ناصر پیا کرتا تھا بغداد سے سات فرسنگ (میل سے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے) کے فاصلہ پر سے اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ پھر اسے سات دن تک ہر دن ایک دفعہ جوش دیا جاتا تھا۔ بعد ازاں اسے سات روز تک برتنوں میں ڈال کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ اسے پینے میں استعمال کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ مرا تو کئی دفعہ اسے خواب آور دوا دیکر اس کے ذکر (آلہ عضو خاص) سے پتھری نکالی گئی جس کے صدمے سے وہ 626 ہجری ماہ رمضان میں اتوار کے دن فوت ہو گیا۔

ناصر کا ایک یمن نام کا غلام تھا ناصر نے ایک دفعہ اسے عتاب آمیز خط لکھا۔ اس میں اشعار بھی تھے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔

بِمَنْ يَمْنُ "بِمَنْ تَمْنُ" تَمْنُ

ترجمہ:- جو مبارک کے ساتھ ہے وہ بھی مبارک ہے (غلام یمن) اور جو بچی ہوئی چیز یا قیمتی چیز کا عوض ہے وہ آٹھواں حصہ ہے۔

## عہد ناصر کے حوادث

### جاننے کے باوجود

577 ہجری میں ملک ناصر نے سلطان صلاح الدین کو خط لکھا کہ آپ نے یہ جاننے

کے باوجود ناصر خلیفہ کا لقب ہے مجھے ناصر کیوں لکھا ہے۔

## مشہد موسیٰ کاظم

580 ہجری میں بارگاہِ خلافت سے حکم صادر ہوا کہ جو مشہد موسیٰ کاظم میں جا کر پناہ لے لے اس سے باز پرس نہ کی جائے گی۔ جس سے تمام مجرم وہاں چلے گئے۔ اس سے بہت سے مفاسد پیدا ہوئے۔

## ایک کان والا بچہ

581 ہجری میں علت میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی پیشانی ایک بالشت چار انگلیاں لمبی تھیں اور کان صرف ایک ہی تھا۔ اسی سال خبر آئی مغرب کے تمام بڑے بڑے شہروں میں ناصر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا ہے۔

## نجومی مارے گئے

582 ہجری میں سیارہ سبوعہ برج میزان میں آ گئے۔ نجومیوں نے نتیجہ نکالا ہوا تھا کہ طوفان سے تمام ملک تباہ و برباد ہوگا اور اس واقعہ کے جمادی الاخریوں رات میں پیش آنے کا بتلایا۔ لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے تہ خانے بنانے شروع کر دیے اور کھانا پینا اور تمام اشیائے خوردنی وہاں ہی رکھنی شروع کر دیں۔ تمام لوگ جمادی الاخریوں رات کا انتظار کرنے لگے جس میں عہد عادی جیسی تباہ کن ہوا چلنے کے بارے کہا گیا تھا۔ لیکن خدا کی حکمت اس رات ہوا سے ایک پتہ تک بھی نہ ہلا اور اتنی بھی ہوانہ آئی جس سے چراغ ہی گل ہو جائے۔ اس پر شعراء نے نجومیوں کا بہت مذاق اڑایا۔ چنانچہ ذیل میں شاعر ابوالفتح محمد بن معلم کے اشعار ہیں۔

قُلْ لَّابِئْسَ الْفَضْلُ قَوْلٌ مُّعْتَرِفٌ مَضَى جُمَادَى وَجَاءَ نَارِجِبُ  
ترجمہ: ابوالفضل خلیفہ کو اس کے قول مشہور کیلئے کہہ جمادی الاخریٰ گزر گیا اور ہمارے پاس ماہ رجب آ گیا۔

وَمَا جَرَتْ زَعْرَعٌ كَمَا حَكَمُوا وَلَا بُدًّا كَوَكَّبٌ لَهُ ذَنْبٌ  
ترجمہ: اور کوئی زلزلہ نہیں جیسے کہ نجومیوں نے حکم لگایا تھا اور نہ ہی کوئی دمداستارہ ظاہر ہوا ہے۔  
كَلًّا وَلَا أَظْلَمَتْ ذُكَاءٌ وَلَا  
ترجمہ: نہ تو چاند اور سورج ہی سیاہ ہوئے اور نہ کوئی جلتا ہوا ستارہ ہی ظاہر ہوا ہے۔

يَقْضِي عَلَيْهِ مَنْ لَيْسَ يَعْلَمُ مَا يَقْضِي عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْعَجَبُ  
ترجمہ: کیا وہ شخص بھی حوادثِ زمانہ پر حکم لگا سکتا ہے جسے یہ ہی معلوم نہ ہوکل اس پر کیا گزرے گی؟ یہ کتنی عجیب بات ہے۔

قَدْبَانَ كَذْبِ الْمُنْجِمِينَ وَفِي آيِ مَقَالٍ قَالُوا فَمَا كَذَبُوا  
ترجمہ: تحقیق نجومیوں کا جھوٹ ظاہر ہو گیا ہے اور نجومیوں کی ایسی بات ہے کون سی کہ جب انہوں نے کہا تو پس جھوٹ نہ کہا ہو۔

اکیانوے برس سے

583 ہجری میں ایسا عجیب اتفاق ہوا سال کی پہلی تاریخ پہلا دن ہفتہ کے پہلے دن سوموار کو ہوئی۔ اس روز فارسی اور شمسی سالوں کی بھی پہلی پہلی تاریخ تھی اور سورج اور چاند دونوں پہلے برجوں میں تھے۔ ایسے اتفاق پہلے نہ ہوا تھا۔ اسی سال زیادہ فتوحات ہوئیں۔ سلطان صلاح الدین نے بہت سے بلادِ شامیہ کو جو فرنگی کے تسلط میں تھے فتح کر لیا اور سب سے بڑی بات بیت المقدس جو متواتر اکیانوے برس سے انگریزوں کے زیر تسلط تھا، بھی فتح کر لیا اور سلطان صلاح الدین نے وہاں تمام گرجوں کو مسمار کر کے ان کی جگہ مدرسہ شافعیہ بنوایا جبکہ گرجا قہامت کو بوجہ اقتدائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسمار نہیں کرایا کیونکہ آپ نے بھی فتح بیت المقدس کے وقت اسے مسمار نہیں کرایا تھا۔ محمد بن اسعد نسابہ نے اس بارے میں یہ اشعار کہے۔

آتَرَى مَنْأَمَا مَا بَعِينِي أَبْصُرُ الْقُدْسُ يَفْتَحُ وَالنَّصَارَى تُكْسَرُ  
ترجمہ: کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بیت المقدس کو فتح کیا جا رہا ہے اور نصاریٰ شکست دیئے جا رہے ہیں۔

وَقِمَامَتِ صَمْتٍ مِنَ الرَّجْسِ الَّذِي بَزَّ وَالِهِ وَزَوَالِهَا يَتَطَهَّرُ  
ترجمہ: اور قیامہ کو انہوں نے نجاستوں سے پاک کیا ہے کیونکہ وہ ایسی نجاستوں کے دور ہونے سے اور بتوں کو دور کرنے سے ہی پاک ہوگا۔

وَمَلِكُهُمْ فِي الْقَيْدِ مَضْفُودٌ وَلَمْ يَرَ قَبْلَ ذَاكَ لَهُمْ مَلِكٌ يُؤْمَرُ  
ترجمہ: اور ان کا بادشاہ قید میں محبوس ہے اور اس سے قبل ان کے بادشاہ کو کسی نے محبوس

نہیں دیکھا۔

قَدْ جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ الَّذِي وَعَدَ الرَّسُولَ فَسَبِّحُوا بِمَنْحَرِ اللَّيْلِ لَهُمُ الْوَسْطَىٰ  
ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ کی مدد اور وہ فتح جس کا رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وعدہ فرمایا تھا وہ آگئی ہے۔ پس لوگو! تم اللہ کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش طلب کرو۔  
يَا يُوسُفَ الصِّدِّيقَ أَنْتَ بَفَتْحِهَا فَازُوقْهَا عُمَرَا الْإِمَامَ الْأَطْهَرَ  
ترجمہ: اے یوسف صدیق (صلاح الدین کا نام ہے) تو مصروف فتح کرنے میں گویا پاک لوگوں کے امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہے۔

### بیت المقدس فتح ہوگا

نہایت عجیب بات ہے۔ ابن برجان نے سورہ الم غلبت الروم کی تفسیر میں لکھا بیت المقدس رومیوں کے ہاتھوں میں 583 ہجری تک رہے گا۔ پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور بیت المقدس فتح ہو جائیگا اور پھر قیامت تک دارالاسلام ہی رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

### عجیب اتفاق

ابوشامہ کہتے ہیں ابن برجان نے جو ذکر کیا ہے نہایت ہی عجیب اتفاق ہے کیونکہ ابن برجان فتح بیت المقدس سے بہت پہلے فوت ہو گئے تھے۔  
زرہ گھوڑا اور ایک دینار

589 ہجری میں سلطان صلاح الدین فوت ہو گیا۔ ایک اچھی ان کی زرہ گھوڑا ایک دینار اور تیس درہم لیے بغداد میں آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین کے بعد ان کا ایک بیٹا الملک العزیز عماد الدین عثمان مصر اور الملک الفضل نور الدین علی دمشق کا اور الملک الظاہر غیاث الدین غازی حلب کا حاکم مقرر ہوا۔  
سلاطین سلجوقیہ کا آخری

590 ہجری میں سلطان طغرلک شاہ بن ارسلان بن طغرلک بن محمد بن ملک شاہ فوت ہو گیا۔ یہ بادشاہ سلاطین سلجوقیہ کا آخری بادشاہ تھا۔

ذہبی لکھتے ہیں اس خاندان کے تیس سے زیادہ بادشاہ ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب

سے پہلا طغرل بک تھا جس نے خلیفہ القائم کو بغداد میں واپس بھیجا تھا۔ ان کی مدت سلطنت ایک سو بیس برس تھی۔

592 ہجری میں مکہ میں کالی آندھی آئی اور پھر تمام جگہ پھیل گئی۔ لوگوں پر سرخ ریت کی بارش ہوئی اور رکن یرمائی کا ایک قطعہ گر گیا۔

### بلا جواب

اسی سال خوارزم شاہ پچاس ہزار لشکر لے کر دریائے جیحون کو عبور کر آیا اور خلیفہ کو کہلا بھیجا جیسا پہلے بادشاہان سلجوقیہ کے قبضہ میں خلیفہ اور دارالسلطنت ہوتا تھا، اب بھی ویسا ہی ہونا چاہئے۔ خلیفہ نے یہ سن کر دارالسلطنت کو گرا دیا اور اس کے اچھی کو بلا جواب واپس کر دیا اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، خدا تعالیٰ نے ناصر کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔

593 ہجری میں ایک بڑا ستارہ ٹوٹا اور اس کے ٹوٹنے کے وقت ایسی ہولناک آواز سنائی دی جس سے مکان اور دیواریں ہل گئیں۔ لوگوں نے نہایت خشوع سے دعائیں مانگیں اور خیال کیا کہ قیامت آگئی۔

595 ہجری میں الملک العزیز والی مصر مر گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا الملک اکامل تخت نشین ہوا۔ مگر الملک العادل سیف الدین ابو بکر بن ایوب نے اس پر حملہ کر کے مصر کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔

### قحط کی سختیاں

592 ہجری میں پانی کی بہت کمی ہو گئی اور ایسا سخت قحط پڑا لوگوں نے مرداروں اور آدمیوں کو کھانا شروع کر دیا اور یہ بات سب جگہ مشہور ہو گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے قبروں سے مردوں کو نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ اہل مصر بالکل تباہ ہو گئے اور بھوک کے باعث اتنے آدمی مر گئے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی مردے ہی مردے نظر آتے تھے یا بعض پڑے سفک رہے ہوتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ کہیں آگ تک جلتی نظر نہ آتی تھی۔ گھروں کے دروازے کھلے تھے۔ مگر گھر والے سب کے سب ملک بھاگوسدھا گئے تھے۔ ذہبی نے اس قحط کے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ایسا لگتا تھا تمام سڑکوں پر مردے بوئے گئے ہیں۔ ان کا گوشت

درندے اور پرندے بھی نہ کھاتے تھے۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو بیچ ڈالا۔ یہ حالت 598 ہجری تک رہی۔

597 ہجری میں مصر شام اور جزیرہ میں نہایت شدید زلزلہ آیا جس سے ہزار ہا مکانات اور قلعے تباہ و ویران ہو گئے اور تعلقات بصرہ سے ایک گاؤں زمین میں دھنس گیا۔

599 ہجری میں محرم کی آخری رات کو صبح تک ستارے ایسے ٹوٹے رہے کہ ٹڈی دل چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد اس وقت تک ایسا واقعہ کبھی نہ گزرا تھا۔ لوگوں نے نہایت ہی خشوع سے دعائیں کیں۔

600 ہجری میں فرنگیوں نے بلدہ فوہہ پرنیل کے راستے حملہ کیا اور اسے خوب لوٹا۔ قتل عام کیا اور واپس چلے گئے۔

601 ہجری میں فرنگی قسطنطنیہ پر قابض ہو گئے اور رومیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ شہر انام سے پندرہ رومیوں کے قبضہ میں چلا آتا تھا۔ پھر یہ 660 ہجری تک فرنگیوں کے قبضے میں رہا۔ بعد ازاں رومیوں نے پھر اسے فتح کر لیا۔

اسی سن 601 ہجری میں شہر قطیفاء میں ایک عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے دو سر ہوئے اور چار پاؤں تھے لیکن وہ زندہ نہ رہا۔ 606 ہجری میں اہل تاتار کا زور شروع ہوا۔

### دوسرے

615 ہجری میں فرنگیوں نے دمیاط سے برج سلسلہ پر قبضہ کر لیا۔ ابوشامہ کہتے ہیں یہ برج دیار مصریہ کا تالا تھا۔ یہ برج دریائے نیل کے وسط میں تھا۔ اس کی شرقی جانب اس کے مقابل میں دمیاط تھا اور غربی جانب اس کے مقابل میں جزیرہ تھا اور دونوں طرف دوسرے تھے۔ ایک دمیاط تک پہنچنا تھا اور دوسرا جزیرہ تک۔ ان کے سبب سمندر سے جہاز نہ آ سکتے تھے۔

616 ہجری میں فرنگیوں نے بہت سی لڑائیوں اور محاصروں کے بعد دمیاط کو فتح کر لیا۔ الملک الکامل ان کے مقابلے سے عاجز آ گیا۔ فرنگیوں نے وہاں کی جامع مسجد کو گرا کر وہاں گرجا بنالیا اور الملک الکامل نے نیل کے ڈلٹا کے پاس ایک شہر آباد کر کے اس کا نام منصورہ رکھا اور اس کے گرد آگر دھکیل بنا کر لشکر سمیت وہیں رہائش اختیار کی۔ اسی سال قاضی القضاة رکن الدین ظاہر نے اس سے خط و کتابت کی۔ الملک المعظم والی دمشق اس سے کچھ رنجیدہ تھا۔ اس



نے انہیں ایک بچہ (کپڑوں کی گھڑی) بھیجا جس میں زہر آلود قباحتی اور حکم دیا اس کو پہن کر اجلاس کریں۔ قاضی القضاة انکار نہ کر سکے۔ گھر گئے قباحتی تو وہاں سے مر کر ہی نکلے۔ کہتے ہیں ان کا جگر کٹ کر گر گیا تھا۔ لوگوں نے سخت افسوس کیا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا الملک المعظم نے شرف الدین بن عینین کو جنہوں نے شراب نوشی سے توبہ کی تھی شراب اور چادر بھیجی اور کہا اس کی تعریف میں کچھ شعر کہیں۔ انہوں نے یہ اشعار کہے:

اِيهَا الْمَلِكُ الْمُعْظَمُ سَنَةٌ أَحَدُ ثَنَتَهَا تَبْقِي عَلَى الْأَبَادِ

ترجمہ: اے شہنشاہِ معظم آپ نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جو بدلاؤ باد تک رہے گا۔

تَجْرِي الْمُلُوكُ عَلَى طَرِيقِكَ بَعْدَهَا خَلَعَ الْقُضَاةُ وَتُحْفَةُ الزُّهَادِ

ترجمہ: اے قاضیوں کے سرگروہ اور زاہدوں کے سر تاج تمام بادشاہ آپ کے بعد آپ کے

قدم بقدم چلیں گے۔

ملیہ عوار الحدیث

618 ہجری میں فرنگیوں سے دمیاط فتح کر لیا گیا۔

621 ہجری میں قاہرہ میں دارالحدیث کالمیہ (محل) بنایا اور ابو الخطاب بن دحیہ اس کے

پروفیسر مقرر ہوئے۔

کعبہ شریف پر مامون کے زمانہ سے برابر ریشمی پردے ڈالے جاتے تھے اناصر الدین اللہ نے سبز ریشمی پردے ڈالے اور بعد ازاں سیاہ جو اب تک برابر چلے آتے ہیں۔ اناصر کے عہد میں یہ علماء فوت ہوئے۔

حافظ ابو طاهر سلفی، ابوالحسن بن قسار لغوی، الکمال ابو البرکات بن انباری، شیخ احمد بن رفاعی زاہد، ابن بشکوان، یونس شافعی، ابوبکر بن طاہر الاحداب نحوی، ابو الفضل والد رفاعی، ابن ملکون نحوی، عبدالحق اشہیلی صاحب احکام، ابوزید تہلمی صاحب روض الانف، حافظ ابوموسیٰ مدینی، ابن بری لغوی، حافظ ابوبکر حازمی، شرف بن ابی عمرو، ابوالقاسم بخاری عتابی صاحب جامع الکبیر، کیے از مشاہیر حنفیہ، نجم جوشانی ابوالقاسم بن فیہر شاطبی صاحب المقصیدہ، فخر الدین ابوشجاع محمد بن علی بن شعیب بن الدہان فرضی یہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن کو منبر کی شکل پر وضع کیا۔ برہان الدین مرغنیانی صاحب ہدیہ قاضی خاں صاحب فتاویٰ، عبدالرحیم بن حجون زاہد ابوالولید بن

رشید صاحب علوم فلسفہ، ابو بکر بن زہر طیب، جمال بن فضلان من الشافعیہ، قاضی فاضل صاحب الانشاء والترسل، شہاب طوسی، ابو الفرح بن جوزی، عماد کاتب ابن عظیمہ مقرئ، حافظ عبدالغنی مقدسی صاحب عمدہ، الرکن الطاووسی صاحب خلاف، ابوالسعادات ابن اشیر صاحب جامع الاصول و نہایت الغریب، عماد بن یونس صاحب شرح الوجیز، اشرف صاحب التنبیہ، حافظ ابوالحسن بن مفضل، ابو محمد بن حوط اللہ، اس کا بھائی ابوسلیمان، حافظ عبدالقادر رہاوی، زاہد ابوالحسن بن صباغ، وجیہ بن وہاب نحوی، تقی الدین بن مقترح، ابوالیمن کندی نحوی، معین حاجری صاحب کفایہ من الشافعیہ، الرکن العمیدی صاحب الطریقہ فی الخلاف، ابوالبقاء عسکری صاحب الاعراب، ابیانی اصیبتہ الطیب، عبدالرحمن بن سمعانی، نجم الدین کبریٰ، ابن ابی سیف یمنی، موفق الدین قدامہ جنبلی، فخر الدین بن عساکر اور دوسرے لوگ۔

## الظاہر باللہ

الظاہر باللہ ابو نصر محمد بن الناصر لدین اللہ 571 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کے والد نے ہی اسے ولی عہد بنایا تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد باون سال کی عمر میں اس کی جگہ قائم ہوا۔ ایک دفعہ اس سے کہا گیا تو فتوحات کی طرف متوجہ ہو کر ملک میں فرانی پیدا نہیں پیدا کرتا۔ اس نے جواب دیا اب زراعت خشک ہو چکی ہے (یعنی میں بوزھا ہو گیا ہوں) اب طمع دنیاوی سے کیا فائدہ (لوگوں نے کہا اللہ آپ کی عمر میں برکت دے گا۔ کہنے لگا جو شخص عمر کے بعد دکان کھولے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس نے رعایا پر بہت احسان کیے، مظالم دور کیے اور لوگوں کو بہت عطیات دیئے۔ (ان باتوں کو ابووشامہ نے ذکر کیا ہے۔)

## زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

ابن اشیر لکھتے ہیں جب الظاہر خلیفہ ہوا تو اس نے لوگوں پر ایسا عدل و احسان کیا کہ لوگوں کو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا زمانہ یاد آ گیا۔ اگر یہ کہا جائے عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس سے زیادہ عدل و نیک نہاد خلیفہ تخت پر نہیں بیٹھا تو بالکل بجا اور درست ہے کیونکہ اس نے شہروں کے ٹیکس معاف کر دیئے تھے اور اس کے والد نے جو ایک نیا ٹیکس بڑھایا ہوا تھا، جس کی آمدنی انھوں کے حساب سے تھی، وہ بھی

معاف کر دیا۔ چنانچہ شہر یعقوب سے پہلے دس ہزار دینار ٹیکس لیا جاتا تھا۔ جب ظاہر خلیفہ ہوا لوگوں نے فریاد کی تو اس نے وہ سب معاف کر کے خراج شرعی لگا دیا۔

### خشک درخت

کہتے ہیں جب تمام شہروں میں شرعی خراج مقرر ہو گیا تو کئی لوگوں نے اس کے پاس شکایت کی ہماری املاک کے کئی درخت بالکل خشک ہو چکے ہیں، ان کا بھی خراج لیا جاتا ہے اس نے منع کر دیا اور حکم جاری کیا کہ صرف سرسبز اور صحیح درختوں کا ہی خراج شرعی لیا جائے۔

### خزانہ کی بانٹ

اظہار کے عدل، انصاف کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے شاہی خزانے کی بانٹ صرف نصف قیراط سے زائد تھی۔ شاہی ملازم جب کوئی چیز لیتے تو ان سے تول کر لیتے اور اگر دینی ہوتی تو عام لوگوں کے بانٹ (ترازو) سے تول کر دیتے۔ جب اظہار کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے وزیر کو ایک خط لکھا جس کے شروع میں وہیل "لَلْمُطَفِّفِينَ آیت لکھی۔ (پ 30 سورہ مطففین آیت 1) ترجمہ کم تولنے والوں کی خرابی ہے۔ (ترجمہ وحوالہ از کنز الایمان۔ صاحبزادہ محمد مشرفی لوی) یہ آیت لکھی تھی۔ اور لکھا ہمیں ایسی ایسی خبر ملی ہے۔ تمہیں لازم ہے خزانہ کے بانٹ بھی عام لوگوں کے بانٹ کی طرح بنالو۔ اس نے جواب دیا اس طرح کرنے سے پینتیس ہزار دینار کا خسارہ پڑتا ہے۔ اظہار نے جواب دیا وہ خسارہ چاہے تین لاکھ پچاس ہزار کا ہی کیوں نہ ہو تم اس بانٹ کو توڑ دو۔

### قرض کے عوض

ایک دفعہ کا ذکر ہے واسط سے ایک صاحب دیوان آیا جس کے پاس ایک لاکھ دینار سے زائد رقم تھی جو وہ ظلم سے اکٹھی کر کے لایا تھا۔ ظاہر نے حکم دیا انہیں مستحقین کو ہی پہنچا دو جس کی ہے جو لوگ قرض کے عوض میں قید تھے ان کو رہا کر دیا اور قاضی کو دس ہزار اس غرض سے بھیجے تاکہ انہیں مفلسوں میں بانٹ دیا جائے۔

### سبکی کرنے دو

ایک دفعہ اس سے کہا گیا کہ جتنا مال آپ خرچ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ بولا میں نے

عصر کے وقت دکان کھولی ہے مجھے نیکی کرنے دو۔ میں کب تک زندہ رہوں گا۔

## لوگوں کی چغلیاں

کہتے ہیں جب اظہار تخت نشین ہوا تو دفتر خلافت میں ہزاروں سر بمبر لگانے پڑے تھے۔ کسی نے کہا آپ انہیں کھول کر پڑھ کیوں نہیں لیتے۔ اس نے کہا مجھے ان کے کھولنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ان میں لوگوں کی چغلیاں ہی ہوں گی۔ یہ سب باتیں ابن اثیر نے لکھی ہیں۔

## راہِ خدا میں خرچ

سبط ابن جوزی کہتے ہیں ایک دن جو اظہار خزانے میں گیا تو خزانچی بولا آپ کے آباؤ اجداد کے وقت یہ خزانے پر تھے۔ اظہار نے جواب دیا خزانے اس لیے نہیں بنائے گئے تاکہ انہیں پر کیا جائے بلکہ وہ اس لیے ہیں تاکہ انہیں خالی کیا جائے اور راہِ خدا میں خرچ کیا جائے کیونکہ جمع کرنا تاجروں کا کام ہے۔

ابن واصل (اظہار) کی بابت لکھتے ہیں اس نے رعایا میں عدل اور احسان پھیلایا تمام ٹیکس اٹھادیئے۔ خود لوگوں میں بیٹھا کرتا حالانکہ اس کا باپ بالکل کسی کے سامنے نہ ہوا کرتا تھا۔

تیرہ رجب 623 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کی مدت خلافت نو ماہ اور چند روز تھی۔ حدیث اس نے اپنے والد سے سنی تھی اور اس سے ابو صالح نصر بن عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنی۔ جس سال اظہار فوت ہوا اس میں دو دفعہ چاند گرہن لگا تھا۔

## المستنصر باللہ

المستنصر باللہ ابو جعفر منصور بن اظہار باہر اللہ ماہ صفر 588 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ترکی تھی۔

ابن نجار کہتے ہیں ماہ رجب 623 ہجری میں اس کے والد کی وفات کے بعد لوگوں نے اس سے بیعت کی۔ اس نے رعایا کو انصاف دیا اور جھگڑوں کا بہت ہی خوبی سے فیصلہ کیا۔ اہل علم و دین کو مقرب بنایا۔ مسجدیں مدرسے مسافر خانے اور شفا خانے بنوائے۔ دین کو روشن کیا اور سرکشوں کا قلع قمع کیا۔ سنت نبوی کو زندہ کیا اور فتنوں کو روک دیا۔ لوگوں کو سنت نبوی پر چلنے

کی تاکید کی۔ جہاد کو بہت اچھی طرح قائم کیا۔ نصرت اسلام کے لیے لشکر جمع کیے۔ سرحدوں کی حفاظت کی اور کئی قلعے فتح کیے۔

### کوئی ایسا نہ تھا

الموفق عبداللطیف کہتے ہیں۔ جب ابو جعفر سے بیعت کی گئی تو اس نے سیرت جمیلہ کو اختیار کیا۔ جن سرکوں کا نام و نشان بالکل ناپید ہو چکا تھا ان کو از سر نو بنوادیا۔ شعائر دین کو قائم کیا۔ سب لوگ اسے چاہنے لگے اور اس کی مدح کرنے لگے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی بد خوئی کرتا ہو۔ اس کا دادا الناصر اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا اور اس کی عقل و ہدایت اور منکرات کے باعث اسے قاضی کہا کرتا تھا۔

ابن واصل کہتے ہیں مستنصر نے دجلہ کی شرعی جانب ایک مدرسہ بنایا تھا اس سے قبل اس سے اتنا اچھا مدرسہ نہ بنایا گیا تھا۔ اس میں چاروں مذہبوں کے چار استاذ مقرر کیے تھے۔ اس میں شفا خانہ بھی تھا اور نیز اس میں فقہاء۔ کسے لیے ایک باورچی خانہ بھی تھا اور ٹھنڈے پانی کے لیے ایک سرد خانہ بھی تھا اور فقہاء کے گھروں کے لیے بوریئے غالیئے تیل کا غنڈیاسی اور دیگر اشیاء مہیا تھیں۔ ہر فقیہ کو ایک مہینہ کے بعد ایک دینار ملا کرتا تھا اور خاص ان کے لیے ایک حمام بھی بنوایا تھا۔ یہ ایسے کام ہیں جو اس سے قبل کسی نے نہ کیے تھے۔ اس کا لشکر اس قدر کثیر تھا کہ اتنا کثیر لشکر اس کے آباؤ اجداد میں سے کسی کا نہیں تھا۔

### تاتاریوں کا خاتمہ

مستنصر نہایت عالی ہمت شجاع اور بہادر آدمی تھا۔ تاتاریوں نے اس کے مقبوضات پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر اس نے بڑھ کر ان کو شکست فاش سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا اسے لوگ خفاجی کہتے تھے۔ وہ اس سے بھی زیادہ دلیر اور بہادر تھا۔ وہ کہا کرتا تھا اگر میں خلیفہ ہو جاؤں تو دریائے جیحون کو عبور کر کے تاتاریوں کے تمام ملک فتح کر کے ان کا قلع قمع کر دوں۔ مگر جب مستنصر فوت ہو گیا تو الدویدار اور شرابی نے خفاجی کی تقلید کو پسند نہ کیا کیونکہ وہ دونوں اس سے ڈرتے تھے بلکہ اس کے بعد ابو احمد کو جو نہایت نرم طبیعت اور ضعیف الہوائے شخص تھا اس کو تخت پر بٹھایا تاکہ ان دونوں کا اقتدار بڑھ جائے۔ اس کے عہد خلافت میں تاتاری ہر جگہ چھا گئے تھے۔

## سلطنت کے ذمہ

ذہبی کہتے ہیں مدرسہ مستنصریہ کے وقفوں کی سالانہ آمدنی ستر ہزار مثقال سے زائد تھی۔ اس میں ایک سو ساٹھ نفیس کتابوں کے بوجھ لائے گئے تھے۔ مذاہب اربعہ کے دو سو اڑتالیس فقیہ اس میں موجود تھے۔ چار مدرس تھے اور ایک شیخ حدیث، ایک شیخ نحو، ایک شیخ طب اور شیخ فرائض تھا۔ ان سب کے لیے کھانا پینا حتیٰ کہ مٹھائی اور میوہ تک نظامت شاہی کی طرف سے تھا۔ اس میں تیس یتیم بچے بھی تعلیم پاتے تھے غرضیکہ اس مدرسہ کے لیے مال کثیر وقف تھا۔

اس کے بعد ذہبی نے ان تمام دیہاتوں اور زمینوں کو جن کی آمدن اس مدرسہ کے لیے وقف تھی بیان کیا ہے اور بعد ازاں لکھا ہے جب اس مدرسہ کا ماہِ ربیع بروز جمعرات افتتاح ہوا تو اس وقت تمام قاضی مدرسین عمائد اعیان شہر جمع تھے۔

## حوادثِ عہدِ مستنصر

628 ہجری میں الملک الاشراف والی دمشق نے ایک دارالحدیث الاشرافیہ بنانے کا حکم دیا جو 630 ہجری میں مکمل ہوا۔

632 ہجری میں مستنصر نے چاندی کے درہم مسکوک (مہر لگا سکھ) کروائے تاکہ سونے کے ٹکڑوں کے بدلے لوگ ان سے آپس میں لین دین کریں چنانچہ وزیر بیٹھ گیا اور تمام ولیٰ صراف اور تاجر حاضر ہو گئے اور دھوڑیوں کو بچھا کر ان پر درہموں کے ڈھیر لگا دیئے۔ پھر وزیر نے کہا مولانا امیر المؤمنین نے تمہارے معاملے کے لیے سونے کے ٹکڑوں کے عوض یہ درہم مقرر کیے ہیں تاکہ تمہیں سہولت ہو اور ربا سے جو حرام ہے بچ جاؤ۔ لوگوں نے یہ سن کر مستنصر کو دعائیں دیں۔ پھر یہ سکے تمام عراق میں جاری کیے گئے۔ یہ درہم ایک دینار کے دس آجاتے تھے۔ الموفق ابوالمعالی قاسم بن ابی الحدید نے اس پر یہ اشعار کہے:

لَا عَدَمًا جَمِيلَ رَأْيِكَ فِينَا      أَنْتَ بَسَاعَدْتَنَا عَنِ التَّطْفِيفِ

ترجمہ: خدا کرے ہم تیری اچھی رائے کو معدوم نہ کریں تو نے ہمیں کم تولنے سے دور رکھا ہے۔

وَرَزَمَتْ اللَّجِيْنَ حَتَّى الْفَنَاءِ      وَمَا كَانَ قَبْلَ الْمَالِ الْوَفِ

ترجمہ: آپ نے چاندی کے سکے بنوائے جن سے ہم مانوس ہو گئے ہیں حالانکہ ہم ان

سے پہلے مانوس نہ تھے۔

لَيْسَ لِلْجَمْعِ كَمَا مَنَعَكَ لِلصَّرْفِ وَلَكِنَّ لِلْعَدْلِ وَالْعُرْفِ

ترجمہ: آپ نے صرف یہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ عدل و تعریف کے لیے کیا ہے۔

635 ہجری میں شمس الدین احمد جوینی دمشق کے قاضی مقرر ہوئے۔ یہ سب سے پہلے

قاضی ہیں جنہوں نے گواہوں کے لیے شہروں میں ایک خاص مقام مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے گواہوں کو شہادت دینے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا تھا۔

### الکامل کی وفات

اسی سال دونوں سلطان یعنی اشرف والی دمشق اور الکامل صاحب مصروف ہو گئے۔

کامل اپنے بھائی سے دو ماہ بعد فوت ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا قلامہ مصر کا حاکم بنا اور العادل کا لقب اختیار کیا۔ لیکن بعد ازاں اسے معزول کر کے اس کی جگہ اس کے بھائی الصالح ایوب نجم الدین کو تخت پر بٹھایا گیا۔

637 ہجری میں شیخ عز الدین بن عبدالسلام دمشق کے خطیب مقرر ہوئے۔ انہوں نے

تمام بدعتوں سے منزہ خطبہ پڑھا اور سنہری جھنڈوں کو منسوخ کر کے سیاہ و سفید جھنڈے مقرر کیے اور ان کے سامنے صرف ایک مؤذن نے ہی اذان دی۔

### جائز تسلیم

اسی سال بادشاہ یمن نور الدین عمر بن علی بن رسول ترکمانی کا ایلچی خلیفہ کے پاس حاضر

ہوا اور اس کی طرف سے عرض کیا۔ ملک مسعود بن ملک کامل کی وفات کے بعد اس کو یمن کا سلطان جائز تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ 865 ہجری تک وہ ملک اس کی اولاد کے قبضہ میں رہا۔

639 ہجری میں الصالح والی مصر نے قیصرین و قلعہ کے درمیان ایک مدرسہ بنوایا مگر

651 ہجری میں اس کے غلاموں نے قلعہ مذکورہ کو ویران کر دیا۔

### مستنصر کا انتقال

640 ہجری میں دس جمادی الآخر بروز جمعہ مستنصر نے انتقال کیا۔ شعراء نے اس کے

بہت سے مرثیے لکھے۔ مختصر یہ کہ ان میں صفی الدین عبداللہ بن جبل بھی تھے۔ ایک دفعہ وجیہ قیروانی نے مستنصر کی مدح میں یہ شعر پڑھا:

لَوْ كُنْتُ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ حَاضِرًا كُنْتُ الْمُقَدَّمِ وَالْإِمَامَ الْأَوْزَعًا

ترجمہ: اگر آپ یوم ستیفہ میں حاضر ہوتے تو آپ ہی امام اور خلیفہ بنتے۔

## قائل کو انعام

حاضرین سے کسی نے کہا تو نے خطا کی ہے کیونکہ امیر المؤمنین کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن حاضر تھے۔ مگر مقدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہوئے۔ مستنصر نے اس بات کا اقرار کیا اور اس قائل کو انعام دیا اور وجیہ کو جلا وطن کر دیا۔ وہ وہاں سے مصر چلا گیا۔ (نقلہ الذہبی)

مستنصر کے عہد میں یہ علماء فوت ہوئے:

امام ابو القاسم رافعی، جمال مصری، ابن مغرذ رحوی، یاقوت حموی، سکا کی صاحب مفتاح، حافظ ابو الحسن بن قطان، یحییٰ بن معطلی صاحب الفیہ فی النحو، الموفق عبداللطیف بغدادی، حافظ ابو بکر بن نقطہ، حافظ عز الدین علی ابن اثیر صاحب تاریخ والانساب، اسد الغابہ ابن قسیمی شاعر، سیف آدمی، ابن فضلان، عمر بن فارض صاحب التامیہ، شہاب الدین سہروردی صاحب عوارف المعارف، بہار بن شداد ابو العباس عوفی صاحب مولد النبوی، علامہ ابو الخطاب بن دحیہ اس کا بھائی عمر، حافظ ابو الریح بن سلم صاحب الانتقاء فی المغازی، ابن الشواء شاعر، حافظ زکی الدین برزالی الجہال المحصر شیخ الحنفیہ، شمس جونی، حرانی، حافظ ابو عبد اللہ زینی، ابو البرکات ابن مستوفی، ضیاء ابن اثیر صاحب المثل السائر، ابن عربی صاحب المفصوص الکمال بن یونس شارح التنبیہ وغیر ہم رحمہم اللہ۔

## المستنصر با اللہ

المستنصر با اللہ ابو احمد عبد اللہ بن مستنصر با اللہ خلفاء عراقرین سے آخری خلیفہ تھا۔ 609 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ام الولد تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ ابن نجار مؤید طوسی، ابو روح ہروی، نجم بادرانی، شرف دمیاطی سے اس نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کی تھی۔ دمیاطی نے اس کے لیے چالیس احادیث لکھی تھیں۔ میں (مصنف) نے وہ چالیس احادیث انہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دیکھی ہیں۔



## کٹھ پتلی

مستعصم نہایت کریم، حلیم، سلیم الباطن اور دیندار شخص تھا۔ شیخ قطب الدین اس کے بارے لکھتے ہیں اپنے باپ اور دادا کی طرح سنت نبوی پر چلنے والا تھا۔ لیکن بیدار مغزی، ہوشیاری اور علو ہیت میں ان جیسا نہ تھا۔ مستنصر جب فوت ہوا تو اس کے بعد خفاجی سے ڈر کر الدویدار اور شرابی وغیرہ نے مستعصم جو نرم طبیعت تھا کو خلیفہ بنایا تھا اور اس لیے تاکہ ان کا رعب اور دبدبہ بدستور قائم رہے۔ خلیفہ مستعصم اپنے وزیر مؤید الدین علمی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس حرامزادے نے خلیفہ کو کٹھ پتلی بنا لیا جو چاہتا وہ کرتا تھا۔ اس نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ درپردہ تاتاریوں سے ملا ہوا تھا اور اس نے ان کو عراق اور بغداد کے فتح کرنے کا لالچ دیا تاکہ دولت عباسیہ کا قلع قمع کر کے علویوں کی خلافت قائم کرے۔ تاتاریوں کی اگر کوئی خبر آتی تو اسے چھپائے رکھتا اور خلیفہ کی تمام خبریں تاتاریوں کو پہنچاتا رہتا۔

## ام خلیل شجر الدر

647 ہجری میں فرنگیوں نے دمیاط فتح کر لیا۔ سلطان الملک الصالح ان دنوں سخت بیمار تھا اور اسی بیماری میں چند روز بعد شعبان کو فوت ہوا۔ مگر اس کی لوٹھی ام خلیل المسماة شجر الدر نے اس کی موت کو چھپائے رکھا اور کسی شخص کو بھیج کر اس کے لڑکے توران شاہ الملک المعظم کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس کے باپ کے غلاموں نے محرم 647 ہجری میں اسے قتل کر ڈالا اور اس کے باپ کی لوٹھی شجر الدر کو تخت پر بٹھایا اور اس سے اور اس کے نائب عز الدین ترکمانی سے عہد و پیمانہ کر لیے۔ شجر الدر نے امراء کو خلعیں اور عطایا عطا کیے۔ پھر ربیع الآخر میں عز الدین مستقل بادشاہ بن بیٹھا اور اپنا لقب الملک المعز رکھا۔ مگر لوگ اس سے بیزار ہو گئے اور لشکر نے ملک الاشراف بن صلاح الدین یوسف بن مسعود کو جس کی عمر صرف آٹھ (8) سال کی تھی بادشاہ بنا لیا اور عز الدین اس کا اتنا بک مقرر ہوا۔ دونوں کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور دونوں کے نام کے سکے مسکوک ہوئے۔ اسی سال میں دمیاط پھر فرنگیوں سے فتح کر لیا گیا۔

652 ہجری میں عدن میں ایک آگ ظاہر ہوئی جس کے شرارے اڑاڑ کر رات کے وقت سمندر میں رتے تھے اور دن کے وقت وہاں سے بڑا دھواں اٹھتا تھا۔ اسی سال معز نے

الملک الاشراف کا نام ہی مٹا دیا اور خود ایک مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔

## آگ کے دریا

654 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آگ ظاہر ہوئی۔ ابو شامہ لکھتے ہیں اس سے پہلے مدرسہ مدینہ سے ہمارے پاس خطوط آئے جن میں لکھا تھا، کیم جمادی الاخریٰ کو مدینہ منورہ میں پہلے ایک مہیب گرج سنائی دی۔ اس کے بعد بڑا شدید زلزلہ آیا۔ بعد ازاں لمحہ بلحہ پانچ تاریخ تک زلزلے آتے رہے۔ پھر قریظہ کے قریب حراہ میں ایک آگ ظاہر ہوئی۔ ہمیں مدینہ میں بیٹھے ہوئے یہی دکھائی دیتا تھا گویا یہ آگ ہمارے پاس ہی ہے۔ وادی شظا کی طرف اس آگ کی ندیاں بہنے لگیں۔ (یہاں مترجم نے کلام کیا ہے کہ یہ آگ کوہ آتش فشاں کے پھٹنے سے نکلی ہوگی کیونکہ قاعدہ ہے جب کوہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو زلزلہ آتا ہے اور اس پہاڑ سے پگھلا ہوا مادہ نکل کر پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ جسے لاوا کہتے ہیں چنانچہ کوہ ایٹا کی آتش فشانی دیکھنے والوں کا بیان اس کا شاہد ہے۔) ہم نے قریب جا کر دیکھا تو واقعی ان پہاڑوں سے آگ کے دریا بہ رہے تھے اور ان سے بڑے بڑے شعلے نکل کر نہایت بلند اڑتے چلے جاتے تھے۔ اس آگ کی روشنی مکہ تک پہنچ رہی تھی۔ تمام لوگوں نے روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر توبہ و استغفار کی۔ یہ صورت ایک ماہ سے بھی زیادہ تک رہی۔

## روشن گردنیں

ذہبی لکھتے ہیں اس آگ کی خبریں متواتر ہیں جن میں شک کی جاہ نہیں اور یہ وہی آگ تھی جس کی بارے میں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر فرمادیا تھا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک ایسی آگ ظاہر نہ ہوگی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اکثر لوگوں نے جو اس وقت تھے بیان کیا اس آگ کی روشنی میں بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں اچھی طرح نظر آتی تھیں۔

## وزیر کی بے غیرتیاں

655 ہجری میں المعز ایک کواس کی منکوہ شجرۃ الدر نے مار ڈالا اور اس کے بیٹے الملک المنصور کو تخت پر بٹھایا۔ انہی دنوں میں تاریخوں نے ملک کو جولانگاہ (گھڑ دوڑ کا میدان) بنا

رکھا تھا اور ہر جگہ فساد برپا کر رہے تھے۔ لیکن خلیفہ اور تمام لوگ ان کی شرارت سے غافل و بے خبر تھے۔ وزیر علمی دولت عباسیہ کو نیست کرنے اور سلطنت علویہ کو قائم کرنے کے درپے تھا اور خفیہ تاریخوں سے خط و کتابت کرتا رہتا تھا اور ادھر خلیفہ مستعصم اور باتوں میں منہمک تھا۔ نہ وہ اس بات کی طرف توجہ رکھ پارہا تھا اور نہ ہی اصلاح رعیت کر پارہا تھا۔ اس کے والد مستنصر کے پاس لشکر بھی بہت تھا۔ مگر اس کے باوجود تاریخوں سے اس کی صلح ہی چلتی رہی تھی۔ مگر جب مستعصم خلیفہ ہوا تو وزیر نے بے غیرتی کی اور کہا لشکر کم کر دیجئے۔ تاریخوں کو خوش رکھنے اور مال دینے تمام کام پورے ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے وزیر کا کہا مان لیا۔ ادھر وزیر نے خفیہ تاریخوں سے خط و کتابت شروع کی ہوئی تھی اور اس ملک کے فتح کر لینے کا لالچ دے رکھا تھا اور یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کا نائب ہوگا۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا اور بغداد کو فتح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔

### مختصر حال تاریخیاں

الموفق عبداللطیف تاریخوں کی خبر میں لکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے تمام گزشتہ تاریخ اور تاریخی باتیں بھول جاتی ہیں اور ہر ایک مصیبت یہاں چھ دکھائی دیتی ہے۔

### بڑا اوزار

اس قوم کی زبان اہل ہند کی زبان سے مشابہ ہے کیونکہ ان کا ملک ہندوستان سے ملتا ہے۔ مکہ شریف سے ان کا ملک چار مہینے کے فاصلے پر ہے۔ ترکوں کے بہ نسبت ان لوگوں کے چہرے زیادہ چوڑے سینے فراخ، سر میں سبک ہاتھ پاؤں چھوٹے، رنگ گندی سرخ حرکت اور صاحب الرائے ہوتے ہیں۔ ان کو تمام لوگوں کی خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ مگر ان کی خبر کوئی نہیں پاتا۔ نہ ان کے ملک میں جاسوس جا کر رہ سکتا تھا کیونکہ اختلاف شکل کے باعث فوراً پہچانا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ کسی ملک پر چڑھائی کا قصد کر لیتے ہیں تو اپنے ارادوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور یکبارگی وہاں پہنچ کر اپنے شکار کو جا دوپتے ہیں۔ فریق ثانی پر بھاگنے اور حملے کے تمام راستے بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی لڑتی ہیں اور ان کا بڑا اوزار تیر ہوا کرتا تھا جس چیز کا گوشت مل جائے کھا جاتے ہیں۔ ان کے قتل سے مشکل ہی کوئی بچ پاتا ہے۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو تہ تیغ کر دیتے ہیں۔ ان کا ارادہ ملک گیری

اور مال جمع کرنے کا بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے اور یہی یہ کرتے ہیں۔

بعضوں نے لکھا ہے ان کا ملک اطراف چین میں ہے اور یہ لوگ جنگل کے باشندے ہیں۔ بے وفائی اور شرارت میں مشہور ہیں۔ ان کے ظہور کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ چین بڑا وسیع ملک ہے۔ اس کا دور (گولائی کا نصف کا فاصلہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک درمیان سے) چھ ماہ کی مسافت کا ہے۔ اس کے چھ حصے ہیں اور چھ کے چھ ملکوں پر بادشاہ ایک ہی ہے جسے خاقان اکبر کہا کرتے ہیں۔ وہ طمغاج میں رہتا ہے۔ یہ بادشاہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مسلمانوں میں خلیفہ ہوتا ہے۔ ان چھ سے ان دنوں (جن دنوں سے متعلق بات جاری ہے) ایک کا حاکم دوش خاں تھا۔ جس نے چنگیز خاں کی پھوپھی سے نکاح کر لیا تھا۔ جب دوش خاں مر گیا تو چنگیز خاں اپنی پھوپھی سے ملنے آیا۔ اس کے ساتھ کشلو خاں تھا۔ ان کی پھوپھی نے کہا دوش کا کوئی لڑکا نہیں ہے اس لیے بہتر ہے کشلو خاں اس کا ملک سنبھال لے۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا اور مغلوں کو اس نے اپنے ساتھ ملالیا۔

### نرمی اور دھمکی

بعد ازاں اس نے حسب دستور خاقان اکبر کے پاس تحفے بھیجے مگر چونکہ تاتاریوں کے خاندان سے کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا بلکہ وہ تو چین کے خانہ بدوش لوگ تھے اس لیے خاقان کو سخت طیش آیا اور اس نے ان تمام گھوڑوں کی دُمیں کاٹ ڈالیں جو اس نے تحفے میں بھیجے تھے اور تمام ایلچیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب اس امر کی خبر چنگیز خاں اور کشلو خاں کو ملی تو انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کا حلف اٹھالیا اور بہت سے تاتاریوں کو ساتھ ملا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے شر اور قوت کا حال جب خاقان کو معلوم پڑا تو چنگیز خاں اور کشلو خاں سے نرمی اختیار کی اور ساتھ ہی دھمکی بھی لگا دی۔ مگر اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا اور فریقین کے مابین ایک خنزیر لڑائی ہوئی جس میں خاقان اعظم کو شکست ہوئی اور اس کے تمام ملک پر چنگیز خاں اور کشلو خاں کا قبضہ ہو گیا۔ بعد ازاں دونوں ملک شاقون پر چڑھ دوڑے اور اسے بھی اپنے قبضہ میں کر لیا۔ پھر کچھ دیر بعد کشلو خاں مر گیا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے نے لی۔ چنگیز خاں نے اسے بچہ سمجھ کر گرفتار کر لیا اور اس کے ملک پر بھی قابض ہو گیا۔ تمام تاتاری اس کے مطیع و منقاد (فرمانبردار)

ہو گئے۔ انہوں نے اس کی عزت میں یہاں تک مبالغہ کیا کہ اسے خدا بخینے لگ گئے۔  
شہروں کو جلا کر

606 ہجری میں تاتاری اپنے ملک سے نکل کر ملک ترکی اور فرغانہ پر حملہ آور ہوئے۔  
خوارزم شاہ محمد بن نکش حاکم خراسان کو جس نے تمام بادشاہوں کو ہلاک کر کے ان کے ملکوں پر  
قبضہ کیا ہوا تھا اس کی ہمت و جرأت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اب خلیفہ وقت پر حملہ کرنے کے لیے  
تیار بیٹھا تھا۔ جب تاتاریوں کی خبر ہوئی تو وہ بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکا بلکہ ڈر کر اہل فرغانہ، شاش  
اور کاسان کی طرف پیغام بھیجا ان سب شہروں کو جلا کر لوگ سمرقند میں آ جائیں۔  
سونے چاندی کی کانیں

615 ہجری تک تاتاریوں نے مختلف جگہوں پر لوٹ پھرتی کی۔ آخر چنگیز خاں نے  
سلطان خوارزم شاہ کے پاس اپنی بیٹی اور ان کے ہمراہ کئی تحفے روانہ کیے۔ ایلچیوں نے آ کر  
کہا خاقان اکبر آپ کو سلام کے بعد کہتا ہے آپ کا علوم تہذیب اور عظمت و جلالت مجھ پر پوشیدہ  
نہیں۔ میرے نزدیک میری اور آپ کی صلح ہو جانی بہتر ہے۔ آپ مجھے اولاد سے زیادہ عزیز  
ہیں اور یہ باتیں میں ڈر کر نہیں کہتا کیونکہ چین جیسے وسیع ملک پر قابض ہو گیا ہوں جہاں لشکر اور  
گھوڑوں کی انتہا نہیں اور اس میں سونے اور چاندی کی کانیں ہیں اس لیے مجھے کسی بھی چیز کیلئے  
دوسرے ملک کا دست نگر نہیں ہونا پڑتا۔ اگر تجھے بھی مناسب معلوم ہو تو مجھ سے دوستی کر لو اور  
سودا گروں کو اپنے مقبوضہ جات میں آنے جانے کی آزادی دیدو۔ خوارزم شاہ نے اس بات کو  
منظور کر لیا اس سے چنگیز خاں بہت خوش ہوا۔ سودا گروں کو ایک دوسرے کے مقبوضات میں  
آنے جانے کی آزادی مل گئی۔ اتفاقاً تاتاری تاجروں کا ایک قافلہ جب ماوراء النہر میں پہنچا  
جہاں خوارزم شاہ کا ماموں حاکم تھا اور اس کے پاس بیس ہزار سوار تھے تو تاجروں کے مال پر اس  
کا دل لپکا گیا۔ اس نے خوارزم شاہ کو لکھا تاتاری یہاں تاجروں کے بھیس میں جاسوسی کرتے  
پھر رہے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ان کا انتظام کر دوں۔ مگر اس کے ماموں نے انہیں گرفتار  
کر کے ان کا تمام مال ضبط کر لیا۔ چنگیز خاں کے ایلچیوں نے آ کر خوارزم شاہ سے کہا تم نے تو  
تاجروں کو آزادی دی تھی۔ مگر آخروہو کہ کیا جو نہایت برا کیا ہے۔ خصوصاً سلطان اسلام سے تو  
بہت ہی برا ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ کام تمہارے ماموں نے تمہاری اطلاع اور اجازت

کے بغیر کیا ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دو تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ یہ سن کر خوارزم شاہ کو ایسا ڈر لگا اس کے حواس باختہ ہو گئے اور ایلچیوں کو قتل کر ڈالا جس کا نتیجہ یہ ہوا ان کے عوض میں مسلمانوں کے خون کے دریا بہا دیئے گئے۔ چنگیز خاں لشکر جرار لے کر اس سے لڑنے کے لیے نکلا۔ خوارزم شاہ اس کی آمد کی خبر سن کر جنحون سے نیشاپور بھاگ گیا اور وہاں سے برج ہمدان چلا گیا۔ اس کا دشمن بھی وہاں آ نکلا اور اس کے تمام آدمیوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔ خوارزم شاہ جان بچا کر بھاگا اور دریا عبور کر کے صحیح و سالم ایک جزیرے تک جا پہنچا۔ وہاں اس کو ذات الجذب (نمونیا، پسلیوں کا درم) کی بیماری لگ گئی اور اسی میں تن تنہا مر گیا اور جو بستر اس کے پاس تھا اسی میں دفن ہوا۔ یہ واقعہ 617 ہجری میں ہوا۔ تاتاری خوارزم شاہ کے تمام مقبوضات پر قابض ہو گئے۔

ابن جوزی کے پوتے لکھتے ہیں سب سے پہلے تاتاریوں کا ظہور 615 ہجری میں ماوراء النہر میں ہوا اور انہوں نے بخارا اور سمرقند پر قبضہ کر کے وہاں کے باشندوں کو تہ تیغ کر دیا اور خوارزم شاہ کا محاصرہ کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے دریا کو عبور کیا اور چونکہ خوارزم شاہ نے تمام بادشاہوں کو ہلاک کر دیا تھا اسی لیے کوئی ان کے مقابل نہ ہوا اسی لیے وہ ہندگان خدا کو تہ تیغ اور شہروں کو برباد کرتے ہوئے ہمدان اور قزوین تک جا پہنچے۔

### بجا اور درست

ابن اثیر نے اپنی تاریخ الکامل میں لکھا ہے حادثہ تاتار حوادثِ عظیمہ اور مصائب کبریہ میں سے ہے۔ زمانے نے کبھی ایسا حادثہ نہ دیکھا۔ اس میں تمام لوگ شامل تھے۔ مگر خصوصاً مسلمان اس بلا میں زیادہ گرفتار ہوئے۔ اگر کہا جائے کہ ابتدائے دنیا سے اس وقت تک کبھی ایسا حادثہ وقوع پذیر نہ ہوا تو بالکل بجا اور درست ہوگا کیونکہ تاریخ اس جیسا کوئی حادثہ پیش نہیں کر سکتی۔

### تمام دنیا پر

سب سے بڑا حادثہ جو تاریخ میں ہے وہ بخت نصر کا ہے جس نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں تہ تیغ کیا تھا۔ لیکن وہ حادثہ تاتاریوں کے حادثہ کی نسبت کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ایسا

حادثہ ہے جس کے چنگاڑے اڑ کر تمام دنیا پر پڑے اور اس کا ضرر تمام لوگوں کو پہنچا۔ ان لوگوں کی تیزی ایسی تھی جیسے ان بادلوں کی ہوتی ہے جنہیں ہوا اڑائے لیے پھرتی ہے۔ یہ لوگ اطراف چین سے نکلے اور پہلے بلاد ترکستان مثل کاشغر اور اشغرق وغیرہ کو تباہ کیا۔ پھر وہاں سے سمرقند اور بخارا پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو تہ تیغ کیا۔ وہاں سے نکل کر ملک کو تباہ کرتے ہوئے خراسان، ری، ہمدان اور حد عراق تک جا پہنچے۔ پھر وہاں سے آذربائیجان اور اس کے گرد نواح کا قصد کیا اور اسے تباہ و خراب کیا۔ یہ سب کچھ ایک ہی سال میں ہوا۔ پھر آذربائیجان سے در بند شروان تک جا پہنچے اور وہاں کے تمام شہروں کے مالک ہو گئے۔ پھر وہاں سے شہر لان اور لکوم میں جا کر وہاں کے لوگوں کو قتل اور قید کیا۔ پھر وہاں سے بلاد قفقاز کا قصد کیا جہاں کے باشندے ترکوں سے بھی زیادہ تھے۔ جو لوگ ان سے بھاگ گئے وہ بچے اور باقی وہیں تہ تیغ ہو گئے۔ تا تاریخوں کا کچھ حصہ غزنی، ہستنا اور کرمان کی طرف گیا اور وہاں جا کر بھی یہی حال کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ جو نہ کبھی کانوں نے سنا اور نہ آنکھوں نے دیکھا۔

### ظالم سفاح اور جاہل

اسکندر رومی بھی دنیا کے بڑے حصہ پر قابض ہو گیا۔ مگر اتنی جلدی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بیس سال میں اور ساتھ ہی اس نے کسی قتل و غارت نہ کیا بلکہ جس نے اطاعت کی اس سے راضی ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ دنیا کی نہایت آباد اور زرخیز جگہ پر ایک سال میں قابض ہوئے۔ کوئی شہر ایسا نہ تھا جو ان کے حملے اور دبدبے سے لرزاں نہ ہو۔ پھر لطف یہ کہ انہیں کسی مدد اور خوراک کی حاجت نہ تھی کیونکہ بھیڑ بکریاں ان کے ساتھ رہتی تھیں جو ان کی خوراک کو کافی ہوتی تھیں اور ان کے گموڑے اپنے ناپوں سے زمین کھود کر گھاس پات کی جڑیں نکال کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے اور دانہ کا تو نام بھی نہ جانتے تھے اور ان کے مذہب کی یہ حالت تھی کہ جب آفتاب نکلتا تو اسے سجدہ کر لیا کرتے۔ کوئی چیز ان کے نزدیک حرام نہ تھی۔ تمام جانور بلکہ انسان بھی ان کے نزدیک حلال تھے۔ نکاح کا ان کے ہاں جھگڑا ہی نہ تھا۔ ایک عورت کئی مردوں کے لیے کافی ہوتی تھی۔

### نمک حرامیاں

دس محرم 656 ہجری کو یہ غارت گرد باکی طرح دو لاکھ کئی جمعیت لیکر ہلاکوں کی

زیر کمان بغداد میں پہنچے۔ خلیفہ کی فوج نے بھی ان کا مقابلہ کیا۔ مگر شکست کھائی۔ نیکو مزاجی نے وزیر نے خلیفہ مستعصم کو ان کے ساتھ صلح کی رائے دی اور کہا کہ آپ سپہ سالار سے چل کر ملیں، میں صلح کروادوں گا۔ پھر خود تاتاریوں کے پاس جا کر اور ان سے اپنے لیے امان لیکر اور عہد و پیمانہ کر کے پھر خلیفہ کے پاس آیا اور کہا تاتاریوں کا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی امیرہ ابوبکر کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اسی طرح منصب خلافت پر قائم رکھنا چاہتا ہے جیسے شاہ روم نے آپ کو اپنی سلطنت میں رکھا اور جس طرح آپ کے بزرگ سلاطین سلجوق کے زمانے میں تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی فوج لیکر واپس چلا جائے گا۔ پس آپ اس کو بخوشی منظور کر لیں کیونکہ اس ترکیب سے مسلمان خوزیری سے بچ جائیں گے۔ الغرض خلیفہ اپنے اعیان سلطنت اور فقہاء کو ساتھ لیکر نکلا اور باہر ایک خیمہ میں جا اترا۔ وہاں وزیر نے جا کر پہلے فقہاء اور امراء کو بلوایا تاکہ شرائط صلح طے کر لیں۔ مگر جب وہ وہاں پہنچے تو سب کی گردنیں ماردی گئیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ خلیفہ کے تمام ہمراہیوں کو بلا کر قتل کر دیا گیا۔

### جو چھپے وہی بچے

بعد ازاں دریائے دجلہ کو عبور کر کے انہوں نے بغداد میں قتل عام شروع کیا جو تقریباً چالیس روز تک جاری رہا۔ لاکھوں آدمی قتل ہوئے۔ خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ جو لوگ کنوؤں اور ایسی ہی اور پوشیدہ جگہوں میں جا چھپے تھے وہی بچے باقی سب تہ تیغ ہو گئے۔ پچارے خلیفہ کو انیاں مار مار کر قتل کر دیا۔

### سب قتل ہو گئے

ذہبی لکھتے ہیں میرا خیال ہے پچارے مستعصم کو دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا اور اس کے ساتھ اس کی اولاد اور دیگر رشتہ دار بھی قتل ہوئے اور بعض قید ہوئے۔ فتنہ تاتاریا تھا۔ اسلام کو اس سے پہلے کبھی ایسے فتنہ سے واسطہ نہیں پڑا۔ وزیر حرامزادہ بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا بلکہ وہ بھی ان کے ہاتھوں سے ذلیل و خوار ہوا اور اس کے بعد جلد ہی فی النار و اسقر ہوا۔

شعراء نے بغداد اور وہاں کے باشندوں کے خوب مرعے لکھے ہیں چنانچہ ایک شاعر

کہتا ہے:



بَادَتْ وَأَهْلُوهَا مَعًا فَيُؤْتُهُمْ بِنَاءِ مَوْلَانَا الْوَزِيرِ خَرَابِ

ترجمہ: ہمارے مولانا وزیر کے بقا کے سبب بغداد مع اپنے باشندوں کے تباہ و ہلاک ہو گیا ہے اور اب ان کے گھر ویران پڑے ہیں۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

يَا عُصْبَةَ الْإِسْلَامِ نُوحِي وَإِنِّي حُزْنَا عَلَى مَا تَمَّ لِلْمُسْتَعْصِمِ

ترجمہ: اے گروہ اسلام اس مستعصم باللہ پر غم و حزن پر روا اور نوحہ کر۔

دَسْتُ الْوِزَارَةَ كَمَا كَانَ قَبْلَ زَمَانِهِ لِابْنِ الْفَرَاتِ فَصَارَ لِابْنِ الْعَلْقَمِيِّ

ترجمہ: عہدہ وزارت اس سے قبل ابن فرات کیلئے تھا اور بعد ازاں ابن علقمی کے لیے

خاص ہوا۔

آخری خطبہ جو بغداد میں پڑھا گیا اس میں خطیب نے کہا ”ہر طرح کی تعریف اس خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے موت سے بڑے بڑے مضبوط اور معمر آدمیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا اور اب بھی تلوار میان میں نہیں گئی۔“

تقی الدین ابن السیر نے بغداد کے بارے اور وہاں کے باشندوں کے بارے ایک قصیدہ لکھا ہے:

لِسَائِلِ الدَّمْعِ عَنِ بَغْدَادِ أَخْبَارَ فَمَا وَفَوْفَكَ وَالْأَحْبَابُ قَدَسَارُوا

ترجمہ: بغداد کی خبریں سن کر آنسو بہانے والے سے کہہ دو وہ کیوں کھڑا ہے۔ احباب تو سب چلے گئے ہیں۔

يَا زَائِرِينَ إِلَى الزُّورَاءِ لَا تَفْدُوا فَمَا بِذَاكَ الْحُمَى وَالذَّارُ دِيَارُ

ترجمہ: اے بغداد کو دیکھنے والو! فدیت نفی (یعنی میری جان تم پر قربان) تم فدانا نہ ہو کیونکہ ان چراگا ہوں اور گھروں میں تو اب کوئی بھی نہیں۔ تم کے مخاطب کر رہے ہو۔

تَأَجَّخَ الْخِلَافَةُ وَالرَّبِيعُ الَّذِي شُرِفَتْ بِهِ الْمَعَالِمُ قَدْ عَفَاهُ إِفْصَارُ

ترجمہ: تاج خلافت اور اس منزل کو جس سے معالم چمکی تھیں خالی ہونے نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔

أَضْحَى لِعَطْفِ الْبَلَى فِي رُبْعِهِ آثَرُ وَلِلدَّمْرِ عَلَى الْأَثَارِ النَّارُ

ترجمہ: اب تو اس منزل میں صرف بوسیدگی کے آثار باقی رہ گئے ہیں اور یا اب ان نشانوں پر آنسوؤں کے نشان باقی ہیں۔

يَا نَارُ قَلْبِي مِنْ نَارٍ يَحْرُبُ وَعِيْ شَبْتٌ عَلَيْهِ وَوَاهِي الرُّبْعِ اَعْصَارُ  
ترجمہ: اس پر لڑائی کی جو آگ جلائی گئی ہے اس سے میرے دل میں آگ لگ گئی اور تمام گھروں پر ان ہو گئے ہیں۔

عَلَا الصَّلِيْبُ عَلَيَّ اَعْلَى مَنَابِرِهَا وَقَامَ بِالْأَمْرِ مَنْ يَحْوِيهِ زُنَارُ  
ترجمہ: صلیب اس کے منبروں پر رکھی گئی ہے اور والی ایسے لوگ ہوئے ہیں جو زنا پر پہنے ہوئے ہیں۔

وَكَانَ مِنْ دُونِ ذَاكَ السُّرُّ اسْتَارُ وَكَمْ حَرِيْمٌ سَبْتَهُ التُّرْكُ غَاصِبَةٌ  
ترجمہ: ترکوں نے کئی عورتوں کو زبردستی پکڑ لیا ہے حالانکہ وہ کئی پردوں میں رہا کرتی تھیں۔

وَكَمُّ بُدُوْرٍ عَلَى الْبَدْرِيَّةِ انْخَسَفَتْ وَلَمْ يُعَدَّ لِلسُّوْرِ مِنْهُ اَبْدَانُ  
ترجمہ: بہت سے چاند محلہ بدریہ میں خسوف میں آ گئے ہیں اور پھر وہ کبھی طلوع نہیں ہوئے۔

وَكَمُّ ذَخَائِرِ اصْحَابِ وَهِيَ شَائِعَةٌ مِنْ النَّهَابِ وَقَدْ حَازَتْهُ كُفَّارُ  
ترجمہ: بہت سے خزانے جو بالکل محفوظ تھے کافروں نے لوٹ لیے ہیں اور وہ تباہ ہو گئے ہیں۔

وَكَمُّ حُدُوْدٍ اُقِيْمَتْ مِنْ سِيُوْفِهِمْ عَلَى الرِّقَابِ وَحَطَّتْ فِيْهِ اَوْزَارُ  
ترجمہ: کئی حدیں ان کی تلواروں سے قائم کی گئی ہیں اور ان کے گناہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیے ہیں۔

نَادَيْتُ وَالسَّبِيَّ مَهْتُوْكٌ يَبْجُرُهُمُ السِّيَاسَةُ مِنَ الْاَعْدَادِ دَعَارُ  
ترجمہ: میں نے ایسے حال میں آواز دی جبکہ قیدی خونریزی کی طرف بلائے جا رہے تھے۔

ہلا کو کے مظالم اور خطوط

جب ہلا کوں خاں خلیفہ اور اہل بغداد کے قتل سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے نائب عراق پر مقرر کیے۔ ابن علی نے انہیں ہزار ہا سمجھایا کوئی علوی خلیفہ مقرر کیا جائے مگر وہ نہ مانے بلکہ اسے باہر نکال دیا۔ آخر ادنیٰ غلاموں کی طرح ان کے ساتھ رہا اور اسی صدمہ میں مر گیا۔ خدا

اس پر رحم نہ کرے اور اس کے گناہ نہ بخشے۔ پھر ہلا کو خاں نے الناصر والی دمشق کو یہ خط لکھا:

”سلطان ملک ناصر طالع بقاء کو واضح ہو جب ہم عراق کی طرف نکلے تو اہل عراق کی فوجیں ہمارے مقابلے کے لیے نکلیں۔ مگر ہم نے ان کو خدائی تلوار سے تہ تیغ کیا۔ بعد ازاں شہر کے رؤساء و امراء ہمارے پاس آئے۔ مگر ان کا کلام ہی ان کی ہلاکت کا باعث نکلا اور وہ تھے بھی اسی قاتل۔ بعد ازاں والی شہر یعنی خلیفہ بھی ہمارے پاس آیا اور ہماری اطاعت کے دامن میں داخل ہو گیا۔ مگر ہم نے اس سے کچھ باتیں پوچھیں جن کے جواب میں اس نے جھوٹ بولا اس لیے وہ بھی تہ تیغ کیا گیا۔ اب تمہیں چاہئے ہماری اطاعت کرو اور اس کا خیال بھی نہ کرو ہمارے قبضے میں قلعے اور شمشیر زن آدمی ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ بقیۃ السیف لوگوں نے تمہارے پاس جا کر پناہ لی ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے:

أَيْنَ الْمَفْرُ وَلَا مَقْرٌ لَهَا رَبٌّ      وَكُنَّا الْبَسِيطَانَ الشَّرِيَّ وَالْمَاءَ

ترجمہ: بھاگنے والا بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے کیونکہ بحر و بردونوں کے ہم مالک ہیں۔ اس لیے پناہ کی جگہ نہیں ہے

اب تمہیں لازم ہے اس خط کو دیکھتے ہی شام کے قلعے گرا دو۔ والسلام“

اس کے بعد ایک اور خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا:

”بخدمت ملک الناصر طالع۔ واضح ہو ہم نے بغداد کو فتح کر لیا ہے اور اس کے ملک کی بچ کئی کر دی ہے۔ وہاں کے باشندوں نے امان دینے میں بخل کیا اور ان کا خیال تھا کہ ان کا ملک ہمیشہ اسی شان و شوکت پر رہے گا۔ مگر اب اس کے بدر کامل کو گہن لگ گیا ہے کیونکہ قاعدہ ہے: شعر

إِذَا تَمَّ أَمْرٌ      بَدَأَ نَقْصُهُ      تَوَقَّعُ زَوَالًا      إِذَا قَبِلَ تَمُّ

ترجمہ: جب کوئی کام پورا ہوتا ہے تو اس کا نقص ظاہر ہوتا ہے۔ جب کہا جائے کام مکمل ہو گیا ہے تو تم اس کے زوال کی توقع رکھو کیونکہ ہر کمال کو زوال ہے۔

اب ہم بربادی کی عمر میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں چاہئے ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے ظاہر کرو خواہ نرمی سے خواہ سختی سے۔ تمہیں چاہئے ہماری اطاعت کر کے ہمارے شر سے بچو۔

اور ہمارے انعامات سے مالا مال ہو جاؤ اور ہمارے ایلچیوں کو زیادہ دن نہ ٹھہراؤ۔ والسلام۔“

اس کے بعد ایک تیسرا خط لکھا جس میں تحریر تھا:

حمد و صلوة کے بعد واضح ہو ہم خدا تعالیٰ کا لشکر ہیں۔ وہ ہمارے ہی ذریعے گنہگاروں، متکبروں اور جاہلوں سے انتقام لیتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں حکم خدا سے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہم لوگوں کا حال دگرگوں کر دیتے ہیں۔ ہم نے شہروں کو تباہ کر دیا ہے۔ بندگان خدا کو قتل کر دیا ہے اور عورتوں اور بچوں تک کو نہیں چھوڑا۔ اے باقی رہ جانے والو! تم بھی ان کے ساتھ ہی ملنے والے ہو۔ اے غافلو! تم بھی ان کی ہی طرف چلائے جا رہے ہو۔ ہم لشکر رحمت نہیں ہیں۔ ہمارا مقصود انتقام لینا ہے ملک گیری ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارے ملک کا کوئی قصد نہیں کر سکتا اور ہمارے مہمان پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں ہمارا عدل و انصاف مشہور ہے اور ہماری تلواروں سے کوئی کہاں بھاگ سکتا ہے۔ اشعار

أَيْنَ الْمَفْرُوقِ وَلَا مَفْرُقٍ لِهَارِبٍ      وَلَنَّا الْبَيْسُطَانَ الثَّرَى وَالْمَاءَ  
ترجمہ: کہاں بھاگ سکتا ہے حالانکہ بھاگنے والا کہاں جائے گا کیونکہ پانی و مٹی دونوں ہی ہمارے بسیط ہیں۔

ذَلَّتْ لِهَيْبَتِنَا الْأُسُودُ وَأَصْبَحَتْ  
فِي قَبْضَتِي الْأَمْرَاءُ وَالْخُلَفَاءُ  
یعنی ہمارے تابع ہیں۔ شیر ہماری ہیبت سے کانپ رہے ہیں اور تمام خلفاء و امراء میرے قبضہ میں ہیں۔

اب ہم تمہاری طرف آرہے ہیں۔ تم بھاگو اور ہم تمہارا تعاقب کر لیں گے۔

سَتَعْلَمُ لَيْلِي أَيُّ دِينٍ تَدَايَنْتُ      وَأَيَّ عَزِيمٍ بِالتَّقَاضِي غَوِيْبَهَا  
ترجمہ: لیلیٰ کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کونسا قرض اس نے قرض دیا ہے اور کس قرض خواہ سے وہ تقاضا کر رہی ہے۔

ہم نے تمام شہروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ بندگان خدا کو ہلاک کر دیا ہے اور انہیں طرح طرح کے عذاب چکھائے ہیں۔ ان کے بڑوں کو صغیر کر دیا ہے اور ان کے امیروں کو قید کر لیا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے تم ہم سے بچ جاؤ گے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ تمہیں عنقریب ہی اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا جس نے ڈرا دیا تو گویا اس نے اپنا عذر پیش کر دیا۔

(اب تم مانویا نہ مانو۔)

ان سے جنگ کریں

657 ہجری شروع ہوا اور دنیا بلا خلیفہ ہی تھی۔ اسی سال ترکی مدینہ کی طرف آئے۔ ان دنوں والی مصر منصور علی بن مقلد کا ہی تھا اور اس کا اتا تک امیر سیف الدین قطن المفراس کے باپ کا غلام تھا۔ صاحب کمال الدین عدیم بطور ایلچی ان کے پاس آیا اور ان سے تاتاریوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدد کی درخواست کی۔ امیر سیف الدین قطن نے تمام امراء اور اعیان کو جمع کیا۔ شیخ عزالدین بن عبدالسلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے فتویٰ دیا جب کوئی دشمن بلاد اسلامیہ پر حملہ آور ہو تو تمام دنیائے اسلام کو واجب ہے ان سے جنگ کریں اور ان سے جنگ کی تیاری کے لیے ان سے کچھ رقم وصول کر لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ بیت المال میں کچھ نہ ہو اور سپاہی اپنی تمام نفیس چیزوں کو فروخت کر کے صرف گھوڑا اور ہتھیار اپنے پاس رکھ لیں اور تمام ان سے جنگ کے لیے نکلیں۔ مگر لشکر کے مال کو برقرار رکھ کر صرف رعیت سے ہی مال اکٹھا کرنا جائز ہے۔

کوئی شجاع بادشاہ

چند روز بعد قطن نے اپنے مالک کے بیٹے منصور کو قید کر لیا اور کہا یہ لڑکا ہے اور ایسے مشکل وقت میں ضروری ہے کوئی شجاع بادشاہ ہو جو جہاد کر سکے اس لیے میں بادشاہ بننا ہوں۔ یہ کہہ کر خود بادشاہ بن گیا اور الملک المعظفر اپنا لقب مقرر کیا۔

بے تحاشا بھاگے

658 ہجری میں بھی دنیا بغیر خلیفہ کے ہی تھی۔ اسی سال ہی تاتاری دریائے فرات کو عبور کر کے حلب میں پہنچ گئے۔ وہاں قتل عام کیا۔ پھر وہاں سے دمشق کی طرف نکل گئے۔ ماہ شعبان میں مصری تاتاریوں سے لڑنے کے لیے شام کی طرف بڑھے۔ مظفر بھی اپنا لشکر لیکر آگے بڑھا۔ لشکر کا جنرل رکن الدین بھروسہ پند قدار ہی تھا۔ بروز پندرہ شعبان بروز جمعہ کو عین مقام جالوت پر مصریوں اور تاتاریوں کا مقابلہ ہوا جس میں تاتاریوں کو شکست فاش ہوئی اور بے تحاشا بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ہزاروں کو ”فی النار والستقر“ کیا۔

مظفر نے اس فتح کی خبر دمشق بھیجی۔ لوگوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ پھر مظفر، مؤید اور منصور دمشق میں داخل ہوئے۔ لوگ انہیں بہت اہمیت دینے لگے۔ بھرس نے حلب تک تاتاریوں کا تعاقب کیا اور ان کے آلائش سے تمام شہروں کو پاک و صاف کر دیا۔

### وعدہ خلانی

سلطان مظفر نے اس فتح کے عوض بھرس سے حلب کا حاکم بنانے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ اس وعدے سے پھر گیا۔ بھرس اس سے بہت متاثر ہوا اور دونوں میں کشیدگی بڑھ گئی۔ مظفر کا ارادہ تھا خود حلب میں جا کر تاتاریوں سے ملک کو پاک و صاف کر دے۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا بھرس ان کے موافق ہے اور اس کے قتل کا حیلہ کر رہا ہے تو وہ مصر کی طرف روانہ ہوا اور بھرس کے قتل کے لیے اپنے خواص سے مشورہ کیا۔ بھرس کو بھی یہ خبر مل گئی۔ وہ بھی مصر کی طرف روانہ ہوا۔ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے خوف کھاتا تھا۔ آخر بھرس نے امراء کو جمع کر کے ذی القعدہ کی دس تاریخ کو مظفر کو راستے میں ہی قتل کر ڈالا اور خود بادشاہ بن کر الملک القاہرا پنا لقب مقرر کیا اور مصر میں آ کر مظفر نے مصریوں پر جو ظلم برپا کر رکھے تھے، دور کر دیئے۔ وزیر زین الملئتہ والدین ابن زبیر نے کہا آپ یہ لقب بدل دیجئے کیونکہ جس کا بھی یہ لقب ہوا وہ آسودہ نہیں رہا، چنانچہ قاہر بن معتضد کا یہی لقب تھا۔ وہ معزول کر دیا گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیر دی گئی تھیں اور ابن والی موصل نے یہی لقب اختیار کیا تھا اسے زہر دیا گیا تھا۔ اس پر سلطان نے اپنا یہ لقب بدل کر الملک القاہر مقرر کر لیا۔

### مدت انقطاع خلافت

659 ہجری تک بھی ابھی دنیا میں خلافت کی مسند خالی ہی تھی۔ آخر اسی سال ماہ رجب میں مصر کے اندر خلافت قائم ہوئی تو اس حساب سے قریباً ساڑھے تین سال تک خلافت منقطع رہی۔

مستنصر کے عہد خلافت میں ان علماء نے انتقال کیا:

حافظ تقی الدین صریفی، حافظ ابوالقاسم بن طلیسانی، شمس اللاتہ کردی، من کبار الحنفیہ، شیخ تقی الدین بن صلاح، علم سخاوی، حافظ محبت الدین بن بخار مورخ بغداد، منتخب الدین شارح مفصل ابن بعیش نحوی، ابوالحجاج اقصر زہد، ابوعلی انظر بنی نحوی، ابن براط صاحب مفردات، علامہ

جمال الدین بن حاجب امام المالکیہ، ابوالحسن دجاج نحوی، قفطی صاحب تاریخ النجاة، افضل الدین خوئی صاحب المنطق، ازدی صاحب البیاض فی الاصل، حافظ یوسف بن خلیل، بہاء بن بنت الکھیم، جمال بن عمرو نحوی، رضی صفائی لغوی صاحب عباب وغیرہ، کمال عبدالواحد زملکانی صاحب المعانی والبیان و اعجاز القرآن، شمس خسرو شاہی، محمد بن تیمیہ، یوسف سبط بن جوزی صاحب مرآة الزمان، ابن باطیش من کبار الشافعیہ، نجم باردائی، ابن ابی الفضل المرسی صاحب تفسیر وغیرہم۔

### باقاعدہ فصل

انقطاع خلافت کی مدت میں یہ علماء فوت ہوئے:

الزکی عبد العظیم منذری، شیخ ابوالحسن شاذلی، شیخ طائفہ شاذلیہ، شعبہ مقرئی، فاسی شارح شاطبیہ، سعد الدین بن عزیزی، شاعر، صرصری شاعر، ابن آدم مورخ، اندلس وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## المستنصر باللہ احمد

شیخ قطب الدین لکھتے ہیں یہ بغداد میں قید تھا۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کیا تو اسے رہا کر دیا گیا۔ یہ بھاگ کر عراق جا پہنچا۔ جب الملک لظاہر بھروس سلطان ہوا تو یہ دس رجب کو ہی بنی مہارش کو ساتھ لیکر بھروس کے پاس آیا۔ سلطان مع قضاة اور اعیان سلطنت کے اس کی ملاقات کے لیے نکلا اور اسے قاہرہ میں لے جا کر قاضی القضاة تاج الدین بن بنت الاعز سے اس کا نسب ثابت کیا۔ بعد ازاں اس سے بیعت کی گئی۔ سب سے پہلے سلطان نے ہی بیعت کی اور بعد ازاں قاضی القضاة تاج الدین نے اور پھر شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے اس کے بعد ہر ایک نے اپنے مرتبے کے مطابق بیعت کی۔ یہ واقعہ تیرہ رجب کو پیش آیا۔ اس کے بعد سکون پر بھی اس کا نام نقش کرایا گیا اور اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا گیا اور المستنصر باللہ کا لقب رکھا گیا۔ لوگ اس واقعہ سے بہت خوش ہوئے۔

### رسم کے مطابق

جمعہ کے دن خلیفہ سیاہ کپڑے زیب تن کیے ہوئے قلعہ کی جامع مسجد میں آیا اور منبر پر

کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس میں پہلے بنی عباس کا شرف بیان کیا اور پھر سلطان اور مسلمانوں کیلئے دعائیں کیں۔ بعد ازاں لوگوں کو نماز پڑھائی اور پرانی رسم کے مطابق سلطان کو خلعت دیئے جانے کا حکم کیا اور تمام لوگوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیا۔

659 ہجری چار ماہ شعبان کو قاہرہ کے باہر ایک خیمہ نصب کیا گیا۔ خلیفہ سلطان اور امراء و وزراء سب وہاں اکٹھے ہوئے۔ ان کی موجودگی میں خلیفہ نے سلطان کو خلعت اور طوق پہنایا۔ فخر الدین بن لقمان نے منبر پر کھڑے ہو کر خلیفہ کا فرمان سنایا۔ پھر سلطان وہی خلعت پہنے ہوئے باب النصر سے شہر میں داخل ہوا۔ پھر قلعہ کی آئینہ بندی کی گئی۔ تمام امراء و وزراء پایادہ ساتھ تھے۔ سلطان نے خلیفہ کے لیے ایک اتابک، استاد، شرابی، خزائنچی، حاجب اور ایک کاتب مقرر کیا اور خزانہ کا ایک بہت بڑا حصہ بہت سے غلام سوگھڑے، تیس خنجر اور دس اونٹ مقرر کیے۔

ذہبی کہتے ہیں مستنصر اور متقنی کے علاوہ کوئی شخص اپنے بھتیجے کے بعد خلیفہ نہیں ہوا۔ والی حلب امیر شمس الدین اقوش نے حلب میں ایک اور خلیفہ مقرر کیا اور اس کا لقب الحاکم بامر اللہ رکھا اور اس کا نام خطبوں میں پڑھا گیا اور سکوں پر بھی نقش کرایا گیا۔

### مستنصر کا عہد خلافت

مستنصر نے عراق میں جانے کا ارادہ کیا تو سلطان بھی اس کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ دمشق تک گیا۔ پھر والی موصل کی اولاد کو بہت سا سامان اور دس لاکھ دینار اور ساٹھ ہزار درہم دیئے۔ پھر وہاں سے خلیفہ صاحب بخارا، صاحب موصل اور صاحب جزیرہ وغیرہم ملوک کو ساتھ لے کر حلب پہنچا اور خلیفہ حلب الحاکم بامر اللہ بھی اپنی مسند چھوڑ کر اس کی اطاعت میں آ گیا۔ پھر یہ سب مل کر آگے چلے اور حدیث کو فتح کیا۔ بعد ازاں تاتاریوں کے لشکر سے جنگ ہوئی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور خلیفہ گم ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی شہید ہوا (اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے) اور پھر اس کا پتہ معلوم نہ ہوا۔ یہ حادثہ تین محرم 660 ہجری کو پیش آیا۔ اس حساب سے مستنصر کی خلافت صرف چھ ماہ رہی۔ اس کے بعد الحاکم خلیفہ ہوا جو اس کی زندگی میں ہی حلب میں خلیفہ ہوا تھا۔



## الحاکم بامر اللہ

الحاکم بامر اللہ ابوالعباس احمد بن ابی علی احسن القمی بن علی بن ابی بکر بن خلیفہ مسترشد باللہ بن المستنصر باللہ۔ تاتاریوں کے فتنہ میں یہ کہیں روپوش ہو رہا تھا۔ بعد ازاں چند آدمیوں کو ساتھ لیکر حسین ابن فلاح امیر بنی خلفاء کے پاس آیا اور مدت تک اس کے پاس رہا۔ الناصر صاحب دمشق کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو اسے بلا بھیجا۔ مگر اس کے بعد اچانک فتنہ تاتار ہو گیا۔ پھر جب الملک المظفر دمشق میں آیا تو اس نے امیر قلعہ بغدادی کو بھیج کر اس کو بلایا اور اس کی بیعت کر لی۔ بہت سے امرائے عرب بھی اس کے ساتھ آئے اور الحاکم نے فرغانہ، حدیبیہ اور انبار کو فتح کیا اور تاتاریوں کو مار بھگا یا۔ پھر علاء الدین طبرس نائب دمشق نے اسے بلا بھیجا۔ ادھر الملک المظاہر بھی اسے بلا رہا تھا اس لیے ماہ صفر میں وہ دمشق میں آیا۔ نائب دمشق نے اسے سلطان الملک المظفر کی طرف روانہ کر دیا۔ مگر اس کے وہاں پہنچنے سے تین روز پیشتر قاہرہ میں المستنصر باللہ سے بیعت ہو چکی تھی اس لیے الحاکم قید کے خوف سے حلب میں چلا گیا۔ وہاں کے والی اور روسا نے اس سے بیعت کر لی۔ ان میں سے عبدالحکیم بن تسمیہ بھی تھے۔ اس کے بعد الحاکم نے فرغانہ کا قصد کیا اور جب خلیفہ مستنصر وہاں آیا تو یہ اس کے حلقہ اطاعت میں آ گیا۔ جب مستنصر تاتاریوں سے جنگ کے دوران کہیں گم ہو گیا تو یہ حاکم وجبہ عیسیٰ بن مہنا کے پاس چلا گیا اور وہاں الملک المظاہر نے بھروسے سے خط و کتابت کی۔ اس نے اسے بلا بھیجا۔ حاکم اپنے بیٹوں اور کئی ایک ہمراہیوں کے ساتھ قاہرہ آ گیا۔ الملک المظاہر نے اس کی بڑی عزت کی اور اس سے بیعت کر لی اور قلعہ کے ایک بڑے برج میں اس کو اتارا۔ خلیفہ نے جامع مسجد میں کئی بار خطبہ پڑھا۔ چالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک اس نے خلافت کی۔

### حسب مراتب بیعت

شیخ قطب الدین نے لکھا ہے نسب کو ثابت کرنے کے بعد بروز جمعرات آٹھ محرم 661 ہجری میں سلطان نے ایک مجلس منعقد کی۔ الحاکم بامر اللہ بھی وہاں آیا اور سلطان کے پاس بیٹھا۔ سلطان نے اٹھ کر اس سے بیعت کی۔ خلیفہ نے اسے خلعت دی اور اسے نائب

السلطنت قرار دیا۔ اس کے بعد اور لوگوں نے حسب مراتب بیعت کی۔ دوسرے روز جمعہ تھا۔ حاکم نے خطبہ پڑھا اور اس میں، جہاد و امامت کا ذکر کیا اور حرمت خلافت کی جنگ کو بیان کیا۔ بعد ازاں یہ کہا سلطان الملک الظاہر امامت کی مدد کیلئے اٹھا ہے اور لشکر کفار کو یہاں سے مار بھگا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام ممالک میں الحاکم کی بیعت کا اعلان کر دیا گیا۔

### وظیفے

اسی سال بہت سے تاتاری مسلمان ہو گئے اور ممالک اسلامیہ میں رہنے لگے۔ یہاں ان کے روزینے اور وظیفے مقرر ہو گئے اور ان کا شرمک ہو گیا۔

662 ہجری میں مدرسہ ظاہریہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس میں فقہ شافعی کے پڑھانے کے لیے تقی بن زرین مقرر ہوئے اور تدریس حدیث کے لیے شرف دمیاطی مقرر ہوئے۔

### مختلف جگہوں پر

663 ہجری میں سلطان اندلس ابو عبد اللہ بن احمد نے انگریزوں پر فتح پائی اور تیس شہر جن پر ان کا تسلط تھا چھین لیے۔ ان ہی شہروں میں شیلہ اور مرسیہ بھی شامل ہیں۔ اسی سال قاہرہ میں مختلف مقامات میں آگ لگی اور چھتوں پر کاغذوں میں لپیٹی ہوئی گندھک پائی گئی۔

### بادشاہ حاشیہ بردار

اسی سال سلطان نے بحر اشمون کو کھدوایا جس میں امراء سمیت خود بھی حصہ لیا۔ اسی سال ہلاکو خاں جہنم واصل ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا بغاوت پر بیٹھا اور اسی سال سلطان نے اپنے بیٹے الملک السعید کو جس کی عمر اس وقت صرف چار سال کی تھی اپنا ولی عہد مقرر کر دیا اور شاہی لباس پہنا کر گھوڑے پر سوار کرایا اور آگے آگے خود اس کا حاشیہ بردار بنا اور باب السر سے لیکر باب السلسلہ تک ہو کر واپس ہوا۔ پھر سعید سوار ہو کر قاہرہ تک گیا۔ تمام امراء اس کے ساتھ پیدل تھے۔ اسی سال دیا ر مصر میں مذاہب اربعہ کے چار قاضی مقرر ہوئے۔

### سلطنت کے بارے

اسی سال سلطان نے خلیفہ کو نظر بند کر دیا۔ کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے والے باہر جا کر امور سلطنت کے بارے باتیں کیا کرتے تھے۔

665 ہجری میں سلطان نے ایک لشکر نوبہ اور وقلہ کی طرف روانہ کیا جنہوں نے وہاں فتح پائی اور بادشاہ نوبہ کو قید کر کے الملک انظاہر کے پاس بھیجا اور تمام اہل وقلہ پر جزیہ لگا دیا۔  
فتح نوبہ

ذہبی نے لکھا ہے پہلے 31 ہجری میں عبداللہ بن سرح نے پانچ ہزار سواروں کے ساتھ نوبہ پر چڑھائی کی تھی مگر ناکام رہے اور آخر ان سے صلح کر لی اور واپس چلے آئے۔ پھر حشام کے عہد میں بھی ان پر فوج کشی کی گئی لیکن فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد منصور تلک زنگی کا فوراً شیدی ناصر الدولہ ابن حمدان اور صلاح الدین کے بھائی توران شاہ نے بھی اس پر حملے کیے مگر فتح نہ ہوا۔ اس کے فتح ہونے پر ابن عبدالنظاہر نے یہ شعر کہا:

هَذَا هُوَ الْفَتْحُ لَأَشَى سَمِعْتُ بِهِ فِى شَاهِدِ الْعَيْنِ لَأَمَانِيْدِ  
ترجمہ: یہ ایسی فتح ہے کہ اس فتح تک قبل اس کے ایسی کسی فتح کا حال نہیں سنا گیا نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے اور نہ قصہ کے طور پر سنا گیا ہے۔

### شلا مش بادشاہ

676 ہجری میں سلطان الملک انظاہر ماہ محرم میں دمشق میں فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا الملک السعید محمد سلطان ہوا جس کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ اسی سال تقی بن رزین مصر و قاہرہ دونوں کے قاضی مقرر ہوئے۔ اس سے قبل مصر و قاہرہ میں الگ الگ قاضی ہوا کرتے تھے۔

678 ہجری میں ملک السعید معزول کر دیا گیا اور وہاں سے کرک بھیجا گیا۔ وہاں اسی سال وہ فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ مصر میں اس کا سات سالہ بھائی بدر الدین شلا مش ملقب بملک العادل سلطان بنایا گیا اور امیر سیف الدین قلا دون اس کا اتابک مقرر ہوا۔ سکوں پر ایک طرف اس کا اور دوسری طرف امیر سیف الدین کا نام نقش کیا گیا۔ مگر ماہ رجب میں شلا مش بغیر کسی وجہ کے تخت سے اتار دیا گیا اور قلا دون ملقب بہ ملک المنصور بادشاہ بن گیا۔

### تاتاریوں پر فتح

680 ہجری میں تاتاریوں کے لشکر نے شام میں پہنچ کر لوگوں میں ہل چل مچادی۔ سلطان نے ان سے لڑائی کی اور سخت جنگ ہوئی۔ مگر خدا کا شکر ہے میدان مسلمانوں کے ہاتھ

ہی رہا۔

688 ہجری میں سلطان نے طرابلس بزرگ شمشیر فتح کیا۔ یہ شہر پہلے پہل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتح ہوا تھا۔ مگر 503 ہجری سے نصاریٰ کے ہاتھ میں چلا آتا تھا۔

### مدیر پبلٹ

اس وقت کے شعراء سے کسی نے اپنی قوم مسلمہ کو برا بھینٹہ کرنے کیلئے اور بزدلی کو دور کرنے کے لئے اشعار کہے جن میں سے ایک یہ ہے:

ان قاتلوا قتلوا او طاردوا او طردوا او حاربوا حاربوا او غالبوا اغلبوا  
ترجمہ: اگر قتل کریں تو خود قتل کر دیئے جاتے ہیں یا کسی کو باہر نکالیں تو خود باہر نکال کیے جاتے ہیں یا جنگ کریں تو خود مارے جاتے ہیں یا اگر کسی پر غلبہ کرنے لگیں تو بھی خود مغلوب ہو جاتے ہیں۔

آگے تاج ابن اثیر لکھتے ہیں مگر اب خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسلام کی مدد کی اور کفر کو ذلیل کیا اور شیاطین کی اچھی طرح سے سرکوبی کر دی۔

کہتے ہیں طرابلس کے معنی رومی زبان میں تین مجتمع قلعوں کے ہیں۔

### قلادون کی موت

689 ہجری ماہ ذوالقعدہ کو قلادون انتقال کر گیا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا الملک الاشراف صلاح الدین قائم ہو گیا تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پہلا حکم خلیفہ کو رہا کرنے کا جاری کیا۔ باپ کے سامنے اس کی کوئی قدر نہ تھی یہاں تک کہ اس نے اسے اپنا جانشین بھی نہ بنایا تھا۔ خلیفہ نے جمعہ کے روز خطبہ پڑھا اور بغداد کا ذکر کر کے اس کے فتح کرنے پر حرص دلائی۔ 691 ہجری میں سلطان نے قلعہ روم کا محاصرہ کیا۔

### الملک العاص

693 ہجری میں سلطان کو قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی محمد بن منصور کو لایا گیا جس نے اپنا لقب الملک الناصر رکھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف نو برس تھی۔ 694 ہجری میں

اسے معزول کر کے کتبغ منصور کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اس نے اپنا لقب الملک العاص مقرر کیا۔  
قبول اسلام تاتاری بادشاہ

اسی سال تاتاریوں کا بادشاہ حاذان بن ادنون بن ایفابن ہلاکو نے اسلام قبول کر لیا۔  
 مسلمانوں کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ پھر اس طرح سے اس کے لشکر میں بھی اسلام پھیل گیا۔  
تخت پر قبضہ

696 ہجری میں جبکہ سلطان دمشق میں گیا ہوا تھا، اجین زبردستی تخت پر قابض ہو گیا۔ کسی  
 نے بھی چون و چرا نہ کی۔ سب مطیع فرمان ہو گئے۔ اس نے اپنا لقب الملک المنصور رکھا اور  
 الملک العادل بیچارہ صرخد میں چلا گیا اور اس نے وہیں رہنا منظور کر لیا۔  
 جمادی الاخریٰ 698 ہجری کو اجین قتل ہو گیا اور الملک الناصر محمد بن منصور قلاوون کو جو  
 کرک میں تھا، بلا کر پھر سلطان مقرر کیا گیا اور العادل حمہ میں اس کا نائب رہا اور آخر اسی  
 حالت میں 702 ہجری کو فوت ہو گیا۔

### مدفن خاندان خلفاء

701 ہجری میں بروز جمعہ اٹھارہ جمادی الاولیٰ کو خلیفہ الحاکم انتقال کر گیا۔ عصر کے وقت  
 قلعہ کے نیچے سوق النیل میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تمام امراء و وزراء پاپیادہ جنازے کے ساتھ  
 تھے۔ السیدہ نفیسہ کے قریب دفن ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جو اس جگہ دفن ہوا۔ بعدہ خلفاء کے  
 خاندان کا وہی جگہ دفن قرار پا گیا جو اب تک چلا آتا ہے۔ الحاکم اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے  
 ابوالریح سلیمان کو ولی عہد بنا گیا تھا۔

اس کے عہد میں یہ علماء فوت ہوئے:

شیخ عزالدین بن عبدالسلام، العلم اللورقی، ابوالقاسم القباری زاہد زید، خالد النابلسی، حافظ  
 ابوبکر بن سدیی، امام ابوشامہ، تاج بن بنت الاغر، ابوالحسن بن عدلان، مجدالدین بن دقتی، العید  
 ابوالحسن بن عصفور نحوی، الکمال سلار رابلی، عبدالرحیم بن یونس صاحب التبعجین، قرطبی صاحب  
 التفسیر، والذکرہ، شیخ جمال الدین بن مالک اور ان کا لڑکا بدرالدین، نصیرالدین طوسی راس  
 الفلسفہ، خاصۃ التنازع، تاج بن سباعی، خازن المستعصر، یہ برہان بن جماعتہ، نجم کاتبی، منطقی، شیخ محی

الدین نوری، صدر سلیمان امام الحنفیہ، تاج بن میسر المورخ، کواشی مفسر، تقی بن رزین، ابن خلکان صاحب وفیات العیان، ابن ایاض نحوی، عبدالحلیم بن تیمیہ، ابن جحوان، ناصر الدین بن منبر، نجم بن بارزی، برہان نسفی صاحب التصانیف فی الخلاف والکلام، الرضی شاطبی نقوی، جمال شربینی، نفیسی شیخ الاطباء، ابوالحسین بن ربیع نحوی، اصہبانی شارح الحمول، عقیف تلمسانی شاعر، تاج بن فرکاح، زین بن مرعل، شمس جونی، غرقاروتی، محبت طبری، تقی بن بلال الاغر رضی قسطنطینی، بہاء بن نحاس نحوی، یاقوت مستعصی صاحب الخط منسوب وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## المستکفی باللہ

المستکفی باللہ ابو الربیع سلیمان بن حاکم بامر اللہ پندرہ محرم 684 ہجری میں پیدا ہوا۔ اپنے والد کے عہد کے مطابق 701 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ تمام بلاد مصر اور شام کے منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور تمام ممالک اسلامیہ میں اس کی خوشخبری دی گئی۔ پہلے خلفاء کبش میں رہا کرتے تھے۔ سلطان نے انہیں قلعہ میں بلا لیا اور ان کے لیے ایک گھر طے کر دیا۔ 702 ہجری میں تاتاری شام پر چڑھ آئے۔ سلطان مع خلیفہ کے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلا اور فنیاب رہا۔ بہت سے تاتاری مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔

## جامع مسجد حاکم

704 ہجری میں امیر بھرس جاسکیر منصور نے جامع مسجد حاکم میں وظائف مقرر کیے اور جتنا حصہ ایک زلزلہ میں گر گیا تھا وہ نیا بنوا دیا۔ چاروں قاضی فقہ کے استاذ مقرر ہوئے اور شیخ الحدیث سعد الدین حارثی اور ابو جہان شیخ انجو۔

## پہل ٹوٹ گیا

608 ہجری میں سلطان ملک الناصر محمد بن قلاوون ماہ رمضان میں مصر سے حج کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ بہت سے امراء بھی وداع کرنے کو ساتھ ہوئے۔ سلطان نے تھوڑی دور جا کر ان کو رخصت کر دیا۔ سلطان کے لیے کرک میں پہل بنایا گیا تھا۔ جب سلطان اس کے درمیان میں پہنچا تو پہل ٹوٹ گیا۔ جو آدمی سلطان کے آگے آگے تھا وہ توج گئے اور سلطان دریا

میں گر گیا۔ مگر ان میں سے ایک آدمی نے کود کر سلطان کو بچالیا۔ جبکہ پچھلے پچاس آدمی دریا میں گر گئے تھے۔ ان سے چار تو مر گئے اور باقیوں کو شدید چوٹیں آئیں۔ سلطان نے پھر کرک میں اقامت کی اور مصر میں اطلاع بھیج دی میں بخوشی خود کو سلطنت سے علیحدہ کرتا ہوں۔ قاضیوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے بعد تیس شوال کو امیر رکن الدین بھرس جاشنکیر سے بیعت کر لی اور الملک المظفر کا لقب دیا۔ خلیفہ نے اسے ایک سیاہ خلعت اور گول عمامہ پہنایا اور اس کی تقرری کی اطلاع تمام ممالک میں دیدی گئی۔

### دعویٰ سلطنت

709 ہجری ماہ رجب میں الملک الناصر واپس آیا اور سلطنت کا دعویٰ کیا۔ بہت سے امراء اس کے طرفدار ہو گئے۔ ماہ شعبان کو وہ دمشق میں آیا اور پھر عید الفطر کے دن مصر میں داخل ہوا اور قلعہ پر چڑھ آیا۔ مظفر بھرس اپنے دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ پہلے ہی مفرور ہو چکا تھا لیکن آخر پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔

علاء و داعی نے الملک الناصر کے واپس آنے پر یہ اشعار کہے:

الملک الناصر قد اقبلت دولته مشرقاً الشمس

عاد الی کرسیہ مثل ما عاد سلیمان الی الکرسی

ترجمہ: ملک الناصر کی توجہ سلطنت کی طرف ہوئی۔ اس کی سلطنت سورج کی طرح چمک

رہی ہے۔ وہ اپنی مملکت میں اپنی کرسی کی طرف واپس پلٹ آیا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کی طرف لوٹے تھے۔

### سفید پگڑیاں

اسی سال وزیر نے ذمیوں کو سفید پگڑیاں باندھنے کی اجازت دینے میں گفتگو کی۔ اس حکم پر سات لاکھ دینار سالانہ جزیہ دینا منظور کیا گیا تھا۔ مگر شیخ تقی الدین بن تیمہ نے اس کی سخت مخالفت کی جس سے وزیر کی بات منظور نہ ہو سکی۔

### نئے احکام

اسی سال تاتاریوں کے بادشاہ خوبند نے رخص کو پھیلا یا اور خطباء کو حکم دیا خطبہ میں حضرت

علی و حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے علاوہ کسی کا نام نہ لیا کریں۔ یہ رسم اس کے مرتے دم تک جاری رہی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ابوسعید نے باپ کے تمام حکموں کو منسوخ کر دیا۔ عدل انصاف کو پھیلایا اور سنت کو قائم کیا اور خلفائے اربعہ کا نام بالترتیب خطبہ میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے تمام فتنے دور ہو گئے۔ یہ بادشاہ تاتاریوں کے تمام بادشاہوں سے اچھا تھا۔ 736 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد تاتاریوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا بلکہ وہ بالکل متفرق ہو گئے۔

### نیل میں سیلاب

717 ہجری میں نیل میں سیلاب آیا جس سے بہت سے شہر اور لوگ غرق ہو گئے۔

### تین ماہ تک

724 ہجری میں بھی سیلاب آیا جو براتین ماہ تک رہا جس سے بہت ہی نقصانات ہوئے۔

### قوصوں کی تعمیر

728 ہجری میں مسجد حرام کی چھت اور نعبہ شریف کے دروازوں کو از سر نو تیار کیا گیا۔ 730 ہجری میں مدرسہ شافعیہ کے ایوان صالحہ میں جمعہ پڑھا گیا۔ یہ وہاں پہلا جمعہ تھا۔ اسی سال باب زویلہ کے باہر کی جامع مسجد جسے قوصوں نے بنوایا تھا، مکمل ہوئی۔ سلطان اور اعیان سلطنت کے سامنے اس میں خطبہ پڑھا گیا۔ پہلے قاضی القضاة جلال الدین نے خطبہ پڑھا اور بعد ازاں وہاں کے خطیب فخر الدین بن شکر نے خطبہ پڑھا۔

733 ہجری میں سلطان نے غلامار نے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ غلیلیں فروخت نہ کی

جائیں اور نجومیوں کو بھی بند کر دیا گیا۔

### آبنوس کا دروازہ

اسی سال سلطان نے کعبہ شریف کیلئے دروازہ بنوایا جس پر چاندی کی پتھریاں لگی ہوئی تھیں۔ جن کا وزن 335 مثقال تھا (یعنی ایک سو پینسٹھ کلو) اور پہلے دروازے کو اتار لیا گیا۔ بنو شیبہ نے اس کی تمام تختیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس دروازے پر والی یمن کا نام کندہ تھا۔ 736 ہجری کو خلیفہ اور سلطان کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی۔ اس پر سلطان نے خلیفہ کو پکڑ کر برج میں محصور کر دیا۔ پھر ذی الحجہ 737 ہجری کو اسے اور اس کی اولاد اور شہنشاہ داروں کو قوص بھیج دیا



اور ان کے گزارے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ آخر مستکفی 740 ہجری کو وہیں فوت ہو گیا۔

### دوستی سے عداوت

ابن حجر نے اپنی کتاب الدرر میں لکھا ہے مستکفی نہایت سخی، فاضل، خوشخط اور شجاع تھا۔ جوگان کھیلنے اور غلہ اندازی میں اسے خاص مہارت تھی۔ اکثر علماء و ادباء کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور ان کو انعامات دیا کرتا تھا۔ تمام زندگی حتیٰ کہ نظر بند رہنے کے دوران بھی منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ پہلے سلطان اور اس کے درمیان بڑی محبت تھی۔ دونوں سیر کرنے اور جوگان کھیلنے اکٹھے جایا کرتے تھے۔ رنجش کا سبب یہ تھا ایک دفعہ سلطان کے سامنے ایک رقمہ پیش کیا گیا جس پر خلیفہ کے دستخط تھے۔ اس میں لکھا تھا:

سلطان فلاں معاملے میں مجلس شرع شریف میں حاضر ہو۔ بس اس نے اس بات سے غضبناک ہو کر سب کچھ کیا اور خلیفہ کو اپنے اہل و عیال و احباء و اقرباء کے ساتھ قوس بھیج دیا۔ ابن فضل اللہ نے بھی اس کے حال میں اپنی کتاب المسالک میں اس کے حال میں لکھا ہے مستکفی نہایت نرم طبیعت اور خوشخط تھا۔

اس کے عہد خلافت میں یہ علمائے فوت ہو گئے تھے:

قاضی القضاة تقی الدین بن دقیق العید، شیخ زین الدین فارقی شیخ الشافعیہ و شیخ دارالحدیث شرف قراری، صدر الدین وزیر بن حاسب، حافظ شرف الدین و میاطی ضیاء طوسی، شارح حاوی، شمس السروی شارح ہدایہ من الحنفیہ، امام نجم الدین بن رفعت امام الشافعیہ، حافظ سعد الدین حارثی، فخر توی محدث مکہ رشید معلم من کبار الحنفیہ، ابوی صدر بن وکیل شیخ الشافعیہ، کمال بن شریٹی، تاج تبریزی، فخر بن بنت ابی سعد، شمس بن ابوالعز شیخ الحنفیہ، رضی طبری امام الملک، صفی ابوالنثار محمود رموی، شیخ نور الدین بکری، علاء بن عطار، تلمیذ امام نووی، شمس اصہبانی صاحب تفسیر و شارح مختصر ابن الحاجب و شارح تجرید، تقی صالح بکری خاتم القراء، شہاب محمود شیخ صناعتہ الانشاء جمال بن مطہر شیخ الشیعہ، کمال بن قاضی شہبہ، نجم قمولی صاحب جواہر البحر، کمال بن زلمکانی، شیخ تقی الدین بن تیمیہ، ابن حبارہ شیخ الشافعیہ، نجم ہامی شارح تنبیہ برہان فزاری، شیخ الشافعیہ علاء نووی، شارح حاوی، فخر ترکمانی حنفی شارح جامع کبیر، ملک المؤمنین والے حماة صاحب تصانیف کثیرہ، شیخ یاقوت عرشی تلمیذ شیخ ابی العباس مرئی برہان جمیری بدوین

جماعہ تاج بن فاکہانی، فتح بن سید الناس، قطب حلبی، زین کنانی، قاضی محی الدین بن فضل اللہ، رکن بن تولج، زین بن مرحل، شرف بن بارزی، جلال قزوینی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## الواثق باللہ

الواثق باللہ ابراہیم بن ولی العہد المستمسک باللہ ابی عبد اللہ محمد بن الحاکم بامر اللہ ابی العباس احمد اس کے دادا الحاکم نے اپنے بیٹے محمد کو ولی عہد بنا کر اس کا لقب المستمسک مقرر کیا۔ لیکن وہ اس کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تو اس نے اس کے بیٹے ابراہیم کو اس خیال سے کہ وہ خلافت کے لائق ہے ولی عہد بنا دیا۔ مگر جب اس نے دیکھا وہ لہو و لعب میں منہمک رہتا ہے اور کمینوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے تو اپنے بیٹے مستمکی کو ولی عہد بنایا۔ اس پر ابراہیم مستمکی اور سلطان کے درمیان ناچاقی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ قبل ازیں وہ بھائیوں کی طرح رہتے سہتے تھے۔ غرض جب مستمکی مر گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا۔ مگر سلطان نے اس کی ذرا بھی پروا نہ کی اور ابراہیم سے بیعت کہ لی۔ اس نے الواثق اپنا لقب مقرر کیا۔ یہ واقعہ یکم محرم 742 ہجری کا ہے۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں لوگوں نے ابراہیم کی بد مزاجی کی شکایت کی۔ مگر اس نے ذرا بھی توجہ نہ دی اور جب تک سب نے اس کی بیعت نہ کر لی کسی کو نہ چھوڑا۔ عام لوگ ابراہیم المستمکی باللہ کہا کرتے تھے۔

## خلاف امید

ابن فضل اللہ اپنی کتاب المسالک میں الواثق باللہ کے حال میں لکھتے ہیں اس کے دادے نے اسے اس خیال سے ولی عہد بنایا تھا شاید اس میں خلافت کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ لیکن وہ امید کے خلاف بڑا ہوا تو نامشروع باتوں میں لگ گیا۔ ہمیشہ نامناسب کام کیا کرتا۔ بروں کے ساتھ بیٹھتا۔ بری باتوں کو اچھا سمجھتا۔ ان کے کرنے پر فخر کرتا، کبوتر بازی کرتا، مینڈھے وغیرہ لڑایا کرتا اور مرغ لڑایا کرتا اور ایسی باتیں کرتا تھا جن سے دل سے مروت اور قارٹھ جاتا ہے اور ساتھ ہی بد معاملہ بھی تھا۔ مال خرید لیا کرتا مگر ادائیگی نہ کرتا تھا۔ گھر کرائے پر لے لیتا مگر کرایہ ادا نہ کرتا، درہم و دینار بطور حرام و حیلہ گ۔ حاصل کرتا اور اس نا جائز

مال سے خود بھی کھاتا اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا۔ ان باتوں میں یہ یہاں تک بڑھا کہ تمام لوگ اسے ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور تمام اہل خانہ اس کے ہاتھوں سے نالاں تھے۔

بخند ایہ سچ ہے کہ

یہی تمام باتیں جن کا پچھلے پیرائے میں ذکر ہو چکا ہمارے قریب کے گزشتہ حکمرانوں اور موجودہ حکمرانوں میں بڑی سیٹ سے چھوٹی تک تمام میں یہی سب باتیں بدرجہا تہم پائی جاتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے اب ان کو ذرا ماڈرن طریقہ سے کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ اس دور اور معاشرے کے مطابق تھیں اور میں تو کہتا ہوں پھر بھی وہ لوگ اچھے تھے۔ اگر ایک فرد نے حرامی پن دکھایا تو باقی گھر والے اس سے نالاں و بیزار ضرور ہو گئے۔ مگر اب تو گھر والے خوش ہی تب ہوں گے جب وہ یہ تمام حرام کاریاں کر گزریں گے۔ خدا ہمیں نیک بنائے اور نیک حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ (صاحبزادہ محمد میسر سیا لوی نظامیہ یونیورسٹی لوہاری لاہور)

جب مستغنی سلطان کے معرض خطاب میں آیا اور اس حالت میں مر گیا تو اس نے اس فریبی اور مکار اور بے وقوف الوائق کو بلایا (وہی الوائق جس نے سلطان کو کوئی بات کہہ کر اس کے اور خلیفہ اپنے چچا مستغنی کے درمیان عداوت ڈالی تھی۔) جب یہ سلطان کی خدمت میں آیا تو اپنے دادا کا عہد نامہ جو ساتھ لایا تھا سلطان کو دکھایا۔ سلطان نے اسی عہد نامہ کا سہارا پا کر اس سے بیعت کر لی اور اسے خلیفہ مان لیا حالانکہ اس عہد نامہ کے منسوخ و منقوض ہونے کے بارے سلطان کو واضح طور پر معلوم تھا۔ قاضی القضاة ابو عمرو بن جماعہ نے سلطان کو اس رائے سے پھیرنا چاہا مگر سلطان نہ پھر اور آخر یہ بات لرا رہ پائی دونوں میں سے کسی کا بھی نام خطبہ میں نہ لیا جائے، صرف سلطان کا نام ہی خطبہ میں رہے۔ گویا مستغنی کے بعد خلافت کا نام منبروں سے بھی جاتا رہا اور خلفاء کے لیے خطبوں میں دعا کرنا ایسا فعل نظر آنے لگا گویا کبھی سنا ہی نہیں گیا۔ یہ حالت اس وقت تک رہی کہ سلطان بستر مرگ پر جا پڑا اور چھٹایا اور ہوجب عہد مستغنی اس کے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر کے ابراہیم کو معزول کر دیا جو بھیڑ کے لباس میں بھیڑیا اور شریفوں کے لباس میں کمینہ اور خنیوں کے لباس میں لٹیرا تھا۔ اللہ اکبر کہاں وہ واثق جس کے نام سے ہی لوگ کانپ جاتے تھے اور کہاں یہ کہ جس نے اپنے نام و خلافت کو دھندہ لگایا۔ معزول ہونے کے بعد یہ ہاتھ کاٹنے لگا مگر اب پچھتائے کیا ہوتا تھا۔ (یہاں تک ابن فضل اللہ کا کلام تھا۔)

## الحاکم بامر اللہ ابو عباس

الحاکم بامر اللہ ابو عباس احمد بن المستکفی۔ جب اس کا باپ قوس فوت ہوا تو اسے ولی عہد خلافت مقرر کر چکا تھا۔ لیکن سلطان الملک الناصر کو چونکہ اس کے والد سے رنجش تھی اس لیے اس نے ابراہیم کو خلیفہ بنانا تسلیم کیا چونکہ ابراہیم بد خصلت تھا اس لیے قاضی عز الدین بن جماعہ نے اس کو اس سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی۔ آخر جب سلطان مرنے لگا تو امراء کو وصیت کی کہ ابراہیم کی بجائے مستکفی کے بیٹے احمد کو ہی خلیفہ مقرر کیا جائے۔ چنانچہ جب ناصر کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا المنصور ابو بکر سلطان ہوا تو اس نے بروز جمعرات گیارہ ذوالحجہ 741 ہجری میں ایک مجلس منعقد کی اور اس میں خلیفہ ابراہیم اور ولی عہد احمد اور تمام قاضیوں کو بلایا اور پوچھا شرع کے اعتبار سے خلافت کا حقدار کون ہے؟ ابن جماعہ نے کہا خلیفہ المستکفی المتوفی بمہینہ قوس نے مرتے وقت اپنے بیٹے احمد کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ چنانچہ اس شہر کے چالیس عادل شخصوں نے اس بات کی گواہی بھی دیدی ہے اور یہ وصیت میرے نائب قوس کے پاس ثابت ہونے کے بعد میرے پاس بھی ثابت ہو گئی ہے۔

جب سلطان نے یہ بات سنی تو سلطان نے ابراہیم کو معزول کر دیا اور احمد سے بیعت کر لی۔ بعد ازاں سب قاضیوں نے بھی بیعت کر لی اور اس کے دادا کے لقب پر اس کا لقب بامر اللہ رکھا گیا۔

### کمال کی باتیں

ابن فضل اللہ نے اپنی کتاب المسالک میں اس کا حال کچھ اس طرح لکھا ہے "الحاکم بامر اللہ ہمارے زمانے کا امام اور مصر کے لیے بادل کی طرح ہے۔ دشمن کو غضب سے جلاتا ہے اور دوستوں کو اپنی بخشش کے فیض سے مالا مال کرتا ہے۔ اس نے جاں بلب رسوم خلافت کو زندہ کر دیا ہے۔ کوئی شخص اس کے لکھے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر پلتا ہے۔ ان کا نشان مٹ گیا تھا مگر اس نے پھر زندہ کیا اور اپنے بھائیوں کی پر آگندہ حالت کو جمع کیا ہے۔ تمام منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا ہے۔ سلطان کی موت کے بعد وصیت کے سبب اسے خلیفہ بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے والد نے اسے ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ پھر جب ملک المنصور ابو بکر بن سلطان بادشاہ ہوا تو اس نے اس کے لیے کئی ایک ملک بطور جاگیر مقرر کر دیئے۔

ابن فضل نے لکھا ہے کہ خلیفہ حاکم کا بیعت نامہ میں نے تحریر کیا تھا اور وہ یہ ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله الى قوله عظيما. هذه بيعة رضوان و بيعة احسان و جمعة رضى يشهدا الجماعة ويشهد عليها الرحمن بيعة يلزم طائرها العنق ويهوم بسائرها ويحمل انباها البرار والبحار مشحونة الطرق بيعة يصلح الله بها الامة يصلح بسبها النعمة ويتجارى الرفاق ويسرى الهناء فى الافاق وتزاحم الزهو الكواكب على حرص المجرة الدقاق بيعة سعيدة ميمونة شريفة بها السلامة فى الدين والدنيا مضمونة بيعة صحيحة شرعية ملحوظة مرعية تسابق اليها كل نية وتطاول كل طوية ويجتمع عليها شتات البريه بيعة يستهل بها الغمام ويتهلل البدر التمام بيعة متفق عليها الاجماع والاجتماع ولبسط الايدى اليها انعقد الاجماع فاعتقد صحتها من سمع الله واطاع وبذل فى تمامها كل امرئ ما استطاع حصل عليها اتفاق الابصار والاسماع و وصل بها الى مستحقه واقرة الخصم وانقطع التراع بضمنها كتاب مرقوم يشهد بها المقربون وتلقاه الائمة الاقربون الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى اولا ان هدانا الله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس والينا والله الحمد والى بنى العباس اجمع على هذه البيعة ارباب العقد والحل واصحاب الكلام فيها قل وجل وولاة الامور والحكام وارباب المناصب والاحكام حملة العلم والاعلام وحماة السيوف والاقلام واكابر بنى عبدمناف ومن الخفض قدره واناف وسردات قريش و وجوه بنى هاشم والبقية الطاهرة من بنى العباس وخاصة الائمة وعامة الناس بيعة ترى بالحرمين خيامها وتخفق بالمازمين اعلامها وتعرف بعرفات بركاتها وتعرف بمنى ويوم من عليها يوم الحج الاكبر وقوم عما بين الركن والمقام والحجر ولا يتغنى بها الا وجه الله الكريم بيعة لا يحل عقدها ولا ينبد عهدا لازمة جازمة دائبة قائمه تامة عامة شاملة كاملة صحيحة صريحة متبعة مريخة ولا من يوصف بعلم ولا قضاء ولا من يرجع اليه فى انفاق ولا امضاء ولا امام مسجد ولا خطيب ولا ذوفتوى يسال فيجيب ولا من لزم المساجد ولا من تضمهم اجنحة المحارب ولا من يجتهد فى راي فيخطى او يصيب ولا محدث بحديث ولا متكلم فى قديم وحديث ولا معروف بدين وصلاح ولا فرسان حرب وكفاح ولا راشق بسهام ولا طاعن برماح ولا ضارب بصفاع ولا ساع بقدم ولا طائر بجناح ولا مخالط للناس ولا مقاعد فى عزلة ولا جمع كثرة ولا قلة ولا من يستقل

بالجوزاء لسواؤة ولا من يعلى فرق الفرقدين نواؤه ولا بادو لا حاضر ولا مقيم ولا سائر ولا اول ولا آخر ولا مسرفى باطن ولا معلن فى ظاهر ولا عرب ولا عجم ولا راعى ابل ولا غنم ولا صاحب اناة ولا بدار ولا ساكن فى حضر وبادية بدار ولا صاحب عمد ولا جدار ولا ملحج فى البحار الزاخرة والبرارى والقفار ولا من يعتل صهوات الخيل ولا من يسبل على العجاجة الذيل ولا من تطلع عليه شمس النهار ويحرم الليل ولا من تظل السماء وتقله الارض ولا من تدل عليه الاسماء على اختلافها وترفع درجات بعضهم على بعض حتى امن بهذه البيعة وامن بها ومن الله عليه وهداه اليها واقربها وصدق ورض لها بصره خاشعا لها واطرق ومد اليها يده بالمبايعة ومعتقده بالممتابعة ورضى بها وارضاها واجاز حكمه على نفسه وامضاها ودخل تحت طاعتها وعمل بمقتضاها وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وانه لما استاثر الله بعبده سليمان ابى الربيع الامام المستكفى بالله امير المؤمنين كرم الله مثواه وعوضه عن دار السلام بدار السلام ونقله مزكى يديه عن شهادة الاسلام بشهادة الاسلام حيث اثره بقربه ومهد جنبه واقدمه على ماقد من مرجو عمله وكسبه وخارله فى جواره طريقا وانزله مع الدين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الله اكبر ليومه لولا مخلفه كانت تضيق الارض بما رحبت وتجزى كل نفس بما كسبت وتباكل سريرة ما ادخرت وماجنت لقد اضطرب سعيه الا انه فى الجوانح لقد اضطر منبر وسرير لولا خلفه الصالح لقد اضطرب مامور وامير لولا الفكر بعده فى عاقبة المصالح ولم يكن فى نسب العباسى ولا فى بيت المسترشدى ولا فى غيره من بيوت الخلفاء من بقايا اباؤهم وجدود ولا من تلده اخوى اللبائى وهى عاقر غير ولود من تسلم اليه امة محمد عقد نياتها وسرطوياتها الا واحد واين ذلك الواحد هو والله من انحصرفيه استحقاق ميراث اباؤه الاطهار وتراث اجداده الاخير ولا شى هو الامام اشتمل عليه رحاء الليل والنهار وهو اولد المنتقل الى ربه وولد الامام الذاهب لصلبه المجمع على انه فى الايام فرد هذا الانام وواحد وهكذا فى وجود الامام وانه الحائر لما زردت عليه جيوب المشارق والمغرب والفائز يملك ما بين للمشارق والمغرب الرافى فى صفح السماء هذه الذروة المنيفة الباقي بعد الائمة الماضين ونعم الخليفة المجتمع فيه شروط الامامة المتضع لله وهو ابن بيت لا يزال الملك فيهم الى يوم القيامة الذى

يفضح السحاب نائله والذي لا يعزه عادل له عاذا الذي ما ارتقى صهره المنبر بحصره سلطان زمانه الا قال بامرہ وقام قائمة ولا قعد على سرير الخلافة الا وعرف انه ماخاب مستكفيه ولا غاب حاكمه نائب الله في ارضه والقائم مقام رسوله و خليفه وابن عمه و تابع عمله الصالح و وارث علمه سيدنا و مولانا عبد الله و وليه ابو العباس الامام الحاكم بامر الله امير المؤمنين ايد الله ببقائه الذين و طوق بسيغه الملحدين و كتبت تحت لوائه المعتدين و كتب له النصر الى يوم الدين و كب بجهاده على الاذقان طوائف المفسدين و عاذ به الارض ممن لا يدين بدين و اعاد بعد له ايام ابائه الخلفاء الراشدين و الائمة المهديين الذين قضوا بالحق و به كانوا ليعدلون و عليه كانوا يعدلون و نصرا و نصاره و قدرا و اقتداره و اسكن في القلوب سكينه و وقاره و مكن له في الوجود و جمع له اقطاره و لما انتقل الى الله ذلك السيد و لقي اسلافه و نقل الى سرير الجنة عن سرير الخلافة و اخلا العصر من امام يمسك ما بقى من انهاره و خليفه يغالب مزيد الليل بانواره و وارث بنى بمثله و مثل ابائه استغنى الوجود بعد ابن عمه خاتم الانبياء عن بنى يقتفى على اثاره و مضى و لم يعهد فلم يبق اذا لم يوجد النص الا الاجماع و عليه كانت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم بلانزاع اقتضت المصلحة الجامعة عقد مجلس كل طرف به معقود و عقد بيعة عليها الله و الملائكة شهود و جمع الناس له و ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود فحضر فحضر من لم يعبا بعده بمن يخلف و لم يربايعه و قد صد يده طامعاً لمزيدها و قد تكلف و اجمعوا على راي واحد استخار و الله فيه فخار و اخذ يمين بمد لهما الايمان و يشدبها الايمان و يعطى عليها الموثيق و يعرض امانتها على كل فريق حتى تقلد كل من حضر في عنقه هذه الامانة و وسط على المصحف الكريم يده و حلف بالله و اتم ايمانه و لم يقطع و لا استثنى و لا تردد و من قطع من غير قصد اعاد و جد و قد نوى كل من حلف ان النية في يمينه نية من عقدت له هذه البيعة و نية من حلف له و تدمم بالوفاء له في ذمته و تكفله على عادة ايمان البيعة و شروطها و احكامها للردة و اقسامها الموكدة بان يبذل لهذا الامام المفترض الطاعة الطاعة و لا يفارق الجمهور و لا يفر عن الجماعة و غير ذلك مما تضمنه نسخ الايمان المكتتب فيها اسماء من حلف عليها مما هو مكتوب بخطوط من يكتب منهم و خطوط العدول الثقات عمن لم يكتبوا و اذنوا ان يكتب عنهم جسماً يشهد به بعضهم على بعض و يتصادق عليه اهل

السماء والارض بيعة ثم بمشية الله تمامها وعم بالصواب المصدق غمامها وقالوا الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن ووهب لنا الحسن ثم الحمد لله الكافى عبده الوافى لمن يضاعف على كل مرحلة حمده ثم الحمد لله على نعمة يرغب امير المؤمنين فى ازديادها ويرغب الا ان يقاتل اعداء الله بامدادها ويداب بها من ارتقى منا برما لكه بمابان من مباينه مقدادها نحمده والحمد لله ثم الحمد لله كلمة لا يمل من تردادها ولا يحل بما تفوق السهام من سدادها ولا يطل الاعلى ما يوجب تكثير اعدادها وتكبير اقدار اهل واداءها وتصغير التحقير لا التجيب لاندادها ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يقاس دماء الشهداء والمداد مدادها وتنافس طرر الشباب وغرر السحاب على استمدادها وتتجانس رقومها المديحة وما تلبسه الدولة العباسية من شعارها والليالي من دثارها والاعداء من حدادها ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جماعه اهله ومن خلف من ابنائها ومن سلف من اجدادها ورضى الله عن الصحابة اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد فان امير المؤمنين لما اكسبه الله من ميراث النبوة ما كان لجدته ووهبه من الملك السليماني ما لا ينغى لاحد من بعده وعلمه منطلق الطير مما يتحملة حمام البطائق من بدايع البيان وسخر له من البريد على متون الخيل ما سخره من الريح لسليمان واتاه الله من خاتم الانبياء ما امتدبه ابره سليمان ونصرف واعطاء من الفخاريه ما اطاعه كل مخلوق ولم يتخلف وجعل له من لباس بنى العباس ما يقضى له سواده بسودد الاجداد وينفض على ظل الهدب ما فضل به عن سويداء القلب وسواد البصر من السواد ويمد ظله على الارض وكل مكان دار ملك وكل مدينة بغداد وهو فى ليله السجاد وفى نهاره العسكري وفى كرمه جعفر وهو الجواد يديم الابتهاج الى الله تعالى فى توفيقه والابتهاج بما يغص كل عدو بريقه ويبدأ يوم هذا المبايعه بما هو لاهم من مصالح الاسلام وصالح الاعمال فيما يتحلى به الانام وتقدم التقوى امامه ويقرر عليها احكامه ويتبع الشرع الشريف ويف عنده ويوقف الناس ومن لا يحمل امره طائعا على العين يحمله غضبا على الرأس ويعجل امير المؤمنين بما استقر به النفوس ويرد به كيد الشيطان وانه يؤس ويأخذ بقلوب الرعايا وهو غنى عن هذا ولكنه يسوس وامير المؤمنين يشهد عليه الله وخلقه بانه اقرولى كل امرء من ولاة امور الاسلام على حاله واستموبه فى مقيله تحت كنف ظلاله على



اختلاف طبقات ولاة الامور وطرقات الممالك والثغور برا وبحر اسهلا  
ووعرا شرتا وغربا بعد اوقريا وكل جليل وحقير وقليل وكثير وصغير و  
كبير وملك ومملوك وامير وجندى يبرق له سيف شهير ورمح ظهير  
ومع من هؤلاء من وزراء وقضلة وكتاب ومن له تدقيق فى حساب ومن  
يتحدث فى يريد وخراج ومن يحتاج اليه ومن لا يحتاج ومن افى التدريس  
والمدارس والربط والزدايا والخوانق ومن له اعظم التعلقات وادنى العلائق  
وسائر ارباب المراتب واصحاب الرواتب ومن له من مال الله رزق مقسوم  
وحق مجهول او معلوم واستمر كل امر على ما هو عليه حتى يستخير الله  
ويتبين له ما بين يديه ومن ازداد تاهيله زاد تفضيله والا فامير المؤمنين لا يريد  
الا وجه الله ولا يحابى احدا فى دين الله ولا يحابى حقانى حق فان المحابة  
فى الحق مداجاة على المسلمين وكلما هو مستمر الى الان مستقر على  
حكم الله مما فهمه الله وفهمه سليمان لا يغير امير المؤمنين فى ذلك ولا فى  
بعضه تغيرا شكرا لله على نعمه وهكذا يجازى من شكر ولا يكدر على احد  
موردته الله نعمه الصافية به عن الكدر ولا يتاول فى ذلك متاول الامن  
حجد النعمة وكفر ولا يتعلل متعلل فان امير المؤمنين يعوذ بالله ونعيد ايامه  
من الغير وامر امير المؤمنين اعلى الله امره ان يعلق الخطاب بذكره وذكر  
سلطان زمانه على المنابر فى الافاق وان يضرب باسمهما التقود وتسير بالا  
طلاق ويوشح بالدعاء لهما عطف الليل والنهار ويصرح منه بما يشرق وجه  
الدرهم والدينار قد اسمع امير المؤمنين فى هذا المجمع المشهود ما يتناقله  
كل خطيب ويتداوله كل بعيد وقريب ومختصره ان الله امر بامر ونهى  
عن نواه وهو ارقب وسيفرغ الا اباها لها السجايا ويقرع الخطاب لها شعزب  
الوصايا وتكمل بها المزايا ويخرج من المشائخ الخبايا من الزوايا ويسمر  
بها السمار ويترنم الحادى والملاح يرق سحرها بالليل المقمر ويرقم على  
جبين الصباح وتغط بها مكة بطحاءها يحيى بحدائها قفاء ويلقنها كل اب  
فهمه ابنه ويسأل كل ابن نجيب اباها وهو لكم ايها الناس من امير المؤمنين  
من سدده عليكم بينة واليكم مادعاكم به الى سبيل الله من الحكمة والموعظة  
الحسنة والامير المؤمنين عليكم الطاعة ولولا قيم الرعايا ما قبل الله اعمالها  
ولا امسك بها البحر ودها الارض وارسى جبلها ولا اتفقت الاراء على من  
يستحق رجاء ت اليه الخلافة تجرا ذيالها واخذ هادون بنى ابيه ولم تكن  
تصلح الاله ولم يكن يصلح الالهها وقد كفاكم امير المؤمنين السؤال بما فتح

الله لكم من ابواب الارزاق اسباب الارتزاقوا جزاكم على دقاقكم وعلمكم مكارم الاخلاق واجراكم على عوائدكم ولم يمسك خشية الانفاق ولم يبق لكم على امير المؤمنين الا ان يسير فيكم بكتاب الله وسنة رسوله صلعم ويعمل بما يسعد به من يحيى اطال الله بقاء امير المؤمنين من بعده ويزيد على من تقدم ويقيم فروض الحج والجهاد وينيم الرعايا بعد له الشامل في مهاد وامير المؤمنين يقيم على عادة ابائه موسم الحج في كل عام ويشمل بره سكان الحرمين الشريفين وسدنة بيت الله الحرام ويجهر السبيل على ضالة ويرجو ان يعود على حاله الاول في سالف الايام ويتدفق في هذين المسجدين بحره الزاخرو يرسل الى ثالثهما في البيت المقدس ساكبا لغمام ويقيم بعدله قبور الانبياء صلعم اينما كانوا واكثرهم في الشام والجمع والجماعات هي فيكم على قديم سنتها وسيزيد في ايام امير المؤمنين لمن يضم اليه وفيما يتسلم من بلاد الكفار ويسلم منهم على يديه واما الجهاد فكفى باجتهد القائم عن امير المؤمنين بما موراه المقلد عنه جميع ما وراء سريره وامير المؤمنين قد وكل منه خلد الله ملكه وسلطانه عيننا لاتنام وقد سيفا لواعفت بوارقه ليلة واحدة عن الاداء سلت خياله عليهم الاحلام وسيؤكد امير المؤمنين في ارتجاع ما غلب عليه العدى وقد قدم الوصية بان يوالى غزو العدو المخذول برا وبحرا ولا يكف عن ظفر به منهم قتلا ولا اسرار ولا يفك اغلالا ولا اصرا ولا يتفك يرسل عليهم في البر من الخيل عقباناً وفي البحر غريباناً تحمل كل منهما من كل فارس صفراء ويحمى الممالك ممن يتحرف اطرافها باقدام ويتحول الاكتافها باقدام ويتظهر في مصالح القلاع والحصون والثغور وما يحتاج اليه من الآلات القتال وامهات الممالك التى هي مرابط النبود ومرابض الاسود والامراء والعساكر والجنود وترتهم في الميمنة والميسرة والجناح الممدود ويتفقد احوالهم بالعرض بما لهم من خيل تعقد ما بين السماء والارض ومالهم من زرد موصون وبيضى مسها ذهب ذائب فكانت كأنها بيض مكنون وسيوف قواضب ورماح يسبب دوامها من الدماء خواضب وسهام توصل القسى وتفارقها فحن حنين مفارق وتز مجرا نفوس زمجرة مغاضب وهذه جملة اراد امير المؤمنين بها اطابة قلوبكم واطالة ذيل الطويل على مطلوبكم ودماءكم وامولكم اعراضكم في حماية الاسبما اباح الشرع المطهر ومزيد الاحسان اليكم على مقدار ما يخفى منكم ويظهر واما جريئات الامور فقد

علمتم ان من بعد عن امیر المومنین غنی عن مثل هذه الذکری وانتم علمے تفاوت مقادیر کم ودیعة امیر المومنین وکلکم سواء فی الحق عند امیر المومنین وله علیکم اداء النصیحة وابداء الطاعة بسریرة صحیحة فقد دخل کل منکم فی کف امیر المومنین وتحت رقة ولزمه حکم بیعة والزم طائرة فی عنقه وسیعلم کل منکم فی الوفاء بما اصبح به علیما ومن اوفی بما عاهد علیه الله فسیؤتیہ اجرا عظیما هذا قول امیر المومنین وقال وهو یعمل فی ذلك کله بما تحمد عاقبتہ من الاعمال وعلی هذا عهد الیه وبه بعهد وما سوائی هذا فجور لا یشهد به علیه ولا یشهد و امیر المومنین یتستغفر الله علی کل حال ویتعید به من الاهیة ویسأل ان یمده لما یحب من الامال ولا یمدله جبل الاهیة ویختم امیر المومنین قوله بما امر الله به من العدل والاحسان والحمد لله وهو من الخلق احمد وقد اتاه الله ملک سلیمان والله یمتع امیر المومنین بما وهبه ویملکه اقطار الارض ویورثه بعد العمر الطویل عقبه ولا یزال علی سدة العلیا قعوده ولد ست الخلفة ابنته بحلالة کانه مامات منصوره ولا اودی مهدیه ولا رشیده.

اس کے عہد خلافت میں یہ واقعات بھی ہوئے:

### قاعدہ ہے

خلافت کے پہلے سال ہی سلطان منصور بوجہ بد اعمالی اور شراب خوری کے تخت سے اتار دیا گیا۔ معز ولی کے بعد قوس بھیج دیا گیا اور وہیں فوت ہوا۔ یہ اس بدی کا بدلہ تھا جو اس کے باپ نے الحاکم کے باپ المستکفی سے کی تھی کیونکہ یہ قاعدہ چلا آتا رہا ہے کہ جس نے بنی عباس کو کوئی ایذا دی اس کو نور سزا مل گئی۔ منصور کے بعد اس کا بھائی الملک الاشراف بک تخت پر بیٹھا اور اسی سال تخت سے اتار بھی دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی احمد سلطان ہوا اور الناصر اپنا لقب مقرر کیا۔ شام کے قاضی تقی الدین سبکی نے خلیفہ اور اس کے درمیان بیعت کرائی۔

743 ہجری میں الناصر احمد کو معز ول کر کے اس کے بھائی اسمعیل کو تخت پر بٹھایا گیا اور الصالح اس کا لقب رکھا گیا۔

746 ہجری میں الصالح مر گیا۔ خلیفہ نے اس کے بھائی شعبان کو خلیفہ بنایا اور اکامل

اس کا لقب مقرر کیا۔

747 ہجری میں الکامل مقتول ہوا اور اس کا بھائی امیر حاج بادشاہ ہوا اور الناصر اپنا لقب

مقرر کیا۔

749 ہجری میں ایسا طاعون پڑا کہ اس جیسا کبھی نہیں سنا گیا تھا۔

752 ہجری میں الناصر معزول ہوا اور اس کا بھائی صالح تخت نشین ہوا۔ یہ آٹھواں شخص

تھا جو اولاد الناصر محمد بن قلاوون سے تخت پر بیٹھا۔ شیخواس کا اتا بک تھا۔ صاحب مسالک نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہی اتا بک امیر کبیر کے لقب سے ممتاز ہوا تھا۔

الحاکم کے عہد میں ان علماء نے وفات پائی۔:

حافظ ابوالحاج مزنی، تاج عبدالباقی یمنی، شمس عبدالہادی ابوجیان، ابن الوردی، ابن

لبان، ابن عدلان، ذہبی، ابن فضل اللہ، ابن قیم، جوزی، فخر مصری، شیخ الشافعی، تاج مراکشی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

## المعتضد باللہ ابوالفتح

المعتضد باللہ ابوالفتح ابوبکر بن المستنصر اپنے بھائی (الحاکم بامر اللہ ابوالعباس احمد بن

المستنصر) کی وفات کے بعد 753 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ نہایت متواضع و دیندار اور اہل علم کو

دوست رکھنے والا شخص تھا۔ جمادی الاولیٰ 767 ہجری میں فوت ہوا۔

اس کے عہد میں درج ذیل واقعات وقوع پذیر ہوئے:

## عجیب بات

ابن اثیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ 754 ہجری میں طرابلس میں ایک لڑکی تھی جس کا نام نفیسہ

تھا۔ تین مردوں سے اس کا نکاح ہوا۔ مگر کوئی اس پر قادر نہ ہو سکا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ رتقاء

ہے۔ جب اس کی عمر پندرہ برس کی ہوئی، اس کے پستان غائب ہو گئے اور پھر اس کی شرمگاہ

سے گوشت بلند ہونا شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے مرد کا آلہ تناسل بن گیا اور نصیبیں بھی ظاہر

ہو گئے۔ یہ عجیب بات محضرون میں لکھی گئی۔

755 ہجری میں الملک الصالح کو معزول کر کے پھر الناصر حسن کو اس کی جگہ مقرر کیا گیا۔

## نئے پیسے

756 ہجری میں دینار کے برابر اور اس کے ہم وزن نئے پیسے بنائے گئے جو ایک درہم

کے چوبیس (24) آتے تھے۔ پرانے پیسے ایک درہم کے ڈیڑھ رطل آتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخو اور مرعشمش نے جو اپنے مدرسوں میں تقریباً درہم تنخواہ مقرر کیے تھے وہ یہی تین رطل پیسوں والے درہم تھے۔

762 ہجری میں الناصر حسن مقتول ہوا اور اس کی جگہ اس کے بھائی المظفر کا بیٹا محمد تخت پر بیٹھا اور المنصور اپنا لقب مقرر کیا۔

معتضد کے عہد میں ان علماء نے وفات پائی  
شیخ تقی الدین سبکی، سمیس صاحب اعراب، قوام اتقانی، بہاء بن عقیل، صلاح علانی، جمال بن ہشام، حافظ مغلطی، ابوامامہ بن نقاس وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

## المتوکل علی اللہ ابو عبد اللہ

المتوکل علی اللہ ابو عبد اللہ محمد بن معتضد خلفائے عصر کا والد اپنے باپ کی وفات کے بعد جمادی الاولیٰ 763 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا اور پینتالیس (45) سال تک خلیفہ رہا۔ مگر اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے جس میں وہ کبھی معزول رہا اور کبھی قید رہا۔ چنانچہ ہم اس کا بیان کریں گے۔ اس نے اولاد کثیرا اپنے پیچھے چھوڑی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کے سو بچے تھے۔ بعض تو طفلی میں ہی مر گئے اور بعض کا اسقاط حمل ہو گیا اور کئی لڑکیاں اور لڑکے بڑے ہو کر مر گئے۔ ان میں سے پانچ خلیفہ ہوئے۔ اس کی نظیر خلفاء میں نہیں ملتی۔ ان کے نام یہ ہیں:

(1) المستعین العباس (2) المعتضد داؤد (3) المستنکف سلیمان (4) القائم حمزہ (5)  
المستجد یوسف۔

## عہد متوکل میں یہ حوادث واقع ہوئے

764 ہجری میں المنصور محمد معزول کیا گیا اور اس کی جگہ شعبان بن حسین بن الناصر بن محمد بن قلاوون تخت پر بیٹھا اور الاشرف اپنا لقب مقرر کیا۔

773 ہجری میں سلطان کے حکم سے سادات کے عمالوں پر ایک سبز علامت مقرر کی گئی تاکہ وہ دوسروں سے متمیز ہو جائیں۔ یہ پہلی نئی بات تھی جو ایجاد ہوئی۔ ابو عبد اللہ بن جابر اعلیٰ نحوی مصنف شرح الفیہ المشہور بالاعلیٰ والبصیر نے اس پر یہ شعر کہا: اشعار

جَعَلُوا لِأَبْنَاءِ الرَّسُولِ عِلْمًا  
إِنَّ الْعِلْمَ شَانَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ

ترجمہ: انہوں نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی سادات کرام کیلئے) ایک علامت مقرر کی ہے۔ حالانکہ علامت اس شخص کے لیے مقرر ہوا کرتی ہے جو نامعلوم اور مجہول ہو۔

نُورُ النُّبُوَّةِ فِي كَرِيمٍ وَجُوهِهِمْ يُغْنِي الشَّرِيفَ عَنِ الطَّرَازِ الْأَخْضَرِ

ترجمہ: لیکن سادات کے چہروں پر تو نور نبوت چمک رہا ہے جو انہیں سبز اور مطرز لباس پہننے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

### تیور مفسد

اسی سال تیمور لنگ مفسد نے خروج کیا اور شہروں کو ویران کر دیا۔ بندگانِ خدا تعالیٰ کو ہلاک و تباہ کیا اور اسی طرح فتنہ و فساد کرتا ہوا حتیٰ کہ 873 ہجری میں خدائے تعالیٰ کی لعنت میں جا ہلاک ہوا۔ اس پر یہ شعر کہے گئے: شعر

فَعَلَ النَّارُ وَلَوْدًا أفعالٍ بِمَرَلْنِكَ إِذَا كَانَ أَعْظَمًا  
وَطَائِرُهُ فِي الْخَلْقِ كَانَ أَشْأَمًا

ترجمہ: تاتاریوں نے بھی فساد تو برپا کیا تھا لیکن اگر وہ تیمور لنگ کے فساد کو دیکھتے جو ان سے کئی حصے بڑھ کر تھا تو وہ بھی حیران ہو جاتے کیونکہ وہ ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا اور اس کا زمانہ لوگوں میں نحوست کا زمانہ تھا۔

### سن عذاب

تیمور اصل میں دہقان زادہ تھا۔ چوری اور راہ زنی کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں بادشاہ کے داروغہ اصطبل کی خدمت میں جا پہنچا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ پر مقرر ہو گیا۔ بعد ازاں ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن گیا۔ ایک شخص سے دریافت کیا گیا کہ تیمور لنگ کا خروج کس سن میں ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ سن عذاب میں۔ یعنی 773 ہجری میں۔ (یہ لفظ عذاب کے عدد ہیں۔)

### قرأت بخاری شریف

775 ہجری میں ماہ رمضان میں سلطان کے سامنے قلعہ میں بخاری شریف کی قرأت شروع ہوئی۔ پہلے حافظ زین الدین عراقی قاری مقرر ہوئے۔ مگر بعد ازاں ان کے ساتھ شہاب عربانی بھی شریک کر دیئے گئے۔

777 ہجری میں دمشق میں انڈے اس قدر مہنگے ہوئے کہ ایک انڈا تین درہم یعنی ایک

دینار میں بکنے لگے۔  
راستے کی سازش

778 ہجری میں الاشرف شعبان قتل ہوا اور اس کا بیٹا علی تخت نشین ہوا اور المنصور اپنا لقب مقرر کیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ سلطان اشرف مع خلیفہ اور قضاة و امراء کے حج کو روانہ ہوا۔ راستے میں امراء نے اس کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی۔ سلطان کو بھی معلوم ہو گیا۔ وہ راستے سے ہی واپس قاہرہ میں بھاگ آیا۔ بعد ازاں خلیفہ بھی واپس آ گیا۔ لوگوں نے خلیفہ کو سلطان بنانا چاہا۔ لیکن اس نے نہ مانا۔ آخر انہوں نے سلطان اشرف کے بیٹے کو اس کی جگہ مقرر کیا۔ اشرف کہیں روپوش ہو گیا۔ مگر آخر پکڑا گیا۔ ماہ ذوالقعدہ میں قتل ہوا۔

گہن

اسی سال آفتاب و ماہتاب دونوں کو بہن لگا۔ چاند کو شعبان کی چودھویں رات میں اور سورج کو 28 شعبان کو۔  
پندرہ روز گزرے

779 ہجری میں ربیع الاول کی چار تاریخ کو ایک بدری اتابک عساکر زکریا بن ابراہیم بن مستمک نے خلیفہ حاکم کو بلا کر خلع دے دی اور بغیر بیعت و اجتماع کے خلیفہ مقرر کر کے مستمک باللہ کا لقب عطا کیا اور کئی ایک امور کے باعث جو اس سے قتل اشرف کے وقت صادر ہوئے تھے اسے قوص میں جانے کا حکم دیدیا۔ خلیفہ وہاں چلا گیا اور دوسرے روز پھر اپنے گھر میں واپس آ گیا اور بیس (20) تاریخ کو تخت خلافت پر رونق افروز ہوا اور مستمک کو جسے ابھی پندرہ (15) روز خلیفہ ہوئے گزرے تھے معزول کر دیا گیا۔

متوکل خلفائے مصر میں چھٹا خلیفہ تھا۔ چنانچہ قاعدہ مستمرہ کے موافق یہ بھی معزول کر دیا گیا۔

شکل تبدیل

782 ہجری میں حلب سے خبر آئی کہ ایک امام نماز پڑھا رہا تھا۔ ایک شخص نے آ کر اس سے کھیلنا اور ٹھٹھا محول کرنا شروع کیا۔ مگر امام نے نیت نہ توڑی۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ اس شخص کی صورت خنزیر کی ہو گئی تھی۔ وہیں سے وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ لوگ اس بات سے نہایت متعجب ہوئے اور اس بات کو محضر میں لکھ لیا گیا۔

ماہ صفر 783 ہجری میں منصور وفات گیا اور اس کا بھائی حاجی بن اشرف تخت نشین ہوا۔  
الصالح اپنا لقب مقرر کیا۔

ماہ رمضان 784 ہجری میں الصالح معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ برقوق تخت نشین ہوا  
جس نے اپنا لقب اظہر مقرر کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جو جبراکہ میں سے تخت نشین ہوا۔  
برقوق کی ندامت

رجب 785 ہجری میں برقوق نے خلیفہ متوکل کو پکڑ کر قلعہ جبل میں قید کر دیا اور محمد بن  
ابراہیم بن مستمک بن حاکم سے بیعت کر کے الواثق باللہ اس کا لقب مقرر کیا۔ یہ برابر خلیفہ رہا  
حتیٰ کہ بروز بدھ 17 شوال 788 ہجری میں فوت ہوا۔ لوگوں نے برقوق سے متوکل کے دوبارہ  
خلیفہ بنانے میں گفتگو کی۔ لیکن وہ نہ مانا اور اس کے بھائی محمد زکریا کو جو چند دن پہلے بھی خلیفہ رہ  
چکا تھا بلا کر بیعت کر لی اور المستعصم باللہ اس کا لقب مقرر کیا۔ وہ برابر 791 ہجری تک خلیفہ  
رہا۔ پھر برقوق اپنے افعال پر نادم ہوا اور متوکل کو قید سے نکال کر پھر خلیفہ بنا دیا اور زکریا کو  
معزول کر دیا جو اس معزولی کی حالت میں اپنے گھر میں فوت ہوا۔ پھر متوکل ہی مرتے دم تک  
خلیفہ رہا۔

اسی سال جمادی الآخر میں الصالح حاجی پھر سلطان بنایا گیا اور برقوق کرک میں قید ہوا۔  
الصالح نے اپنا لقب المنصور مقرر کیا۔

اس سال ماہ شعبان میں مؤذنون نے اذان کے بعد آنحضرت ﷺ پر درود و سلام بھیجنا  
زیادہ کیا۔ یہ پہلی بدعت حسنہ جاری ہوئی، محمد الدین طہیدی نے اس کا حکم دیا تھا۔

ماہ صفر 792 ہجری میں برقوق کو قید سے رہا کر کے پھر بادشاہ بنایا گیا جو اپنی وفات یعنی  
شوال 801 ہجری تک برابر حاکم رہا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا فرح اس کی جگہ حاکم ہوا اور الناصر  
اپنا لقب مقرر کیا۔ مگر 2 ربیع الآخرہ 808 ہجری میں اسے معزول کر دیا گیا اور اس کے بھائی  
عبد العزیز کو اس کی جگہ تخت پر بٹھایا گیا۔ اس نے اپنا لقب المنصور مقرر کیا۔ مگر اسی سال میں ماہ  
جمادی الآخر کی چوتھی تاریخ کو اسے بھی معزول کیا گیا اور الناصر فرح پھر تخت پر بٹھایا گیا۔ اسی  
سال یعنی 808 ہجری میں خلیفہ متوکل 18 رجب منگل کی رات کو فوت ہوا۔

متوکل کے عہد میں یہ علماء وفات پا گئے تھے

افتمس بن اسحاق عالم حنابلہ، الصلاح الفصدی، المشہاب بن النقیب، الحجب ناظر الحیش،



الشریف حسینی الحافظ القطب تختانی، قاضی القضاة عزالدین بن جماعة التاج بن السبکی، ان کے شیخ بہاء الدین، الجمال الاسنوی، ابن الصنائع الحنفی، جمال بن نباتہ، عقیف یافعی، جمال شریفی، شرف بن قاضی الجبل، السراج الہندی، ابن ابی جملہ الحافظ تقی الدین بن رافع، حافظ عماد الدین بن کثیر، عثمانی نحوی، بہا ابوالبقاء السبکی، الشمس بن خطیب بیروذ، العماد الحسبانی، البدر بن حبیب، ضیاء قرمی، الشہاب الازرقی، شیخ اکمل الدین، شیخ سعد الدین التفتازانی، البدر الزوکشی، سراج بن ملقن، سراج بلقینی، حافظ زین الدین عراقی، رحمہم اللہ تعالیٰ۔

## الواثق باللہ عمر

الواثق باللہ عمر بن ابراہیم بن ولی عہد المستمسک بن حاکم متوکل کے معزول ہونے کے بعد ماہر جب 785 ہجری میں خلیفہ ہوا اور 788 ہجری تک خلافت کر کے بروز بدھ 19 شوال کوفوت ہوا۔

## المستعصم باللہ زکریا

المستعصم باللہ زکریا بن ابراہیم بن المستمسک اپنے بھائی واثق کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ مگر 791 ہجری میں معزول کیا گیا اور آخر اسی معزوی کی حالت میں فوت ہوا۔ اس کے بعد متوکل خلیفہ بنایا گیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔

## المستعین باللہ ابوالفضل

المستعین باللہ ابوالفضل العباس بن المتوکل ایک ترکی کنیزک کے بطن سے تھا جس کا نام بانی خاتون تھا۔ اپنے والد کے بعد ماہر جب 808 ہجری میں خلیفہ ہوا۔ ان دنوں الملک الناصر فزح بادشاہ تھا۔ جب الناصر شیخ سے لڑنے گیا اور شکست کھا کر مقتول ہوا تو خلیفہ سے بحیثیت سلطان اور بادشاہ ہونے کے بیعت کی گئی۔ یہ واقعہ محرم 815 ہجری میں ہوا۔ بیعت سے پہلے خلیفہ نے امراء سے نہایت مضبوط اور کچے عہد اور قسمیں لے لیں۔ بعد ازاں مصر میں چلا آیا۔ سب امراء اس کے ہمراہ تھے۔ وہاں آ کر کسی کو حاکم بنایا۔ کسی کو معزول کیا اور اپنے نام کا سکہ مسکوک کرایا۔ مگر اپنے لقب میں اس نے کوئی تغیر نہ کیا۔

شیخ الاسلام ابن حجر نے ایک طولانی قصیدہ اس کی مدح میں لکھا ہے۔ وہی ہندہ:

## قصیدہ کے اشعار

- 1- الْمَلِكُ فِينَا ثَابِتُ الْأَسَاسِ
  - 2- رَجَعَتْ مَكَانَةَ الِ عِمِّ الْمُصْطَفَى
  - 3- ثَانِي رَبِيعِ الْأَخِيرِ الْمَمْمُونُ فِي
  - 4- بِقُدُومِ مَهْدِي الْأَنَامِ أَمِينُهُمْ
  - 5- ذُو النَّيْتِ طَافَ بِالرِّجَالِ فَهَلْ يَرَى
  - 6- فِرْعَ نَمَا مِنْ هَاشِمٍ فِي رَوْضَةِ
  - 7- بِالْمُرْتَضَى وَالْمُجْتَبَى وَالْمُشْتَرَى
  - 8- مَنَ اسْرَةَ اسْرُوا الْخُطُوبَ وَطَهْرُوا
  - 9- أَسْدَهُ إِذَا حَضَرُوا الْوَعَى وَإِذَا خَلُّوا
  - 10- مِثْلَ الْكَوَاكِبِ نُورُهُ مَا بَيْنَهُمْ
  - 11- وَيَكْفِيهِ عِنْدَ الْعَلَامَةِ آيَةٌ
  - 12- فَلْيَشْرِهِ لِلْوَافِدِينَ مَبَاسِمٌ
  - 13- قَالَ حَمْدُ اللَّهِ الْمُعِزُّ لِدِينِهِ
  - 14- بِالسَّاسَةِ الْأُمَرَاءِ أَرَّكَانُ الْعُلَى
  - 15- نَهَضُوا بِأَعْيَاءِ الْمَنَاقِبِ وَأَرْتَقُوا
  - 16- تَرَكُوا الْعُدَى صَرَعِي بِمَعْرَكِ الرَّدَى
  - 17- وَإِمَامُهُمْ بِجَلَالِهِ مُتَقَدِّمٌ
  - 18- لَوْلَا نِظَامُ الْمَلِكِ فِي تَدْبِيرِهِ
  - 19- كُمْ مِنْ أَمِيرٍ قَبْلَهُ حَطَبُ الْعُلَى
  - 20- حَتَّى إِذَا جَاءَ الْمَعَالِي كَفُّوْهَا
  - 21- طَاعَتْ لَهُ أَيْدِي الْمُلُوكِ وَإِذَا عَثَتْ
  - 22- فَهِيَ الْوَالِدِيُّ قَدَرْدٌ عَنَّا الْبُؤْسُ فِي
  - 23- وَأَزَالَ ظُلْمًا عَمَّ كُلَّ مَعْمَمٍ
  - 24- بِالْحَادِلِ الْمَدْعُوِّ ضِدَّ فِعَالِهِ
- بِالْمُسْتَعِينِ الْعَادِلِ الْعَبَّاسِ  
بِمَحَلِّهَا مِنْ بَعْدِ طُولِ تَنَاسِي  
يَوْمَ الثَّلَاثَا حَفَّ بِالْأَعْرَاسِ  
مَامُونٌ غَيْبَ طَاهِرِ الْأَنْفَاسِ  
مِنْ قَاصِدٍ مُتَرَدِّدٍ فِي الْيَاسِ  
زَاكِي الْمَنَابِتِ طَيْبِ الْأَعْرَاسِ  
لِلْحَمْدِ وَالْحَالِي بِهِ وَالْكَاسِي  
مِمَّا يَغْيِرُهُمْ مِنَ الْأَدْنَاسِ  
كَانُوا بِمَجْلِسِهِمْ كَطَبِي كَاسِ  
كَالْبُرِّ اشْرَقَ فِي ذَجِي الْأَغْلَاسِ  
فَلَمْ يُضَيِّضْ أَضَارَةَ الْمُقْيَاسِ  
تُدْعَى وَلِلْأَجْلَالِ بِالْعَبَّاسِ  
مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ كَانَ فِي أَبْلَاسِ  
مِنْ بَيْنِ صَدْرِكَ ثَارِهِ وَمَوَاسِي  
فِي مَنْصَبِ الْعُلَى الْأَشْمِ الرَّأْسِي  
فَاللَّهُ يَحْرُسُهُمْ مِنَ الْوَسْوَاسِ  
تَقْدِيمِ بِسْمِ اللَّهِ فِي الْقُرْطَاسِ  
لَمْ يَسْتَقِمْ فِي الْمَلِكِ حَالِ النَّاسِ  
وَبِجَهْدِهِ رَجَعْتَهُ بِالْأَفْلَاسِ  
خَضَعَتْ لَهُ مِنْ بَعْدِ قَرِطِ شَمَاسِ  
مِنْ نَيْلِ مِصْرَ أَصَابِعِ الْمُقْيَاسِ  
دَهْرٍ بِهِ لَوْلَاهُ كُنَّ الْبَاسِ  
مِنْ سَائِرِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَجْنَاسِ  
بِالنَّاصِرِ الْمَتَاقِصِ الْأَسَاسِ

- 25- كَمْ نِعْمَةِ اللَّهِ كَانَتْ عِنْدَهُ  
 26- مَا زَالَ سَرَّ الشُّرْبِيِّنَ ضُلُوعِهِ  
 27- كَمْ سَنَنْ سَيِّئَةً عَلَيْهِ آثَمَهَا  
 28- مَكْرَأُ بَنِي أَرْكَانَهُ لِكِنَّهَا  
 29- كُلُّ أَمْرِي يَنْسِي وَيَذْكَرُ تَارَةً  
 30- أَمَلِي لَهُ رَبُّ الْوَرَى حَتَّى إِذَا  
 31- وَإِذَا لَنَا مِنْهُ الْمَلِيكَ بِمَالِكِ  
 32- فَاسْتِشْرَتْ أُمُّ الْقُرَى وَالْأَرْضُ مِنْ  
 33- آيَاتٍ مَجْدٍ لَا يُحَاوَلُ جَحْدَهَا  
 34- وَمَنْاقِبِ الْعَبَّاسِ لَمْ تَجْمَعْ سِوَى  
 35- لَا تُنْكِرُوا لِلْمُسْتَعِينِ رِيَاةً  
 36- فَتَبُوا أُمِّيَّةً قَدْ آتَى مِنْ بَعْدِهِمْ  
 37- وَآتَى اشْجُجَ بَنِي أُمِّيَّةٍ نَاشِرًا  
 38- مَوْلَايَ عَبْدَكَ قَدْ آتَى لَكَ رَاجِيًا  
 39- لَوْلَا الْمَهَابَةُ طُولَتْ أَمْدَاخُهُ  
 40- فَأَادَمَ رَبُّ النَّاسِ عِزَّكَ دَائِمًا  
 41- وَلَقِيْتَ تَسْتَمِعُ الْمَدْبِيعَ لِخَادِمِ  
 42- عَبْدٌ صَفَا وَذَا وَزَمْرَمٌ حَادِيًا  
 43- أَمْدَاخُهُ فِي آلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ
- فَكَانَهَا فِي غُرْبَةٍ وَتَنَاسِي  
 كَالنَّارِ أَوْصَحَّتَهُ لِلْأَرْمَاسِ  
 حَتَّى الْقِيَامَةَ مَالَهُ مِنْ أَش  
 لِلْغَدْرِ قَدْ بَيَّضَتْ بِغَيْرِ آسَاسِ  
 لِكِنَّةٍ لِلشُّرِّ لَيْسَ بِنَاسِ  
 أَخَذُوهُ لَمْ يَفْلُتْهُ مَرَّ الْكَاسِ  
 آيَامَهُ صَدْرَتْ بِغَيْرِ قِيَاسِ  
 شَرْقٍ وَغَرْبٍ كَالْعَذِيبِ وَفَاسِ  
 فِي النَّاسِ غَيْرَ الْجَاهِلِ الْخَنَاسِ  
 لِحَفِيدِهِ مَلِكُ الْوَرَى الْعَبَّاسِ  
 فِي الْمُلْكِ مِنْ بَعْدِ الْوَجُودِ النَّاسِ  
 فِي سَالِفِ الدُّنْيَا بَنُو الْعَبَّاسِ  
 لِلْعَدْلِ مِنْ بَعْدِ الْمُبِيرِ الْخَاسِ  
 مِنْكَ الْقُبُولِ فَلَا يَرَى مِنْ بَأْسِ  
 لِكِنَّهَا جَاءَتْ بِالْقِسْطِ طَاسِ  
 بِالْحَقِّ مَحْرُوسًا بِرَبِّ النَّاسِ  
 لَوْلَاكَ كَانَ مِنَ الْهُمُومِ يِقَاسِ  
 وَسَعَى عَلَى الْعَيْنِ قَبْلَ الرَّأْسِ  
 بَيْنَ الْوَرَى مَسْكِيَةَ الْأَنْفَاسِ

(ترجمہ: (1) خلیفہ مستعین کے باعث جو عادل اور عباسی ہے۔ ملک ہم میں قائم و ثابت ہے۔

(2) عم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کا مرتبہ مدت کی فراموشی کے بعد پھر اپنے ٹھکانے

پر آ گیا ہے۔ (3) و (4) بروز منگل دوسری ربیع الآخرہ کی مبارک تاریخ کولوگ مہدی و امین

انام مبرا از عیوب اور طاہر الانفاس خلیفہ کے آنے کی خوشی میں جمع ہوئے۔ (5) یہ خلیفہ ایسے

گھرانے سے ہے جس کا حاجتمند لوگ طواف کرتے رہتے ہیں اور کوئی قاصد نا امید کی

حالت میں واپس نہیں جاتا۔ (6) یہ خلیفہ ہاشم کی شاخ ہے جس نے نہایت عمدہ اور خوبصورت

باغ میں پرورش پائی ہے۔ (7) نہایت پسندیدہ اور برگزیدہ ہے۔ حمد کا خریدار اس پر مزدوری دینے والا اور لباس حمد پہننے والا ہے۔ (8) ایسے خاندان سے ہے جنہوں نے حوادث کو مقید کیا ہے اور اپنی تمام میل کچیل پاک و صاف کر دی ہے۔ (9) جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو شیر ہوتے ہیں اور جس وقت وہ اپنی مجلسوں میں خلوت پکڑتے ہیں تو ہرن کی طرح ہیں۔ (10) ممدوح کے خاندان کے لوگ ستاروں کی طرح ہیں اور ممدوح کا نوران میں ایسا ہے جیسا کہ ایک تاریک رات میں بدر کامل کا ہوتا ہے۔ (11) دستخط کے وقت اس کے ہاتھ میں ایسا قلم ہوتا ہے جو گیس کی طرح روشن ہوتا ہے۔ (12) ممدوح کے دانت ہنس کر آنے والوں کو بلاتے ہیں اور ان سے جلال عباسی نمایاں ہیں۔ (13) و (14) ہر طرح کی تعریف خدا تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے جس نے اپنے دین کو ناپید ہو جانے کے بعد ان سادات و امراء سے جو ارکان علی ہیں عزت دی۔ یہ لوگ خون کا بدلہ بھی لیتے ہیں اور غنخواری بھی کرتے ہیں۔ (15) مناقب کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہے اور نہایت بلند اور پائیدار مرتبہ پر چڑھ گئے ہیں۔ (16) دشمنوں کو انہوں نے ہلاکت کے میدان میں پچھاڑ کر چھوڑ دیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ انہیں وسواس سے محفوظ رکھے۔ (17) ان کا امام بہ سبب اپنے قدر کی بزرگی کے ان پر اس طرح مقدم ہے جیسا کہ کاغذ میں مضمون سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے۔ (18) اگر ملک کا انتظام اس کی تدبیر سے نہ ہوتا تو لوگ کبھی بھی خوشحال نہ ہوتے۔ (19) اس کے پہلے بھی بہت سے امیروں نے بلندی طلب کی ہے۔ مگر وہ محرومی اور افلاس سے ہی واپس ہوئے ہیں۔ (20) مگر جب بلند یوں کا ہمسر (یعنی ممدوح) آیا تو وہ اس کے مطیع فرمان ہو گئے۔ (21) تمام بادشاہوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے حتیٰ کہ نیل مصر کی مقبایسی انگلیوں نے بھی اس کی اطاعت ظاہر کی ہے۔ (22) اسی ممدوح نے ہم سے شدت کو دفع کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمانہ سب کا سب تکلیف و مصیبت بن جاتا۔ (23) ممدوح نے ہر جنس کے اشخاص سے ظلم دور کر دیا ہے۔ (24) یہ ظلم اس کمینہ نے برپا کر رکھا تھا جس کا نام 'برعکس نام نہند زنگی کا نور' کی طرح الناصر تھا۔ (25) اس کے پاس خدائے تعالیٰ کی بہت سے نعمتیں تھیں۔ لیکن وہ ناشکر اہی رہا۔ (26) شرارت اس کی پسلیوں میں پوشیدہ تھی جیسے قبر میں مردہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ (27) کئی گناہوں کو اس نے مروج کیا جس کا گناہ ہمیشہ اس طرح اس پر رہے گا اور قیامت میں اس کا کوئی غنخوار نہ ہوگا۔ (28) اس نے نکر کے ارکان بنائے۔ مگر غدر یعنی دھوکہ دہی کی وجہ سے وہ بے بنیاد ہی رہے۔

(29) ہر شخص کبھی یاد آجاتا ہے اور کبھی بھول جاتا ہے۔ لیکن ناصر بوجہ شرکے کبھی فراموش نہ ہوگا۔ (30) خدائے دو جہان نے اسے مہلت دی تھی مگر آخر موت کے کڑوے پیالے سے رہائی نہ پاسکا۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ (31) اور جب وہ ہم پر بادشاہ تھا تو خدائے تعالیٰ نے اس کا ملک چھین کر ممدوح کو عطا کیا۔ (32) ام القرئی نے اس کو خوشخبری دی جس کے باعث تمام لوگ مشرق سے مغرب تک خوش ہو گئے۔ (33) ممدوح کی آیاتِ مجدد کا سوائے جاہل خناس کے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ (34) عباسؑ کے مناقب آپ کے پوتے (یعنی ممدوح) کے سوا جو بادشاہ جہان ہے کسی میں جمع نہیں ہوئے۔ ایسا پوتا جو جہان کا بادشاہ ہے۔ (35) اے لوگو! مستعین کی حکومت اور سرداری سے انکار نہ کرو۔ (36) بنو امیہ کے بعد بنی عباس ہی دنیا کی سرداری پر آئے ہیں۔ (37) عبدالعزیز بن عمر نے حجاج ہلاک کنندہ کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلایا۔ (38) اے میرے مولیٰ تیرا غلام تیرے قول کی امید کرتا ہوا آیا ہے۔ وہ ناامیدی نہ دیکھے۔ (39) اگر خوفِ اطالت نہ ہوتا تو اس کی مدح لمبی ہوتی، مگر وہ برابری ہی ہوئی ہے۔ (40) خدائے تعالیٰ تیری عزت ہمیشہ برقرار رکھے۔ (41) اور تو ہمیشہ اپنے اس خادم کی مدح سنتا رہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو یہ غلام غموں کے باعث ہلاک ہو جاتا۔ (42) یہ غلام با وفا ہے اور شعر پڑھتا ہوا آنکھوں کے بل چل کر آیا ہے۔ (43) اس کی مدح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جس سے کستوری کی لپٹیں آ رہی ہیں۔)

جب مستعین مصر میں آیا تو اپنی رہائش کے واسطے قلعہ مخصوص کیا اور شیخ کیلئے اصطبل مقرر کیا اور دیا مصریہ کا انتظام اس کے سپرد کر کے نظام الملک کا لقب عطا کیا۔ امراء شاہی آداب بجالانے کے بعد اصطبل میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تمام امور کا تقص و ابرام اسی کے پاس ہوتا۔ بعد ازاں فرامین دستخط کے لیے مستعین کے پاس لائے جاتے۔ آخر ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ جب تک کاغذات شیخ کی نظر سے نہ گزر لیتے خلیفہ اس پر دستخط نہ کر سکتا۔ اس بات سے خلیفہ نہایت مضطرب اور تنگدل ہوا۔ ماہ شعبان میں شیخ نے خلیفہ کو کہا کہ عادتِ مسترہ کے بموجب سلطنت مجھے سپرد کیجئے۔ خلیفہ نے اس بات کو منظور کر لیا۔ مگر یہ شرط لگائی کہ قلعہ سے اپنے گھر میں اسے چلا جانے دیا جائے۔ شیخ نے اس بات کو منظور نہ کیا اور جبراً سلطنت پر قابض ہو گیا اور اپنا لقب المویذ مقرر کیا۔

## یہ جائز نہیں

بعد ازاں مستعین کی معزولیت کی تصریح کر کے اس کے بھائی داؤد کو خلیفہ مقرر کیا اور مستعین کو مع اہل و عیال کے قصر شاہی سے نکال کر قلعہ کے ایک مکان میں نظر بند کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص ان سے ملنے نہ پائے۔ جب اس بات کی خبر نائب شام توروز کو پہنچی تو اس نے علماء اور قاضیوں کو طلب کر کے مؤید کے اس فعل کی بابت فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اس پر اس نے مؤید سے جنگ کی ٹھان لی۔ مؤید بھی اس کے مقابلے کے لئے 817 ہجری میں نکل کھڑا ہوا۔

## پسندیدہ جگہ

مستعین کو اسکندریہ میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ مگر جب ططر حاکم ہوا تو اس نے اسے رہا کر دیا اور قاہرہ میں آنے جانے کی اجازت دیدی۔ مگر مستعین کو چونکہ وہ جگہ پسند تھی اس لیے اس نے وہیں رہائش اختیار کی اور تاجروں سے اسے بہت سامال بھی مل گیا۔ آخر جمادی الآخر 833 ہجری میں طاعون سے شہید ہوا۔

## یکبارگی

مستعین کے عہد خلافت میں 812 ہجری میں شروع میں تونیل پایاب ہو گیا۔ مگر بعد ازاں یکبارگی 22 گز سے بھی زیادہ پانی چڑھا آیا۔

## سلطان کالقب

814 ہجری میں غیاث الدین اعظم شاہ بن اسکندر شاہ بادشاہ ہند نے خلیفہ کی خدمت میں بہت سامال اور سلطان کی خدمت میں تحفے بھیجے تاکہ خلیفہ کی طرف سے سلطان کالقب عطا ہو۔

اس کے عہد میں درج ذیل علما نے وفات پائی۔

الموفق ناشری شاعر یمن، نصر اللہ بغدادی عالم حنابلہ، شمس معین نحوی مکہ، شہاب حسینی، شہاب نصری فقیہ یمن، ابن ہاشم صاحب الفرائض و حساب، ابن عقیف شاعر یمن، محبت بن شمنہ عالم حنفیہ والد قاضی عسکر۔

## المعتضد باللہ ابوالفتح

المعتضد باللہ ابوالفتح داؤد بن المتوکل ایک ترکی کنیز کزل نامی کے بطن سے تھا۔ اپنے بھائی کے معزول ہونے کے بعد 815 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس وقت سلطان مؤید کا زمانہ تھا۔ پس یہ برابر خلیفہ رہا۔ حتیٰ کہ محرم 824 ہجری میں فوت ہوا۔ سلطان نے اس کے بیٹے احمد کو خلیفہ مقرر کر کے المنظر کا لقب مقرر کیا اور اس کی سلطنت کا انتظام ططر کے ہاتھ دے دیا۔ ماہ شعبان میں ططر نے سلطان مؤید کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ نے اسے سلطان مقرر کر کے اظہار کا لقب عطا کیا۔ پھر اسی سال ماہ ذوالحجہ میں ططر مر گیا۔ خلیفہ نے اس کے بیٹے محمد کو سلطان بنایا اور الصالح کا لقب عطا کیا اور اس کی سلطنت کا انتظام برسیائی کے سپرد کیا۔ مگر برسیائی نے الصالح کو معزول کر کے اس کے ملک پر خود قبضہ کر لیا۔ خلیفہ نے ربیع الآخر 825 ہجری میں برسیائی کو سلطان بنا دیا۔ آخر وہ 841 ہجری میں فوت ہوا تو اس کے بیٹے یوسف کو اس کی جگہ مقرر کیا اور العزیز کا لقب عطا کیا اور حتمق کو نظام سلطنت سونپ دیا۔ حتمق نے ربیع الاول 842 ہجری میں یوسف کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ نے حتمق کو سلطان بنا کر اظہار کا لقب عطا کیا۔ خود خلیفہ نے اسی کے عہد میں انتقال کیا۔

### عادات حسنہ و خصائص حمیدہ

معتضد نہایت ذکی ذہین اعلیٰ درجہ کا تخی اور خلفائے عظام سے تھا۔ علماء و فضلاء کی صحبت میں بیٹھتا اور ان سے مستفید ہوتا۔ ہر حال میں ان کا ساتھ دیتا۔ بروز اتوار 4 ربیع الاول 845 ہجری میں قریباً ستر (70) برس کی عمر میں فوت ہوا۔ (ابن حجر نے اسے لکھا ہے) لیکن میں نے اس کی تصحیح کی زبانی سنا ہے کہ وہ 63 برس کی عمر میں فوت ہوا۔

اس کے عہد میں حوادث ذیل پیش آئے:

816 ہجری میں صدر الدین بن آدمی عہدہ قضا اور محاسبہ پر مقرر ہوئے۔ ان سے پہلے کوئی شخص ان دونوں عہدوں کا جامع نہیں ہوا۔

### مختل الحواس

819 ہجری میں منقلی بن مختب مقرر ہوا۔ یہ پہلا ترکی شخص ہے جو اس عہدہ پر مقرر ہوا۔ اس سال مصر میں ایک شخص ظاہر ہوا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ کر خدا کو دیکھتا

ہے۔ بہت سے عوام اس کے مطیع ہو گئے۔ آخر اسے ایک جلسہ میں بلا کر توہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ مگر اس نے تو بہ نہ کی۔ اس پر مالکی نے حکم دیا کہ اگر دو شخص اس کے مختل الجواس ہونے پر گواہی نہ دیں تو اسے قتل کر دیا جائے۔ مگر بہت سے طبیبوں نے شہادت دی کہ یہ شخص مختل الجواس ہے۔ اس پر اسے شفا خانہ میں بھیج دیا گیا۔

### عجیب نمونہ

821 ہجری میں موضع بلبیس میں ایک بھینس کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کے دوسرے دو گردنیں اگلے پاؤں چار اور دوزیرہ کی ہڈیاں تھیں۔ مگر ہر ایک نئی تھی اور چھلی ٹانگیں صرف دو ہی تھیں۔ دس میں بھی دو تھیں۔ غرضیکہ صنعت خداوندی کا عجیب نمونہ تھا۔

### ارزنگان میں زلزلہ

822 ہجری میں ارزنگان میں ایک سخت زلزلہ آیا۔ جس سے بہت سی جانیں تلف ہوئیں۔ کئی ہزار مکان تباہ ہو گئے۔

### استاذ کا احترام

اسی سال مدرسہ مؤیدہ کی عمارت مکمل ہوئی۔ وہاں کے پروفیسر شمس بن مدیری مقرر ہوئے۔ سلطان خود درس میں حاضر ہوا اور اس کے لڑکے نے اپنے ہاتھوں سے ان کا مصلیٰ بچھایا۔

### چمکتا گوشت

823 ہجری میں غزہ میں ایک اونٹ ذبح کیا گیا۔ اس کا گوشت آگ کی طرح چمکتا تھا۔ کتے کے آگے اس کا ایک ٹکڑا پھینکا گیا تو اس نے بھی اس کو ہرگز نہ کھایا۔

824 ہجری میں دریائے نیل میں سخت طغیانی آئی جس سے زراعت کو سخت نقصان

پہنچا۔

825 ہجری میں قاضی جلال الدین بلقینی کی بیٹی فاطمہ کے گھر ایک خنسی بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے میں مرد و گورت دونوں کی علامتیں موجود تھیں۔ دو دو ہاتھ تھے اور سر پر نیل کی طرح دو سینگ تھے۔ ایک گھنڈہ کے بعد مر گیا۔

### عہد معتضد میں فوت ہونے والے علماء

اس کے عہد خلافت میں علمائے ذیل فوت ہوئے:



شہاب بن حجتہ فقیہ شام، برہان بن رفاعہ ادیب، زین ابو بکر مراغی فقیہ مدینہ، حسام ابو دوی، جمال بن طہیر حافظ مکہ، محمد الدین شرازی صاحب قاموس، خلف الخریزی من کبار المالکیہ، شمس بن قبانی من کبار الحنفیہ، ابو ہریرہ بن نقاش دانوغی، استاذ عز الدین بن جماعہ ابن ہشام عمی، صلاح افہبسی، شہاب غزی احد ائمہ الشافعیہ، جلال بلقینی، برہان بخجوری، ولی عراقی، شمس بن مدیری، شرف قبانی، علاء بن معلی، بدر بن دمانی، تقی حصینی، شارع ابی شجاع، ہروی سراج قاری ہدایت، نجم بن حجتی، بدر بھنگلی، شمس برمادی، شمس شطنونی، تقی قاسی، زین تسی، نظام یحییٰ سیرانی، قراء یعقوب رومی، شرف بن مفلح ضلی، شمس بن قشیری، ابن جرزی شیخ القراءۃ، ابن خطیب دہشہ، شہاب الشیطی، زین تقی، بدر مقدسی، شرف بن مقرئ عالم یمن، صاحب عنوان الشرف، تقی بن حجتہ شاعر، جلال مرشدی نحوی مکہ، ہمام شیرازی، تلمیذ شریف، جمال بن خیاط عالم یمن، بوسری محدث، شہاب بن مجمرہ علاء بخاری، شمس بساطی، جمال انکادرونی عالم طیبہ، محبت بغدادی، حبلی، شمس بن عمار وغیر ہم رحمہم اللہ۔ جمعین۔

## المستکفی باللہ ابو الربیع

المستکفی باللہ ابو الربیع سلیمان بن متوکل اپنے بھائی کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا۔ نامہ تولیت، عہد میرے والد ماجد نے لکھا جس کے الفاظ یہ تھے:

”هذا ما اشهد به على نفسه الشريفه حرسها الله تعالى وحماها وصانها من الاكدار ورعاها سيدنا ومولانا المراقف الشريفه المطاهرة الزكية الاماميه الاعظيمة العباسية النبوية المعتضدية امير المومنين وابن عم سيد المرسلين ووارث الخلفاء الراشدين المعتضد بالله تعالى ابو الفتح داؤد اعز الله به الدين وامتع بقاءه الاسلام والمسلمين انه عهد الى شقيقه المقر العالی المولوی الاصلی العریقی الحسیبی النسیبی الملکی سیدی ابی الربیع سلیمان المستکفی باللہ عظم الله شانہ بالخلافة المعظمة وجعله خليفة بعده ونصبه اماماً على المسلمين عهد اشريعاً معتبراً مرضياً نصيحة للمسلمين ووفاء بما يجب عليه من مراعات مصالح الموحدين واقتداء بسنة الخلفاء الراشدين والائمة المهديين وذلك لما علم من دينه وخيره وعدالته وكفايته واهليته واستحقاقه بحكم انه اختبر حاله وعلم طوبته وانه

الذی یدین اللہ برانہ اتقی ثقة ممن راه وانہ لایعلم صدرمنہ ماینافی استحقاقہ  
لذلک وانہ ان ترک الامر هملا من غیر تفویض للمشار الیہ ادخل اذفاک  
المشقة علی اهل الحل والعقد فی اختیار من ینصبونہ للامامة ویرتضونہ لهذا  
الشان قبادر الی هذا العهد شفقه علیہم وقصد البراءة ذمتہم ووصول  
الامر الی من هو اہلہ لعلمة ان العهد کان غیر محوج الی رضاء سائر اہلہ  
وواجب علی سمعہ وتحمل ذلک منہ ان یعلم بہ ویأمر لطاعته عند الحاجة  
الیہ ویدعو الناس الی الانقیاد لہ فسجل ذلک علیہ من حضرہ حسب اذنه  
الشریف و سطر عن امرہ“

ترجمہ: یہ دستاویز ہے جسے میں سیدنا و مولانا امیر المومنین ابن عم سید المرسلین وارث الخلفاء  
الراشدین بن المعتضد باللہ تعالیٰ ابو الفتح داؤد اعز اللہ بہ الدین و اتبع بجہاد الاسلام و المسلمین  
کے نفس شریفہ حر سہا اللہ و جمہا کی طرف سے لکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے چچوہرے نے بھائی حبیب  
و نسیب سیدی ابی الریح سلیمان المستکفی باللہ عظیم اللہ شانہ بالخلافۃ کو اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے  
اور تمام مسلمانوں کا امام بنایا ہے اور یہ عہد شرعی برضائے خود مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کے  
ان حقوق و مصالح کو پورا کرنے کے لیے جو آپ پر واجب ہیں اور خلفائے راشدین کی پیروی  
کے لیے لکھا ہے اور موصی الیہ کی بابت انہیں معلوم ہے کہ وہ نہایت دیندار عادل ہے اور خلافت  
کی اہلیت اور اس کا استحقاق رکھتا ہے۔ آپ نے ان کے ظاہر و باطن کو اچھی طرح جانچ بھی لیا  
ہے۔ ان سے کبھی کوئی بات خلاف استحقاق خلافت صادر نہیں ہوئی۔ نیز آپ جانتے ہیں کہ اگر  
مشار الیہ کو یہ امر سپرد نہ کیا گیا تو لوگوں کو امامت کے واسطے کسی شخص کے منتخب کرنے میں مشقت  
و تکلیف اٹھانی پڑے گی اس لیے ان پر شفقت اور مہربانی کر کے آپ نے یہ عہد لکھوا کر ان کو  
اس مشقت سے بچا لیا ہے۔ اب ہر ایک اس شخص پر جو اسے پڑھے یا سنے واجب ہے کہ  
دوسرے کو بھی آگاہ کر دے اور حاجت کے وقت ان کی اطاعت سے سر نہ پھیرے بلکہ تمام  
لوگوں کو اطاعت کی طرف بلائے۔ یہ دستاویز امیر المومنین معتضد باللہ کی موجودگی اور ان کے  
اذن سے لکھی گئی ہے۔)

بعد ازاں لکھا کہ امیر المومنین کے حکم سے المستکفی ابو الریح سلیمان نے اسے قبول بھی  
کر لیا ہے۔ المستکفی نہایت صالح، دیندار اور عابد شخص تھا۔ اکثر خاموش لوگوں سے علیحدہ بیٹھا  
رہتا تھا۔ اس کا بھائی معتضد کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنے بھائی سلیمان سے کبھی کوئی کبیرہ گناہ

صادر ہوتے نہیں دیکھا۔ الملک الظاہر بھی اس کا بڑا معتقد تھا۔ میرے والد ماجد اس کے امام تھے۔ خلیفہ ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا اور انہیں اپنا مخدوم سمجھتا تھا اور میں نے تو اسی کے گھر میں پرورش پائی اور اتنا بڑا ہوا ہوں۔ مستکفی کی اولاد نہایت ہی دیندار عابد اور پارسا تھی۔ میرا خیال ہے کہ آل عمر بن عبدالعزیز کے بعد کسی خلیفہ کی آل و اولاد ایسی دیندار اور عابد نہیں ہوئی۔ بروز جمعہ سلخ ذوالحجہ 854 ہجری میں ہمر ترسٹھ (63) سال خلیفہ نے انتقال کیا۔ سلطان خود اس کے جنازے میں شریک ہوا اور نعش کو کندھا دیا۔ اس کے چالیس روز بعد میرے والد بزرگوار نے بھی وفات پائی۔

اس کے عہد خلافت میں ذیل کے علماء فوت ہوئے  
تقی مقریزی، شیخ عبادہ ابن کمیل شاعر، وفائی، قایانی، شیخ الاسلام ابن حجر وغیرہم رحمہم اللہ  
تعالیٰ اجمعین۔

## القائم بامر اللہ ابوالبقاء

القائم بامر اللہ ابوالبقاء حمیزہ بن متوکل اپنے بھائی کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس کے بھائی نے ولی عہد کسی کو بھی نہیں بنایا تھا۔ اپنے دوسرے بھائیوں کے برخلاف القائم نہایت دلیر، چالاک اور باشوکت و جبروت شخص تھا۔ خلافت کی شان و شوکت کو اس نے قائم کر دیا تھا۔ اس کے عہد خلافت میں 857 ہجری کے شروع میں ہی الملک الظاہر قہمق مر گیا۔ اس نے اس کے بیٹے عثمان کو اس کی جگہ مقرر کر کے منصور کا لقب عطا کیا۔ وہ ابھی ڈیڑھ ماہ ہی سلطنت کرنے پایا تھا کہ اینال نے اس کی سلطنت پر قبضہ کر کے منصور کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ ربیع الاول میں اینال کو سلطان مقرر کر کے الاشراف کا خطاب عطا کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک لشکر کشی پر خلیفہ اور الاشراف کے مابین رنجش ہوئی جس پر سلطان نے 859 ہجری میں خلیفہ کو معزول کر کے اسکندریہ میں لے جا کر قید کر دیا اور وہ وہیں 863 ہجری میں فوت ہوا اور اپنے بھائی المستعین کے پاس دفن ہوا۔

## دونوں بھائی

یہ بات نہایت عجیب بات ہے کہ یہ دونوں بھائی خلافت سے معزول کیے گئے اور دونوں اسکندریہ میں ہی قید کیے گئے اور وہیں فوت ہوئے اور ایک دوسرے کے پاس ہی دفن ہوئے۔

زمانہ القائم میں علماء سے میرے والد اور قلاقتشدی نے وفات پائی۔

## المستجد باللہ ابوالمحسن (خلیفہ عصر)

المستجد باللہ ابوالمحسن یوسف بن متوکل اپنے بھائی کے معزول ہونے کے بعد تخت نشین ہوا۔ ان دنوں اشرف اینال ہی سلطان تھا جو 865 ہجری میں مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا احمد تخت نشین ہوا اور المومئید اپنا لقب مقرر کیا۔ مگر خشم نے اس سال ماہ رمضان میں المومئید کو گرفتار کر لیا اور تخت نشین ہو کر الظاہر اپنا لقب مقرر کیا۔ آخر ربیع الاول 872 ہجری میں فوت ہوا تو خلیفہ نے بلبائی کو سلطان مقرر کر کے الظاہر اس کا لقب مقرر کیا۔ دو مہینے کے بعد لشکر نے اسے معزول کر دیا۔ اس کے بعد سلطان عصر قاہبائی مقرر ہوا اور الاشراف اپنا لقب اختیار کیا اور نہایت شان و شوکت اور دلیری کے ساتھ سلطنت رانی شروع کی۔ الملک الناصر کے بعد کسی نے اس طرح عہدگی سے سلطنت نہیں کی۔ چنانچہ اس نے مصر سے فرات تک چند سپاہی ساتھ لے کر بے خوف و خطر سفر کیا۔ اس کی ایک نہایت عمدہ خصلت یہ ہے کہ اس نے مصر میں کسی نئے قاضی یا مشائخ و مدرس کو مقرر نہیں کیا بلکہ موجودہ لوگوں کے حال کی ہی اصلاح کر دی کہ ان کی تنخواہیں وقت مقررہ پر مل جایا کریں۔ نہ ہی کبھی اس نے کسی قاضی اور شیخ کو مالی خدمت سپرد کی۔ الظاہر خشم جب سلطان بنایا گیا تو حاتم نائب شام اپنا لشکر لے کر اس سے ملنے آیا۔ جب الظاہر کو یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ خلیفہ اور چاروں قاضی اور لشکر قلعہ کی طرف آئیں اور پھر نائب شام کی طرف آدمی بھیج کر کہلا بھیجا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ وہ کئی ایک شرطیں کر کے واپس چلا گیا۔ بعد ازاں قاضی اور لشکر اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ مگر خلیفہ قلعہ میں ہی رہا اور الظاہر نے اسے اپنے گھر نہ جانے دیا، حتیٰ کہ 14 محرم بروز ہفتہ 884 ہجری میں دو برس تک فوج سے بیمار رہ کر فوت ہوا۔ قلعہ میں ہی نماز جنازہ پڑھ گئی۔ پھر مشہد نفیسی میں خلفاء کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کی عمر نوے (90) سال سے بھی زائد تھی۔

## المتوکل علی اللہ ابو العزیز

المتوکل علی اللہ ابو العزیز بن یعقوب بن متوکل علی اللہ 819 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ حاج ملک ایک سپاہی کی بیٹی تھی۔ متوکل کے والد کو خلافت نہیں پہنچی بلکہ جب

یہ بڑا ہوا تو بے باعث اپنی خصال جمیلہ و اخلاق حمیدہ اور متواضع نیک سیرت و خوش طبع ہونے کے محبوب خواص و عوام بن گیا۔ اعلیٰ درجہ کا ادیب تھا۔ علم کی طرف اسے خاص رغبت تھی۔ میرے والد ماجد اور دوسرے علماء سے علم پڑھا۔ اس کے چچا مستغنی نے اپنی بیٹی کا اس سے عقد کر دیا تھا۔ جس کے ہاں ایک نہایت صالح لڑکا پیدا ہوا۔ پس یہ لڑکا ہاشمی الوالدین تھا۔ جب اس کے چچا مستجد کے مرض نے طول پکڑا تو اس نے اسے ولی عہد مقرر کر دیا۔

### لقب کیا رکھیں؟

مستجد کے مرنے کے بعد بروز سوموار 16 محرم 884 ہجری میں لوگوں نے بسو جو درگی سلطان اور قضاة و اعیان اس سے بیعت کی۔ پہلے اس نے المستعین باللہ لقب اختیار کرنا چاہا تھا مگر پھر اس بات میں تردد ہوا کہ آیا مستعین اختیار کیا جائے یا متوکل اور آخر متوکل ہی صلاح ٹھہری۔ بیعت کے بعد قلعہ سے سوار ہو کر اپنے مکان معقاد میں گیا۔ قضاة اعیان اور مصاحب اس کے جلو میں تھے۔ پھر شام کو قلعہ میں چلا آیا جہاں مستجد رہا کرتا تھا۔

### آئینہ بندی

اسی سال سلطان الملک الاشرف نے حج کے واسطے حجاز کا سفر کیا (سوسال سے زیادہ عرصہ سے کوئی سلطان حج کے لیے نہیں آیا تھا) اور پہلے مدینہ منورہ کی زیارت کی اور وہاں چھ ہزار دینار خرچ کیے۔ بعد ازاں مکہ میں آ کر وہاں پانچ ہزار دینار خرچ کیے اور اپنے اس مدرسہ میں جو اس نے وہاں بنوایا تھا ایک شیخ اور ایک صوفی اور مقرر کیا۔ بعد ازاں حج کر کے واپس چلا آیا۔ اس کے آنے پر شہر میں آئینہ بندی کی گئی۔

### دوادار کی سرکردگی

885 ہجری میں ولایت مصر نے ایک لشکر بہ سرکردگی روادار عراق کی طرف روانہ کیا۔ ادھر سے یعقوب شاہ حسن نے ذہنی کے قریب ان کا مقابلہ کیا۔ مگر مصریوں کو شکست ہوئی اور بہت سے لوگ ان سے قتل ہوئے اور باقی ماندہ قید ہوئے اور دوادار بھی قید ہوا اور آخر قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ نصف ثانی رمضان کا ہے۔ ایک نہایت عجیب بات یہ ہے کہ اسی دوادار اور قاضی حنفیہ شمس الدین امشاطی مصری کے مابین نہایت سخت دشمنی تھی۔ ہر ایک دوسرے کے زوال کا خواہاں تھا۔ لیکن خدا کی قدرت دوادار دریائے فرات کے کنارے قتل ہوا اور اسی روز امشاطی

مصر میں فوت ہوئے۔

## ایک کنگرہ

886 ہجری میں بروز اتوار 17 محرم کو ایک سخت زلزلہ آیا جس سے تمام زمین بے پہاڑ اور مکان ہل گئے۔ لیکن الحمد للہ کہ ایک منٹ کے بعد ہی رفع ہو گیا۔ اسی زلزلہ سے مدرسہ صالحہ کا ایک کنگرہ قاضی القضاة شرف الدین بن عید پر گر پڑا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔

اڑھائی سو سال عمر

اسی سال ربیع الاول میں ہندوستان سے ایک شخص خا کی نامی مصر میں آیا اور دعویٰ کیا کہ میری عمر ڈھائی سو سال کی ہے۔ (مصنف) میں نے بھی اسے جا کر دیکھا تو وہ ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ اس کی ڈاڑھی میں ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ عقل اس کی عمر ستر (70) برس سے بھی زائد نہیں بتلاتی تھی۔ چہ جائیکہ اس سے بھی زیادہ کہی جائے۔ اس دعویٰ پر اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ شخص جھوٹا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے ہجرت 18 سال حج کیا تھا اور پھر اپنے وطن ہندوستان میں چلا گیا تھا اور وہاں جا کر سنا تھا کہ تاریخ بغداد کے فتح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر سلطان حسن کے عہد میں اس کے مدرسہ تعمیر کرنے سے پہلے مصر میں آیا۔ لیکن اس شخص نے اور کوئی بات بیان نہ کی جس سے اس کے دعوے کی تصدیق ہوتی۔

## بیٹوں کی لڑائی

اسی سال سلطان محمد بن عثمان ملک الروم کے انتقال کی خبر پہنچی۔ نیز سنا گیا کہ اس کے دونوں بیٹوں کے مابین جنگ ہوئی۔ ان سے ایک کو فتح ہوئی۔ وہ ملک موروثی پر قابض ہو گیا اور دوسرا مصر میں چلا آیا۔ سلطان نے اس کی نہایت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت سے اس سے پیش آیا۔ پھر شام سے حجاز کی طرف حج کرنے کے لیے چلا گیا۔

## آسمانی بجلی

شوال میں مدینہ شریفہ سے خط آئے کہ ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو مسجد کے مینار پر بجلی گری جس سے مسجد شریف کی چھت، خزانہ، کتب خانہ وغیرہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا اور دیواروں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔

## چیز کا آخر

خليفة متوكل على الله نے چہار شنبہ سلسلہ محرم 903 ہجری کو انتقال کیا اور اپنے بیٹے یعقوب کو ولی عہد بنا گیا اور المستمسک باللہ اس کا لقب مقرر کیا۔ یہ اس چیز کا آخر ہے جس کو میں (مراد مصنف ہیں) اس تاریخ میں جمع کر سکا۔

معتمد علیہ تواریخ

میں نے اس کتاب کی تصنیف میں حوادث کے لکھنے میں تاریخ ذہبی کو معتمد علیہ قرار دیا ہے جو 700 ہجری تک ہے اور اس کے بعد کے واقعات تاریخ ابن اثیر سے لکھے ہیں جو 738 ہجری تک ہے اور اس کے بعد کے واقعات المسالک اور اس کے ذیل سے لئے ہیں جو 773 ہجری تک ہے اور اس کے بعد کے واقعات ایفاء الغمر مصنف ابن حجر سے لیے ہیں جو 850 ہجری تک ہے۔ حوادث کے علاوہ اور باتیں لکھنے میں میں نے خطیب کی تاریخ بغداد کا جو دس جلدوں میں ہے اور ابن عساکر کی تاریخ دمشق کا جو 57 جلدوں میں ہے اور صولی کی تاریخ اوراق کا جو سات جلدوں میں ہے اور طیورات کا جو سات جلدوں میں ہے اور حلیہ ابو نعیم کا جو سات جلدوں میں ہے اور دینوری کی کتاب الجبالۃ کا اور مبرد کی کتاب الکامل کا جو دو جلدوں میں ہے اور امالی ثعلب کا جو ایک جلد میں ہے۔ ان کے علاوہ اور کئی کتابوں کا مطالعہ کیا۔

مقدمین میں سے ایک شخص نے خلفاء کے ناموں اور ان کی وفات کے سنوں میں ایک قصیدہ بنایا ہے جو ایام معتمد تک ہے۔ میں نے بھی اس میں ایک قصیدہ بنایا ہے جو اس سے اعلیٰ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کتاب کو اسی قصیدے پر ختم کروں۔

## قصیدۃ

الحمد لله لانفساد له	وانما الحمد حقار أس من شكرا
ثم الصلوة على الهادي النبي ومن	سادت بنسبة الاشراف والكبرا
ان الامين رسول الله بعشه	لاربعين مضت فيما رووا عمرا
وكان هجرته فيها لطيبته	بعد الثلثة اعواما تلى عشرا
ومات في عام احدى بعد عشرتها	فيما صيته اهل الارض حين سرى
وكان من بعده الصديق مجتهدا	وفي ثلثة عشر بعده قبرا

وهو الذي جمع القرآن في صحف  
وقام من بعده الفاروق ثمت في  
وهو الذي اتخذا لديوان وافترض العطا  
سن التراويح والفتح الفتوح  
وهو المسمى امير المؤمنين ولم  
وقام عثمان حتى جاء مقتله  
وهو الذي زاد في التاذين اوله  
واول الناس ولى صحب شرطته  
وبعد قام على ثم مقتله  
ثم ابنه السبط نصف العام ثم اتى  
فسلم الامر في احدى لرغبته  
وكان اول ذى ملك معاوية  
وهو الذي اتخذا الصبيان من خدم  
واستخلف الناس لما ان يبايعهم  
ثم اليزيد ابنه اخبث به ولدا  
وبأن الزبير وفي سبعين مقتله  
وفي ثمانين مع ست تليه قضى  
ضرب الدنانير في الاسلام معلمة  
وهو الذي منع الناس التراجع في  
واول الناس هذا لاسم سميته  
ثم الوليد ابنه في قبل مار جب  
وهو الذي منع الناس النداء له  
وقام بعد سليمان الخيار وفي  
وبعده عمر ذاك النجيب وفي  
وهو الذي امر الزهري خوف ذهاب

واول الناس سمى المصحف الزبرا  
عشرين بعد ثلث غيبوا عمرا  
قيل وبيت المال والدررا  
جماوزاد الحد من سكر  
يدع به قبله شخص من الامرا  
بعد الثالين في ست وقد حصرا  
في جمعة وبه رزاق الاذان جرى  
حمى الحمى اقطع الاقطاع اى كثيرا  
لاربعين فمن اراده قد خسرا  
بنو امية يبغون الوغى زمرا  
عن دار دنياه فلاضيرو لاضررا  
في النصف من عام ستين الحمام عرا  
كذا البريد ولم يسبقه من امرا  
والعهد قبل وفادة لابنه ابتكرا  
في اربع بعدها ستون قد قبرا  
بعد الثلث وكم بالبيت قد حصرا  
عبد الملوك له الامر الذي اشتهرا  
وكسوة الكعبة الديداج مؤتجرا  
وجه الخليفة مهما قال او امرا  
واول الناس في الاسلام قد غدرا  
في الست من بعد تسعين انقضى عمرا  
باسم وكانت تناذى باسمها الامرا  
تسع وتسعين جاء الموت في صفرا  
احد من تلى مائة قد الحدوا عمرا  
العلم ان يجمع الاخبار والاثرا



ثم اليزيد وفي خمس قضا وتلا  
ثم الوليد وبعد العام مقتله  
ثم اليزيد وفي ذا العام مات وقد  
وبعده قام ابراهيم ثم مضى  
وبعده قام مروان الحمار وفي  
وقام من بعده السفاح ثم قضى  
وقام من بعده المنصور ثم في  
وهو الذي خص اعماله باليه  
ثم ابنه وهو المهدي مات لدى  
ثم ابنه وهو الهادي وموته  
ثم الرشيد وفي تسعين تالية  
ثم الامين وفي تسعين تالية  
وقام من بعده المأمون ثم في  
وقام معتصم من بعده وقضى  
وهو الذي ادخل الاتراك منفردا  
ثم ابنه الواثق المالى الورى رعا  
وذا التوكل ما ازكاه من خلف  
فى عام سبع يليها اربعون قضى  
فلم يقم بعده الا اليسير كما  
والمستعين وفي عام اثنتين تلى  
وهو الذى احدث الاكمام واسعة  
وقام من بعده المعتز ثم في  
والمهتدى الصالح الميمون مقتله  
وقام من بعده بالامر معتمدا  
وذاك اول ذى امر له حجروا

هشام فى الخمس والعشرين قد سطر  
من بعد ما جاء بالفسق الذى شهرا  
اقام ست شهور مثل ما اثرا  
بالخلع سبعين يوما قد اقام ترى  
ثنتين بعد ثلثين الدماء جرى  
بعد الثلثين فى ست وقد جدرا  
خمسين بعد ثمان محرما قبرا  
واهمل العرب حتى امرهم دثرا  
تسع وستين مسموما كما ذكرا  
فى عام سبعين لما هم ان غدرا  
ثلاثا مات فى العز والرفيع ذرا  
ثمانيا جاءه قتل كما قدرا  
ثمان عشرة كان الموت فاعتبرا  
فى عام سبع وعشرين الذى اثرا  
ديوانه واقتناهم جالبا وشرى  
وفى ثلثين مع ثنتين قد غبرا  
ومظهر السنة العزاء اذا نصرا  
قتل ابيه ابنه المدعو منتصرا  
قد سنه الله فى من بعضه غدرا  
حمسين خلع وقتل جاءه زمرا  
وفى القلانيس عن طول اقي قصرا  
خمس وخمسين قفى قتله اثرا  
من بعد عام وقف قبله عمرا  
وفى عام تسع وسبعين الحمام عرا  
واول الناس موكو لابيه قهرا

وقام من بعده بالامر معتضد  
ثم ابنه المكتفي بالله احمد في  
في عام عشرين في شوال بعد منى  
وبعده القاهر الجبار مخلعه  
وقام من بعده الراضى ومات لدى  
والمتقى ومضى بالخلع منسلا  
وقام بالامر مستكفيهم وقفا  
ثم المطيع وفي ستين يتبعها  
ثم ابنه الطائع المقهور مخلعة  
ثم الامام ابو العباس قادرهم  
ثم ابنه قائم بالله مات لدى  
والمقتدى مات في سبع باولها  
وقام من بعد مستظهر وقضى  
وقام من بعده مسترشد ولدى  
ثم ابنه الراشدا المقهور مخلعه  
والمقتفى مات من بعد المتمكن في  
وقام من بعده مستنجد وقضى  
والمستضى بامر الله مات لدى  
وقام من بعده سامر ناصرهم  
وقام من بعده بالامر ظاهرهم  
وقام من بعده مستنصر وقضى  
وقام من بعده مستعصم ولدى  
جاء التتار فار دوه وبلدته  
مرت ثلث سنين بعده ويلي  
وقام من بعد ذا مستنصر وثوى

وفي ثمانين مع تسع مضت قبرا  
خمس وتسعين سبحان الذى قدرا  
ثلاثة مقتل المدعو مقتدرا  
في ثنتين وعشرين وقد سمرا  
تسع وعشرين وانسب عنده اجرا  
من بعد اربعة الاعوام فى صفرا  
من بعد عام لامر المتقى اثرا  
ثلاثة فى اخير العام قد غيرا  
عام الثمانين مع احدى كما اثرا  
فى اثنتين وعشرين مضت قبرا  
سبع وستين من شعبان قد سطرا  
بعد الثمانين جدا الملك واقتدرا  
فى سادس القرن فى اثنين يلى عشرا  
تسع وعشرين فيه القتل حل عرى  
من بعد عام فلاعين والاثرا  
خمس وخمسين وانقادت له النصرا  
من بعد ستين فى ست وقد شعرا  
خمس وسبعين بالاحسان قد بهرا  
مات فى اثنين مع العشرين اذكبرا  
تسعا شهورا فاقلل مدة قصرا  
لاربعين وكم يرثيه من شعرا  
ست وحمسين كان الفتنة الكبرا  
فينلعن الله ومخلوقة التترا  
نصف ودهر الورى من قائم شعرا  
فى اخر العام قتلا منهم وسرى

اقام ست شهور ثم راح لدى  
وقام من بعده في مصر حاكمهم  
ومات في عام احدى بعد سبع منى  
فى اربعين قضى اذ قام واثقهم  
وقام حاكمهم من بعده وقضى  
وقام من بعده بالامر معتضد  
وذو النوكل يتلوه اقام الى  
وبايعوا واثقا بالله تمت فى  
وبايعوا بعده بالله معتصماً  
وذو النوكل ردوه اقام الى  
فى عهد زيد من بعد الاذان على  
واحدث السمة والخضراء الشرفا  
اولاده منهم خمس مجلة  
فالمستعين وال الامران خلعوا  
وقام من بعده بالامر معتضد  
وقام فى الامر مستكفيهم وقضى  
وقام قائمهم من بعد تمت فى  
وقام من بعده مستنجد دهره  
وليس يعرف فى الاعصار قلبهم  
ولا شقيقان الا غير خامسهم  
كذا سليمان من بعد الوليد كذا  
وماتكرر فى بغداد من لقب  
اثنان فالمقتضى عن راشد وكنا  
اولئك القوم ارباب الخلافة خذ  
من الصحابة سبع كالنجوم زمن

مهل ستين لم يبلغ بها وطرا  
على وهى لا كمن من قبله غيرا  
وقام من مستكفيهم وجرى  
ففى اثنين مضى خلعا من الامرا  
عام الثلث مع الخمسين معتبرا  
وفى الثلثة والستين قد عبرا  
بعد الثمانين فى خمس وقد حصرا  
عام اثمان قضى وسمه عمرا  
لعام احدى وستين ازيل ورا  
ذا القرن عام ثمان منه قد قبرا  
خير النبيين تسليم كما امرا  
ياحسنها من سمات بوركت خضرا  
جاء والخلافة اذ كانت لهم قدرا  
فى شهر شعبان فى خمس تلى عشرا  
لاربعين تليها الخمسة احتفرا  
فى عام الاربع الخمسين مصطبرا  
تسع وخمسين بعد الخلع قد حصرا  
خليفة العصر رقاہ الاله ذرى  
خمس ولو اخوة بل اربع امرا  
كذا الرشيد مع الهادى كما ذكره  
بخلا الوليد يزيد والذى اثرا  
ولا تلا ابن اخ عمما خلانقرا  
مستنصر بعد مقتول التتار عمرا  
سبعين من غير نقص عدها حصرا  
بنى امية اثنان تلى عشرا

ولم اعبد باعبد الملیک فذا  
وعلة من بنی العباس شامخة  
تبقى الخلافة فیهم کی یسلمها  
وبعد نظمی هذا النظم فی مدد  
فی عام الاربع فی شهر المحرم فی  
وبویع ابن اخیه بعده ودعی  
ولم یسم امام فی التوری سبقوا  
فالله یقیه ذاعز ویحفظه  
ومات عام ثلث بعد تسع مع  
لنجله البر یعقوب الشریف وقد

باغکما قاله من ورخ السیرا  
احدی وخمسون لاقلت لهم نصرا  
المهدی منهم الی عیسی كما اثرا  
قضى خلیفتنا المذكور مصطبرا  
بعد الثمانین یوم السبت قد قبرا  
بذی التوکل کالحد الذی شهرا  
عبد العزیز سواه فاسمه ابتکرا  
ویجعل الملك فی اعقابه زمرا  
سلخ المحرم عن عهد لمن سطر  
لقب مستمسکا بالله فی صفرا

## اندلس، سلطنتِ امویہ کا مختصر حال

### پہلا خلیفہ

ان میں سے خلیفہ عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان تھا۔ 138 ہجری میں جب یہ بھاگ کر اندلس پہنچا تو لوگوں نے اس سے بیعت کر لی۔ بڑا عالم اور نہایت عادل تھا۔

### وفات

ربیع الآخر 170 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابوالولید تختِ خلافت پر بیٹھا۔ جو ماہ صفر 180 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الحکم ابوالمنظف ملقب بہ مرغضی تخت نشین ہوا اور ماہ ذوالحجہ 206 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبدالرحمن تخت پر بیٹھا۔

یہ پہلا شخص تھا جس نے اندلس میں سلطنتِ امویہ کی جڑ کو مستحکم کر کے اسے خلافت کی شان و شوکت سے آراستہ کیا۔ اس کے عہدِ خلافت میں ہی اندلس میں مطرز کپڑا پہننے کا رواج ہو اور درہم مسکوک کیے گئے۔ اس سے پہلے جب سے اہل عرب نے اسے فتح کیا تھا وہاں دارالضرب نہیں بنا تھا۔ وہ بھی اہل مشرق کے درہم سے معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ خلیفہ جبروتیب میں ولید بن عبدالملک کے مشابہ تھا اور کتبِ فلسفہ کے طلب کرنے میں مامون رشید کے مشابہ تھا۔

اندلس میں سب سے پہلے فلسفہ اسی نے داخل کیا۔ 239 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا۔ جو صفر 273 ہجری میں فوت ہوا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا منذر تخت پر بیٹھا اور صفر 285 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی عبداللہ تخت پر بیٹھا۔ یہ خلیفہ علم و دین میں اندلس کے سب خلیفوں سے بڑھ کر تھا۔ ربیع الاول 300 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا پوتا عبدالرحمن بن محمد الملقب بالناصر تخت پر بیٹھا۔ یہ پہلا شخص تھا جو اندلس میں خلافت اور امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوا کیونکہ مقتدر کے عہد میں سلطنتِ عباسیہ بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے خلیفہ صرف امیر کہلاتے تھے۔ یہ خلیفہ ماہ رمضان

350 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الحکم المستنصر حاکم ہوا جو صفر 366 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا البشام المودت تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد امر خلافت کشیدہ اور مجبوس ہو گیا۔ یہ واقعہ 399 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد بن ہشام بن عبد الجبار بن الناصر عبد الرحمن تخت پر بیٹھا اور المہدی اپنا لقب مقرر کیا۔ مگر سولہ ماہ سلطنت کرنے پایا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی ہشام بن سلیمان بن الناصر عبد الرحمن اس کے برخلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے بیعت کر لی گئی۔ اس نے اپنا لقب الرشید مقرر کیا۔ مگر اس کے چچا نے اس سے جنگ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ لوگوں نے اس کے چچا کو معزول کرنے پر اتفاق کر لیا۔ وہ کہیں روپوش ہو گیا۔ مگر بعد ازاں پکڑا گیا اور قتل ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے ہشام مقتول کے بھتیجے سلیمان بن الحکم المستنصر سے بیعت کر لی اور المستعین اس کا لقب رکھا۔ مگر 406 ہجری میں اسے قید کر لیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عبد الملک بن الناصر تخت پر بیٹھا اور المرتضیٰ لقب مقرر کیا۔ یہ بھی اسی سال کے آخر میں قتل ہوا۔ بعد ازاں دولت امویہ جاتی رہی اور سلطنت علویہ حسد قائم ہوئی۔ چنانچہ ان کا پہلا خلیفہ الناصر علی بن حمود محرم 407 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ لیکن ذوالقعدہ 408 ہجری میں قتل ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی المامون القاسم تخت پر بیٹھا۔ مگر 411 ہجری میں معزول ہوا۔ بعد ازاں اس کا بھتیجہ یحییٰ بن الناصر علی بن حمود تخت پر بیٹھا اور المستعین اپنا لقب اختیار کیا۔ مگر ایک سال سات ماہ سلطنت کرنے کے بعد قتل ہوا۔

اس کے بعد پھر دولت امویہ قائم ہوئی اور المستطہر عبد الرحمن بن ہشام بن عبد الجبار تخت پر بیٹھا۔ مگر پچاس دن کے بعد قتل ہوا اور اس کی جگہ محمد بن عبد الرحمن بن عبید اللہ بن الناصر عبد الرحمن تخت پر بیٹھا اور المستکفی اپنا لقب مقرر کیا۔ ایک سال اور چار ماہ کے بعد اسے معزول کیا گیا اور ہشام بن محمد بن عبد الملک بن الناصر عبد الرحمن تخت پر بیٹھا اور المستمذ اپنا لقب مقرر کیا۔ مگر تھوڑی سی مدت کے بعد اسے بھی معزول کر کے قید کیا گیا اور آخر وہ اسی قید میں مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اندلس کی سلطنت امویہ بھی ختم ہوئی۔

## فصل

## سلطنت خبیثہ عبید یہ کا مختصر حال

ان کی سلطنت مغرب میں تھی۔ پہلا بادشاہ مہدی عبید اللہ تھا جو 296 ہجری میں تخت پر بیٹھا اور 322 ہجری میں مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا القائم بامر اللہ محمد تخت پر بیٹھا اور 333 ہجری میں مر گیا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا المنصور اسلمعیل تخت نشین ہوا اور 341 ہجری میں مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا المعز لدین اللہ سعد تخت نشین ہوا اور 362 ہجری میں قاہرہ میں آیا اور وہیں 367 ہجری میں فوت ہوا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا العزیز بزار تخت پر بیٹھا اور 382 ہجری میں فوت ہوا۔ پھر اس کا بیٹا الحاکم بامر اللہ منصور حاکم ہوا اور 411 ہجری میں قتل ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا لظاہر اعزادین اللہ تخت پر بیٹھا اور 428 ہجری میں مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا المستنصر معد حاکم ہوا اور 487 ہجری میں مر گیا یعنی 60 سال 4 ماہ تک حاکم رہا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی خلیفہ یا بادشاہ اتنی مدت تک حکمران نہیں رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا السعیدین باللہ احمد حاکم ہوا اور 495 ہجری میں فوت ہوا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا لامر باحکام اللہ منصور جس کی عمر صرف چار پانچ برس کی تھی تخت پر بیٹھا اور 524 ہجری میں لاؤد قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی الحافظ لدین اللہ عبدالمجید بن محمد بن مستنصر تخت پر بیٹھا اور 544 ہجری میں فوت ہوا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا الظافر باللہ اسلمعیل تخت پر بیٹھا۔ مگر 549 ہجری میں قتل ہوا۔ پھر اس کا بیٹا الفاتر بنصر اللہ عبید اللہ علی تخت پر بیٹھا اور 555 ہجری میں فوت ہوا۔ پھر العاضد لدین اللہ عبد اللہ بن یوسف بن الحافظ لدین اللہ تخت پر بیٹھا اور 567 ہجری میں معزول کیا گیا اور وہیں مر گیا۔ اس کے بعد دولت عباسیہ مصر میں قائم ہوئی اور دولت عبید یہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ چودہ (14) مختلف (یعنی تکلف سے خلیفہ بننے والے) تھے۔

## فصل

## مختصر حال سلطنت بنی طباطبائی علویہ حسنیہ

ان سے پہلا خلیفہ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم طباطبائی جمادی الاولیٰ 199 ہجری میں یمن میں تخت پر بیٹھا۔ اسی زمانہ میں الہادی یحییٰ بن حسین بن القاسم بن طباطبائی خلافت کا دعویٰ دار بن گیا۔ لوگ اسے امیر المؤمنین کہنے لگے۔ آخر وہ ذوالحجہ 208 ہجری میں مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا المرتضیٰ محمد تخت پر بیٹھا اور 320 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی الناصر احمد حاکم ہوا اور ماہ صفر 323 ہجری میں مر گیا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا المنکب الحسین تخت پر بیٹھا اور 329 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی المحقر القاسم حاکم ہوا اور شول 344 ہجری میں قتل ہوا۔ بعد ازاں اس کا بھائی الہادی محمد پھر الرشید العباس تخت پر بیٹھا۔ پھر اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

## فصل

## مختصر حال سلطنت طبرستانیہ

چھ شخصوں نے یکے بعد دیگرے اس کی عنان حکومت ہاتھ میں لی ہے۔ تین تو بنی حسن سے تھے اور تین بنی حسین سے تھے۔ ہشام الداعی الی الحق الحسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن حسین بن زید بن جواد بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم 250 ہجری تک رہا۔ پھر اس کا بھائی القائم بالحق محمد خلیفہ ہوا۔ اور 288 ہجری میں قتل ہوا۔ بعد ازاں اس کا پوتا المہدی الحسن بن زید القائم بالحق خلیفہ ہوا۔

فاکدہ :- ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن عبدک قزوینی نے حدیث بیان کی اور وہ خلف الولید سے روایت کرتے ہیں اور خلف الولید مبارک بن فضالہ سے اور وہ علی بن یزید سے اور وہ عبد الرحمن بن ابی بکر سے اور عمر باض بن ہشیم سے اور وہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہر صدی کے شروع میں کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور واقع ہوتا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری اسلامی صدی کے شروع میں فتنہ تاج حوالہ۔



دوسری صدی کے شروع میں مامون اور اس کے بھائی کے مابین جنگ ہوئی جس سے بغداد کی تمام خوبیاں خاک میں مل گئیں۔ وہاں کے لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوئی اور خلق قرآن کے بارے میں لوگوں کا امتحان ہوا۔ اس امت کے فتنوں سے یہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ اس سے پہلے کسی خلیفہ نے لوگوں کو بدعت کی طرف نہیں بلایا۔

تیسری صدی کے شروع میں فرقہ قرمطیہ کا ظہور ہوا اور بعد ازاں مقتدر کا فتنہ جبکہ اسے معزول کر کے ابن معتر سے بیعت کی گئی اور دوسرے روز پھر مقتدر کو تخت پر بٹھایا گیا۔ بہت سے قاضی اور علماء ذبح کیے گئے۔ اس سے پہلے اسلام میں کوئی قاضی نہیں قتل کیا گیا۔ پھر فتنہ تفرق حکمیہ (یعنی نا اتفاقی) کے باعث ہوا۔ غیر قومیں ملک پر قابض ہوئیں۔ جو ہمارے اس زمانہ تک رہا۔ اسی زمانے میں دولت عبیدہ کا فتنہ برپا ہوا جنہوں نے ہزار ہا علماء و صلحا کو تہ تیغ کیا۔

چوتھی صدی میں فتنہ الحاکم برپا ہوا جو شیطان کے حکم سے تھا نہ کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ پانچویں صدی میں فرنگیوں نے شام اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ چھٹی صدی میں ایسا قحط پڑا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد سے لے کر اب تک کبھی نہیں پڑا تھا اور اسی صدی میں تاتاریوں کا ظہور ہوا۔

ساتویں صدی میں فتنہ تاتار ہوا جس سے بڑھ کر کبھی کوئی فتنہ برپا نہیں ہوا جس میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ گئیں۔

آٹھویں صدی میں فتنہ تیمور لنگ ہوا کہ جس کے آگے فتنہ تاتار بھی کم تھا۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ طفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحبہ اجمعین ہمیں نویں صدی کے فتنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھالے۔ آمین۔ ثم آمین۔

**تمت بالخیر**